



149

مؤرخین اسلام

جیل روٹ انڈیا
۸۷.۸۸۱.

ہماری کتاب خلافت اسلامیہ کا مؤرخ مورخین اسلام کی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کچھ تو ہم نے اصل اور کچھ تراجم میں مطالعہ کیا۔ کچھ اقتباس ہیں جو ان کتابوں میں جو ہمارے مطالعہ میں نہیں دیئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ یورپین مورخین کی بہت کتابیں ہماری نظر سے گزر چکی ہیں ان میں سے "گین" انگریز مؤرخ کا حوالہ ہم نے مناسب مقام پر دیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب "مشق" اور "بغداد" میں مورخین اسلام اور ان کی تواریخ کا حوالہ دیا ہے اس لئے ان اوراق میں بار بار حوالہ کی ضرورت نہیں تھی۔ تواریخ کے اصناف بہت سے ہیں۔ ان میں سے "تواریخ عمومی" میں مؤلف اپنے زمانہ کے حالات عمومیہ کے علاوہ وہ واقعات بھی قلم بند کرتا ہے جو اس کے اپنے زمانہ سے پیشتر مختلف اقوام اور ممالک میں رونما ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی تواریخ "طبری" اور "ابن اثیر" کی مشہور ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اپنے زمانہ کے حالات لکھے۔ دوسری قسم "تواریخ خصوصی" کی ہے۔ اس میں مؤرخ کسی ایک زمانہ یا قوم یا ملک کے حالات بیان کرتا ہے اس قسم کی تواریخ میں "واقعی" کی فتوح ہشام وغیرہ داخل ہیں۔ اور ہماری کتاب بغداد اور دمشق بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں جن میں سے "طبقات" ہیں۔ اس میں مؤرخ کسی ایک طبقہ کے

شاہیر کا ذکر لکھتا ہے ان میں سے ابن صبیحہ کی کتاب "طبقات الاطباء" اور عبداللہ
الانباری کی کتاب "طبقات الادبا" اور ابوالقاسم کی کتاب "طبقات الامم" محمد بن سعید
(۳۳۵ھ) کی طبقات الصحابة" ابن قتیبہ کی کتاب "طبقات الشعراء" (۳۳۶ھ) سے
ایک اور قسم "تراجم احوال" سے موسوم ہے۔ اس میں "وفیات" ابن عساکر و نخل ہے
ان کے علاوہ وہ کتب بھی جو "مذہب" کے متعلق لکھی گئی ہیں اس کی ذیل میں کتاب
"نخل" طاہر بغدادی (۳۲۹ھ) اور محمد بن الاسفرائینی اور قاضی ابوبکر الباقلائی
اور ابن خرم الظاہری (۳۵۶ھ) اور عبدالکریم شہرستانی (۳۶۸ھ) کی مشہور ہیں
سیاسات اور انتظام امور ملکی پر بھی تاریخی کتب میں امام ابویوسف کی "کتاب الخراج
اور ماوردی کی "احکام السلطانیہ" اور خواجہ نظام الملک کا "سیاست نامہ" اور کتاب
اللاغانی، ابوالفرح اصفہانی اور "العقد الغریب" ابن عبد ربہ کی خواص شہرت رکھتی ہیں۔
ان میں سے بعض مورخین کے حالات بالاختصار ہم ذیل میں لکھتے ہیں،

ابو عبداللہ محمد بن عمر الواقدی

اس کی کتاب المغازی ہے۔ واقدی
۱۳۰ھ میں بمقام مدینہ منورہ پیدا

ہوا۔ ابتدا میں پیشہ تجارت تھا مگر دستِ سخا آنا دراز تھا کہ اس میں خسارہ کی وجہ
سے دست کش ہونا پڑا۔ یحییٰ برکی کی سخاوت کا شہرہ سنا تو اس سے وابستہ ہو گیا۔
یحییٰ نے اس کو غزنی بغداد کے محلہ رصانہ کا جو بجائے خود ایک شہر تھا قاضی مقرر کر دیا
واقدی مامول الرشید کے عہد خلافت میں بھی منصب قضا پر متمکن رہا۔ اور ۳۲۵ھ
مطابق ۸۳۳ء عرصہ فہم فوج ہوا۔ اس کی زندگی کا شاہکار کتاب المغازی ہے
اس میں شام و مصر کی فتوحات مذکور ہیں جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کے ہاتھ
پر ہوئیں۔ اس کو شاہنامہ اسلام سمجھنا چاہیے۔ واقدی کی طرز تحریر اور طبری اور ابن
اثیر کی وہی ہے۔ جو کتب احادیث کی ہے۔ عینی شاہد ایک واقعہ بیان کرتا ہے اور جو
کچھ عینی شاہد سے ایک شخص سنتا ہے وہ دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے
بیان کرتا ہے یہاں تک کہ یہ روایت مورخ تک پہنچ جاتی ہے تاہم نویسی کا یہ

طریقہ اجماع سامیہ میں شروع سے رائج ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ان تمام راویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اول زادی سے سلسلہ وار کوئی حدیث سنی اور جب اختصار کے لئے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تلال حدیث حسب روایت ابوہریرہ وغیرہ اسی طرح انجیل کی بھی تدوین ہوئی۔ انجیل حسب روایت مقدس متی کا یہ مفہوم ہے کہ اول زادی مقدس متی سے اس نے خود کچھ نہیں لکھا البتہ جس شخص کو اس کی روایات سلسلہ وار پہنچیں اس نے تلمذ بنا رکیں۔ کسی گذشتہ واقعہ کی صحت اس سے بہتر طریقہ سے نہیں ہو سکتی لیکن اتنے راویوں کی روایات میں بہت کچھ ایسی باتوں کا دخل بھی عموماً ہو جاتا ہے کہ واقعہ کی صحت کا پتہ نہیں ملتا۔ اسی طرح واقعی اور طبری اور ابن اثیر کی تواریخ کی کیفیت ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں نے جو کچھ لکھا ہوگا تحقیق کے بعد ہی لکھا ہوگا۔ مگر جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں واضح کیا ہے خود مورخین اور اس کے راویوں کے عقائد کی رنگ آمیزی کی جھلک ان روایات میں پائی جاتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں تو اس کی صحت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ واقعی کی تاریخ میں اگرچہ افسانوی رنگ ہے مگر یہ پہلی تاریخ ہے جو تاریخ خلافت اسلامیہ سے اور واقعات جس تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں بعد کے مورخین نے استفادہ کیا ہے۔ واقعی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مجاہدین، سلام کی دینی حرارت، بغیرت کو ایسے نقطوں میں بیان کرتا ہے کہ ان آیام کا نقشہ کھینچ کر دکھ دیتا ہے مناسب ہے کہ اس کی تاریخ سے بعض واقعات مثلاً محاربہ یرموک اور قادسیہ اور محاصرہ دمشق نصاب تعلیم میں داخل کئے جائیں تاکہ مسلمانوں کی اولاد میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو خلافت راشدہ کے وقت دلوں میں جوش پر تھا۔

یہ مؤرخ ایرانی نثر اور تھا۔ خلفاء عباسیہ متوکل راوی
ابو یوسف محمد بن اسماعیل مستعین کے عہد میں دربار خلافت میں بار بار حاصل
 کی، خلیفہ المتز بالقاء کے بیٹے عبداللہ کا سابق منقر تھا۔ ان ہی دنوں میں اس نے
 "فتوح البلدان" لکھی۔ اس نے واقعی کی کتاب المغاری اور ابوالحسن بدائی سے

استفادہ کیا۔ مدیہ ۳۶ مطابقت ۵۳ء مدینہ پایہ تخت ساسانی شاہان ایران
 میں تسولہ ہوا اور ۵۳ء میں فوت ہوا۔

طبرستان مازندران میں واقع تھا ۲۲۷ء میں یہ
ابو جعفر بن جریر طبری نامور مورخ اسی مقام میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں

کہ ابن جریر نے شاہان ایران کی گذشتہ شان و شوکت اور آتش کدہ شہر آمل کے
 جواب کھنڈر تھے دیدہ عبرت سے مڑا لہ کیا۔ اور تاریخ نویسی کا شوق پیدا ہوا
 از نقش و نگار درو دیوار شکستہ آثار پدید است صنادید مجملہ

اس وقت آل طاہر کی حکومت خراسان میں تھی۔ بانی طاہر زوالہ بنین ماموں

الرشید کا فوجی اعلیٰ افسر تھا۔ جب ہارون الرشید کے درووں بیٹوں ماموں اور ابو

میں جنگ چھڑ گئی تو یہی طاہر تھا جس نے ابن کو بغداد میں محاصرہ میں لے کر قتل

طبری کا لڑکپن آل طاہر کے پیر سایہ بسر ہوا۔ ہوش سنبھالی تو شام اور مصر کا سفر

اختیار کیا۔ علماء و فضلاء کے حلقہ درس میں ایک مدت رہا حافظ قرآن تھا اور

حدیث، حرّات اور تفسیر میں وہ نام پیدا کیا کہ اس کی شہرت میں آج بھی کمی واقع

نہیں ہوئی۔ وہ خوبی واقعات جو اس نے بغداد میں کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے

تاریخ نویسی کے اور زیادہ محرک ہوئے جس کا شوق لڑکپن میں پیدا ہو چکا تھا۔

الاحم و الملک لکھی۔ طبری مورخ اور مفسر قرآن اور معلم حدیث سب کچھ تھا۔ امام

بن حنبل کا مرتبہ فقہ میں بہت بلند ہے۔ طبری شافعی تھا جہاں مسالک مجتہد

پر بحث کرتا ہے امام احمد بن حنبل کی نسبت لکھتا ہے کہ فقیہ تونہ تھا۔ محدث تھا

لئے جنابیوں نے اس کو برف طعن و تشنیع بنایا اور "رفض" سے متہم کیا۔ ابن جریر اگر

ذمہ شافعی تھا۔ مگر خود بھی مجتہد تھا۔ (بن غسکانہ) "دایات" میں ابن جریر کے

میں لکھتا ہے کہ اس کو کئی عوام میں دسترس تھی۔ کبھی کبھی شعر و شاعری سے

دل بہلاتا۔ اگرچہ بغداد کی شان و شوکت اور خوشحالی کا دور ماموں رشید پر ختم ہو چکا

لیکن المعتد اور المعتضد اور لکتفی سب کا عہد خلافت بھی امن سے گزر گیا۔ مصر مرکز خلافت سے جدا ہو چکا تھا۔ بہر حال اس دور خلافت میں طبری کے دن بھی امن سے گزرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خلافت عباسیہ کو مسرت کے ساتھ لپستی کی طرف گرتے دیکھا۔ قرطبہ نے اسلامی شہروں میں جو شورش برپا رکھی وہ بھی دیکھی۔ آخر ۳۱۳ھ مطابق ۹۳۲ء بغداد میں فوت ہوا اور یہیں مدفون ہوا۔ اور اپنے پیچھے غیر فانی یادگار "تاریخ الامم والملوک" اور تفسیر چھوڑ گیا۔ تاریخ میں طبری نے حضرت آدم سے لے کر ۳۲۰ھ تک یعنی اپنی وفات سے آٹھ سال پیشتر کے حالات لکھے ہیں اس نے جو کچھ سنایا جو کچھ پڑھا نقل کر دیا۔ آپ ہی لکھنا ہے کہ جو کچھ راوی نے کہا نقل کر دیا۔ دروغ برگردن راوی۔ اس تاریخ کا خلاصہ ابو علی محمد البلعینی نے فارسی میں لکھا ہے۔ یوں کے خرافات اور نجوم و سہیت اور عجیبی روایات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے اور صرف طبری کے اپنے زمانہ کے حالات کو دیکھا جائے تو تاریخ میں طبری بقول ابن خلدن کسی مورخ سے کم نہیں۔ اور متقدمین میں تو اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ یورپ کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ان میں سے "گوتز" (Gutzmer) اور "ولڈ کی" (Voldke) کے ترجمے مشہور ہیں۔

ابو حنیفہ احمد بن داؤد دینوری | دینور ہمدان میں جو ایک پیرانا شہر ہے

تھا۔ اب کھنڈ ہی باقی ہیں یہاں یہ مورخ شروع تیسری صدی ہجری میں متولد ہوا۔ تاریخ اور علم ریاضی و طبیعی میں کافی دسترس تھی۔ ان ایام میں ابن سکیت کی شہرت لغت اور ادب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی شاگردی اختیار کی۔ ابن سکیت سخت متعصب شیعہ تھا۔ اور اسی قدر خلیفہ متوکل کو آل علی سے خصومت تھی۔ بلحاظ علم و عمل متوکل نے اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا۔ ایک روز پوچھا کہ "میرے بیٹے تجھے محبوب تم میں یا حسن حسین" جواب دیا کہ "جو نسبت تھا کہ را با عالم پاک" ان سے محبوب تر حسن حسین کا غلام قنبر ہے! متوکل نے زبان کاٹ دی اور مسئلہ ہم میں قتل کیا جس کا استاد ایسا ہوشاگردو کیا ہوگا۔ اس میں کلام

ہیں کہ دیوبندی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ ماضی میں کتاب فی الجبر والافتادہ اور کتاب فی الحساب لکھی۔ سبیت میں تاریخ ابی حنیفہ کا ذکر کا تب صلیبی کشف الظنون میں کرتا ہے۔ تاریخ میں اس کی کتاب "الانجبال المکمل" ہے۔ جس کی تعریف ذوالحیف مسعودی بھی کرتا ہے صاحب کشف الظنون بحال مسعودی کہتا ہے کہ تاریخ دیوبندی ابن حنیفہ کی تاریخ کی بنیاد ہے اس نے اپنی تاریخ میں خلافت راشدہ کے تحت فتوحات مجاہدین اشراف کشکش حضرت علی اور امیر معاویہ اور حوادث خوارج اور صلوات امویہ اور ظہور مختار اور اموی خلافت کے زوال اور خراسان میں علوی شورش کا مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کی تاریخ میں جو بات خاص ہے وہ خوارج کے حالات کی تفصیل ہے اگرچہ قلم در کف سخن بہت "مگر یہ دیوبندی کے حق میں کہنا پڑتا ہے کہ اس نے مؤرخ کی حیثیت برقرار رکھے ہیں سچی بلوغ کی لب۔

ابو محمد محمد بن قتیبہ الدیوبندی

ابو حنیفہ اور ابن قتیبہ ہم عصر تھے۔
 ۳۱۱ھ میں بغداد میں ولادت ہوئی۔ ابن قتیبہ کو ذمت و نحو و تفسیر حدیث میں بھی شہرت حاصل ہے۔ ذہنی قافی تھا۔ مگر دروس و تدبیریں اور تالیفات میں زیادہ وقت صرف کرتا۔ اس کا شمار آخر لغت میں ہوتا ہے آخر چہرہ و مضامین سے درست کتب ہو کر بغداد میں آنا اور درس تدریس و تالیفات کا سلسلہ جاری رکھنا۔ ابن خلدکان نے اس کی تالیفات میں "عرب القرآن" "تجرب الحیث" "معیون الاخبار" "ادب الکاتب" "مشکل القرآن" "مشکل الحیث" "طبقات الشرا" "کتاب الخصال" "دلائل النبوة" "جامع الخواکبیر" کتاب المناقب و غیر ہم شمار کی ہیں۔ آخر ان کے کتاب المناقب کی خوبی کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مسعودی اور ابن جریر جیسے بلند پایہ مورخین نے اسے اپنی تالیفات کا ناخذ قرار دیا ہے۔ ابن قتیبہ اپنے ہم عصر ابن داؤد دیوبندی سے چھ سال پہلے مکہ مکرمہ میں فوت ہوا۔ ابن قتیبہ کی کتاب المناقب اور اخبار الطوال کی نسبت یہ کہنا چاہیے کہ ایک ہی زمانہ کی دو محدثیں ایک ہیں۔ مگر وہ قول مورخوں کے عقائد کی جہتک ان کی تاریخوں میں نظر آتی ہے۔ جہاں اولیٰ اس

بارہ نو تاریخ ایران کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ واقعات جو اسلامی خلافت
 کے لیے ایران میں رونما ہوئے ان کی تفصیل بھی ایرانی نقطہ نگاہ سے کی گئی ہے۔
 لیکن کتاب المعارف میں تاریخ عرب سے ہی سروکار ہے۔ اور ایرانیوں کے حالات
 کو مستر بیان کئے گئے ہیں۔ اس میں اسلام سے پیشتر اور ظہور اسلام کے بعد تاریخ عرب
 پہلی اور دوسری صدی ہجری میں نمایاں نظر آتی ہے یہ کتاب مصر میں چھپ چکی ہے۔

ابو بکر محمد بن یحییٰ الصولیؒ | چوتھی صدی ہجری میں تین شخصیتوں نے خاص شہرت
 حاصل کی جو آج بھی قائم ہے۔ ان میں سے ایک ابو

عصر تاریخی فلسفہ و حکمت اور فنون لطیفہ عروض و موسیقی میں اور دوسرا امیر ابو نصر بن
 علی بن عراق ریاضی اور ہیئت میں اور تیسرا ابو بکر الصولیؒ ادبیات اور تاریخ میں دنیائے
 اسلام میں مشہور ہوئے صولی نے ادبیات عرب اور تاریخ خلافت عباسیہ مفصل لکھی ہے
 صولی اجداد میں ایک شخص "صول تکین" نامی گذرا ہے اور "جرحان" کے اُمراء میں سے
 تھا۔ اس کا مذہب بھی گہری آتش پرستی تھا۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں "امیر مہلب"
 کی اولاد جو "آل مہلب" اور "مہلبی" کہلاتی اور جس کو خلافت امویہ میں ذہبی حشمت اور
 تند و منتزلت حاصل تھی جو آل برانکہ کو خلافت عباسیہ میں تھی سلیمان بن عبد الملک کے
 عہد خلافت میں طبرستان اور وہستان اور جرجان اور گرد و نواح کو تسخیر کرنے کے بعد
 ان ممالک پر چھا گئی۔ لڑکوں نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اکثر اسے گئے آل مہلب
 میں سے نریدہ ان ممالک پر عامل تھا۔ "صول تکین" نے اسلام قبول کر لیا۔ نریدہ بن مہلب
 نے اس کو اپنا مذہب بنا لیا۔ تاہم خلافت عمر بن عبد العزیز نریدہ کی مصاحبت میں رہا۔
 نریدہ بن مہلب اپنی خود مختار حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت اموی خلافت
 کا ستارہ اقبال اورچ پر تھا۔ گرفتار ہو کر قید ہوا۔ نریدہ بن عبد الملک تحت خلافت پر
 بیٹھا۔ نوریہ قید خانہ سے بھاگ کر حبشہ میں آیا اور بنو ہاشم سے ساز باز کے بعد
 اور راء النہر اور خراسان میں ہٹ لو بگ مجاوی۔ "صول تکین" اس کا مذہب سنا تھا۔ لہذا اگرچہ
 ذہنی جمعیت ہم پہنچائی مگر آخر شکست خوردہ گوشتہ گن جی میں رہ گئے۔

خلافت عباسیہ کے دور دورہ میں صولی تکین کی اولاد نے علم و ادب پر توجہ مبذول کی۔ ابو بکر صولی و دربار خلافت میں بھی پہنچا۔ خوش سخن۔ مجلس آرا اور ادبیات و تاریخ عرب سے خوب واقف تھا۔ شطرنج کا کھلاڑی خوب اعلیٰ پایہ کا تھا۔ اور اسی وجہ سے خلیفہ المتکفی کا ندیم بن گیا۔ المقتدر باللہ نے اسے اپنے بیٹے ابو العباس کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ المقتدر باللہ کے عہد خلافت کے حالات دیکھ رہا تھا کہ امویہ دولت تو عورتوں اور یدہ اخلاق لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور خلیفہ کے محل سے طاؤس و ریاب کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ مشرق میں سامانی اور کوفہ و نجد و بحرین میں قرابطہ اور دیم اور طبرستان میں المرزشی خلافت عباسیہ کی بیخ کنی کر رہے تھے۔ دیار مغرب (افریقہ) میں ابو عبید اللہ اور بنی اغلب نے مستقل حکومت قائم کر لی اور عبید اللہ المہدی کو تخت خلافت پر بٹھا دیا۔ المہدی حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے بیٹے اسمعیل کی اولاد سے تھا۔ ایشیا میں خلافت عباسی رو بردار تھی۔ افریقیہ میں خلافت علوی یا بنو خاتمہ عروج پر تھی۔ صولی نے یہ سب واقعات مشاہدہ کئے۔ ان ایام میں مسلمانوں میں فرقہ بندی اور شرانگیزی تفرقہ کا بھی زور تھا۔ خلفاء کی دنیوی اور دینی حکومت دونوں رنگ ملا رہی تھیں۔ جنہلی تو مزے میں تھے۔ معتزلہ اور دیگر فرقوں کے مذہبی مجادلہ کی کیفیت بھی صولی کی نظر سے پوشیدہ نہ تھی۔ ابن مقلہ جس نے عربی خط کوئی نسخہ میں بدل دیا سیاسی شعبہ باز تھا۔

ان ہی ایام میں شلمانی نے عقائد علوی و تناسخ شائع کئے اور جنیلیوں کا عقیدہ تھا کہ خدا زمین پر نازل ہوا ہے۔ غرض نہ دنیا کی وجاہت رہی اور نہ دینی شہامت انخیزی مصر میں، بنی حمدان دیار بکر اور موصل میں قریطی بحرین و میساح میں ابن رائق۔ بصرہ میں ابن برمیدی۔ امواز میں آل یوہہ، فارس میں محمد بن الیاس کرمان میں مستقل حکمران اور برائے نام نائب الخلافت تھے۔ صولی نے یہ سب کچھ دیکھا اور قلم بند کیا۔ اگرچہ الرضی باللہ کے عہد میں صولی زندگی امن و خوشحالی سے بسر کر رہا تھا۔ اور خلیفہ نے بھی حتی الوسع تمام فسق و فجور کے آلات کو توڑ ڈالا۔ علم و

ادب کی محفل گرم ہونے لگی۔ فوج کی از سر نو تنظیم کی۔ لیکن جیسا راجہ ویسی پر جا۔
 متقدم خلفائے عوام کا لانا عام کیے بھی عیش پرست بننا رکھا تھا۔ پانی سر سے گزر
 چکا تھا۔ اس لئے الراضی کی اصلاحات سے بھی کام نہ چلا۔ الراضی کے بعد امتی حلیفہ
 ہوا تو والی بصرہ ابن بریدی نے دار الخلافت اور خلافت دونوں کو اپنی سرپرستی میں
 لے لیا۔ خلیفہ نے بھاگ کر موصل میں ناصر الدولہ شہزادہ آل حمدان کے پاس پناہ لی
 یہ طوڈان بے تمیزی برپا ہوتے دیکھ کر صولی نے خیرامی میں دیکھی کہ مبادا جو ابن مقلہ
 کا حشر ہو کہ فقر و فلاکت میں دست و زباں بریدہ ہو گیا۔ وہی اس کے بھی پیش آئے۔
 بصرہ میں بھاگ کر گوشہ گماچی میں زندگی کے دن کاٹے اور ۳۵ھ مطابق ۹۷۶ء
 میں فوت ہوا۔

ابوالحسن علی بن حسین بن علی المسعودی

جب مسلمانوں میں خلافت اپنی
 حکمت کا گھر گھر چا تھا۔ سیاح بھی اکثر پیدا ہوئے۔ ان میں سے مشہور مسعودی اور
 ابن جیر اور ابن بطوطہ ہیں۔ ابن جیر متوفی ۳۵۷ھ اور ابن بطوطہ ولادت ۳۳۰ھ کا
 تذکرہ ہم نے بغداد میں لکھا ہے۔ ان میں مسعودی تیسری سلسلہ ہجری میں بغداد میں
 تولد ہوا اور ۳۲۲ھ میں مصر کو ہجرت کر کے کوفہ طاط کہتے ہیں فوت ہوا۔ یہ سیاح ۳۲۸ھ
 میں جب کہ اس کا عالم شباب تھا۔ بغداد سے نکلا۔ تین سال کے بعد ہم اسے ہندستان
 میں دیکھتے ہیں۔ ایک عرصہ تک یہاں پھرتا رہا۔ ۳۲۷ھ میں جزیرہ سیلون میں آیا اور
 یہاں سے جزیرہ کما بالو میں جسے اب "مڈغاسکر" کہتے ہیں اور زنگبار سے عمان اور شام
 اور مصر اور دیار مغرب اور اندلس میں فارو ہوا۔ مسعودی کی کتاب "مروج الذهب" کے
 مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سواحل چین تک بھی گیا۔ اور ایسے ایسے مقامات سے
 اس کا گذر ہوا جہاں اب تک مسلمانوں کا قدم تک نہیں گیا تھا۔ اس طرف اسلام کی منہائی
 اسی نے کی۔ اس نے اپنی عمر کا اکثر حصہ اور بہترین حصہ سیاحت میں صرف کیا
 اور شہر بہ شہر اور قریب بہ قریب پھرتا رہا۔ اور ان مقامات کے تاریخی حالات

اور جغرافیائی خصوصیات کو ناقذانہ نظر سے دیکھتا رہا۔ مسعودی کو تاریخ گذشتہ اور جغرافیہ اور فقہ اور طب پر پورا عبور تھا۔ "کشف الظنون" میں اس کی تصنیفات میں سے زیادہ نام مہام درج ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ سیر و سیاحت کے علاوہ مسعودی کو وقت فرصت کون سا ملتا ہوگا کہ تصنیف و تالیف کثیر میں صرف کیا۔ انہوں نے یہ علمی خزانہ جو مسعودی نے چھوڑا یا تو دست برد زمانہ کی نذر ہو گیا یا کسی خزانہ میں مدفون ہے۔ صرف دو کتابیں "مروج الذهب" اور "کتاب التنبیہ" یادگار باقی رہ گئیں۔ "کتاب اخبار الیمان" جرمن کے ایک مشرق رورڈ اگیر (Reidinger) کی رائے ہے کہ وہی ہے جو ۱۸۶۹ء میں وڈکر و مرر (Widemann) کے ہاتھ لگی۔ لیکن یہ اس ضخیم کتاب کی جلد اول ہی ہے مسعودی کی آخری کتاب "التنبیہ" ہے جو ۱۸۶۷ء مطابق ۹۵۵ھ قمری فسطاط میں لکھی۔ اصل اور ترجمہ یورپ (لیڈن) میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ مسعودی کی کتاب "کتاب الاوسط" ہے اور اسی کا خلاصہ دو جلدوں میں "مروج الذهب" ہے۔ روایت یہ ہے کہ مسعودی نے خود یہ خلاصہ لکھا جلد اول میں ان اقوام اور ان کے حالات کا تذکرہ ہے جو ظہور اسلام سے پہلے تھیں دوسری جلد میں عہد رسالت سے خلافت المظہر اللہ عباسی کا تذکرہ ہے۔ علماء مغرب اہل یورپ کی علم دوستی نے مسعودی کا نام زندہ رکھا۔ اور اس کی کتاب کا ترجمہ اپنی زبانوں میں کیا۔ ۱۸۳۳ء میں مطبع ازہرہ مصر نے شائع کی۔ مسعودی اور ابن جریر انہیں میں ملتے جلتے ہیں۔ ابن جریر فقہیہ شیخ اور محدث تھا۔ اس لئے تاریخ میں احادیث سے سند لیتا ہے۔ مسعودی کے معلومات کا دائرہ وسیع تر ہے۔ وہ ہر ایک مذہب و ملت کے علماء سے ملتا ہے۔ اور جو کچھ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے قلم بند کرتا ہے اپنے معاصر مسیحی علماء سے ملتا رہا۔ فلسفہ یونان قدیم اور منہ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ علماء یہود صابئی، اور داعیان قرطبی سے بھی اس کی دوستی تھی۔ سکندریہ میں بطریق "اوشیکولیس" (Eusebius) جو مورخ بھی ہے ملا۔ اور اس کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ مختلف مذاہب کے علماء و حکماء سے مناظرہ و مباحثہ بھی کرتا۔ "توامرطہ" کو مورخین نے مورد

عن طعن بنایا مگر مسعودی کہتا کہ ان کو حالات و عقائد کا صحیح علم نہیں۔ ابو نصر فارابی چند سلا پیشرفت ہو چکا تھا۔ اس کی نسبت لکھتا ہے کہ آج اس دانشمند متبحر کا جواب نہیں

اصفہانی ۲۸۲ء مطابق ۸۹۷ء

ابوالفرج علی بن الحسن اصفہانی

اصفہان میں پیدا ہوا۔ خالص عرب اس

کا نسب خاندان مروانہ امویہ سے ملتا ہے۔ اس لئے اہل تشیع اس کے مذہب میں جو زید یہ تھا۔ شک و شبہ کرتے ہیں۔ بہت بے تکلف تھا۔ اگرچہ امر اور ذرا کی مجلس میں اکثر

آمد و رفت رہتی۔ مگر آداب مجلس کا کبھی پاس نہ کیا۔ ادوہ بھی برداشت کرتے تھے۔ یوسف اللؤلؤ کے دربار میں رسائی تھی۔ یہاں اکابر علماء و ادباء کا اجتماع ہوا تھا۔ یہاں بھی اس کا احترام

ہوتا۔ جب آل بویہ جو ایرانی تھے خلافتِ عباسیہ کے سرپرست ہوئے تو ان سے بھی سلسلہ مودت کا ٹھٹھا۔ ابو محمد سہلی وزیر معز اللؤلؤ اس کے علم و فضل کا اتنا گرویدہ تھا کہ جدائی

گوارا نہ تھی۔ ۳۵۷ء مطابق ۹۷۰ء وفات پائی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس جگہ نہ دردمان اور عالم متبحر کے بعد کوئی شخص اس کا مثل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی گردن تک نہ پہنچا۔ اگرچہ

علم و حدیث و طب و نجوم میں بھی واقف تھا مگر سنی اور ادبیات اور تاریخ و سیر میں اس کا جواب نہیں۔ اس کی کتاب "الافغانی" تاریخ ادبیات عرب میں شاہکار تسلیم

کیا گیا ہے۔ بادہ فحشوں سے لے کر شہریوں اور خصیصاً امراء و وزراء خلفاء تک وہ باتیں نقل کرتا ہے کہ ہر کتاب تاریخ و سیر میں اس کا نظیر نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب "الملاحانی"

ایک گراں بہا خزانہ ہے۔ جس میں وہ جو اہرات تانباک ہیں کہ ان کی قدر و قیمت سے وہی علماء و حکماء واقف ہیں جو اس سے مستفید ہوتے رہے۔ یہ دائرۃ المعارف ہے ۳۸۵ء

مطبع بولاق میں ۱۸۵۱ء میں یہ کتاب شایع ہوئی اور بردنور (Bonn) نے

بیدہ زیب اکیس مجلدات بمقام "لیدن" شایع کیں۔

اس کتاب میں خلافتِ امویہ کے تحت ہم نے لکھا ہے

حزب بن حسن اصفہانی

کہ یہ خالص عربی حکمت تھی اموی خلافت کے دوسرے

دوسرے بعد اس حکمت میں یہ قوی تعصب پیدا ہو گیا تھا کہ نجابت اور خرافت صرف

اہل عرب کا خاص حصہ سمجھتے تھے۔ اور ریاست و ریاست ان کا واحد خاص شغل تھا۔
 زراعت و صنعت و تجارت و حرمت اور حد ہے کہ تمام دیگر علوم و فنون کو بطور پیشہ
 حقیر سمجھتے تھے۔ یہ کام عجمیوں کا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہائے ہندوستان میں ویش
 اور شور آریائی عروج کے زمانہ میں تھے۔ یا یونان و روم کی حکومت میں غیر رومی یا غیر
 یونانیوں کی حالت تھی۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے "مقدمہ" میں لکھا ہے کہ "تمام اہل
 علم و قلم عجمی تھے" یہی وجہ ہے کہ ریاست و ریاست سے عربوں کو فرصت نہ ملتی۔
 اس طرف توجہ کب ہوتی۔ لیکن وہ علم و ہنر کے فزندان تھے۔ اور اہل علم کی جو صلہ اخلاقی
 انعام و اکرام سے کرتے رہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو ہائے پاس کوئی شے قابل فخر نہ ہوتی
 اموی عقیدہ و بارہ فزیت عرب کا ردِ عمل ذرہ "شعوبہ" میں ہوا۔ اموی عجمیوں کو
 "موالی" کہتے۔ غلط فہمی سے یورپ کے مؤرخین لفظ "مولی" کا مفہوم غلام یا آزاد کردہ غلام
 سمجھتے ہیں۔ کسی حد تک یہ صحیح ہے اس لئے اہل اسلام نے کبھی غلام ان معنوں میں استعمال
 نہیں کیا۔ جو یونانی اور رومی لغت میں ہے۔ اہل اسلام "موالی" ان عجمی مسلمانوں کو کہتے جو یا
 تو خلافت کی سرپرستی تسلیم کر چکے تھے۔ یا جن سے ان کے مراسم و دستاورد تھے۔ لفظ
 "مولی" اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے یہ
 تاریخی حقیقت ہے کہ خلافت عرب کے دورِ دورہ میں شعراء اور حفاظ و منشیان و مفسران
 و محدثان و فقہاء و مورخان و علماء ہیئت و ریاضی و اطباء اور اہل صنعت و حرفت
 تمام موالی ہی تھے۔ عرب ان کو عجمی ہی کہتے جو حدود عرب سے باہر آباد ہو چکے تھے۔
 خواہ بہ نسبتاً عرب ہی تھے۔ خلفاء امویہ کو خالص عربی کا اس قدر پاس تھا کہ وہ اپنی اولاد
 کو باویہ نشینوں میں کچھ عرصہ کے لئے بھیج دیتے۔
 اس میں کچھ شک نہیں کہ "موالی" اس تحقیر کو بری طرح محسوس کرتے تھے جو اموی
 خلافت نے روا سمجھا۔ اور کہتے کہ یہ روح اسلام کے منافی ہے۔ جو مختار ثقفی نے عراق
 میں عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں علم نبوت بلند کیا۔ اس کے نیچے موالی کثرت سے
 جمع ہو گئے۔ اگرچہ کامیابی نہ ہوئی مگر ردِ عمل شروع ہو گیا اور خلافت عباسیہ نے اس کا

کا فائدہ خاطر خواہ اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کا دور ٹوٹ گیا۔

ہارون رشید نے خلافت اپنے دو بیٹوں امین اور ماموں میں تقسیم کر دی۔ امین عرب پر اور ماموں ایران پر حکمران تھا۔ امین زبیدہ کے بطن سے ہاشمی تھا۔ ماموں کی رگوں میں عجمی خون تھا۔ امین کے دورِ خلافت میں عربوں میں پھر جان پڑنے لگی۔ مگر ماموں کے ساتھ جنگ چھڑی تو امین مارا گیا۔ اور خلافت ماموں کے ہاتھ آگئی۔ اس کے پشت و پیشاہ اکثر موالی ہی تھے۔ فرقہ شیعہ کی تشکیل سمعیل بن یاسر نے جو ایرانی شاعر تھا کی۔ جو ولید بن عبد الملک کے دورِ خلافت میں گذرا ہے۔ اس فرقہ کے نامور علمبردار "عبد الاسلام" جھص کا ایک شاعر تھا جس کو عرب "بیک الحن" یعنی جن کا مرغ کہتے۔ اور ابو عبیدہ و عمر بن ہاشمی ہارون رشید کی خلافت میں تھا۔ اس نے اپنی کتاب "المطالب" میں عربوں کے نقائص کی وہ تصویر کھینچی کہ جب مرانوا اس کے جتانے میں کوئی عرب شریک نہ ہوا۔

اس فرقہ کے لوگوں سے ایک سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ اپنی ملت کی اشاعت عربی زبان ہی میں کی۔ اور یہ اموی خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ عربی زبان دنیا اسلام میں اس حد تک رائج کی کہ ہائے زمانہ میں بہار اللہ ایرانی مدعی نبوت بانی مذہب بھائیہ کو بھی مجبوراً عربی ہی سے کام لینا پڑا۔ جو بھی ملک فتح کرتے وہاں مدرسوں میں تعلیم عربی زبان میں دی جاتی۔

فرقہ شیعہ کے مخالف بھی تھے۔ ان میں استاد ابو طالب سپر فخر الدولہ مدد من ممدانی اور ابو القاسم محمود الزمخشری مشہور گزرتے ہیں۔ حمزہ صفہانی فرقہ شیعہ کا ولدا وہ تھا۔ اس نے تاریخ پیدائش آدم سے المطیع اللہ یعنی ۳۳۰ھ تک لکھی۔ اس میں اس نے تاریخ ایران کو اہمیت دی ہے۔ ایرانی پیشوایان دین "موبد" ان آیام میں بہاروں میں آتش مقدس کی حفاظت کر رہے تھے ابو حمزہ ان کی تلاش میں نکلا۔ اور ان سے داستان پستان ایران جو سینہ بسینہ روایت ہو رہی تھی سنی۔ جمع کی اور لکھی۔ ابو حمزہ کی کتاب سینٹ پیٹرس برگ ماسکو میں چھپ چکی ہے۔ اس نے امثال عرب پر بھی ایک کتاب لکھی جس کا ایک نسخہ "نیو یارک" اور دوسرا مصر قاہرہ قادیانہ قادیانہ مصر میں محفوظ ہے۔

فریڈی نڈتانی نے سویلی لے لیا۔ یہ لوگ تونس میں پناہ گزین ہوئے۔ ابن خلدون سلاطین تونس اور فیض کے ہاں ملازم رہا۔ ۱۳۴۳ء میں غناطہ گیا۔ اور بطور سفیر قطلانی بادشاہ پطرس کے دربار میں آیا۔ ۱۳۴۵ء سے ۱۳۸۲ء تک وہ مختلف سلاطین کی خدمت میں رہا۔ اور اپنی مشہور تاریخ بھی لکھتا رہا۔ ۱۳۸۲ء میں قاہرہ میں مستقل رہائش رکھی اور یہاں مالکی قاضی القضاات کے ذرائع سرانجام دیتا رہا۔ اور آخر عمر تک اسی خدمت پر مامور رہا۔ ۱۳۸۶ء میں وہ تیمور لنگ کے پاس آیا۔ ۱۳۹۴ء میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سلسلہ نسب میں دسویں پشت میں مورث خلدون نامی تھا۔ اور یہ بھی ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی اصل "حضرت" ہے۔ بقول گبن "ابن خلدون کے پایہ پکا کوئی مورخ آج تک نہیں ہوا۔ تاریخ علم و ادب کی ایک شاخ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ابن خلدون نے اس کو علم میں تشکیل دی۔" مقدمہ میں اس نے "تو انہیں تاریخ واضح کی ہے۔ ہم نے بھی ان اوراق میں اس کے اتباع میں کچھ ضابطہ کیا ہے۔"

بیزنی اصل میں خوارزم کے رہنے والا تھا۔ ہندوستان

پلوریکان محمد بن احمد البیرونی

بہت عرصہ رہا۔ اور غائر نظر سے یہاں کے مذاہب اور ہندوؤں کے رسم و رواج و بود و باش کی طرز اور علوم بالخصوص مہیت اور فلسفہ کا مطالعہ کیا اور اسے اپنی کتاب "تحقیق الہند" میں لکھا۔ اس کا ترجمہ یورپ کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ گیارہویں صدی عیسوی میں جو کچھ ہندوستان کے حالات تھے۔ اس نے ان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ بیرونی لکھتا ہے کہ یوں تو اکثر باتیں ہندوؤں میں اچھی ہیں۔ مگر ترقیات کی جرأت یہاں پوری ہے۔ قابل مذمت ہے۔ سستی کی رسم عام ہے۔ بیوہ اپنے خاندان کی لاش کے ساتھ زندہ جلائی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کوئی ڈنڈا اپنی مرنے والی کے ساتھ اس طرح ست و دھرم کا ثبوت نہیں دیتا۔ صخر سنی کی شادی عام ہے۔ بیرونی یہ بھی لکھتا ہے کہ حکماء اور علماء ہند تو توحید کے قائل ہیں۔ مگر عوام مورتی پوجا کرتے ہیں برہمن خواہ کسی جرم کے مرتکب ہوں۔ سنگین سزا سے بڑی ہیں۔ اور کسی قسم کا مالیہ ادا نہیں کرتے شمالی ہند میں ہی چھ خود مختار ریاستیں کشمیر اور سندھ اور گجرات اور مالوہ اور قندوز

اور بنگال میں ہیں اور ان کے تحت چھوٹے چھوٹے راجے اور رئیس ہیں۔

بیرونی نے کتاب الہند میں علم ہیئت اور ریاضی اور جغرافیہ اور تقویم اور طبعیات پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ مہندو پنڈتوں سے ہیئت پر گفتگو کرتا اور ان کی غلطی اس موضوع پر واضح کرتا تو وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ آپ نے کس پنڈت سے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔

حکیم ناصر خسرو علوی بہاولپور

ابن حیر اور ابن بطوطہ اور ابن حوقل وغیرہم

مسلمان سیاحان کی فہرست طویل ہے ان میں

ناصر خسرو بھی ہے اس کا "سفرنامہ" مشہور ہے۔ "مرد" میں تحصیل علم کے بعد ۱۰۲۶ء میں نیشاپور اور قم، تبریز، حلب اور شام کے مشہور مقامات کی سیر کرتا ہوا مصر میں آیا اور یہاں سے الاحصا اور لہور سے ہوتا ہوا پھر بلخ میں آیا۔ ان مقامات کے حالات چشم دیدہ جو کچھ اس نے لکھے ہیں وہ زمانہ کی بہترین تاریخ ہیں۔ ناصر خسرو اور کتابوں کا بھی مصنف ہے۔ شاعر بھی تھا۔ اس پر بے دینی کا الزام بھی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ فلسفی تھا اور جو کچھ اس کے عقائد تھے وہ اس زمانہ کے عام مسلمانان فلسفیوں سے کچھ فراتے نہ تھے۔ اور یہ وہی ہیں جس کو ہم آج تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔

سید امیر علی

بہارے زمانہ کے مورخین میں سے سید امیر علی۔ بی۔ سی

سی آئی ای۔ ایل ایل ڈی۔ ڈی ایل (P. C. C. I. E. LL. D.)

پریوی کونسلر ایک روشن دماغ جج اور مورخ ہیں۔ ان کی تصنیفات میں سیرٹ آف اسلام (The Spirit of Islam) اور سیرٹ آف سیرن (Satanism of the Saxon) بہت مشہور ہیں۔ تمام کتب انگریزی میں لکھی گئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل برطانیہ کو بالخصوص اور اہل یورپ کو بالعموم اسلام اور اس کی برکات سے روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدمت آپ خوش اسلوبی سے سرانجام دیتے رہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بنگالی تھے۔ اور اردو میں اتنی دسترس

نہ تھی کہ آپ اس کی بھی خدمت کرتے۔ آپ کی سہری میں یوں تو بہت خوبیاں ہیں مگر ایک عیب بھی ہے۔ جو ایک مورخ کے دامن پر بدناما داغ ہے۔ آپ مشیحہ ہیں۔ اور قبائلی تعصب۔ جہاں کہیں اہل بیت کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں اتنا نمایاں ہے کہ اس کی تاثیر میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی تاریخی صداقت خیال فرماتے ہیں۔

ویسا چہ عموماً ہر ایک انسان زندگی کے تین مرحلے طے کرتا ہے۔ اولین اور جوانی اور بڑھاپا۔

وہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ پھر علقہ سے پھر تم کو طفل بنا کر راولوں کے پیٹ سے نکالا۔ پھر تمہاری پیدائش کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور اس کے بعد بڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض وہ ہیں کہ ان تمام مرحلوں کو طے کرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ان تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد، اجل مقررہ تک پہنچتے ہیں (غرض یہ ہے) کہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے پھر وفات دیتا ہے اور تم میں وہ بھی ہیں جو اول عمر تک پہنچتے ہیں کہ علم کے بعد کچھ نہیں جانتے اللہ علم و تدبیر ہے۔

یہ حالات انسانی جو کچھ انفرادی حیثیت میں پیش آتے ہیں۔ وہی جماعتی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔

اور ہر ایک اُمت کا ایک وقت مقرر ہے پس جب ان کو اجل آتی ہے۔ تو ایک ساعت

هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم فیزجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشکم ثم لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفی من قبل و لتبأخوا اجلاً مسمی و لعلکم تعقلون

(۲۳/۱۳)

و اللہ خلقکم ثم یتوفیکم و منکم من یرد الی اسرذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئاً ان اللہ

علیم قذیر (۱۴/۱۵)

و لکل امة اجل فاذا جاءہم اجلہم لا ینتأخرون

ساعة ولا يستقدمون“ (۱۱) اگے پیچھے نہیں ہوتی۔

آدم سے تا ایں دم جو کچھ انسان پر جماعتی زندگی میں گزرے اور گذر رہا ہے اہل علم و حکمت کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ آثار قدیمہ اور تاریخ کے صفحات پر اس کی زندگی اور موت کے حالات ثبت ہیں۔ اور ذہنی ارتقاء کے ساتھ ہمیں اور ذرائع کا علم بھی ہوتا جائے گا اور ان علمی اکتشافات کے ساتھ اور حقائق بھی مہائے سامنے آئیں گے جن کا علم مقتدرین کو نہ تھا۔

علمت نفس ما قدمت
و اخوت“ (۱۲)

ہر ایک انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ
اگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔

زمانہ ”حجر یہ“ سے اس وقت تک جو کچھ انسان نے ذہنی اور مادی ترقی کی ہے۔ وہ اس ارتقاء کی روشن دلیل ہے جو انسانیت کا حقیقی مقام ہے۔ قرآن کتاب علوم و فنون نہیں لیکن کتاب اصولِ علوم ہے۔ اس میں انسان ہی کا بیان بہ تعلق کائنات اور خالق کائنات ہے۔ بالخصوص ان سورتوں میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں انسانی ذہنی اور مادی ترقیات کا مفصل مذکور ہے۔ ہم نے اپنی کتاب ”خاتم النبیین“ میں اس کا ذکر کیا ہے اس لئے اس مقام پر اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے ایک بات جو ان اوراق پر ہماری بحث کا موضوع ہے۔ خلافت ہے اور یہ وہ ذہنی یا دنیوی حکومت ہے جس کے ذریعہ کسی قوم کے قبضہ تصرف میں وہ ممکن ذرائع زندگی آجاتے ہیں جو اس کی ذہنی ترقی میں مدد دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں رکلی نفس ذالقة الموت“ (۱۳) ہر ایک نفس موت کا ذائقہ شناس ہوتا ہے۔ ہر ایک قوم اُبھرتی اور گرتی ہے۔ انسانیت کی ترقی مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گی۔ قوموں کے عروج و تنزل کی تاریخ ایک مقصدِ اعلیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جو انسانیت بکلیہ اور پھر یہ وہ مقصد ہے جس کا مذکور قرآنِ عظیم اور صرف قرآنِ عظیم میں ہے۔ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا۔ قیامِ زندگی کے لئے ہر مومن کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے مگر خاک میں مل گئے۔ تو ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔ عقیدہ حیات بعد الموت حکماء کے نزدیک محض ایک عقیدہ ہے

ایک تمنا ہے۔ انسان مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن مرنا ضرور ہے اس لئے اطمینان قلب کے لئے یہ آرزو ایک عقیدہ ہی ہے۔ جو وہ اختراع کرتا ہے کہ میں مر کر بھی زندہ رہوں گا۔ یہ طفل تسلی فائدہ سے خالی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر عقیدہ حیات بعد موت کسی نہ کسی رنگ میں نہ ہو تو نہ صرف ہر ایک مذہب ختم ہو کے رہ جاتا ہے بلکہ انسان کے اطمینان خاطر کے لئے بھی کچھ نہ رہتا۔ اس لئے علماء کی یہ رائے کہ یہ عقیدہ انسان نے اپنے ہی تسکین قلب کے لئے اختراع کیا ہے کسی حد تک صحیح ہے اور ان اوراق میں ہم قوموں کے اعمال ناشائستہ کے تذکرہ میں بتائیں گے کہ قوموں کو کبھی یقین نہ تھا کہ ان کے اعمال کی بازپرس بھی کبھی ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس علم و حکمت کے دور میں بھی یقین نہیں۔ قرآن جہاں اس ناقابل انکار حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں مخلوق میں حقیقت مطلق نہیں دو مختلف حالتیں ہیں جو نفس انسانی پر وارد ہوتی ہیں وہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے ؟

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلِغَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَ
هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
(۲۹)

بہت برکت والی ہے وہ ذات ہے جس کے
قبضہ شاہی میں حکومت السموات والارض
ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے اس نے موت و
حیات خلق فرمائے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔
کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اور وہ
غالب بخشنے والا ہے۔

موت و حیات ذرائع ہیں مقصد اعمال اور اعمال کا مقصد جہاں تک ہمارے
نفوس کا تعلق ہے سزا و جزا اور سزا و جزا کا مقصد ارتقاء یعنی ان برکات خداوندی
سے مستفیض ہونا جو اللہ تعالیٰ ارزانی فرما رہا ہے یہ مقصد عالی انسان انفرادی اور جماعتی
زندگی میں حاصل کرتا رہا۔ اور جماعتی زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے بالخصوص
اس خلافت یا حکومت کے تحت جو اجماع کے حصہ میں آتی ہے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يَرْبِي الْبَنَاتِ

و رفع بعضکم فوق بعض
 در جنت لیلو کسرفی سما
 انکم، ان ربک سر یسبح
 العقاب، و اذنه لغفون،
 رحیم" (پہ)

(پہلوں کا) کیا اور ایک کے دوسرے سے درجات
 بلند کئے تاکہ تم کو اس سے ہیں آرائے جو تم
 کو وہی (خلافت) تحقیق تیرا میرا دروگاہ جلد
 عذاب بھی کرتا ہے۔ اور تحقیق وہ بخشے والا
 ہر بان بھی ہے۔

ہماری بحث کا موضوع یہی ہے کہ اہم سابقہ نے اس خلافت کے تحت کیا اعمال
 شائستہ یا ناشائستہ کئے اور بخشش و معفرت یا عذاب کے مستحق و مورد کیسے بنے اور اس
 تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان داستان سے کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں تاریخی واقعات کا
 مقصد یہی ہے کہ جو کچھ انسان نے کیا انسان کر سکتا ہے اور یہ کہ ایک سیلاب کے
 نتائج ہمیشہ ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ لوح کائنات پر قوموں کا عروج و زوال علیٰ حروف
 میں لکھا ہوا ہے۔ ہر ایک قوم نے ایک دن ختم ضرور ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تقدیر
 متاخرین کے لئے کیا چھوڑ گئے۔ اور اولین کی درانت آخرین نے کس طرح سنبھالی
 اور اس پر کیا کچھ اضافہ کیا۔

ہم اس داستانِ پاستان کو ابتدا سے شروع نہیں کرتے خلافت کی تاریخ کا آغاز
 آنحضرت کی بعثت سے کرتے ہیں ان ایام میں وہ عظیم الشان شاہنشاہتیں برسرِ پرکار تھیں
 ایک ایرانی اور دوسری رومی۔ رومی تو کل کرہ ارض پر چھا جانا چاہتے تھے رومی سلطنت
 دو حصوں میں منقسم تھی۔ ایک حصہ کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا اور اس کی حد دیوہان
 و ایشیا کوچک اور شمالی افریقہ مصر سے تا بحر ادقیانوس پہنچی ہوئی تھیں۔ ایران کی حکومت
 ان ایام میں ایران سے باہر عراق اور شام پر بھی تھی۔ لیکن ان دونوں ممالک پر قبضہ کبھی
 ایرانیوں کا کبھی رومیوں کا ہوتا رہا۔ امداد ارض شام و عراق میں یہ دونوں حریف قومیں درازمانی
 کرتی رہیں ایران سرزمینِ مین پر عرصہ سے قابض تھا۔ اور رومی عرب کے اس حصہ پر قابض
 ہو چکے تھے جس کو وہ "پٹرا" (پتھرا) اور مورخ جوزفینس دیوسف (یہودی ارض کہف الریم)
 لکھتا ہے اس کو ایک طرف خاککنے سولیں (ابابنا) مصر سے ملاتی (اباب) پٹرا کرتی ہے)

اور دوسری جانب شرق وہ تجارتی راستہ تھا۔ جو ارض حجاز سے شام کو جاتا ہے اس قطعہ زمین کو جزیرہ نمائینیا بھی کہتے ہیں۔ اور عرب "الجزیرہ" بھی کہتے ہیں۔

ہمارا مقصد تاریخی واقعات بیان کرنا نہیں ہے۔ غرض ان نتائج سے جو ان واقعات سے پیدا ہوئے۔ اس لئے ان نتائج کی وضاحت کے لئے ان تاریخی واقعات کا حوالہ ناگزیر امر ہے جن کی تفصیل ان کتب میں ملے گی۔ جن کی فہرست ہم نے اس کتاب کے شروع میں دی ہے۔

آنحضرت کی ولادت سے پیشتر دونوں حریف طاقتیں ایرانی اور رومی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلی ہوئی تھیں۔ ان میں خونریز جنگ صدیوں سے جاری تھی اور میدان جنگ عموماً وہ ممالک تھے جہاں ہم سامیہ قدیم الایام سے آباد تھیں۔ یہ ممالک ویدئے تیل، دجلہ اور فرات سے محدود تھے۔ ارض شام اور مصر اور عراق اور عرب جس کو الجزیرہ کہتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب کا وہ حصہ جہاں ان حریف طاقتوں کا قدم نامبارک نہیں گیا وہی تھا جہاں ان کو کوئی دنیوی فائدہ نظر نہ آتا تھا۔ کسی ایک دن وہ یوں ملک گیری نے اس طرف توجہ دلائی مگر نہ صان جان و مال کے بعد تلخ تجربہ سے فائدہ اٹھایا۔ قیصر رومی بہت سا لاؤشکر لے کر ارض حجاز کی تسخیر کے لئے بڑھا لیکن پہلی ہی منزل پر حملہ حسد و حسرت ہو گئے۔ ان ایام میں رومیوں کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ کھٹان لی تھی کہ کل کر حجاز کو زیر نگین رکھ کر دم لیں گے۔ اس لئے قیصر جو اسی ارادہ سے نکلا تھا حیران تھا کہ کیا کرے۔ نہ جلسے رفتن نہ پالے ماڈن، "ناصل لیسان نے اپنی کتاب "مذہب عرب" میں عربی مؤرخین کے حوالے سے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ عرب قبائلی سرداروں کا ایک وفد عین اس پریشان حالی میں قیصر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کچھ تحائف جو ساتھ لائے تھے پیش کرنے ہوئے کہا کہ آپ عرب کی تسخیر کا خیال ترک کر دیں۔ یہاں رکھا ہی کیلئے یہی کھجوروں کے جھنڈا اور خار بنیلاں۔ ریگستانی میدان جہاں بادِ سموم میں زندگی ناممکن ہے ہم نے مانا کہ آپ غالب طاقت سے ہماری بستیوں کو نجات کریں گے وہاں آپ کو ایسی کوئی شے نہیں ملے گی جو آپ کے کام کی ہو۔ ہم نے مانا۔ کہ آپ ہمارے

جو انہوں کو امیر کر کے غلام بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہ صحرائنشین آپ کے تمدن سے نا آشنا ہیں وہ وحشی انسانوں کی طرح ہیں۔ وحشی حیوانوں کو آپ رام کر سکتے ہیں لیکن جو انسان عرب کو نہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ تنگ آکر وہ یا خودکشی کریں گے یا تمہیں چین سے بیٹھے نہ دیں گے۔ اس لئے آپ انہیں قتل کرنے میں اپنی خلعی سمجھیں گے۔ اس ہمہ کا کیا فائدہ ہو سراسر درد سر ثابت ہوگی۔ قیصر نے مناسب سمجھا اور تحالف لے کر لوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اول تو عرب کی تسخیر ہی ممکن نہیں اگر کچھ حصے کو مستخر کر لیا تو یہاں رومی سپاہیوں کی رہائش بلا استقلال ممکن نہیں۔ عرب ان کو کبھی چین سے بیٹھے نہ دیں گے۔ اس لئے "دوسرے کتبہ"

جزیرہ نما سینا چونکہ مصر اور شام کے درمیان پڑتا ہے۔ اس لئے اس پر رومیوں کا قبضہ دونوں ممالک کے درمیان ربط و ضبط قائم رکھنے کے لئے ناگزیر تھا۔ شام اور جزیرہ نما عرب کے اس حصہ میں عربی یا تو بدویانہ زندگی میں آزادی محسوس کرتے تھے یا حکومت کا مذہب مسیحیت اختیار کر چکے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں۔ ان میں سے عراق میں "میرہ" اور شام میں "مغوسان" کی طوائف الملوک مشہور ہے۔ عربی قبائل جو عرب اور شام کی حدود پر آباد تھے، اکثر مسیحیت کے عقو میں آچکے تھے۔ آنحضرت کے سفیر جب رومی سرحد پر ماے گئے تو انتقام کے لئے ایک ہمہ سبر کر دگی "زید" روانہ کی گئی۔ اسلامی لشکر "مغان" تک بڑھتا گیا، اس جگہ پر یہ لگا کہ "ہرقل" ایک لاکھ عرب مستنصرہ کے ساتھ مقابلہ کے لئے آ رہا ہے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسیحیت کی اشاعت عربی قبائل میں کس حد تک ہو چکی تھی۔

میں تو عرصہ تک مسیحی حکومت کے تحت رہا۔ اس سال جب آنحضرت کی ولادت ہوئی۔ اربعہ آشرم مسیحی بادشاہ مین نے ہاتھیوں کے ساتھ خاص کلمہ پر حملہ کیا تھا۔

ان حالات میں جب کہ شمال مغرب یعنی شام اور جزیرہ نما سینا اور مصر پر

رومی قابض ہو چکے تھے۔ اور شمال مشرق اور جنوب عرب میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ جس میں الجزیرہ سے یمن تک ایرانی حکومت اور تہذیب و تمدن کا اثر تھا جب عرب من حیث القوم آنحضرت اور خلافت راشدہ میں اٹھے تو دونوں ہمایہ غاصب سلطنتوں سے تصادم ناگزیر امر تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ہم بیان کر چکے ہیں کہ قومیں عروج و زوال کے مراتب طے کرنے کے بعد ختم ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن عالم انسانی بہ بیہیت مجموعی ترقی کرتا چلا آ رہا ہے ہر ایک قوم کسی خاص نصب العین کو لے کر اٹھی۔ جو اس کا مقصد حیات تھا۔ لیکن یہ مقصد حیات ہمیشہ کسی ممتاز اور واحد شخصیت کا تصور ہوتا ہے۔ اور اس مقصد کی تکمیل بھی اسی قوم کے ذریعہ ممکن ہے جو اس کو امت واحدہ بناتا ہے جس میں کوئی اختلاف کوئی تفرقہ نہیں ہوتا اور تمام قوم ایک بنیان مرصوص کی صورت ہوتی ہے جس میں رخنہ اندازی کوئی مخالف قوت اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک یہ مقصد اس قوم کا ریح حیات ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا عالم اضداد ہے اگر بیرونی مخالف قوتیں ٹھک کر رہ جاتی ہیں تو اندرونی خرنشوں سے قوم کی وحدت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

”در عالم اضداد چہ اندیشہ صلح است با خود نتوان ساخت اگر جنگ نکرے
 مادہ حیات میں موت کا سامان موجود ہوتا ہے اور بیچ تو یہ ہے کہ موت و حیات
 جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں ایک ہی قوت کی دو صورتیں ہیں جن کا اظہار مناسب ریحی تاثرات
 کے تحت ہوتا رہتا ہے۔ موت سے حیات اور حیات سے موت کی صورت کا مشاہدہ ہر دور ہلہلے ہے۔“

یونانی اٹھے تو انہوں نے سکندر اعظم کی قیادت میں متمدن دنیا کو روند ڈالا۔ یہ
 آخر گوشہ گنہگار میں بھیج دیا ہے اس قوم نے عالم انسانی کو کیا دیا۔ فلسفہ اور آرٹ بھی
 ان کے جانشین ہوئے اور یونانی شہنشاہیت کے ساتھ یونانی فلسفہ اور آرٹ کے
 بھی وارث ہوئے۔ انہوں نے عالم انسانی کو "قوانین" کا سبق دیا۔ سچ بھی "رومن لاء"
 اقوام یورپ میں ایک مقدس "دراخت" ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی
 نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ جب غالب اور مغلوب اقوام میں سیاسی رابطہ قائم ہوا اور
 تصادم کے بعد ناگزیر امر تھا کہ ایسا ہو تو مغلوب قوم میں بھی وہ خوب پیدا ہوئی
 جو غالب قوم کی امتیازی خوبی تھی۔ اور اس طرح مغلوب کو ابھرنے کا موقع ملا۔ غالب
 قوم کا تختہ الٹ دیا۔ قوموں کی ذہنی اور مادی ترقی کا راز ہی "جنگ" میں مصنر
 ہے جو آفرینش سے عالم انسانی کو نثار عہد لبقا کے لئے پیش آتا رہا۔ قرآن عظیم
 کی اس آیت میں ایک عظیم الشان صداقت ہے۔ کہ جب ملائکہ کے بعد آدم کو خلافت
 ملی تو ملائکہ نے کہا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُعْبِدُنِي مِن دُونِي
 اللہ ماہر و محقق نسبح بحمدك و نقرب
 لك

کیا تو زمین میں ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا رہا
 ہے جو اس میں مشاہدہ پا کرے گا۔ اور خودی نہیں
 کرے گا ہم میں کہ تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں
 اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں

ارشاد ہوا کہ "انی اعلم ما لا تعلمون" اس حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں تم نہیں جانتے
 جس نصب العین کے ساتھ کسی قوم کا عروج ہوا وہ تاریخی زمانہ میں ایک بہتول
 کی صورت میں پہلے ہی منسلک ہوتا رہا۔ اور ایسی ہی تحریریں قوموں کی مذہبی کتب سے مرسوم
 ہیں۔ توراہ۔ اور صحف انبیاء اور انجیل اور تہذیب و تمدن اور دیگر غیر ہم ایسی ہی کتب ہیں ہم
 ہم اسلام کی تواریخ بیان کر رہے ہیں اس لئے ان کی کتاب قرآن عظیم ہر دست ہماری
 بحث کا موضوع ہے۔

الاسلام | فاضل یہاں نے اپنی کتاب "تمدن عرب" میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ

آنحضرت کوئی نیا مذہب نہیں لائے! لیکن وہ اور دیگر محققین یورپ یہ نہ سمجھ سکے کہ آنحضرت کس دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ آیا یہ کوئی نیا مذہب تھا یا کسی شخصیت کا کسی معلوم یا نامعلوم زمانہ میں پرانا تصور تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ آنحضرت کوئی نیا مذہب نہیں لائے لیکن اس کے ساتھ ہی ہر ایک مذہب کا انکار کر دیا جو قوموں کا خود ساختہ تھا۔ ایسے مذاہب جو قوموں میں فرقہ بندی اور فتنہ انگیز فرقہ کے موجب تھے اور میں آنحضرت نے باطل قرار دیئے۔ اور ایک دین ہمیشہ کیا جس کو "دین اللہ اور دین الحق" سے تعبیر فرمایا۔ یہ دین نہ صرف عالم انسانی کا ہے بلکہ کل کائنات سموات الارض و ما بینہما کا ہے۔

الو اسلم من فی السموات
والارض طوعاً وکرہاً والیہ
یرجعون (۱)

اسی کے حضور تسلیم ختم کرتے ہیں جو کچھ
بھی آسمانوں اور زمین میں ہے طوعاً وکرہاً۔
اور اسی کی طرف ہر ایک امر کا رجوع ہے؛

آنحضرت نے یہود و نصاریٰ کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اس دین الحق کی تکالیف کو رکھ دیا اور ایک دوسرے کی نسبت کہتے ہو کہ تم اور تمہارا مذہب باطل ہے اور یہ سب کچھ خود ساختہ عقائد کی بنا پر کہتے ہو۔ دین ایک ہی ہے اور یہ انسانی اختراع نہیں، تمام انبیاء اور رسل اسی کی تبلیغ کرتے آئے۔ اور یہ دین الحق اسلام ہے جس سے تمام کائنات کا نظم و نسق قائم ہے یہود نے اس دین کو اپنی توہمیت سے اور نصاریٰ نے ایک بشری شخصیت عیسیٰ ابن مریم سے وابستہ کر کے ایسے مذاہب کا شاخسانہ کھڑا کر دیا جو سرے سے اس دین اللہ کے منافی ہے۔ کسی نبی کسی رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے نام سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیا اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد تمہیں کفر کی باتیں سکھائے۔

مخرج الفاظ میں ارشاد قرآن ہے کہ :-

وما یرسلنا من رسول الا قد خلنا من
قبلہ ما یرسلنا اولیٰ اٰیۃم
ہیں جو سب نوت ہو گئے (تو کیا یہ اپنی طبعی موت سے مراد ہے)

علی اعقابکم ومن ینقلب
 علی عقبیہ فلن یرضی اللہ
 شیاً وسیجنی اللہ الشکورین
 (۴)

جو تعیناً امر ہے، یا مارا جائے (جس کا مکان ہے) تو تم
 دین اللہ سے روگردان ہو کر اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے تم میں
 سے جو بھی پھر جائے گا وہ دین اللہ کا تو کچھ لگاڑ نہیں سکتا
 جو کسی کی موت و حیات سے دلہتہ نہیں البتہ خود ہی حصار
 میں رہے گا اور جو بھی اس دین سے دلہتہ ہے گا تو اللہ شکر گزار
 بندوں کو جلد ہی نوازے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہر ایک شے کی فطرت میں دو لوت ہے کسی شخصیت من دون اللہ
 سے دلہتہ نہیں۔ آنحضرت اور آنحضرت سے پیشتر تمام انبیاء و رسل کی شخصیت کے لیے نیاز
 ہے ان نفوس قدسیہ پر اس کا انکشاف ہوا اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو اس سے آگاہ کیا
 سب انبیاء و رسل فوت ہو گئے۔ اور یہ اسی طرح کائنات میں سرگرم عمل آفرینش سے ہے
 جیسا ان انبیاء کی ولادت سے پہلے تھا اور موت کے بعد ہے۔

اس دین کو سائن قرآن میں "الاسلام" سے موسوم کیا گیا ہے یہ ایک مستقل موضوع
 ہے۔ ان ادراک میں اس پر تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں۔ ہم نے اپنے مقالات میں اس پر
 علیحدہ بحث کی ہے اس مقام پر ہم صرف چند اشارات پر اکتفا کرتے ہیں تاہم کرام
 مفصل بحث ہمارے دوسرے مقالات میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

القرآن | قرآن اپنی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کرتا ہے :-

ماکان هذا القرآن ان یفتی
 من دون اللہ و لکن تصدیق
 الذی بین یدیه و تفصیل الکتب
 لاہیب فیہ من رب العلمین
 (۵)

یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مصنف ہو (منکرین کا
 خیال کہ یہ بشری کلام ہے باطل ہے) لیکن اس میں وہی امور
 کا تذکرہ ہے ایک تصدیق اس امر کی جو اللہ کی طرف سے نازل
 ہوا تاہم جو ان کی کتب مقدسہ میں مذکور ہے اور دوسرا
 کتاب کائنات یا صحیفہ فطرت کی تفصیل اور کتاب فطرت
 وہ ہے جس کی تعریف ہے (لاہیب فیہ جس میں کچھ لپٹنیں اور
 لپٹنیں کی وجہ سے شک شبہ نہیں) تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

سودہ فاتحہ کے بعد قرآن کے شروع میں اسی اہل معیار صدقات کو جو صحیح معنی میں کتاب ہے اور جس سے تمام کتب مقدسہ وغیرہ مقدسہ کے علوم ماخوذ ہیں پیش کیا گیا ہے۔

”الم ذالک الکتاب وہ کتاب فطرت جس کی تعریف ہے لاریب فیہ لاریب فیہ“ (۱) جس میں کچھ الجھن نہیں ہے) جس طرح قرآن خود توراہ وغیرہ نہیں ہے لیکن ان کا مصدق ہے۔ اسی طرح خود الکتاب نہیں۔ اس کی تفصیل اور بیان ہے۔ حسب ذیل آیات میں تدبیر سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔

”الم تنزل الکتاب لاریب فیہ“ (۲) کتاب کائنات اور اس کی تفصیل یہ قرآن (تمام من رب العظیمین“ (۳) جنوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے اور کتاب کی تعریف ہے لاریب فیہ

”تذک ایت للکتب وقرآن مبین“ (۴) وہ آیات ہیں کتاب کائنات، بین اور قرآن کی ”الکر، تذک ایت القرآن وکتاب مبین“ (۵) وہ آیات ہیں قرآن اور کتاب بین کی ”الکر، تذک ایت الکتاب مبین“ (۶) ارادہ آیات ہیں کتاب بین کی جن کی ترجمانی عربی زبان انا نزلنا قرآنا عربیاً (۷) میں غیر ذی عوج میں نازل فرمائی۔

”ہرآن کورا کہ جانش در تجلی است ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است“ کتاب کائنات مصدور تصویر پیری حروف میں لکھی گئی ہے اس فطری زبان سے جو نفوس قدسیہ سمجھتے ہیں وہ اس کتاب کے معانی اور حقائق سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ کی نسبت ارشاد ہے کہ

۱۔ قرآن کے ساتھ اشارہ قریب ”هذا“ استعمال ہوا ہے۔ اشارہ بعید ”هذا“ جس کا مخفف ”ذاک“ ہے۔ بعید تراشاہ کے لئے لفظ ”ذالک“ ہے اس کا مؤنث ”تک“ ہے۔ لفظ ذالک اور مؤنث تک عظمت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور عظمت والی شے دور تر بھی ہوتی ہے جو ہر کس و ناکس کی دسترس سے باہر ہو۔ لاریبہ الا المطہرون“ (۸)

”یسلمہ الکتب والحکمة اللہ اس کو صحیفہ نظرت اور اس کی حکمت اور توراہ
والتورۃ والانبیاء“ اور انجیل (جو اسی کی ترجمانی ہے) سکھائے گا۔

صحیفہ نظرت کتاب مبین ہے ”کتب ینطق بالحق“ جو کچھ بیان کرتی ہے حق ہے
اور یہی ہر ایک وحی، ہر ایک الہام، ہر ایک لفظ کا سرچشمہ ہے۔ ”واقلم ما وحی
الیك من الکتب“ اور تلاوت کر (قرآن) جو تیری طرف الکتب سے وحی
ہوتا ہے۔

تمام کتب مقدسہ سابقہ اور قرآن میں ”ریب“ کی گنجائش ہے اور کفار و مشرکین
کو اس میں الجہن رہی ہے اور ہے۔

”وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا“ (۱۱) بندے پر نازل فرمایا۔
اور اگر تم کو اس قرآن میں ریب ہے جو ہم نے اپنے

لیکن کتاب کائنات کا کوئی دوسرا بھی منکر نہیں۔ جو سرے سے خدا کا منکر ہے اس
کا منکر اپنے حواس و اپنی عقل و دہوش کا منکر ہے ان سب علوم کا منکر ہے جو اس سے
ماخوذ ہیں۔ ایسے بطل پرست کا قول بھی باطل ہے: ”ان باطل سخن حق کہ باورداد اس
نے اس واحد معیار صداقت پر قرآن نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ

اقل یتدیرون القرآن، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ
کلام ہوتا تو اس میں (اور کتاب کائنات میں) اختلاف
اختلاف کثیرا“ (۱۲) کثیر پائے!

”ہیریٹ سپنسر“ لکھتا ہے کہ انسانی کام اور کلام میں اختلاف کثیر و اجوب ہے
اول تو ایک ہی زمانہ کے حکماء کے نظریوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اگر یہ ممکن سمجھی ہو کہ
سب کا اتفاق کسی ایک امر پر ہوتا تو ناممکن ہے کہ خلف سلف سے اختلاف نہ کرے اگر یہ
ہو تو ذہنی ارتقارک جائے گا۔ جن قوموں پر ذہنی جمود چھا جاتا ہے وہ پرانی کبیر بیٹے
ہیں اور ریور سوپریمٹ جاتی ہیں۔

آیات محولہ بالا سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں ہوگی جس کی

اس سے اختلاف ہو۔ البتہ اس کی تصدیق ہر ایک زمانہ میں اہل علم و حکمت کرتے رہیں گے یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن کتاب احکام توراہ کی طرح نہیں ہے کتاب اصول احکام تھے اصول نظری ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بدلتے احکام حالات کے تابع ہوتے ہیں اور حالات خارجی غیر محدود اور ہمیشہ بدلتے ہیں۔ انہی کے مناسب احکام میں بھی ترمیم و تیسخ واجب ہے جو قوم اپنی ذہنیت کو خارجی حالات کے مناسب نہیں بدلتی حسب فتویٰ قرآن پیر سوپریمٹ جاتی ہے اس کتاب میں قوموں کے تمثیل اور ہلاکت کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔

آن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
 ما بالقسمہ، واذا اراد الله بقوم
 موع فلا مرد له وما لهم من
 وال (۳۱)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی ذہنیت کو خارجی حالات کے مناسب نہیں بدلتی اور جب باوجود ابتداء غلاب کے نہیں بدلتی تم اس قوم کے برے دن آجاتے ہیں جو مالے سے نہیں ٹلتے۔

البتہ اگر متنبہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کے سوا اور کوئی کارساز بھی نہیں۔

احکام کا وضع کرنا "شوری" کے عقل و فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے جہاں اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جن کی جامع و ملحق کتاب قرآن ہے امر و نہی کا لفاظ خارجی حالات کے مناسب کرتا ہے۔

اسی طرح قرآن کتاب علوم نہیں جو ذہنی ارتقا کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن قرآن اس کتاب کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔

وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا هُنَّ فِي ذَٰلِكَ مِنْ نِعْمَةٍ لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ہیں اہل فکر کے لئے

ایک اور خاص بات جو قرآن نے اہل قرآن کے دل نشیں کی یہ ہے کہ حق حکومت کل کائنات پر ایک ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کا ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کی

تخلیق کا مقصد بھی اسی کا مقرر کردہ ہے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہر ایک شے کی رُبُوبیت بھی فرماتا ہے۔

آلہ الخلق والاحرار، تبارک اللہ
 اچھی طرح دل نشین کر لو کہ پیدا کرنا اور پیدا کرنا
 مقصد مقرر کرنا اسی اللہ کا کام ہے جو بہت بركت والا
 رب العالمین ہے۔

ہر ایک مخلوق اللہ کی عبادت ہے اور عبودیت اور عبدیت "بندوں کی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے جو شخص مخلوق کا بندہ بنتا ہے، مشرک است آن فضول ناہنجار"

بیدل حصول رزق آئادہ بسیر سگ چاکر سگ نکت و خزندہ خز
 از کسرتات کار گاہ امکان از این تنگ شعور نیست جز صانع بشر
 دوسری خاص بات جو بطور پیش گوئی قرآن نے واضح الفاظ میں فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم اور حکومت ازلی وابدی ہے اور انسان نے جو حکومتیں اختراع کی ہیں سب مٹ جائیں گی یہ بلندی دستی اور اعلیٰ داد نے کا اختیار جو بندگان ہوا ہوس نے پیدا کر رکھا ہے جو ہو جائے گا یہ جبال جو آسمان سے پائیں کرتے ہیں اور یہ پست زمین متصادم ہوں گی۔ پستی میں حرکت پیدا ہوگی اور جبال کو ٹوڑ پھوڑ کر خاک کے برابر کر دے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسانی ذہنی ارتقاء اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ کہ کتب کے رُکے پختہ مغز بڑے پور حصول کی سعی علم و حکمت میں پائیں کریں گے جب آسمانوں کے پوشیدہ امکانات منکشف ہو جائیں گے

یوما یجعل الولدان شیئاً السما منقطرہ کان وعملہ مفعولاً (۲۹)

یہ اشارات جن کی تفصیل ہم نے اپنے مقالات میں بیان کی ہے ہم تفہیم کے لئے جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے کافی ہیں یہ وہ نصب العین ہے۔ وہ مقصد حیات ہے جس کو آنحضرت نے عالم انسانی کے سامنے رکھا جن شاء اتخذ الی دینہ سبیلاً ہر ایک شخص کو اختیار ہے اگر چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے

”لا اکر فی الدین قد تبین المشرق من المغرب“ ”دین میں کوئی جبر و تشدد نہ ہوگا“

ہرگز خواہد گویا وہ ہرگز خواہد گوید کہ گیر و یار و صاحب و دربار دریں رگاہ بیت
اس کے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ وہ ”قوت فکریہ“ جس کو سچ تک باہمی جنگ و جدل میں
صاف کرتے رہے ہو تسخیر کائنات پر استعمال کر دے یہ ہے اعلیٰ مقصد حیات انسانی۔

”سار عوالی مغفرة من ربک و الجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین“ (۲۴)

ادنی زندگی حیوۃ الدنیا کے ادنی مفاد پر کیا لڑنے جھگڑتے
موتے ہو جو متاع قلیل ہے، بڑھ کر لو اللہ کی بخشش اور
اس جنت کو جس کا عرض تمام کائنات سموت والارض
اور جو پرہیزگاروں کو بہت بادل کے لئے تیار کی گئی ہے
اس مقصد کی تبلیغ کے لئے ایک منتخب جماعت کی ضرورت تھی۔ جس کا کام
مناسب اسباب کے ساتھ ہی سرانجام پاتا ہے و وضع جہاں کی افتاد ہی ایسی ہے چنانچہ
ارشاد قرآن ہے کہ

ولکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرہن بالمعروف و ینہون
عن المنکر و اولئک ہم المفلحون (۲۵)

تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور نیک
دعوت دے ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے
چنانچہ ایسی جماعت تیار کی گئی جن کی نسبت ارشاد ہے کہ
کنتم خیر امة اخرجت للناس
تامرہن بالمعروف و تنہون عن
المنکر و یؤمنون باللہ“
لئے ہو۔

لیکن یہ جماعت بسہولت تیار نہیں ہوئی اس کو کس ابتلا سے گزرنا پڑا اور تمیس پر
کن مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ اور شہر و دیار ترک کر کے ہجرت کی ایسے تاریخی واقعات پر
جن کی تفصیل اپنی کتب میں ملاحظہ ہو جن کا نام شروع کتاب میں درج کر چکے ہیں۔ ہر
ایک تحریک کی صداقت کا اندازہ اس کی قوت مدافعت سے ہو سکتا ہے غالباً
دنیا میں ایک دین ہی اسلام ہے جس پر ہر طرف سے یورش ہوتی رہی اور وہی ہے

لیکن اس کا قدم آگے ہی بڑھنا گیا اور بڑھ رہا ہے۔ اور مقدر ہو چکا ہے کہ کسی وقت تمام عالم انسانی کو اپنی آغوش میں لے لے گا۔ یہ اُمت آنحضرت کے زیر نگرانی تیار ہوئی اور اسی نے اس مقصد کو عالم انسانی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ جو ان کے دلوں پر نقش ہو چکا تھا۔ لیکن ان تزلزل کے خارجی حالات اس امر کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس پیغام حق کو تو میں ٹھنڈے دل سے سنیں گی جب آنحضرت نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور ایک جماعت نے آپ کا ساتھ دیا تو ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ کفار و مشرکین عرب جن میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی شامل تھے اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور مسلمان ایک حالت یاس میں نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کریں تو کیا کریں، ارشاد الہی ہوا کہ

قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
فان تولوا فانا علیہ ما حمل
وعلیکم ما حملت، وان تطیعوه
تتقوا، وما علی الرسول الا البلاغ
البلین، وعد اللہ الذین امنوا منکم
و عملوا الصالحات یتخلفنہم فی
الارض ما استخلف الذین من
قبلہم ولیمکن لہم وبتیمہ
الذی ارتضیٰ لہم ولعیب لہم
من بعد خودہم امن لعیب و
نفسی لا یشرکون بی شیا سوا من
کفر بعد ذلک فاو لئک ہم الفتنون

انہیں کہ ویکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر روگردانی کرو گے تو ہر ایک شخص کی روگردانی کا خیاز اس کی اپنی ذات تک محدود ہے اور اگر اطاعت کرو گے تو سیدھے رہتے پر آباد گے اور رسول کا کام تو علی الاعلان پیغام حق پہنچا دینا ہے اور اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور ایمان کے متاسب ان کے عمل صالح ہیں ان کو ضرور زمین میں خلافت ہی طرح عطا ہوگی جس طرح ان کے پہلوں کو ملی اور یہ دین اسلام جو ان کے لئے پسند کیا گیا ہے قائم ہو جائے گا اور موجود خون جو ان پر طاری ہے ان سے بدل جائے گا وہ پیری ہی عبادت خالص بلا شریک کریں گے اس کے بعد جس نے شریک کیا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔


ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اصل مقصد تمکین دین ہے جو یہ تقاضائی حالات خلافت کے ذریعہ ہی تکمیل یا سکتا تھا۔ اور یہ تکمیل بحالت امن ہی ممکن ہے اور خلافت

کے ذریعہ میں اور تمکین و تبلیغ و اشاعت دین ہی اصل مقصد میں امت کے مد نظر تھا۔ یہ امت یا جماعت آنحضرتؐ کی اپنی قوم تھی جس میں اس قبیلہ کا زیادہ تر حصہ تھا، اس سے آنحضرتؐ کی شخصیت وابستہ تھی۔ چونکہ قریش نے آگے چل کر اس مقصد کی تکمیل کرنی تھی اس لئے آنحضرتؐ نے کل قوم کو بالعموم اور اہل قریش کو بالخصوص متنبہ کر دیا تھا کہ خلافت تو تمہیں تمکین دین کے لئے ضرور عطا ہوگی لیکن "چوں بددلت برسوی ست نہ گردی مروی" فتح مکہ کے بعد قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

"اے جماعت قریش بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایام جاہلیت کی نخوت اور آبادی اور پر خمر کرنا لے لیا، کل عالم انسانی آدم کی اولاد ہے اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تم کو نرود مادہ سے پیدا کیا اور تمہاری گوتیں اور ذاتیں بنا میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بیشک اللہ کے نزدیک تقیے میں جو شخص زیادہ ہے وہی زیادہ معزز ہے۔" آنحضرتؐ کی آخری وصیت یہ تھی :-

"جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی میں بھی تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں میں اللہ ہی کو تمہارا نگہبان چھوڑتا ہوں اور تمہیں اس کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک میں تم کو عذاب دوزخ سے ڈرانے والا اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والا ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ ملک خدا اور بندگان خدا میں برتری اختیار نہ کر دو کیونکہ اللہ نے مجھے اور تمہیں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ جاہ آخرت ان لوگوں کے لئے ہے جو ملک خدا میں نہ تو برتری کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ مساوی کا اور آخرت اہل تقویٰ کے لئے ہے اور کیا نہیں ہے

مکناہ جہنم غرور والوں کا؟



خلافتِ راشدہ

اہل عرب قریش کی قیادت میں اس مقصد کی تکمیل کے لئے اٹھے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں کہ عرب کے شمال کی طرف رومی اور مشرق اور جنوب کی جانب ایرانی بڑھ کر اپنی شہنشاہیت کو وسعت دے رہے تھے۔ اور کئی عربی قبائل ان کے زیر اثر آچکے تھے۔ اگر اہل عرب کا مقصد اشاعتِ دین نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ حق بجانب تھے کہ اہم سامیہ کو اخیار کے پنجے استبداد سے نجات دلائیں، لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ان کی غرض ہوس ملک گیری نہ تھی۔ البتہ اشاعتِ دین کا مقصد یہ ضرور تھا کہ ملک خدا اور بندگانِ خدا میں ہر قسم کی حکومت ختم کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی حکومت جو الہی وابدی ہے قائم کر دی جائے، اور عالمگیر حریت و مساوات دین و نفاق کا دور دورہ ہو۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "اپنی تلواریں قیصر و کسریٰ کی طرف سیدھی کر دو اور ان کے خزانے ان پر تقسیم کر دو جن کے خون سے یہ معمور ہیں۔"

اہل عرب مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ آنحضرت کی زندگی میں ہو چکا تھا کہ ان کو ایسی ہی خلافت عطا ہوگی جیسی پہلی قوموں کو دی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کن ممالک پر ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ شام اور مصر اور عراق ہیں ان کے علاوہ ایران کا بھی تذکرہ ہے جہاں اہل عرب بطور جہان کچھ عرصہ رہیں گے یہ ظاہر ہے کہ شام و مصر و عراق اور عرب میں اہم سامیہ ہی آباد تھیں اور ان ممالک میں امن اور آزادی کے ساتھ رہائش رکھنا ان ہی کا حق تھا۔ رومی اور ایرانی غاصب تھے اس لئے یہ ضرور تھا اور اس کے سوا چارہ کار بھی نہ تھا کہ ان دو حریف طاقتوں کو

ان ممالک سے بزرگ شمشیر نکالا جائے ان قوموں سے جنگ ناگزیر امر تھا اور قرآن

عَلَّ - ارض شام پر حضرت موسیٰ کے وقت سے ذریت ابرہیم بنی اسرائیل قابض تھے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لائے اور کہا کہ اس ملک ارضِ فلسطین کا وعدہ تھا کہ سے اباؤ اجداد ابرہیم واسحق و یعقوب سے خداوند خدا فرما چکا ہے کہ تمہاری ذریت کو ہمیشہ کے لئے دوں گا۔ اب آگے بڑھو اور اسے لے لو۔ یہ وعدہ حضرت موسیٰ کے اسفار میں مفصل مذکور ہے۔ پانچویں کتاب التثانی (۱۸) میں اس زمین اور زمین مصر کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ مصر میں زرعی پیداوار کا انحصار نیل پر ہے اور وہاں محنت و مشقت سے زنی حاصل کئی ہوتی ہے۔ لیکن زمین شام میں پہاڑیاں اور سرسبز وادی زنی، نالے، چشمے ہیں، اس میں گندم اور جو جو اور انگور اور انجیر اور انار (عربی زبان اور عبرانی زبان) اور دوسرے پھلوں والے درخت ہیں۔ یہاں زمینوں کی کثرت ہے اور دودھ اور شہد موج ملنے ہیں۔ اے بنی اسرائیل تو یہاں مہنگی روٹی نہیں کھائے گا اور کسی شے کی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ وہ زمین ہے جس کے پتھر لوہا ہیں اور اس کی پہاڑیوں میں پتیل کی کانیں ہیں۔

قرآن میں بھی مسلمانوں سے وعدہ ہوا کہ ان کو ایسی زمین دی جائے گی

ان لهم جنت تجری من
تحتها الانهار، كلما سرفوا منها من
ثم سرفوا قالوا "۱۰"

سندخلهم جنت تجری
من تحتها الانهار خلدین
فیہا ابدان" (۱۰)

وعد الله حقاً ومن اصدق
من الله قليلاً" (۱۱)

وعدا علیہ حقاً فی التوراة
والانجیل والقرآن (۱۱)

راہل ایمان اور نیکو کار لوگوں کو بشارت دے کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں ہر ایک وقت جب ان کو رزق دیا جائے گا تو کہیں گے۔

قرب تر زمانہ میں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ کا سچا اور کون ہے۔

اس پر سچا وعدہ ہے جو توراہ انجیل اور قرآن میں کیا گیا ہے۔

میں اس کے متعلق بطور پیش گوئی بتایا گیا تھا۔

ان قوموں کے حق میں جن کو بنی اسرائیل نے بیدخل کیا ارشاد ہے کہ

فاجرا جہنم من جنت پس نکالائیم نے ان کو باغات اور چشموں والی زمین
اعیون، و کفونر و العام سے اور بیدخل کیا خزانوں اور عزت والی مقام سے
کیم، كذلك و اور تنہا یہی سلوک ہم بد اعمالوں سے کرتے ہیں اور ان کا اشار
بنی اسرائیل" (۱۹)

فلک الجنة التي اور تنہا جہنم کے ساتھ وعدہ پورا ہوا ان کو کہا گیا کہ وہ جنت
بما کنتم تعملون لکم فیہا یہی ہے جس کا وارث تم کو تمہارے نیک اعمال کی
فاکھة کثیرہ منہا تاكلون" وجہ سے کیا گیا تمہارے لئے اس میں میوے ہیں جو
تم کھاتے ہو۔ (۲۵)

قرآن میں شام کے باغات وغیرہ کے علاوہ دو اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں "عدن"
اور "قرودس"۔ عراق کے آثار قدیمہ سے جو کتبے برآمد ہوئے ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس ملک میں قدیم زمانہ میں "سامری" قوم آباد تھی یہ کون تھے اس کے متعلق محققین کا
اختلاف ہے اور یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ انہی کی زبان کا ایک لفظ "عدن" ہے
جس سے وہ بائبل میں اپنی علاقہ تعبیر کرتے ہیں۔ اسی باغ عدن کا ذکر توراہ میں تخلیق آدم کے
ضمن میں کیا گیا ہے ان ایام میں یہ چار دریاؤں سے میراب ہوتا، دجلہ اور فرات اب یہی موجود ہیں
"قرودس" خالص پارسی لفظ ہے اور پارسیوں کی مقدس کتاب "زندیداد" میں استعمال ہوا
ہے اس سے سبزہ زار زمین اور خیابان شاہان فارسی مراد ہیں۔ اصل پارسی لفظ "پیرازیدہ" ہے
یہاں سے یونان میں یہ لفظ گیا تو پیراڈس و *paradise* ہو گیا۔ عبرانی اور عربی میں
اس کو قرودس سے موسوم کیا گیا۔

جب ذیل آیات میں تدبیر کرنا چاہیے :-

ان الذین امنوا وعملوا الصالحات ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اہل ایمان

قل للمخلفين من الاعراب اغراب میں سے ان لوگوں کو چھپے بلکہ چھپے کہ تم کو
 استدعون الی قوم اولی باس قریب تر زمانہ میں ایک سخت جنگجو قوم کے مقابلہ میں بلایا
 شدیداً، تاکونہم اوسلمون ۲۶ چلے گئے گا تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے
 ان آیات کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایک غزوہ میں شریک نہ ہوئے مسلمان اس
 وقت کمزور تھے ان لوگوں نے خیال کیا کہ شکست کھائیں گے لیکن جب آنحضرت مقررہ
 منصور لوٹے تو دوسرے غزوہ میں شرکت کے لئے تیار ہو گئے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میرے
 ساتھ تمہیں کسی غزوہ میں شرکت کی اجازت نہیں لیکن میرے بعد قریب تر زمانہ میں تمہیں
 ایک جنگ جو قوم سے محاربہ کی دعوت خلیفہ وقت کے گا ان آیات میں لفظ مسلمون استعمال ہوا

انما لنضیع اجر من احسن
 عملا، اولیٰ لهم جنت عدن
 تجری من تحتها الانهار یحیون فیہا
 من اساور من ذهب و یلبسون
 ثیابا یخضر من سندس و استبرق متکین
 فیہا علی الارحام نعم الثواب حسن ^{تلقا}
 ان الذین امنوا و عملوا الصالحات
 کانت لهم جنت الفردوس نزلا
 خلدین فیہا لا یموتون حولا (۱۶)

نیکو کار ہیں بہترین عمل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے
 لئے عدن کے باغات ہیں۔ جن کے نیچے دریا درجہ اور نریت
 بہتے ہیں ان میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے
 اور سبز لہے اور تانے کی پوشاک اور تختوں پر تکیہ لگائے
 پیچھے ہوں گے کیسا ہی اچھا ثواب ہے ان کے عمل صالح کا
 اور کیسا ہی خوب ٹھکانہ ہے فائدہ اٹھانے کا۔
 جو اہل ایمان نیکو کار ہیں ان کے لئے فردوس کے باغات
 بطور رہانی ہیں اس میں رہائش رکھتے ہوئے ان کا دل کسی
 اور جگہ نقل مکانی نہ چاہے گا۔

ان آیات میں چند لفظوں میں ایرانی تہذیب و تمدن کا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا ہے سونے
 کے زیور و نیا اور حریر کا لباس اور تخت پر تکیہ ایرانی امارت کی صحیح تصویر ہے۔ میوں کا قبضہ شام
 اور مصر پر چھ سو سال تک رہا ان کے تمدن کا نقشہ بھی سورۃ العصر میں کھینچا گیا ہے جس میں
 ایرانی نمود و نشان کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے ایرانی اور رومی آریہ نسل سے ہیں ان کا تمدن ملتا
 جلتا ہے اور یہ زیادہ پینے والے لوگ ہیں آیات میں "تعدایت نعیم و ملک کبیرا" (۱۶)

لعوی اور اصطلاحی دونوں معنیوں میں اس کا اطلاق صحیح ثابت ہوا۔

آنحضرت کی وفات کے بعد ابوبکرؓ آپ کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس مقصد کے لئے کوئی قوم اٹھتی ہے وہ ایک واحد شخصیت کا تصور ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل بھی وہی قوم کرتی ہے جس کا وہ ممتاز فرد ہوتا ہے اور اس مقصد اعلیٰ کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ جس کا مفصل تذکرہ قرآن عظیم میں ہے۔ آنحضرت قبیلہ قریش کے ممتاز فرد تھے اور آپ کے خلفاء بھی ہی قبیلہ کے ممتاز افراد تھے۔ اس کتاب میں ہم نے شجرہ نسب ان قریشی خاندانوں کا لکھ دیا ہے۔ جن کے افراد مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے۔

آنحضرتؐ اور ابوبکرؓ قریب قریب ہم عمر تھے اور لذت سے پیشتر بھی دلوں میں دوستانہ مراسم تھے۔ ابوبکر کے دل میں آنحضرتؐ کا بہت بڑا احترام تھا۔ آپ حضرتؐ کے اخلاقِ حسنة کا ہر ایک شخص مداح تھا۔ اور "ابن" کے لقب سے مشہور تھے۔ ہر ایک شخص جانتا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے۔

۲۱

تحقیق میں (دعوی رسالت سے) پہلے ایک عمر تم میں
 چالیس سال) بسر کر چکا ہوں۔ (اور تم جانتے ہو
 کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا اب اللہ
 تعالیٰ (۱) کے نام پر جھوٹ بول رہا ہوں) کچھ تو عقل سے کام لو۔

آنحضرتؐ نے جب دعوتِ اسلام اپنے قرابت وادوں اور دوستوں کو دی تو ابوبکرؓ نے فوراً بلا تذبذب قبول کی۔ آنحضرتؐ فرمایا کرتے کہ جب میں نے لوگوں کو دعوتِ اسلام دی۔ تو اکثر نے انکار کیا۔ اور جن لوگوں نے قبول کی۔ ان کو تذبذب ضرور ہوا۔ مگر ابوبکرؓ نے بلا حیل و حجت و تامل و تذبذب تصدیق رسالت کی اس لئے آپ کا لقب صدیق اکبرؓ مشہور ہو گیا۔

آنحضرتؐ کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمانوں نے دعوتِ نبوت

یہ خلافت صدیق اکبر کے شروع میں جنگ یمامہ میں مسلیمہ مارا گیا۔ اور اس کے کچھ آدمی اسیر ہو کر دارالخلافت مدینہ منورہ میں لائے گئے۔ مسلیمہ نے ایک قرآن بھی بنایا تھا۔ صدیق اکبر نے اسیران جنگ سے کہا کہ مسلیمہ کے قرآن کی کچھ آیات سناؤ۔ ان لوگوں نے سنائیں تو فوراً لاجعل پڑھتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو انسانی کلام ہے۔ صدیق اکبر کے قلب سلیم میں حق و باطل پہ کھنے کی قابلیت فطری تھی۔

ان اوراق میں ہم ان تاریخی واقعات کو قلم بند نہیں کریں گے۔ جن کی تفصیل کتب تواریخ میں موجود ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس مقصد اعلیٰ یعنی تمکین کی تکمیل اہل قریش نے کس حد تک کی۔ اور ان کے بعد جب خلافت دیگر اہم اسلامیہ میں منتقل ہوئی۔ تو انہوں نے دین کی خدمت کہاں تک کی۔

خلافت اول کے دور میں جو صرف دو سال چھ ماہ کا عرصہ ہے۔ عربی قبائل بیک وقت ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے کے لئے نکلے۔ پہلا لشکر اسامہ بن زید کے تحت رومیوں کے مقابلے میں آنحضرتؐ خود تیار کر چکے تھے۔ لیکن ابھی یہ لشکر ایک دو منزل طے کرنے پایا تھا کہ آنحضرتؐ رحلت فرما گئے۔ اس لئے یہ لشکر واپس لوٹ آیا۔ صدیق اکبر نے عمان خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا۔ کہ اسامہ کو پھر سے اسی مہم پر روانہ کیا۔ اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے چند کلمات گوش ہوش سے سنو۔ اور ان پر عمل کرنا۔ تم نے ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔ اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ثابت کرنا۔ اور کسی حالت میں رہتی اور راست بازی کو ہاتھ سے نہ دینا۔ کسی شخص کا مثلہ نہ کرنا (اس کے ہاتھ پاؤں۔ ناک کاٹ کر بد صورت نہ بنانا) بچوں۔ بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ بچل مار دہخوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور کسی سستی کو نڈھ آتش کرنا۔ تم ایسے لوگوں پر سے گزر دو گے جو اپنی خانقاہوں میں گوشہ نشین ہیں۔ ان راہبوں سے تعرض نہ کرنا۔ یہ ان جنگ گیر لوگوں

جو بھی تم سے ٹپے اس سے لڑنا۔ اور اگر مخالف فریق صلح کی طرف جھکے تو صلح بہر حال جنگ سے بہتر ہے یہ امدادی قسم کی پند و نصائح کے بعد لڑنا یا اب آگے بڑھنا اور اللہ کا نام لے کر ہر ایک کام سرانجام دینا اور صریح لشکر روانہ ہو رہا تھا۔ اور ساتھ ہی عرب کے مختلف اضلاع میں اور بحرین سے ارتداد کی متوحش خبریں آرہی تھیں۔ صدیق اکبرؓ کو مشورہ دیا گیا کہ ایسی حالت میں حیب کہ مرتدین مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں مناسب ہے کہ اس ہم کو چھوڑ کر مدینہ کے تحت روانہ ہو رہی تھی۔ التواریخ میں دکھایا جائے۔ صدیق اکبرؓ نے اتنا ہی کہا کہ جس ہم کو آغاز رسول کریمؐ نے کیا میرا دلین فرض ہے کہ اس کی تکمیل کر دوں۔ خواہ مجھے یقین ہو کہ کوئی شیر جھے مدینہ میں بھاڑ کھلے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ صدیق اکبرؓ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایرانی اور رومی اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات کو پھر سے حاصل کرنے کے لئے ریشہ دوانی عربی قبائل میں کر رہے ہیں۔ اس لئے یہ ضرور تھا کہ پیشتر اس کے کہ ان مرتدین کو ان حریف طاقتوں کی طرف سے کوئی عملی مدد ملے۔ ان کا راستہ رومی اور ایرانی فوج سے ملحق ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے۔ خوش قسمتی سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مرتدین کو متفرق امداد نہ ملی۔ اسامہؓ کی ہم کامیاب رہی۔ اور وہ جلد ہی مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آیا صدیق اکبرؓ نے اسامہؓ کو مدینہ میں چھوڑا اور آپ بذات خود اصحاب رسول اللہ کے ساتھ مرتدین کی سرکوبی کو نکلے۔ فتنہ ارتداد تھوڑے عرصہ میں ختم ہو گیا۔ اور یہ لوگ پھر سے ان غیش اسلام میں آگئے۔ جب عرب کے طویل و عرض میں امن و سکون قائم ہو گیا، تو صدیق اکبرؓ نے قبائل کو دعوتِ جہاد فی سبیل اللہ دی۔ سب قبائل اپنے اپنے سرداروں کے تحت فوج و فرج مدینہ منورہ میں جمع ہوتے رہے۔ اور صدیق اکبرؓ ان کو فوراً بیک وقت ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیتے۔

فاضل لیسان "تمدن عرب" میں لکھتا ہے کہ عرب فنونِ حرب سے جیسا کہ اس وقت ایرانی اور رومی جانتے تھے۔ واقف نہ تھے۔ وہ اتنا ہی اور اس طرح لڑنا جانتے تھے کہ میدانِ جنگ میں حریف مقابل سے دست دگریبان ہو گئے۔ مارا یا مرے۔ فرانسیسی فاضل ان ایام کے طرزِ حرب سے جو دنیا واقف معلوم ہوتا ہے، دستوریہ تھا کہ جب دو لشکر ایک دوسرے

کے سامنے صف آرا ہوتے تو اول دونوں طرف سے ایک ایک مبارز نکلتا۔ دونوں لشکروں کے سامنے میدان میں دونوں اپنے چوہرہ مروانگی دکھاتے۔ یہ سلسلہ بعض اوقات کئی دن جاری رہتا۔ اور اسی زحمت آزمائی سے ہر ایک کو حریف کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا۔ عرب فن حرب سے اس قدر واقف تھے کہ اکثر مبارز اپنے حریف کو بیچا دکھاتے اس کے بعد جنگ معلوم ہوتی یعنی دونوں لشکروں کی مٹھ بھڑھوتی۔ ہر ایک جنگ میں عرب ہی فہمند ہے۔ اگر ایرانی اور رومی ایسے ہی اعلیٰ فن حرب سے واقف تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

جہاد

جہاد فی سبیل اللہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن میں حرب کے مقابل استعمال کی گئی ہے۔ اور اسی کی تعلیم ہم محضرت مدت العمر عملاً اپنے اصحاب کو دیتے ہیں۔ قرآن میں حرب کی سخت مذمت کی گئی ہے جس کا مقصد صرف القتل و سلب ایشانی اور حیوانی اور لوگوں کے مزاج زندگی پر ڈاکہ ڈالنا اور ان کو اپنی خدمت کے لئے لوٹھی اور غلام بنانا تھا۔ اور اسی حرب کا بازار لوگوں میں گرم تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صوت قتال فی سبیل اللہ ہے اور اس کی غرض صرف اتنی تھی کہ حرب سے ہتھیار رکھولے۔ اور شاہد قرآن ہے کہ در

فاذا نعیم الذین کفروا، فخریب الرقاب
حتی اذا ائختموہم فشدوا
الوثاق، فاما منہا بعد واما فداء
حتی تضع الحرب اوزارہا
ذالک" (پہلے)

پس جب تمہاری مٹھ بھڑھوتیوں سے ہو کر کھڑ کا خاتمہ
ہی حرب ہے تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ ان کا زور
ٹوٹ جائے پھر ان کو قید و بند میں رکھو اس کے بعد یا عان
رکھ کر آزاد کرو یا تاوان جنگ لے کر چھوڑ دو۔ یہ حالات
اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک حرب سے ہتھیار

نہ رکھ لے۔ اس حکم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان اس پر سختی سے عمل کریں۔

۳۰ مقررین اور مؤرخین یورپ کہتے ہیں کہ خلفاء اسلامیہ اور نصیرانِ روم میں "الفداء" کے لئے نماز
خاص مقامات کے متعلق معاہدہ ہوتا رہا۔ جہاں اسیرانِ جنگ کا مبارکہ ہوتا یہ مقامات سواہل
شام کے بند گاہ اور ایشیا کو چپک کے خیر تھے۔ جو بحر کے قریب واقع ہیں۔ ان میں سے طرسوس
کا اکثر ذکر آتا ہے۔ بعض اوقات مذکورہ بھی دیا جاتا ہے۔

اگرچہ ہم اے زمانہ میں بین الاقوامی قانون ہی ہے کہ اسیران جنگ کو مخالف شکست
 خوردہ حریف سے تادان جنگ پیکر چھوڑ دیا جانا ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد اس سے علی
 وار منع ہے۔ آیات محولہ بالا میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر شکست خوردہ حریف اور کسی تادان
 کی سکت نہ رکھتا ہو تو بہر حال اسیران جنگ کو احسان رکھ کر چھوڑنا ہی پڑے گا۔
 اس لئے احسان کا مذکور مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں۔ غرض تو یہ ہے
 حرب ہتھیار رکھ دے۔ اور ہمارے زمانے میں تو حرب اس سے کہیں وسیع تر پیمانہ پر جاری
 ہے جتنا کہ ایام جاہلیت میں تھا۔ اور یہ جو بجز دہریوں میں فساد پر پابندی ہی تو ہمیشہ نلو
 کا کرشمہ ہے جس کی مذمت قرآن میں کی گئی ہے جنگ کے بعد مغلوب قوم کو ایسا
 جگر بند کیا جاتا ہے کہ پھر کبھی آزادی کا نام نہ لے۔ فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں
 خود ہی قاضی خود ہی گواہ۔ خود ہی مدعی۔ مغلوب قوم کے بہترین افراد کو بچاوسی
 اور مختلف میعاد کی قید و بند کی سزا دی جاتی ہے۔ اور جب تک مغلوب کا کچھ مر
 نکال کر رکھ نہیں دیا جاتا۔ اس پر فوجی قبضہ رکھا جاتا ہے۔ یہ حرب کی بدترین صورت
 ہے۔ جو اعلیٰ تہذیب و تمدن کے مدعیان نے پیدا کر رکھی ہے۔ ان کے اعمال ناٹا سنتہ
 کی باز پست ہوگی۔ اور ضرور ہوگی۔ سنت اللہ کبھی تبدیل و تحویل نہیں ہوتی۔
 رویوں اور ایرانیوں نے اپنا بد انجام دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیں گے۔

خلافت راشدہ کے تحت رویوں اور ایرانیوں کو ان ممالک سے بائکل
 چھوڑ دیا گیا۔ جہاں احم سامیہ آباد تھیں۔ ان احم میں سلام سرحد سے
 شائع ہونے لگا اس مقام پر یہ واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین
 کے حکام کے تحت جو معاہدے ہائے صلہ گئے ان میں اس امر کا خاص لحاظ رکھا گیا کہ قوموں کو مذہبی

۳۰ سلسلہ میں آنحضرتؐ نے جزیرہ نما سینا کے گرجا سینٹ کتھرائن کے بطریق سے معاہدہ کیا
 کہ آپ اور تمام مسلمانوں پر عیسائیوں کے حقوق شہریت کی حفاظت لازم ہے اور انکی ذات اور
 ایلاک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ راہبوں کی مخالفتوں اور کلیساؤں کی حفاظت

آزادی کامل دی گئی۔ ان کے شہری حقوق بالکل محفوظ تھے۔ اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جاتی۔ اہل کتاب اور صرف اہل کتاب سے "جزیہ" ضرور وصول کیا جاتا اور یہ رعایت صرف اہل کتاب کو دی گئی تھی۔ اس رقم جزیہ سے اس شہر کے اخراجات پورے کئے جاتے جو ان کے جان و مال کی حفاظت کے لئے مقرر کی جاتی۔ اور اگر دو تین سالوں کا تقابلاً جمع ہو جاتا تو کل رقم معاف کی جاتی اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ لوگ ادائیگی کے قابل نہیں۔ جزیہ "ضعیف ٹیکس" تھا۔ اور جب ہم اپنے زمانہ کے ٹیکسوں کی بھرمار دیکھتے ہیں تو جزیہ بے حقیقت رہ جاتا ہے۔ خود مسلمانوں کو زکوٰۃ جو صاحب نصاب تھے ادا کرنی پڑتی۔ جزیہ سے وہ لوگ مستثنیٰ تھے جو صاحب استطاعت نہ تھے ان میں عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور مذہبی پیشوار اور اہل دیوبند وغیرہ شامل تھے۔ ایسے غیر مسلم جن کو "ٹیکس" کہتے "ثبت المال" سے امداد کے مستحق تھے۔ غیر مسلم جو خلافت کے زیر سایہ اچکے تھے "ذمی" سے موسوم تھے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کا خیال خلفاء کو اس شدت کا تھا۔ کہ حضرت عمرؓ کی آخری وصیت کا ایک فقرہ یہ ہے کہ

”ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنا وہ اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں ہیں“

قرآن حکیم کی متعدد آیات سے واضح ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نسا و اودھفین کو کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول کریم کو جنگ و جدل اور خونریزی سے اتنی نفرت تھی جتنی محبت ایام جاہلیت میں قوموں کو حرب سے تھی۔ آپ ہمیشہ صلح اور امن ہی تلقین فرماتے۔ ارشاد قرآن ہے کہ

ہر مسلمان پر فرض ہے کوئی ناروا ٹیکس وصول نہ ہو گا۔ کسی عیسائی کو ترک مذہب پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی گرجا کو منہدم کیا جائے گا۔ زائرین کو زیارت مقامات مقدسہ سے روکا نہ جائے گا۔ اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے نکاح کر لے تو اسے ترک مذہب پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ گرجاؤں کی مرمت میں مسلمان بھی مدد دے سکتے ہیں اگر طلب کی جائے جو مسلمان ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گا۔ سخت سزا کا مستوجب ہو گا۔ ان ہی شرائط پر حضرت عمرؓ نے بطریق یرشلم سے معاہدہ کیا۔

وان جنحو العلمد فاجنم لها فتن کل : اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی صلح کی طرف
 علی اللہ، انہ هو السميع العليم، وان : جھک اور اللہ پر توکل کر تحقیق وہی سمیع و علیم ہے اور اگر
 یوید وان یعد عول فان حسب اللہ : دشمن بکا ارادہ محض فریب مو تو تیرے لئے محض اللہ کی مدد
 هو الذی ایدک بنصرہ وباللہ منین و : کافی ہے جس نے تجھے اپنی نصرت اور مومنوں کی تقویت دی
 الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض : ادا ان کے دلوں کو جوڑا ادا اگر تو زمین کے تمام وسائل
 جمیعاً ما الفت بین قلوبہم، ولكن اللہ : بھی کام میں لانا تو پھر بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتا
 الف بلیہم، انہ عزیز حکیم : لیکن (دین) اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا اور وہی
 اللہ غالب حکمت دالابے .

ان آیات کے شروع و کوع میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ "واعذوا لہم با استطاعتکم
 من قوۃ" اور دشمنان دین کے مقابلہ میں (ہر ایک ممکن قوت ہتیار رکھو۔ اور اس کا
 مظاہرہ بھی کرتے رہو۔ تاکہ وہ مرعوب رہیں۔ اور جنگ و جدل سے باز رہیں اور اکثر
 آیات میں یہ ہدایت ہے کہ دشمن سے کبھی غافل نہ رہو۔ لیکن اصولاً صلح سیر (۱۱)
 رس میں کچھ شک نہیں کہ ایرانیوں اور رومیوں نے اپنی تمام قوت کے ساتھ
 مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اور ہر ایک لڑائی میں منہ کی کھائی۔ لیکن شام اور مصر اور
 عراق پر ان کا قبضہ غاصباتہ ہی تھا۔ جب ان ممالک کے شہریوں کو عربوں کے حسن
 سلوک کا علم ہوا۔ تو اکثر شہر مذریعہ معاہدہ صلح ہی مفتوح ہوئے۔ ہم صرف ایک
 واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دمشق ارمن شام کا ایک مضبوط قلعہ اور کلید سمجھا جاتا تھا۔
 صدیق اکبر کی خلافت میں جب عربوں نے اس کا محاصرہ کیا تو محصورین نے ڈٹ کر
 مقابلہ کیا۔ باب جابیہ پر ابو عبیدہ اور باب مشرقی پر خالد بن ولید سپہ سالار افواج شام
 پڑے تھے۔ محاصرہ طول پکڑ رہا تھا۔ اگرچہ شہر میں سرد کا سامان کافی تھا مگر نقل کی طرف سے
 متوقع مدد نہ پہنچی۔ ایسے عمائدین شہر نے صلح میں خیر و کھیر۔ خالد بن ولید سخت گیر واقع ہوئے تھے،
 لیکن ابو عبیدہ نرم دل تھے۔ اس کا علم اہل شہر کو تھا۔ ایسے اس خیال سے نرم باعزت شہر الطاہر ابو عبیدہ
 کے ذریعہ صلح کا معاہدہ ہو سکتا ہے ایک ان کا وفد ابو عبیدہ کے خیمہ میں آیا اور شہر الطاہر صلح کا عہد پانڈھا

گیا۔ ابو عبیدہ عمار بن شہر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے، اتفاق سے اسی وقت خالد بن ولید باب مشرقی کے راستے بزرگ شمشیر داخل ہو چکے تھے دونوں کی ملاقات بمقام نقاط یادیریم کے سامنے ہو گئی خالد کو جب معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ نے اہل شہر سے صلح کر لی ہے تو کہا کہ "میں سپہ سالار ہوں اور میں نے شہر بزرگ شمشیر لیا ہے اس صلح کو تسلیم نہیں کرتا"۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ دومؓ کو ابو عبیدہ کے ہمراہ تھے بول اٹھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا عہد تمام دنیا کے اسلام کا عہد ہے اور ابو عبیدہ تو امین الامت ہیں اگر تو اس کے عہد کا پاس نہیں کرتا تو کچھ تعجب نہیں تجھ سے ایسی ہی بے ہمتی آنحضرتؐ کے زمانہ میں بھی ہوتی رہی۔ اور تیری ناشائستہ حرکت سے رسول کریمؐ نے ہریت کا اظہار فرمایا اور بنی جذیمہ کو ان کے مقتولوں کی دیت اور ان کی خالد سخت بزدلوختہ ہوا اور کہا کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے تجھ سے یہی توقع ہے تیرا پاپ ہمیشہ میرا مخالف رہا ہے اور اپنے پاپوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ لیکن ابو عبیدہ راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اور کہا کہ جب تک اس قضیہ کی فیصلہ جو میرے اور خالد کے درمیان ہے نہ ہو حرکت نہ کرو اور ساتھ ہی عبداللہ بن عمرؓ کو خاموش رہنے کی ہدایت کی کہ بات بڑھ نہ جائے۔ آخر خالد نے یہ شرط پیش کی کہ اس حصہ شہر میرا قبضہ بزرگ شمشیر تسلیم کیا جائے اور باقی حصہ پر معاہدہ صلح کے مطابق عمل ہو۔ ابو عبیدہ نے انکار کر دیا اور آخر یہ طے پایا کہ یہ قضیہ خلیفہ کے آخری فیصلہ پر چھوڑا جائے اور اس وقت تک شہر میں کسی قسم کی بدمانی نہ ہونے پائے۔

اتفاق کی بات ہے یہاں یہ تنازعہ ہو رہا تھا اور صدیق اکبرؓ کو آنحضرتؐ کے پہلو میں دفن کرے تھے آپ کا جانشین عمرؓ ہوا اور یہ قضیہ آپ کے روپر پیش ہوا۔ آپ نے خالد کو معزول کر کے ابو عبیدہ کو اس کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا۔ خالد اس عمر کے حقیقی چچا کا بیٹا تھا جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ خالد بن حرب سے عیب واقف تھا۔ اور آنحضرتؐ نے اس کو سفیر اللہ کا لقب دیا تھا۔ ابو جہل کا لفظ "عکبرۃ" مسلمان ہوا تو لوگ کہتے ہیں ابی جہل کہہ کر پکارتے تو رسول کریمؐ کے پاس نکال دیتے کہ تو آپ نے اصحاب کو منع فرماتے ہوئے کہا کہ "مردوں کو برا کہنا زندوں کو تکلیف دیتا ہے"۔

آنحضرتؐ کو جنگ سے اتنی نفرت تھی کہ حضرت علیؑ کے ہاں لڑکھائی نہ ہوئی تو پوچھا
 کیا نام رکھو گے۔ کہا کہ "حرب" یہ نام ایام جاہلیت میں عربوں کو بہت محبوب تھا۔ فرمایا کیا
 میرا نام ہے حسن رکھو۔ ان ایام کے حالات ہی ایسے تھے کہ آنحضرتؐ کو بھی مدافعت کے لئے
 لڑنا پڑا۔ لیکن تمکین دین کا اتنا پاس تھا کہ غزوہ احد میں آپ کا چچا وحشی کے ہاتھ سے
 شہید ہوا اور آپ کی لاش کا مثلہ کیا گیا۔ لیکن جب وحشی نے اسلام قبول کیا تو کچھ تو من
 نہ کیا۔ اسی وحشی کے ہاتھ سے سلیمہ کذاب مارا گیا۔ وہ اکثر کہتا کہ بحالت کفر میں نے بہترین آدمی
 کو شہید کیا اور بحالت اسلام بدترین مخلوق کو مارا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آنحضرتؐ سے
 دریافت کیا کہ اگر میری کسی کافر سے مٹھیر بھڑی ہو جائے اور وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دے اور
 پھر ایک درخت کی آڑ لے کر مجھے کہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے
 فرمایا کہ اس کے بعد میرا اس پر ہاتھ اٹھانا سخت ناواجب ہے۔ اس نے کہا کہ اس حالت
 کے بعد بھی کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ لیا۔ فرمایا "ہاں"۔ اگر تو نے قبول اسلام کے بعد اس
 پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی جگہ ہوگا جیسا کہ وہ قبول اسلام سے پہلے تھا یعنی کافر اور اگر وہ
 تیرے ہاتھ سے مارا گیا تو وہ تیری جگہ ہوگا جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا یعنی مسلمان۔

اسامہ بن زیدؓ کو لوگ "حب رسول" کہتے۔ ایک لڑائی میں ایک شخص کو نیچے گرا لیا اس
 نے کلمہ شہادت پڑھا۔ مگر اسامہ نے اس کو قتل کر دیا اور یہ واقعہ رسول کریمؐ کو سنایا آپ
 کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اور فرمایا "اے اسامہ کل لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے"
 عذر کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا۔ فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا
 تھا۔ تجھ سے ضرور اس کی باز پرس ہوگی حضرت اسامہ یہ واقعہ حضرت علیؑ سے اس وقت
 بیان فرما رہے تھے جب آپ کو امیر معاویہ کے مقابلہ میں دعوت دی اور کہا کہ اے برادر
 رسول میں بار بار عرض کرتا رہا اور آنحضرتؐ بار بار یہی فرماتے کہ کل لا الہ الا اللہ کا کیا جواب
 دو گے، میں اتنا نادم ہوا کہ کہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا کہ اسلام کھیلے تصور جو جی
 کفر سرزد ہوا معاف کر دیتا ہے اور آنحضرتؐ کے حضور عہد کیا کہ آئندہ کسی سبک گو پر ہاتھ
 نہ اٹھاؤں گا۔ علیؑ اگر تو کہنے تو میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار ہوں۔ مگر

کلمہ گو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مجھے معذور ہی سمجھو۔

صدیق اکبرؓ کی شہرے خدانیت میں جب ارتداد کا زور تھا تو بنو کندہ کے سردار شعیب نے بھی مقابلہ کیا۔ تلوار بند ہو کر کچھ عرصہ لڑا۔ آخر صبح کی ریشتر پیش کی کہ اس کی قوم کے نو آدمیوں کو ان کے اہل و عیال سمیت امان دی جائے۔ اس نہرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ گرفتار ہو کر جب صدیق اکبرؓ کے حضور پیش ہوا تو فرمایا کہ تو نے ارتداد کے بدگمانوں کو قتل کیا اس لئے واجب القتل ہے۔ نہایت سے گردن جھکالی اور کہا کہ اے نبیؐ رسول میں توبہ کرتا ہوں میرا اسلام قبول فرمائیے۔ صدیق اکبرؓ نے کہا کہ اچھا ابید ہے کہ آئندہ نیکی کے سوا تجھ سے اور کوئی فعل سرزد نہیں ہوگا اور تمام ایسے بنو کندہ کو چھوڑ دیا۔

حضرت صدیق اکبرؓ

آپ کا عہدِ خلافت دو سال اور چار یا چھ ماہ رہا۔ آپ نحیف البدن تھے سفید چہرے پر رگیں نمایاں تھیں۔ رخسار ہلکے تھے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے۔ آپ بہت نرم دل تھے۔ لیکن آپ کی رائے صاحب ہوتی۔ اور انتظامِ خلافت آپ کے مضبوط ہاتھوں سے نہایت خوش سلوپی سے سرانجام پاتا رہا۔ بازاروں اور کوچوں سے گزرتے تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر بابا بابا کہتے ہوئے لپٹ جاتے مسجد نبویؐ میں لے جاتے تو بچے آپ کے پیٹ پر کھیلتے۔

جمادی الثانی ۳۱ھ میں آپ بیمار ہو گئے اور پندرہ روز شدت کا بخار رہا۔ آپ

آپ جب تک خلیفہ رہے امامت کے فرائض بھی خود ادا کرتے رہے۔ اب آپ کے حکم سے حضرت عمرؓ بحیثیت امام نماز پڑھتے رہے آپ نے سمجھ لیا تھا کہ وقت اخیر ہے اس لئے صحابہ کبار سے اپنے جانشین کے متعلق مشورہ کرنے آپ کی رائے حضرت عمرؓ کے حق میں تھی۔ طلحہؓ نے کہا کہ ”آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ عمر جیسے سخت گیر آدمی کو ہم پر امیر مقرر کر دیتے ہیں“ آپ نے حاضرین سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر طلحہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”میں اپنے رب کو کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر تیرے بہترین بندے کے حق میں وصیت کی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ عمر سخت گیر ہے لیکن غیرت فی الدین کا جذبہ اس میں شدت سے ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نرم دل تھا جب اس کے سر پر بارِ خلافت پڑے گا۔ تو خود بخود نرمی اختیار کرے گا“ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کو جو آپ کی طرف سے کتابت کیا کرتے کہا کہ میری وصیت لکھو۔

”یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر خلیفہ محمد رسول اللہ نے ایسے وقت میں لکھوایا ہے جب کہ دنیا میں اس کا آخری اور آخرت کا اول وقت ہے، ایسی حالت میں جب کہ کافر بھی ایمان لانا ہے اور فاجر بھی یقین کرنا ہے میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو امیر مقرر کیا ہے اور میں نے تمہاری بھلائی میں کوتاہی نہیں کی پس اگر عمر ثابت قدم رہا اور عدل کرتا رہا تو میری ذاتی واقفیت اور رائے اس کی سیرت کے حق میں ایسی ہی ہے اور اگر برائی کی اور بدل گیا تو مجھے غیب کا علم نہیں ہے میں نے تو نیکی کا قصد کیا ہے ہر ایک شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے“ ولعلم الذی ظلموا ری منقلب ینقلبون“

وصیت لکھو اچکے تو دعا کی۔

”بارخدا یا اس کام سے میرا مقصود صرف ان کی اصلاح ہے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں وصیت نہ کر دوں تو وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے میں نے یہ کام کیا اور تو میری نیت سے خوب واقف ہے میں نے اس امر میں اپنے جہاد سے کام لیا ہے اور ان پر ایسا دلی بنایا ہے جو سب سے بہتر سب سے

قوی تر اور سب سے زیادہ نیکی پر حریص ہے!"
 اس کے بعد عمر کو طلب کیا اور کہا کہ اے عمر میں نے تجھے خلافت کے لئے منتخب کیا ہے۔ عمر نے کہا کہ "مجھے خلافت کی ضرورت نہیں" فرمایا "خلافت کو تیری ضرورت ہے"
 عمر کا دل صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر بھڑ آیا۔ کچھ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے کو تھے کہ
 صدیق اکبر نے فرمایا کہ

"اے عمر میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔"
 اے عمر بے شک اللہ کا ایک حق رات میں ہے جس کو وہ دن میں قبول نہ کرے گا
 اور اس کا ایک حق دن میں ہے جس کو وہ رات میں قبول نہ کرے گا۔ بے شک
 اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہ کرے گا جب تک فرائض ادا نہ کئے جائیں۔
 اے عمر جس کے اعمال قیامت کے دن بجا ہی ہوں گے وہی گراں قدر ہیں
 اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ سبک ہوں گے اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ
 قرآن میں نرم آیات کے ساتھ شدت کی اور شدت کی آیات کے ساتھ
 نرم آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ مومن اللہ سے ڈرتا رہے اور غضرت کا طالب ہو۔
 اے عمر جب اہل نار کا ذکر آئے تو یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے امید ہے کہ تو
 مجھے ان میں سے نہ کرے گا۔ اور جب اہل جنت کا ذکر ہو تو اودان کے
 اعمال صلح کا بیان ہو تو دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے ان میں شامل کر اور جب
 تم میری وصیت پر عمل کرنے کے تو مجھے اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے!"

صدیق اکبر کی عمر آنحضرت کی عمر کے برابر تیسٹھ برس ہوئی۔ عجیب اتفاق ہے
 کہ آنحضرت اور صدیق اکبر سہ شنبہ کی رات کو دفن ہوئے۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ
 مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کرنا، نئے کپڑوں کی ضرورت زندگیوں کو ہوتی ہے۔ آپ کو
 آنحضرت کے پہلو میں رکھا گیا، آپ کا سر آنحضرت کے دوش مبارک کے برابر رکھا گیا
 آپ کی لحد کو آنحضرت کی لحد سے ملا دیا گیا۔

حسان بن ثابت نے مرثیہ لکھا:۔

اذا تذکرت بشعوان من اخلاقه فاذا كراخاک ابا بکر بما فعلا

جب تم اپنے کسی پرہیزگار بھائی کی مصیبت کو یاد کرو تو ابوبکر کے حالات کو پیش نظر رکھو۔
خیر البریہ القاہا واعدلہا بعد النبی وادفاہا بما اصملا

وہ نبی کے بعد تمام مخلوق سے بہتر سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ عادل
اور سب سے زیادہ فریض ادا کرنے والا تھا۔

الثانی الثانی المحمود مشہد واول الناس منہم صدق الاسلا

نبی کے ہمراہ وہ دوسرے شخص تھے جن کا مشہد پسندیدہ ہے اور سب سے پہلے
رسول کی تصدیق اس نے کی۔

امرواقہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت زیدؓ نے تصدیق رسالت کی
حضرت زیدؓ کے سوانح حیات ہم نے اپنی کتاب "حضرت زیدؓ" میں بیان کئے ہیں اس مقام
اتنا لکھنا کافی ہوگا کہ آنحضرتؐ کی بعثت سے پیشتر زیدؓ کو اپنی حالت میں ڈاکوؤں کے
ہاتھ پڑے اور بطور غلام مکہ کی منڈی عکاظ میں فروخت ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ
کے بھائی نے خرید لیا۔ اور بہن کی مذکر کیا بہن نے آنحضرتؐ کے حوالہ کر دیا۔ آنحضرتؐ نے
فوراً آزاد کر دیا۔ زیدؓ کے لوہقین تلاش میں تھے جب سراغ مل گیا، تو روپیہ لے کر آنحضرتؐ
کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا کہ وہ تو آزاد ہے اور اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے۔ تو
اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن زیدؓ نے آنحضرتؐ سے جدا ہونا نہ چاہا۔ لوہقین نے کہا کہ
تیرا بڑا ہو تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، جواب دیا کہ اس شخص کی غلامی ہزار آزادی
سے بہتر ہے۔ جو حسن سلوک میں دیکھ چکا ہوں وہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے تم مطمئن
رہو۔ قرآن میں کسی صحابی کا نام مذکور نہیں لیکن حضرت زیدؓ کا ہے۔ پہلا سپہ سالار مشرک
اسلام جو آنحضرتؐ نے رومیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا زیدؓ تھا۔ اور آپ کے
ہاتھ معزز صحابی اور رسول کے چچے کا لڑکا جعفر اور خالد بن ولید بھی تھا۔ جنگ موتہ
میں زیدؓ شہید ہوئے۔ تو دوسری مہم تیار ہوئی۔ سپہ سالار زیدؓ شہید کا بیٹا اسامہ تھا اور اس کے
ہاتھ حضرت عمرؓ بھی تھے، مورخین کی رائے ہے کہ اگر زیدؓ زندہ رہتا تو غالباً وہی خلیفہ اول ہوتا۔

ان واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس مقصد کے ساتھ عرب اٹھے اور اسکی اشاعت
رایک امر پر مقدم رکھی۔

ملاذت غالباً بعض اہل الہائے حضرات کے دل میں یہ خیال ضرور کھٹکے گا کہ خلافت
رہنڈہ وہی کچھ تھی، جسے آج کل "ڈکٹیٹر شپ" (Dictatorship) کہتے ہیں، اس لئے اس مقام پر اس طرز حکومت کی جو انتظامیہ تھی اور جس کو "خلافت" سے
وسوم کیا گیا ہے تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے

یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وحدت ہمیشہ کثرت پر غالب رہے گی۔
حافظ حکومت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کل کائنات پر حکمران ہے جس کے وضع کردہ قوانین
من کو سان قرآن میں سنت اللہ کہتے ہیں کبھی تبدیل و تحویل نہیں ہوتے حکومت کی
مختلف صورتیں ہیں جو انسانی اختراع ہے حکومت خواہ شخصی ہو یا دستوری یا جمہوری ایک
حد شخصیت ہمیشہ ممتاز نظر رکھے گی خواہ یہ مطلق العنان بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو
کسی اور نام سے موسوم ہو حکومت کی مختلف صورتوں میں کون سی بہتر ہے؟ ایک ایسا مسئلہ
ہے جس کا صحیح حل حالات وقت ہی کر سکتے ہیں، ایرانیوں اور روسیوں میں حکومت کی ہر ایک
صورت رونما ہوتی رہی جمہوریت کے بعد شخصی حکومت بھی رہی انزاس میں شخصی حکومت کے
بعد انقلاب نے جمہوریت قائم کر دی لیکن فرانس کو وہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے جو شخصی حکومت
کے تحت دیکھ چکا تھا۔

بات اصل میں یہ ہے کہ یہ حکومتیں اور ان کی مختلف صورتیں انسانی ذہنی اور مادی
ارتقا کے سلسلہ میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے حکومت کی کوئی بھی صورت ہو اچھی ہے۔ اگر
خارجی حالات کے تقاضہ کو پورا کرتی ہے اور ہر ایک حکومت بُری ہے اگر خارجی حالات کے
مقتضی نہ ہو بہت کچھ قوموں کی ذہنیت پر منحصر ہے اگر وہ خارجی حالات کے مناسب بدلتی
ہے اور اس کا مقصد حیاتِ یادہ شرح نصب العین زندہ ہے جس کے ساتھ وہ ابھریں تو وہ
قوم بھی زندہ ہے لیکن یاد رہے کہ نصب العین کو بھی یہ تقاضائے خارجی حالات بدلنا ہوگا۔
اور اگر نہ بدلا گیا تو قوم پر ذہنی جمود چھا جائے گا اور وہ دیر سویر مٹ جائے گی۔

اگر ہم تاریخ عالم کی ورق گردانی کریں تو یہ حقیقت جو ناقابل انکار ہے خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ کی بعثت سے پیشتر ادراک بھی غیر مسلم اقوام کا نصب العین تو وحیِ علویٰ اور اقتدار رہا ہے، جسے وہ قائم نہ رکھ سکے، جو کل حاکم تھے محاکم اور جو غالب تھے مغلوب ہو کر رہ گئے اور خین نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر بحث کی ہے، جو بلاشبہ دقیق ہے لیکن ہماری تسلی کے لئے کافی نہیں، ہم قوموں کو بلندی کی طرف پرواز کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو برباد ہوتا بھی مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن انسانیت مسلسل ترقی کر رہی ہے اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوئی، اس لئے تاریخی واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، کہ اصل مقصد انسانیت کا ارتقاء ہے، اس حصول مقصد کے لئے مختلف قرون میں جو بھی نذیر استعمال ہوتے رہے وہ منقطع ہوتے رہے، یہ حقیقت آنحضرتؐ کے قلبِ سلیم پر منکشف ہو چکی تھی اور اسی کا بیان قرآنِ عظیم میں ہے جس کا خطاب کسی ایک قوم سے نہیں بلکہ کل عالم انسانی سے ہے "یا ایھا الناس انی رسول اللہ، یکم جمیعاً" یہ دعوتِ رسالت آپ سے پیشتر کسی نے نہیں کیا۔

افراد سے قوم اور قوموں سے عالم انسانی کا نشوونما ہوا ہے اس لئے افراد اور قوموں کی ذہنیات کو بدلنا اور اس حقیقت سے روشناس کرنا آنحضرتؐ کی رسالت کا منشا ہے آنحضرتؐ نے ایک نصب العین عالم انسانی کے سامنے رکھ دیا جس کی تشریح ہم کر چکے ہیں اور واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ ذی المعارج درجہ بدرجہ فرما رہا ہے! "لترکبن طباقن طبق فما لخصر لایومنون" (ذہ) البتہ ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ترقی کرتے جاؤ گے، تو تمہیں کیا ہے کہ اس حقیقت پر یقین نہیں کرتے، خلافتِ اسلامیہ کا مقصد بھی یہی کچھ ہے کہ اول عالم انسانی کو اس حقیقت سے روشناس کیا جائے اور اس کے بعد عالم انسانی اس خلافت کا منشا سمجھ لے جو اس کے جدِ امجد آدم کو عطا ہوئی اور وہ یہ ہے

"انسان کو فلکِ ہاست سرفگندہ اور
دار و خابستہ کہ در خابج و ذہن
در چیرت او گم بہت و اندہ او کو
ہر چیز کہ آفریدہ شد بندہ او" (بیدل)

ان اوراق میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پیغامِ حق کو ہم اسلامیہ نے کس طرح لوگوں تک پہنچایا اور کس حد تک کامیاب ہوئے۔ آنحضرتؐ اور قرآن کی ذمہ داری اس حد تک تھی کہ آپؐ پر بلاغ فرض تھا۔ اور اس فرض سے خوش اسلوبی کے ساتھ بیک دوش ہوئے، قرآن عالم انسانی کو تذکر و تفکر کی دعوت دیتا ہے "فمن شاء اتخذ الیٰ ربہ سبیلاً"

فاروق اعظمؓ

صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم مسندِ خلافت پر شکن ہوئے بقول ملک الشعراء

فروسی

عمر کو اسلام را آشکار کو
بیار است گیتی چو باغ و بہار
صدیق اکبر کی خلافت کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ عمر حبیباً شخص جانشین چھوڑا۔ اس خلافت کے دور میں جو تاریخی واقعات ظہور میں آئے ان کی تفصیل کتب تاریخی میں موجود ہے یہ صحیح ہے کہ فاروق اعظم کے کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک مورخ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی صدیق اکبر کے درجہ کو نہیں پہنچ سکے اور اسی طرح حضرت عمرؓ کے جانشین آپ کے زنبہ سے کتر ہے ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ایک مؤرخ محقق کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ ستر سال کی عمر میں تیرہ برس خلافت کے بعد ایک ایرانی غلام کے خنجر سے عین نماز کے وقت شہید ہو گئے۔ زخمی ہو کر گرے تو پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے کس نے مارا جب لوگوں نے ایرانی غیر مسلم کا نام بتایا تو کہا کہ "الحمد للہ، اگر میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جاتا تو سمجھ جاتا کہ لوگ میری خلافت سے مطمئن نہیں تھے، خلافت کے آخری ایام میں آپ

اکثر مغموم نظر آیا کرتے۔ دریافت پر فرمایا کرتے کہ حیران ہوں کہ اپنے بعد کس کو نامزد
 کروں، مجھے تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اس بار امانت کا تحمل ہو سکے۔ لیکن آپ
 نے جب زحمتی ہو کر گرے چھ اشخاص کا نام لیا۔ کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لینا
 بعض مورخین کو یہ غلط نہیں ہے کہ خلیفہ کا تقرر جمہور کے اکثریت کی رائے پر موقوف
 ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلافت انتظامیہ حکومت ہی ہے اور اس کی کوئی صوت معین
 نہیں، خلیفہ کا تقرر خواہ کسی طریق سے ہو اور مختلف طریق بھی ہیں اور ان کے مطابق
 دنیا بھی رہا قابل توجہ امر نہیں۔ اگر بہترین شخص کا تقرر ہو خواہ وہ اپنا راستہ خود پیدا کر
 لے، لوگ اس کے حق میں ہوں یا کسی اور طریقہ سے برسر اقتدار آجائے ایسے امور نہیں
 جو محققین کی بحث کا موضوع ہوں جمہور کی اکثریت کی رائے کا احترام ضرور کیا جاتا ہے
 حضرت صدیق اکبرؓ جب عمرؓ کے حق میں وصیت کر چکے تو آپ کو باہر لایا گیا لوگ خلیفہ
 کی بیماری کی خبر سن کر جوق در جوق جمع ہو رہے تھے آپ نے حضرت عثمان کو کہا کہ
 میری وصیت سنا دو۔ لوگوں نے "سمعنا و اطعنا" کی آواز بلند کی لیکن جمہور
 کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اہل الرائے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور ان ہی کی رائے کا
 اتباع عام لوگ کرتے ہیں، آنحضرتؐ نے کسی کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی صدیق
 اکبرؓ کا انتخاب فوری واقع ہوا۔ صحابہ رسول کریمؐ کی تجہیز و تکفین سے ابھی فارغ بھی نہ
 ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ انصار مدینہ بنی ساعدہ کے سقیفہ میں جمع ہو رہے ہیں، تاکہ
 سعد بن خبادہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بعد قبیلہ خزرج کے سردار تھے اس جگہ صدیق اکبرؓ
 کی شخصیت نے وہ کام کیا جو ہزارہ دلائل سے بھی نہ ہوتا۔ اسی جگہ صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر
 چند مباحرین نے جو موجود تھے اور اکثر انصار نے بیعت کی بیعت عامہ دوسرے روز ہوئی۔
 اسے ایسا انتخاب کہہ سکتے ہیں جو رائے عامہ سے ہو۔ مگر مدینہ منورہ سے باہر کسی کو کانٹا
 خبر بھی نہ ہوئی، اور نہ ان سے پوچھا گیا۔ صدیق اکبرؓ نے چند اکابر اصحاب سے مشورہ ضرور
 کیا اور عمرؓ کے حق میں وصیت کی۔ عمرؓ نے معاملہ شوریٰ کے حوالہ کر دیا جو چھ اشخاص علی
 زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف تھے۔ شوریٰ نے حضرت عثمان کو

منتخب کیا حضرت عثمان ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ اپنے جانشین کے بارے میں کوئی وصیت نہ کر کے اندر گرتے بھی تو کون تسلیم کرتا، کیونکہ باغیوں کا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ خلافت سے دست بردار ہو جاؤ، انہی لوگوں نے عثمان کے بعد حضرت علیؑ کو خلیفہ تسلیم کیا حضرت علیؑ کو فہم میں ابن ابی بجم کے خنجر سے زخمی ہوئے، زخم ہلک ثابت ہوا، کوفیوں نے آپ سے دیانت کیا کہ کیا آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن کو خلیفہ مقرر کیا جائے، فرمایا، اگر آگ لوگ متفق ہوں، چنانچہ امام حسن کو کوفیوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا، مگر آپ امیر معاویہ کے حق میں بردار ہو گئے، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کے تقرر کا کوئی قانون اور تقاعد یہ تقاضا، حالات مختلف طریقوں سے تقرر ہوتا رہا، انتخاب تو بحالت ان ہی ممکن ہے۔

زبان میں دونوں کے ذریعہ انتخاب عمل میں آتا ہے، پھر طریقہ بھی مستحسن ہے لیکن اسی صورت میں کہ عوام میں سیاسی بیداری ہو، اور وہ اپنے شہری حقوق کی قدر و قیمت جانتے ہوں۔ اور یہ کہ ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ بہترین آدمی کو منتخب کر لے، لیکن یہ پارٹی بازی جو اہل لیبرپ کی سیاسیات میں نمایاں ہے، سلام میں قطعاً ممنوع ہے۔ ان میں قطعاً کوئی فرقہ بندی اور فرقہ نہیں ہونا چاہیے، اور "شوری" میں اس کا مظاہرہ کیا جائے، شوری میں ہر ایک شخص کو رائے اعلیٰ ہونے کے تحت ہی دینی چاہیے، جس میں قوم اور ملت کا خاص مفاد نظر نہ ہو، اختلاف اور وصیت اور شوری اصطلاح میں جن کے ذریعہ اولیٰ میں خلفاء کا تقرر ہوا، لیکن ان طریقوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حالات ہی اس گتھی کا بہترین حل کر سکتے ہیں۔

حضرت عثمان کے عہد خلافت میں فتوحات کا سلسلہ مشرق و مغرب میں جاری رہا اور وہ دور و درنگ پھیل گیا، لیکن دیرینہ اموی اور ہاشمی رقابت ایک آگ تھی جو اولیٰ و خلفاء کے عہد میں دبی رہی اب بھڑک اٹھی، عثمان اموی تھے اور علی ہاشمی، حضرت علیؑ کو توقع تھی کہ عمر کے بعد لوگ آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے لیکن انتخاب حریف قبیلہ کے ایک ممتاز فرد کا ہوا، اگر سعد بن ابی وقاص قاصح ایران خلیفہ مقرر ہوتے جن کی نسبت عمر نے شوری کا تقرر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کو مغزول کر دیا تھا، مگر یہ ان کے

انتخاب میں مانع نہ سمجھا جائے تو غالباً حضرت علیؑ بھی یہی طرح خاموش رہتے جس طرح
 اول دو خلفاء کے عہد میں ہے، خود حضرت علیؑ شاید اب بھی چپکے رہتے مگر قبیلہ ہاشمیہ کے
 لوگوں کو عثمان کا تقرر ناگوار ہی گذرنا۔ شجرہ نسب اس کتاب کے شروع میں دیا گیا ہے، اس
 پر ایک ہی نظر سے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں قبیلوں میں قرابت قریبہ ہے۔

مدینہ منورہ دار الخلافت تھا اور اسی جگہ باغیوں نے اپنا مرکز سازش قائم کیا، جب
 ان لوگوں کو کافی تقویت حاصل ہو گئی، تو عثمانؓ سے مطالبہ کیا کہ خلافت سے دست بردار ہو
 جاؤ۔ آپ نے انکار کیا، تو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو وہیں شہید کر دیا، آپ کی
 عمر اس وقت اسی برس کے لگ بھگ تھی، باغیوں نے تو غالباً یہ سمجھا ہو گا کہ ایک شخص
 کے قتل کا تمام دنیا کے اسلام پر کچھ اثر نہ ہو گا۔ مگر اس ایک واقعہ نے ایک میرے سے دوسرے
 میرے تک آگ لگا دی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی،

امیر معاویہ دمشق میں اول دو خلفاء کے عہد میں عاملِ شام تھے اور عہد عثمانی میں بھی
 رہے آپ اموی تھے اور حضرت عثمانؓ سے قرابت قریبہ بھی تھی بغاوت کے حالات کی اطلاع
 ہوئی، تو ایک لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھے، لیکن جب راستہ میں پرچہ لگا کر باغیوں نے
 خلیفہ کو شہید کر دیا تو بقول طبری اس خیال سے لوٹ گئے کہ اس سازش میں صحابہ رسول اللہؐ
 بھی شامل تھے اور امیر معاویہ نے مکروہ جانا کہ ان سے لڑے لیکن جب حضرت علیؑ کا تقرر
 ہوا اور آپ پر بھی یہ الزام تھا کہ اس سازش میں شریک تھے تو حالات کا تقاضا کچھ اور تھا،
 حضرت عثمانؓ پر باغیوں نے الزام تراشادہ یہ تھا کہ آپ اپنے لوگوں میں جو امیر کی زیادہ رعایت
 کرتے ہیں بات صرف اتنی ہی تھی لیکن بعد میں ایسے واقعات اختراع کئے گئے جو محض سزا
 کا طومار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح العامری حضرت عثمان
 کے رضائی بھائی تھے، انحضرتؓ کے کاتب وحی بھی تھے، انہ کتابت میں رد و بدل بھی کیا کرتا
 اور مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا، جب مکہ فتح ہوا تو انحضرتؓ نے چند دشمنان
 دین کا قتل جائز قرار دیا ان میں ایک عبداللہ بن سعد بھی تھا، اس نے حضرت عثمان کے مکان
 میں پناہ لی، اور انحضرتؓ نے حضرت عثمان کی سفارش پر معاف کر دیا۔ اسی عبداللہ کو

حضرت عثمان نے تسخیر افریقہ پر مامور کیا۔

عبداللہ کا تبار وحی شاید ہو لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور کاتبان وحی کی نسبت ارشاد ہے کہ "باید ہی سفرۃ کرام بوردہ رضی اللہ عنہم اس کی نسبت دشمنان دین یہ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ محفوظ کتاب نہیں یہ روایت ایسی ہی اور احادیث موضوعہ جو صحاح میں نقل کی گئی ہیں عرض اختراع ہیں، البتہ واقعہ صرف اتنا ہی ہے کہ حضرت عثمان نے ذمہ واری کے عہدے انہی کو دیئے جو آپ کے نزدیک قابل اعتماد تھے، عبداللہ کو پہلے افریقہ میں چھاپہ مارہ بستوں کا افسر مقرر کیا گیا، جب اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی تو افریقہ میں سپہ سالار مقرر کر دیا، آپ نے بیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ شمالی افریقہ سے زمینیوں کو بالکل بے دخل کر دیا و عمر دین العاص کے بعد عبداللہ بن سعد بن ابی صرح نے اسلامی فتوحات کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ افریقہ میں جاری رکھا بعض فسانہ نگار مورخین نے عبداللہ کی نمایاں خدمات کو کم کرنے کے لئے ایک قصہ بطریق اور اس کی لڑکی کا بیان کیا ہے کہ بطریق نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص سپہ سالار افواج اسلامی کو قتل کرے گا اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے گا، عبداللہ ڈر کے مارے خیمہ سے باہر نہ نکلتے تھے، کہ عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ جو شخص جرم جیس کو قتل کرے گا وہ اس کی لڑکی کا حق وار ہوگا، چنانچہ ابن زبیر نے جرم جیس کو قتل کیا، اور خود جرم جیس کی لڑکی نے تمام لشکروں سے ابن زبیر کو شناخت کیا کہ وہ اس کے باپ کا قاتل ہے، اور ابن زبیر کو یہ لڑکی ابن ابی صرح نے دے دی، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں محض افسانہ ہے،

بات اتنی ہی ہے کہ حضرت عثمان کے تقریب سے بنو امیہ کا در بدر ہو ہاشم کو ناگوار گذرا، اس لئے آپ اس بغاوت کا شکار ہوئے، اس کے ضمن میں جو الزامات تراشے جاتے ہیں، ان کی تاریخی حیثیت کچھ بھی نہیں،

حضرت علی نے عمان خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام عالموں کو جو صدیق اکبر سے لے کر عثمان ذی النورین تک مختلف ممالک میں متعین تھے اور بالخصوص

ان کو من کا تقرر عہد عثمانی میں ہوا تھا منقرول کر دیا اور ان کی جگہ ان لوگوں کا تقرر ہوا
 کیا جو قتل عثمان کی سازش میں سرخند تھے، منقرول کردہ حال میں امیر معاویہ بھی تھے
 تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت چارہ اشخاص عقلا عرب مشہور تھے،
 معاویہ بن ابی سفیان، دوم عمرو بن العاص فاتح مصر اس کی نسبت مشہور تھا کہ اگر کسی
 شہر کے اٹھ دروازے ہوں اور ان میں داخل ہونا کسی حیلہ پر منحصر ہو۔ تو عمرو بن العاص
 اٹھوں دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے، سوم مغیرہ بن شعبہ جو آنحضرت اور خلافت
 تک سفارت کے اہم فرائض اکثر انجام دیتا رہا۔ چہا دم زیاد بن ابی سفیان جس کا نام
 ایک متعصب ایرانی شیعہ ہے لکھتا ہے کہ جب حضرت علی مسند خلافت پر بیٹھے تو مؤرخ
 نے کہا کہ امیر المومنین ایک مشورہ دیتا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا اختیار ہے لیکن حال
 کی خراکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ہے کہ سر دست امارت کو ذہن عبد اللہ اور
 زبیر بن العوام کو دو اور حکومت شام پر معاویہ کو بحال رکھو۔ جب استقلال خاطر خواہ
 جائے گا اس وقت اگر تغیر و تبدل مناسب سمجھو تو خلل واقع نہ ہو گا، لیکن امیر نے
 مشورہ قبول نہ کیا، صاحب ناسخ التواریخ اپنی رائے ان لفظوں میں بیان کرتا ہے
 ”حقیقت یہ ہے کہ مغیرہ کی نظر نظم مملکت و سلطنت پر تھی اور وقائق شریعت سے غاف
 تھا، اور حضرت علی علیہ السلام دقیقہ حکومت معاویہ اور شام حرام می دانست“
 اس مؤرخ نے کیلے تکی ہانکی ہے، وقائق شریعت سے مغیرہ ناواقف نہ سکتا
 قرآن میں ”مولفۃ القلوب“ کی اصطلاح موجود ہے اور سیاسی نقطہ نظر سے اس پر
 واجب ہے مغیرہ بھی ہی مشورہ دے رہا تھا، کہ اس وقت تالیف قلوب کی ضرورت
 یہ امر کہ ”دقیقہ حکومت معاویہ اور شام حرام می دانست“ اس عقیدہ کا آئینہ دار
 کہ اول تین خلفائے حرام کو حال قرار دے رکھا، لیکن دقیق نکتہ یہ ہے کہ خلافت
 نے محض ملائکہ صفت ہونا ضروری نہیں بلکہ کسی فرشتہ سیرت کا تقرر ہی میرے سے مؤرخ
 نہیں جو اپنے گھر کا انتظام بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک مملکت کا نظم و نظام کیسے
 رکھ سکتا ہے، خلافت کے لئے علم سیاسیات کی مقدم ضرورت ہے اور اس کے ساتھ

یت کی کہ وہ ہر ایک خرابی کی اصلاح کی قوت بھی رکھتا ہو۔ اس کو قرآن میں "علم
 م" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو "طاہر" میں بدرجہ اولیٰ موجود تھی۔ اگرچہ وہ بنی اسرائیل
 بارہ قبائل میں سے سب سے چھوٹے قبیلہ کے سب سے چھوٹے خاندان کا رکن تھا۔
 حضرت علیؑ میں خواہ اور ملکوتی صفات بدرجہ اولیٰ موجود ہوں مگر اس واقعہ نے ثابت
 کیا کہ آپؑ سیاسات سے ناواقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپؑ کا عہدِ خلافت جس کا آغاز
 مکہ سے ہوا بالکل ناکامیاب رہا۔ سید علیؑ اپنی تاریخ عرب (۱۰۰) میں لکھتے ہیں
 "میں لکھتا ہوں کہ پہلے تین خلیفوں کی مجلس شوریٰ میں حضرت علیؑ متاثر کن
 اور جتنے اہم امور ان ایام میں رونما ہوئے وہ آپؑ کے مشورے سے ہی طے پاتے رہے"
 میں شک نہیں کہ حضرت علیؑ کا احترام ہر ایک خلیفہ اس وجہ سے کرتا رہا کہ آپؑ حضرت
 حجاجی طالب کے بیٹے تھے اور داماد بھی تھے، لیکن ان کے ہاں سے یہ کہنا کہ انہی کے
 عہد سے کاروبارِ خلافت خوش سلوپی سے چلتا رہا چند موضوع اور ضعیف روایات
 بنا پر ایک دعوے ہے۔ جس کو خود حضرت علیؑ کا طرزِ عمل اپنے دورِ خلافت میں بدل
 دیتا ہے، آپؑ کے دورِ خلافت میں فتوحات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ساتھ ہی شامت
 پام رک گئی، خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، جس کی آگ عرصہ تک بھڑکتی رہی، "سفین" میں امیر
 معاویہ اور آپؑ کے لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ امیر معاویہ کو تو اس حقیقت کا احساس شدت
 تھا کہ دونوں جانب اصحابِ رسول اللہؐ ہیں اور یہ کہ خانہ جنگی کا فائدہ رومی حکومتِ طرزِ خواہ
 ٹھائے گی۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق شہنشاہِ قسطنطنیہ نے اپنی خدایات بھی امیر معاویہ
 کے حق میں پیش کی تھیں، لیکن امیر نے دور اندیشی سے مسترد کر دیں، بھڑپیں تو وقتاً فوقتاً ہوتی
 ہیں لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی، اس وقت چار عقلاء عرب میں سے تین حضرت علیؑ کے
 خلاف تھے گفتِ رشید کے بعد طے پایا کہ دو ثالث مقرر کئے جائیں جو قرآن کے مطابق
 فیصلہ کریں کہ کون خلافت کا مستحق ہے، حضرت علیؑ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور
 امیر معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص ثالث مقرر ہوئے اور یہ اندیشہ بجا تھا کہ اگر کسی
 رقی کے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ پھر لڑائی شروع ہو جائے، اس لئے فریقین کو

ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے مستقر کی طرف لوٹ جائیں، حکم چھ ماہ بعد دوسرے الجندل پر صحابہ کی ایک مقتدر جماعت کے ساتھ جمع ہوں اور اپنا فیصلہ سنائیں، ابو موسیٰؓ پیدا ہوا سادہ مسلمان عمرو بن العاص کے سامنے کیا بات کر سکتا تھا، جو باطیاست کا مشہور کھلاڑی تھا، ابو موسیٰؓ کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ حضرت علیؓ کو معزول کیا جائے اور امیر معاویہ کی نسبت اپنا فیصلہ محفوظ رکھا، ابو موسیٰؓ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت علیؓ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا کہ علیؓ کے متعلق جو فیصلہ اس کے حکم نے دیا ہے وہ تم نے سن لیا میں معاویہ کو خلافت کا مستحق قرار دیتا ہوں، اس فیصلہ سے ایک سنسنی پھیل گئی، ابو موسیٰؓ نے کہا کہ مجھے اس غلط فہمی میں رکھا گیا کہ دونوں کو معزول کیا جائے، اس کے بعد جسے عامۃ المسلمین چاہیں خلیفہ مقرر کر لیں، بہر حال اس فیصلہ پر عمل نہ ہوا، اور غالباً پھر یہ بان تلواری ہی فیصلہ کرتی مگر ام ہونین حضرت عائشہ صدیقہ نے دونوں کو روک دیا اور خلافت دونوں میں تقسیم کر دی۔

عموماً مسلمان اس غلط فہمی میں الجھے رہے بلکہ ان کو اچھا یا گیا کہ دنیا اسلام پر ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ خلافت صرف قریش کا حق ہے، قریش کا حق تو صرف اسی وقت تھا جب تک کہ وہ اس کے اہل تھے، لیکن یہ عقیدہ روایات موضوعہ کی بنا پر اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بادشاہ بھی نام نہاد خلفاء عجمیہ سے شد خلافت حاصل کرتے رہے صرف ایک خلیفہ تمام ام اسلامیہ پر کیسے ہو سکتا تھا۔ ایک ہی قبیلہ کے دو سرفیہ خاندان بھی ایک دوسرے کی حکومت تسلیم نہ کر سکے، عربوں کی ترک اور ترکوں کی ایرانی اور ایرانیوں کی افغان سیادت کب تسلیم کر سکتے تھے، یہ عقیدہ ویسے بھی قرآن حکیم کی آیات

سہ شہادت عثمان کے فوراً بعد جب حضرت علیؓ خلیفہ مقرر ہوئے تو طلحہ اور زبیر نے بالافتق حضرت علیؓ کا مقابلہ کیا یہ لڑائی "جمل" کے نام سے مشہور ہے بعض مورخین نے حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت لکھا ہے کہ آپ بھی طلحہ اور زبیر کی ترغیب پر اس جنگ میں شامل ہوئیں اس جنگ میں آپ کی شہریت محض نسانہ ہے آپ کا جلی محمد و حضرت علیؓ کے موافق ہوں میں سے تھا، اور مارش قتل عثمان کا سرغذ تھا۔

کے خلاف ہے۔ ارشاد قرآن بت کر

ادارہ بین الاقوامی

اگر مومن مسلمانوں کی دو جماعتیں ٹریپس تو ان میں صلح

کراؤ، اور اگر ایک فریق نہ مانے اور دوسرے پر زیادتی کرے تو سب مل کر اس سے ٹرو بہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم صلح کو قبول کرے پھر عرب اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے، تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ "انما المؤمنون اخوة" مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں میں صلح کراؤ، اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پر رحم فرمائے۔" (۲۳۷)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ تمام مہلک اسلام کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہونا چاہیے جس میں ان ممالک کے نمائندگان ان تمام امور کو جو مسلمانوں کے بین الاقوامی ہونے کے لیے اور ان میں جنگ و جدل کی نوبت نہ آنے دے، ہمارے زمانہ میں سچی حکومتوں نے اس پر عمل کیا اور پہلے "لیگ آف نیشن اور اس کے بعد اب "یو این او" جو اپنے پیشرو متون کی طرح چند روز کی مہمان ہے، چونکہ ان کے نمائندگان کے اغراض میں سخت اختلاف ہے۔ صرف ایک مشترکہ فائدہ کے لیے اس مجلس کی طرح ڈالی ہے اس لیے ان کے مقصد کی تکمیل ناممکن ہے مسلمان امت واحدہ میں اگر وہ اسی مقصد کو مد نظر رکھیں جس نے ان میں "اخوت" قائم کی ہے تو ان کا ادارہ نہایت کامیاب رہے گا اور پھر وہ دنیا پر چھایا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ زمانہ نے جو تلخ سبق ان کو دیا ہے وہ ضرور ایک دن متحد ہو جائیں گے۔

اگرچہ خلافت امیر معاویہ اور حضرت علی میں تقسیم ہو گئی لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ حضرت علی کو چند در چند مشکلات میں الجھنا پڑا۔ جس کو آپ سمجھانے کے لیے ایک جماعت جو آپ کی پر جوش حامی تھی، آپ سے علیحدہ ہو کر مخالفت پر آمادہ ہو گئی، یہ جماعت "خارج" کے نام سے موسوم ہوئی، اس جماعت نے نہ صرف آپ کی خلافت کو سلب کرنا شروع کیا بلکہ ختم کر دیا، اسی جماعت کے ایک ذریعہ عبدالرحمن ابن ملجم نے بائیس برس بعد حضرت علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، چونکہ ہم نے ان واقعات کو اپنی کتاب "وہشتیہ" میں لکھا ہے اس لیے اس کتاب میں اس واقعہ کی تفصیل ہے۔

میں مفصل بیان کیا ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں،

حضرت علیؑ سے ایک اور اہم سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر
کوفہ کو مستقر خلافت مقرر کیا۔

کوفہ کی بنیاد ۶۳۷ء میں حضرت عمر کی خلافت میں ڈالی گئی، فتح عراق اور خیر اہل عراق
کے بعد سعد بن وقاص نے مدائن و دارالسلطنت کسری میں رہائش اختیار کی اور قصر امیر
کسری کو "دار الامارہ" قرار دیا، عربی سپاہ کا ایرانی پایہ تخت میں قیام فاروق اعظم کو ناگوار
گذا، ایرانی تمدن کے اثر سے عربی بچ نہ سکتے تھے اور ان میں آرام طلبی کے آثار نمایاں
ہونے لگے تھے، آب و ہوا کی ناموافق بھی ایک اچھا بہانہ تھا، ریگستان عرب کے
باشندے ایسے شہروں میں طاق و توانائی اور دلولوں کو برقرار نہ رکھ سکتے تھے جو فردوس
میں تھے، تصور نے دنوں میں ان کا رنگ رو متغیر ہو گیا۔ فاروق اعظم نے سعد کو لکھا کہ
چھاننی کے لئے ایسی جگہ تلاش کر دو جو دینائے فرات کے غریب کنارہ پر ہو اور دارالخلافت اور
اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سلیمان بن ربیعہ الباہلی اور حذیفہ بن محسن نے ہیرہ اور
فرات کے درمیان وہ قطعہ زمین انتخاب کیا جسے کوفہ کہتے ہیں، حضرت عمر عقیقہ مکان کی تعمیر
کی اجازت نہیں دیتے تھے، ابتداء میں یہاں بانسوں کی جھونپڑیاں تھیں ایک دفنہ آگ
لگ گئی، تو خشک خام کی بجائے دی، اس پر بھی یہ قیاس کہ مکان بیک منزل ہوں اور
صرف تین کمرے ہوں، یہ زمانہ گزر گیا، متمدن دنیا سے عرب روشناس ہوئے تو حضرت
عثمان کے عہد میں کوفہ ایک بار دلق شہر بن گیا،

بمخاطب تمدن اور دارالخلافت کوفہ کو مدینہ پر ترجیح تھی، ممکن ہے کہ حضرت علیؑ کو
انتقال دارالخلافت کے وقت بھی یہ امر مد نظر ہو لیکن واقعات شاہد ہیں کہ اہل حجاز پر
آپ کو اطمینان نہ تھا اور وہ بھی آپ سے کچھ رہے۔ کوفہ میں تو مسلم مجوسوں کا مجموعہ ہو رہا
تھا، آریہ قوم کی ذہنیت میں شخصیت پرستی نمایاں ہے وہ اپنی وفاداری اور جانثاری کا یقین
دلاتے رہے، مدینہ اور کوفہ ایک دوسرے کے حریف شہر بن گئے۔ اور حضرت علیؑ اور اہل
حجاز میں بے بد بڑھتا گیا، اور عصر ہاتھ سے نکل گیا، محمد بن صدیق اکبر جو حضرت علیؑ کے ہونے والے

قتل عثمان کی سازش کا سرغنہ تھا، مصر میں حضرت علی کی طرف سے عامل تھا۔ عمرو بن
عاص کے مقابلہ میں مارا گیا۔ شام اور مصر میں چولی دامن کا ساتھ ہے الحاق مصر سے
پر معاویہ کو تقویت ہوگئی،

علامہ ابن خلدون کی یہ رائے ہے کہ امیر معاویہ کی ریاست اور حکومت کو روز افزوں
تی اس لئے ہوتی گئی، امد بلا استقلال اس لئے قائم ہوگئی کہ وہ ایسا فیاض شخص تھا کہ
زمانہ میں اس کا نظیر نہ تھا۔ روسا عرب اور سرداران مصر کے ساتھ کریمانہ سلوک کرتا۔
ان کی سخت اور بعض اوقات ناشائستہ باتوں کو برداشت کرتا، اور اس اخلاق حسنہ کے ساتھ
اس آنا کہ وہ گردیدہ ہو جاتے، اس کے تحمل اور بردباری کی کوئی حد نہ تھی، یہی سبب تھا کہ
ان کی حکومت اور ریاست کو کسی قسم کی لغزش نہ ہوئی، طبری لکھتا ہے کہ ایک دن عمرو بن
عاص عمائدین مصر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر قوی تر اور نرم تر کوئی شخص
میں دیکھا۔ جہات ملکی کو ناخن تدبیر سے اس طرح سلجھا تا کہ اس کی رائے کبھی خطا نہ گئی،
پندرہ میں خوارج کے خروج اور قیصر کی طرف سے شام پر حملہ اور حضرت علی کی لشکر کشی کی
تموش خبریں آتی رہیں، مگر اس کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نمایاں نہ ہوئے، مجھے
غائب کرتے ہوئے کہا کہ قیصر ہاتھ پاؤں ضرور مائے گا اگر حملہ آور بھی ہو تو صلح پر رضامند
ہو جائے گا، مجھے ذرا علی کی طرف سے فرصت ملے جس سے میں نے خون عثمان کا مطالبہ
لنا ہے تو قیصر کی بھی خبر لے لوں گا! حاتم جس کی فیاضی عرب میں ضرب المثل ہے اس
کے بیٹے عدی نے حضرت عثمان سے انحراف کرتے ہوئے حضرت علی کا ساتھ دیا، عدی بڑے
پایہ کے اصحابی تھے، ایک دفعہ حضرت عمرؓ سے ملنے آئے کچھ بے التفاتی محسوس کی تو کہا۔
"امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟" کہا کہ "واللہ خوب پہچانا، تم کو اللہ نے حسن
معرفت کے ساتھ مشرف کیا، تم اس وقت اسلام لائے، جب لوگوں نے کفر کیا، تم نے
اس وقت اقرار کیا جب لوگوں نے انکار کیا، جب لوگوں نے بد عہدی کی تم نے دنیا کی ہمیشہ
خدمت ملت کے لئے پیش پیش تھے، جب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ واللہ میں تم کو خوب
پہچانتا ہوں! عدی نے کہا کہ "کافی ہے مجھ کو اسے امیر المؤمنین، مجھ کو کافی ہے۔" عدی

فتح عراق اور جنگ کا وسیعہ اور مہران اور جسر کی ٹرائیوں میں ابو عبیدہ سپہ سالار افواج
 اسلام کے ہمراہ رہے۔ خالد بن ولید کے ساتھ بھی اکثر فتوحات میں شریک تھے مگر چاندش
 قتل عثمان میں حصہ نہیں لیا، مگر حضرت علی کے ہوا خواہوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان
 کی شہادت پر کہا کہ قتل عثمان کا فدیہ ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا جائے گا۔ واقعہ جل میں ایک
 آنکھ پھوٹ گئی، اور ایک بیٹا مہد نامی بھی کام آیا، دوسرا بیٹا خار بیوں کے مقابلہ میں
 مارا گیا، ابو ظریف نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا کہ عثمان کی شہادت کا فدیہ ایک بکری کا بچہ ہو
 گیا، جواب دیا "واللہ فدیۃ بدمعظم"۔ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔
 اور جب تک خلافت چہارم کا خاتمہ نہ ہوا امیر معاویہ کی مخالفت پر تلے رہے، تباہی بھی حضرت
 علی کی زندگی تک ہوا خواہوں میں رہا۔ شہادت کے بعد امیر معاویہ سے آملاء معاہدے نے
 عامل عراق مقرر کر دیا اب چار عقلیں ایک جگہ جمع ہو گئیں، عدی کے چچا کے لڑکے عبد اللہ
 بن خلیفہ طائی نے کوفہ میں جہاں عدی نے رہائش اختیار کی تھی شورش برپا کی۔ زیاد نے گنتاری
 کا حکم دیا تو عدی نے پناہ دی، زیاد نے مطالبہ کیا تو صاف انکار کر دیا، زیاد نے عدی کو
 قید خانہ میں ڈال دیا تو لوگوں میں ناراضگی پھیل گئی، ایک وفد زیاد کی خدمت میں آیا اور کہا
 کہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تو یہ سلوک اصحاب رسول اللہ اور سردار قبیلہ سے کرتے
 زیاد نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ چھوڑ دیا، عدی امیر معاویہ سے لے آپ بہت عزت اور
 احترام سے پیش آئے چند روز کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ دوست بن گئے،

عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے علاقے بھائی ہیں ایک وفد مقروض ہو گئے
 تو حضرت علی کو کہا کہ چالیس ہزار درم قرض ادا کر دیجئے، حضرت علی نے کہا کہ اگر تم قبیلہ کو
 مجھے چار ہزار وظیفہ لٹا ہے، لے لو نذر ہے، کہا کہ "الغافلین" (بے خبروں کے تحت بیت المال
 سے دے سکتے ہو۔ حضرت علی نے انکار کیا تو کہا کہ پھر معاویہ کے پاس جانے کی اجازت دیجئے
 کہا کہ اختیار ہے، آپ معاویہ کے پاس آئے، قرض بھی ادا ہو گیا اور وظیفہ بھی مقرر ہو گیا،
 ایک دن معاویہ نے کہا کہ اگر عقیل مجھے اپنے بھائی سے بہتر نہ جانتے تو میرے پاس نہ آتے،
 کہا کہ میرا بھائی دین میں تم سے بہتر ہے اور تم دنیا میں میرے واسطے بہتر ہو، دنیا تو تمہارے

تہا سے ذریعہ سے بہتر ہو گئی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بخیر کرے گا، معاویہ اور عقیل
 میں دوستی بے تکلفی کی حد تک پہنچ گئی تھی، ایک دن معاویہ نے حاضرین کو مخاطب کرتے
 ہوئے کہا کہ "یہ عقیل ہیں ان کے چچا ابو لہب تھے" عقیل نے کہا کہ "یہ معاویہ ہیں ان کی
 خالہ صالۃ العطب تھی"۔


ایسی مثالیں بہت ہیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد تمام اصحاب معاویہ سے
 اٹلے، کچھ شک نہیں کہ حضرت علی کی ذات ستودہ صفات میں جو خوبیاں ملحوظ دیکھیں
 وہ معاویہ میں نسبتاً کم تھیں مگر انتظام سلطنت کے لئے جس بات کی ضرورت تھی اور
 بالخصوص ضرورت وقت کا احساس، اس کا علم معاویہ کو بہتر تھا، شہادت علی کے بعد
 کو فیوں نے حضرت حسن کی خلافت پر اتفاق کیا، لیکن آپ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار
 ہو گئے، فرمایا: "اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے نبی کے ذریعہ ہدایت فرمائی اور میرے
 ذریعہ تمہاری جانوں کی حفاظت فرمائی، یاد رکھو عقلمندی تقویٰ ہے اور نادانی بدکاری، یہ
 معاملہ جو میرے اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کا باعث ہوا ہمیں دونوں کے
 حقوق کے متعلق ہے، یا وہ یا میں زیادہ خلافت کا حق دار ہوں، اگر میرا حق ہے تو میں
 نے اللہ عزوجل کے بندگان اور رسول کریم کی امت کی اصلاح اور تمہاری جانوں کی حفاظت
 کے لئے ترک کر دیا"۔

۱۰۶

Handwritten notes and signatures in Urdu script, including the name "عمر بن عبدالمطلب" and other illegible text.

شجره خاندان اُمییه

عبدمناف



خلافتِ امویہ

۳۱ھ میں امیر معاویہ بالاتفاق اہل اسلام تمام دنیا کے اسلام پر خلیفہ تسلیم کیا گیا اس لئے اس سال کا نام سالِ جماعت رکھا گیا، اس وقت تک فتوحاتِ اسلامی کا سلسلہ ایک طرف ترکستان تک اور دوسری طرف شمالی افریقہ کی بعض ریاستوں تک پہنچ چکا تھا، اگر تنازعہ خلافت میں مسلمان نہ بٹتے تو سلطنتِ اسلامیہ بحرِ اوقیانوس سے بحرِ الکاہل تک پھیل گئی ہوتی، ایشائے کوچک بھی تک رومی سلطنت کے تحت تھا، اور کوہ لبنان کا سلسلہ دونوں سلطنتوں کے درمیان حدِ فاصل تھا۔

عمر بن العاص نے جب خلافتِ فاطمہ کا عظیم میں مصیر فتح کیا تو اس جگہ "فسطاط" کی بنیاد رکھی، یہ واقعہ ۱۸ھ کا ہے، ہمارے زمانہ میں اس کا موقع محلِ شہر قاہرہ اور مصر کہنے کے درمیان تصور کرنا چاہیے، اس کے آثار میں سے "جامعہ عمر" اور "مقطع" تک قاہرہ کے گز کھنڈر اور دیرانے ہیں، خلیفہ سوم نے عمر بن العاص کی جگہ عبداللہ بن سعد کو عاملِ مصر مقرر کیا، مگر امیر معاویہ نے پھر سے عمر بن العاص کو عامل مقرر کیا، اس وقت "فسطاط" تمام شمالی افریقہ کی چھاؤنی تھی، عربی مورخین نے مصر کے علاوہ تمام شمالی افریقہ کو "افریقہ" ہی سے تعبیر کیا ہے اور اسے ایک علیحدہ ولایت قرار دے کر عاملِ مصر کے ماتحت سمجھا ہے، عمر بن العاص جب دیکارہ عامل مقرر ہوا، تو اس نے فتحِ افریقہ کا مقصد ارادہ کر لیا، اس سے پیشتر خلافتِ عثمانی میں عبداللہ بن سعد نے کچھ پیش قدمی کی تھی لیکن تنازعاتِ خلافت نے روک دی، عمر بن العاص نے اپنے غاڑا و بھائی عقبہ بن عامر

کو افریقہ کا والی مقرر کیا، شمالی افریقہ میں تاحال رومیوں ہی کا قبضہ تھا، یہاں کے لوگ بالخصوص قارتہیج (قریب حدتہ) رومی مظالم سے تنگ آچکے تھے، ان ہی لوگوں نے مسلمانوں کو دعوت دی جب مسلمانوں نے تیس ہزار رومیوں کو شکست فاش دے کر ان کو استبداد سے نجات دلائی، تو یہاں کے لوگوں نے بہ طیب خاطر اسلام قبول کیا، اب بربری ستیوں میں اشاعت اسلام کا آغاز ہو گیا، عقبہ نے اس مقام پر جیسے قیران کہتے ہیں، فوجی چھاؤنی قائم کی، یہ جگہ بالکل ویران تھی، اور اس جگہ شہرات الارض ہی نظر آتے تھے، کہتے ہیں کہ جب زمین کو صاف کر رہے تھے، تو اس جگہ کسی پرانے شہر کے آثار بھی پائے گئے، آج علمی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ شمالی افریقہ میں فنیقی بستیاں تھیں، اس لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ اہل فنیقہ کی اولاد عرب ہی تھے،

عقبہ دس ہزار شاہی جمعیت کے ساتھ شہر کے بعد شہر مسخر کرتا بڑھتا گیا، بربری فوجی بھی شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ عقبہ بگردقیانوس کے ساحل تک پہنچ گیا۔ سمندر کے پانیوں نے پیش قدمی روک دی تو کہا "یا اللہ اگر یہ بحر میں راستہ میں حاصل نہ ہوتا، تو اعلیٰ کلمتہ الحق کے لئے بڑھتا جاتا، اور مغرب کی نامعلوم لیا سٹول میں تیری توحید کی منادی کرتا اور ان مشرکوں کو جو تیری عبادت میں شریک پیدا کرتے ہیں راہ راست پر لاتا۔"

۵۔ فنیقی عرب تھے "ہیردوٹس" لکھتا ہے، کہ ارض حجاز سے نکل کر سواحل شام پر آباد ہو گئے تھے، "رائسن" (Rassimon) اپنی کتاب "فنیقہ" میں لکھتا ہے کہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، حروف ابجد یونانیوں کو انہوں نے سکھائے تھے، فنیقی شہزادی "عربی" کے نام پر براعظم یورپا موسوم ہوا، جس کا عقیدہ یونانی رب الارباب ضیاء (صفحہ ۷) سے ہوا جسے بحیرہ روم کہتے ہیں، ان ایام میں فنیقی جمیل سے موسوم تھی، تمام شمالی افریقہ ہسپانیہ اور جزیرہ صقلیہ وغیرہ ان کے قبضہ میں تھا، روم فارالسلطنت اٹلی سے ایک صدی پیشتر قارتہیج رقبہ حدتہ ان کی نوآبادی تھی، جسے کہ جزائر برطانیہ کو بھی ان ہی لوگوں نے مستعد و بندہ روٹناس کرایا، یورپ کی کسی زبان میں بقول اسحاق ڈیورڈ (Isaac Dore) یہ لفظ نہیں ملتا غالباً یہ لفظ فنیقی ہے،

واقعات اور حالات جو اموی خلافت کے دور میں رونما ہوئے، ہم اپنی کتاب "مشرق"

میں بیان کر چکے ہیں اس لئے ان اوراق پر اعادہ کی ضرورت نہیں، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سوامیہ نے کس حد تک مقصدِ خلافت کی تکمیل کی۔

ایک انگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ بنی امیہ کی خلافت کے مد نظر صرف دو باتیں تھیں ایک اشاعتِ اسلام اور دوسری عربی کی ترقی۔ یہ خلافت ختم ہوئی تو دونوں اس کے ساتھ ختم ہو گئیں، اس کی تائید میں تاریخی واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نا قابل انکار حقیقت ہے۔ کہ دنیا، اسلام پر بنی امیہ کا بڑا احسان ہے کہ جو مالک ان کے قبضہ میں آئے، اسوائے ہسپانیہ ایک طرف چین کی حدود سے اور دوسری طرف بحرِ ادیانس سے ملتے ہیں، ان میں اب بھی خالص مسلم آبادی ہے۔ افغانستان اور بلوچستان اور رادی سندھ میں اسلام کی اشاعت بنو امیہ نے کی، ان کے جانشین بنو ہاشم ان کی فتوحات پر ایک ایچ زمین اضافہ نہ کر سکے اور اشاعتِ اسلام کی طرف توان کی توجہ کبھی نہیں ہوئی، انہیں لکھتا ہے کہ مقامِ حیرت یہ نہیں کہ بنو امیہ نے نہایت مہرمت کے ساتھ ایک دنیا کو مسخر کر لیا۔ ان سے پیشتر سکندر اعظم وغیرہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اسلام کا قبضہ ان کے منقوعہ ملک پر بالاستقلال ہو گیا۔

اور آج تک ہے، ڈاکٹر ڈیپیر اپنی کتاب (Intellectual development)

- Europe) میں لکھتا ہے کہ اگرچہ مسیحی تعصب نے عربوں کے احسانات کو ہر ممکن ذرائع سے فراموش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا کیا جواب ہے کہ ابھی تک عربی زبان کے اکثر الفاظ بالخصوص علمی اصطلاحات کا قبضہ یورپ کی زبانوں کے ہے۔ اس موضوع پر ہم نے اپنی کتاب "مشاہیر اسلام" میں مختصر مگر کافی بحث کی ہے، بنو امیہ نے جو کچھ ہسپانیہ میں کام کیا اور اس وقت جب کہ یورپ پر جہالت کی تیر تار گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔

تو علم و حکمت سے یورپ کو روشنی کر دیا۔ اگر ان واقعات کا مطالعہ کرنا ہو تو ناضل یسبان کی کتاب "تمدن عرب" کا مطالعہ کرو۔ "بین پول" کی کتاب (Saracenic)

پڑھو۔ موزیہن کا یہ سچہ فیصلہ ہے کہ ہسپانیہ کو وہ دن دیکھتے ہیں نہایت ہونے جو یورپ کے دورِ حکومت کی امتیاز ہی خوبی ہے،

بنو امیہ کی خلافت خالص عربی حکومت تھی، ہم لکھ چکے ہیں کہ خلافت کے مقصد کی تکمیل بھی اہل عرب کے ذریعہ ممکن تھی اور سچ تو یہ ہے کہ ایک سو سال کے قبیل عرصہ میں ان لوگوں نے جس حد تک تکمیل کی حیرت انگیز تاریخی واقعہ ہے۔

کیا یہ کچھ کم تعجب کی بات نہیں کہ غیر مسلم محققین تو بنو امیہ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں مگر آج دنیا کے اسلام میں وہ بدنام ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کا مقصد صرف تمکین دین ہے، اسلام نے بلا لحاظ

اختلاف و الوان ہر ایک شخص کو جو اسے قبول کرے "اخوت" کے آغوش میں لے لیا اس لئے

اہل اسلام کی قومیت صرف اسلام سے وابستہ ہے، ان میں نہ نوسلی امتیازات ہیں جو غیر

مسلم اقوام کی قومیت کا جزو لاینفک ہیں، اور نہ احساس اختلاف الوان و لسان ہے جس

میں قوموں کو ایک دوسرے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لئے اگر کوئی مسلمان دین اسلام

سے پھر جائے تو وہ اس اخوت کے خون سے محروم ہو جائے گا جو نظام اسلامی میں رہ کر

ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔

بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے اس سے زیادہ مؤثر حربہ دنیا و اسلام میں

اور کوئی نہ تھا کہ ان کی نسبت مشہور کیا جائے کہ وہ فاسق و فاجر تھے اور کبھی یہ طبع خاطر

اسلام قبول نہ کیا، وہ رسول کریم کے ہمیشہ مخالف رہے، فتح مکہ کے بعد بعض ذاتی مفاد

کے لئے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے عروج میں اپنے ہی اقتدار کا ایک ذریعہ ان کو نظر آیا،

در اصل وہ بنو ہاشم اور رسول ہاشمی سے متنفر تھے، اور جب خلافت پر صحاب رسول اللہ

متہمکن ہوئے تو وہ مائے حسد کے جل بھن گئے، اور اسی حاسدانہ نظر سے امکان

مشوری کو بھی دیکھتے رہے، جو خلافت اول و دوم میں کار و بار سلطنت اپنے بے غرضانہ

مشورہ سے چلاتے رہے، بدوی قبائل جن سے اسی قرابت تھی ان کی سازش سے بسہولیت

ان سے مل گئے جس کا خیال انہوں نے پھیلا رکھا تھا، اور اس طرح عمر کے بعد علی کو خلافت

سے محروم رکھا، اور عثمان ابن عفان جو اموی تھا، غلبہ فتحیب ہو گیا، اس انتخاب نے

آخر کار اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ الفاظ سید امیر علی کی کتاب "پہلے مشرک" سے

حکومت شخصی ہو یا جمہوری مقصد اتنا ہی ہے کہ دین کو استقلال ہو، اور اس کی اطاعت میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس مقصد کی تکمیل بنی امید نے کی۔

یہ الزام کہ اموی خلفاء فاسق و فاجر تھے ایک سیاسی ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم اور ان کے ہوا خواہوں نے کھڑا کیا اور اس سیاسی منصوبہ میں وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے۔ یزید ابن معاویہ پر یہ الزام شد و مد سے لگایا جاتا ہے حالانکہ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی اور نبوت کا ادب تازہ تھا، بات یہی ہے کہ بنو امیہ کے جانشین بنو عباس ہاشمی ہوئے، اور انہوں نے دل کھول کر خلفاء بنو امیہ کی مخالفت کی۔ اس مقام پر چند تاریخی واقعات کا حوالہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن میں ان مذموم سیاسی منصوبہ کی آمیزش ہے ان کو ایک اور ہی رنگ میں نمایاں کیا۔

امیر معاویہ کے زمانہ میں ۶۶۰ء سے ۶۸۰ء تک رومیوں نے مسلسل چھڑ چھاپڑ جاری رکھی، اس لئے امیر معاویہ نے مناسب خیال کیا کہ قسطنطینیہ پر حملہ کیا جائے۔ اس میں ایک لشکر جرار سفیان بن عوف کے تحت روانہ کیا، اس ہم میں ابن عباس، ابن عامر ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، یہ ہم ناکامیاب رہی اور مسلمانوں کو بہت مصائب کا سامنا ہوا۔ روایت ہے کہ اس وقت یزید بن معاویہ "ویر مران" میں قالین کے فرش پر اپنی زوجہ کو پہلو میں لئے واو عیش دے رہا تھا، اور یہ اشعار پڑھتا تھا:

مان امالی بھالقت جوعمہ

بالفرقہ و نینہ من جعی و من بتوم

اذا انکات علی الامط ما تفعأ

بما یرمران و عندی امر کلثوم

یہ روایت اس لئے سیاسی اختراع ہے کہ یزید عرب کا ایک بہادر جوان والدِ سیاسی تھا

اور اس ہم میں شامل تھا، قسطنطینیہ کی دیواروں کے نیچے جب مجاہدین واومر دانگی دے

دے تھے عبدالعزیز بن زراة الکلابی کام آئے، امیر معاویہ کو اس کی شہادت کی اطلاع

ہوئی تو اس کے باپ کو کہا "واللہ ہلک فنی العرب" خدا کی قسم عرب کا ایک جوان مارا گیا، پوچھا میرا بیٹا یا تیرا، جواب دیا کہ تیرا بیٹا۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے، ابو ایوب انصاری بھی اسی جگہ شہید اور مدفون ہوئے، ان کی قبر پر مسلمان فاتحہ خوانی کے لئے جایا کرتے، یزید کا دورِ خلافت تھا، قسطنطین نے سفیر اسلام کو کہا کہ یہ قبر مسلمانوں کو جاسوسی کا بہانہ مل گئی ہے، میں سے اکھڑا دوں گا، یزید کو اطلاع ہوئی تو رومی سفیر کو سر دربار بلا کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بادشاہ نہایت احمق ہے، وہ تو ایک قبر ہے اور یہاں شام میں تمہارے پیشوا یا ان دین کے ہزاروں نمازیں، اور بے شمار مقامات مقدسہ ہیں، اگر اس نے ایسی ناشائستہ حرکت کی تو میں سب کو اکھڑا دوں گا، بنی امیہ کے بعد یہ قبر کس میسر کی حالت میں پڑی رہی اور رفتہ رفتہ اس کے آثار بھی مٹ گئے جب سلطان محمد ثانی نے قسطنطینہ فتح کیا، تو ایک صوفی بزرگ شمس الدین نے پتہ بتایا، اس پر ایک عالیشان عمارت ہے اور سلطان روم کی تخت نشینی کی رسم اسی جگہ ادا ہوتی رہی، ولید بن یزید ۱۲۵ھ میں ہشام بن عبدالملک کے بعد تختِ خلافت پر متمکن ہوا اکثر افعال ناپسندیدہ اور حرکات ناشائستہ اس سے منسوب ہیں، اس کے فسق و فجور اور خصائل ذمبیہ اور عاداتِ زویلہ کا تذکرہ کم و بیش ہر ایک مؤرخ نے کیا ہے، مگر بعض نے انکا بھی کیا ہے، کیونکہ اس کے دشمن بہت تھے، روایت ہے کہ ایک دفعہ ولید تلاوتِ قرآن کر رہا تھا، آیہ "وخاب کل جبار عنید" پڑھی تو جھٹلا اٹھا، قرآن چاک کر دیا، اور یہ شعر موزوں کیا۔

تو مجھے جبار عنید سے دہم کتابے	تھداونی بجبار عنید
آج میں جبار عنید ہوں	قہانا ذاک جبار عنید
جب آدھر کے دن اپنے رب کے پاس جائے گا	اذا ما جئت ربک یوم حشر
تو کہنا ہے میرے رب مجھے ولید نے پھاڑ ڈالا	فقل یا رب منقنی الولید
خلفا، بنو امیہ کے فسق و فجور کو شہرت دینے کے لئے ایک آدھ شعر ضرور موزوں کیا	
جاتا، اس میں ایک کشش ہوتی ہے، حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور لوگ ترتم سے لطف اندوز	

بھی ہوتے ہیں، عوام کا لانا عام کو اتنا سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ اس جبار عبید کا تلامذہ
قرآن مجید سے کیا کام اور حشر و نشر کا کیا مذکور ہے، ایک دفعہ خلیفہ ہمدی عباسی کے
دربار میں اسی ولید کا ذکر آگیا، ہمدی نے کہا وہ تو فاسق تھا، ابن علانہ حاضر تھا، عرض
کیا، امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے، وہ کبھی کسی فاسق کو خلافت نبوت اور
امتِ مرجمہ کی حکومت عطا نہ فرمائے گا، مجھ سے ایک شخص نے جو ولید کا ندیم تھا بیان
کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ولید شانہ لباس اتار کر سفید صاف ستھرے کپڑے پہنتا،
نہایت اچھی طرح وضو کرتا اور نماز خشوع خصوصاً سے ادا کرتا، کیا ایک زندیق اور فاسق
سے یہ امید ہو سکتی ہے؟ ہمدی نے کہا کہ "اے ابن علانہ اللہ تعالیٰ تجھے جزا خیر دے،
اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ولید کے دشمنوں نے اس پر یہ بہتان باندھے، اس کے اپنے
قریبی رشتہ داروں نے اسے بدنام کیا ولید کے اپنے عم زاد بھائی سلیمان بن ہشام کو گرفتار
کر کے درے لگوائے اور سردار واطی بھی منڈوا کر جلا وطن کیا، یزید بن ہشام کو قید میں رکھا
آخر ان لوگوں نے سازش سے ولید اہل کو برا بھول سے متہم کیا، بغاوت کی اور قتل کیا،
ایک دفعہ عمر بن یزید کا لڑکا یعنی ولید کے برادر زادہ کا بیٹا ہاندل الرشید کے پاس تنگدستی
کی حالت میں آیا، رشید نے حسب سبب پوچھا، تو کہا کہ قرشی ہوں، رشید نے کہا کہ مفصل
بتاؤ کہ کس قبیلہ سے ہو، ابن عمر خاموش رہا۔ رشید نے کہا کہ میں تم کو اس دیتا ہوں خواہ تم
مردان ہی کیوں نہ ہو۔ کہا کہ میں عمر بن یزید کا بیٹا ہوں، رشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ولید پر
رحم فرمائے، اور یزید ناقص پر لعنت، کیونکہ اس نے ایک ایسے خلیفہ کو قتل کیا جس پر امت
مرجمہ کا اتفاق ہو چکا تھا،

جنگ صفین، یزید کی دلی عہدی، شہادت امام حسین ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق
امیر معاویہ اور آپ کے جانشین کے عہد حکومت سے ہے اور اس زیادہ تر بنو امیہ کی بدنامی
کے وجوہ ہیں، ہم ان پر مختصر جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے بحث کرتے ہیں،
شہادت عثمان کا توجہ جنگ صفین ایک ناگزیر واقعہ ہے حضرت علی پر یہ الزام کہ اس
سازش میں حضرت علی کا ہاتھ تھا صحیح ہو یا غلط بحث طلب امر نہیں، لیکن مخالف جماعت کے

اس یہ باندہ کرنے کے معقول ذریعہ تھے کہ حضرت علی اس سازش میں شریک تھے آپ کا خودی
تقریباً بیست خلیفہ اور ان لوگوں کو جو سازش کے سرغنہ تھے اعلیٰ عہدوں پر ممتاز کرنا یعنی
نہیں، نیز بدلی دلی عہدی کے بارہ میں مختلف روایات ہیں، خواہ شفقت پدی یا مسلمانوں
میں خانہ جنگی کا خوف یا نیز بدلی کی ذاتی قابلیت یا کوئی اور خیال محرک ہو، بہت طلب امور
نہیں ہیں، اختلاف یا وصیت یا شوریٰ کے طریقہ انتخاب سے انحراف جس میں پہلے ہی جتنا
ہے، کوئی وجہ الزام نہیں، اس زمانہ کے ذہنی اور خارجی حالات کا جائزہ لینا چاہیے جس نے
بنی امیہ کو کامیاب بنایا، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب خلیفہ کو وصیت کا بھی اختیار ہے
تو معاویہ کس کے حق میں وصیت کرتے، آئندہ واقعات نے بتا دیا کہ اس وقت حسین ابن
علی اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ہی ایسے لوگ تھے جو دعویٰ خلافت ہو سکتے تھے
عبداللہ بن عمر تو ایک زائد اور عابد آدمی تھا، اس نے کبھی خلافت کی خواہش نہ کی۔
دوست الخبدال پر جب حکمین نے خلافت پیش کی تو انکار کر دیا، باقی دونوں ہاتھی تھے۔
اور دونوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں دارالخلافت قائم کیا
اور رٹے لگے کامیاب نہ ہوئے، حسین ابن علی کو کوفیوں نے دعوت دی، عبداللہ
بن عمر اور دیگر ہوا خواہوں نے مشورہ دیا کہ اول تو جماعت میں اختلاف اور تفرقہ کا باعث
نہ ہو، دوسرے کوئی بے وقاہ میں آپ کے بھائی اور باپ سے کیا سلوک کیا کہ ان سے وفا
کی امید کی جائے، سید امیر علی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ صرف عبداللہ بن زبیر نے
یہ مشورہ دیا کہ ضرور کوفیوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور یہ مشورہ اس لئے دیا، کہ
خود خلافت کا ارادہ رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ حسین درمیان سے ہٹ جائے، میر معاویہ
سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے حق میں کیوں وصیت کرتے ہیں تو کہا کہ اب لوڈ سے ہی رہ
گئے ہیں اور ان میں میرا بیٹا زیادہ تر لائق ہے، معاویہ بہت دور اندیش سیاسی مدبر تھا، وہ
جانتا تھا کہ جس طرح بنو ہاشم بنی امیہ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح بنو امیہ
بھی نہ کریں گے اور خانہ جنگی ناگزیر ہے، بنو امیہ کا پشت و پناہ تمام عرب تھا اور یہہ
خالص عربی حکومت تھی،

او دستبن لال محمد بن ا حضرت عثمان کی شہادت پر دین
 سنی - حضرت عثمان کے نحفہ بچے اور کنبہ کے سارے افراد مذکور
 کے بار و مددگار نہیں ہارے گئے - حضرت عثمان کی بیویاں
 اور زبان صدیق اکبر کی طرح امیر معاویہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر اپنے جانشین کا تقریباً اپنی زندگی
 خانہ میں نہ کیا تو تمام دنیا اسلام میں خانہ جنگی کا آغاز ہو جائے گا۔ عبد اللہ بن زبیر نے
 بے پردہ سختی سے اعتراض کیا کہ صدیق اکبر نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو آپ کا شہ دار
 خالی اور نڈھال تھا معاویہ نے جواب دیا کہ عمر سا شخص لاؤ۔ میں اُسی کے حق میں وصیت کرتا ہوں، کہا
 کہ ہر اردو کہ اچھا عمر کی سنت پر عمل کر۔ آپ نے شوری کے سپرد انتخاب کیا، جواب دیا کہ ایسے
 بیل نہیں چھ آدمی ہی پیدا کر۔ میں بھی ان ہی کے سپرد یہ کام کروں گا۔ ان چھ آدمیوں میں سے
 جلالی کسی ایک شخص نے آخر خلیفہ مقرر ہونا تھا، اور ہوا۔ تم نے اس منتخب شدہ شخص کے ساتھ
 کدو سے سب کیا سلوک کیا تم چند لوٹے رہ گئے ہو۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم میں سے میرا اثر کا زیادہ
 لائق ہے اور اسی پر دنیا کے اسلام کا اتفاق ہو گا، اگرچہ معاویہ نے بہت کوشش کی
 کی شہادت کہ ابن زبیر اور ابن علی اور ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابوبکر بیعت یزید پر رضامند ہو جائیں
 ان کے اہل گروہ ٹالتے ہی رہے، آخر الذکر وہ حضرات میں سے عبد الرحمن کا انتقال ۵۲ھ میں ہو چکا
 خانہ تھا۔ مگر عبد اللہ بن عمر تو ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ لا تفرقا جماعة المسلمین یہ ممکن ہے
 یا چھوڑو کہ آپ نے بیعت نہ کی ہو مگر آپ مخالف بھی نہ تھے۔

یزید کے بعد ان کا بیٹا معاویہ تین ماہ کے بعد خلافت سے دست کش ہو گیا، اکابر
 کا راجہ - کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے حکومت سے معذور سمجھو۔ میں چاہتا ہوں کہ سنت عمر پر
 اور مرد عمل کروں مگر آج ایسے چھ آدمی بھی نظر نہیں آتے اس لئے میں اب تمہیں ارباب شوری
 کہہ دیتا ہوں، جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لو۔
 حسین کو دنیا اور شوری اس اور حشر بن میں لگے ہوئے تھے، کہ کس کے ہاتھ میں عثمان خلافت
 یاد کرے دیں، عبد اللہ بن زبیر نے ارض حجاز میں اترسا ان میں عبد اللہ بن حازم نے کوذ میں مختار
 کو ذرہ تقفی نے خود مختار حکومتیں قائم کیں، نافع بن ارقم امیر خوارج نے سر اٹھایا، اہل شام اور
 کہیں تھے مسر نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ حضرت عثمان خلیفہ سوم کے چچا کے بیٹے
 اور خواجہ تھے، اور خلافت امویہ میں مروان اول کے نام سے مشہور ہے، چند سال تک ہنگامہ کا زار
 امیر من مختلف مقامات پر رہا۔ نیک نیت معاویہ بن یزید کی ایک سیاسی غلطی کا حیا زہ تمام
 بیز عروبہ کو کہنا پڑا۔
 شاہ است حسین پادشاہ است حسین
 دین است حسین دین است حسین

ایسا نہیں۔ بلکہ جس چیز کو قنا دیا یا اور چھپایا جائے وہ اتنی ہی
 بفرتی ہے۔ دوسرے قائل ہمیشہ جرم کا انکار کرتا اور جرم کو چھپانے
 کی کوشش کرتا مگر عقولین مفلوم ہوتے ہیں وہ عاجز و پست ہوتے ہیں۔

دنیا اسلام کو بھگتنا پڑا، اور ہزاروں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ گیا، آخر ہوا یہ
 ہی کے حق میں برہان قاطع تلوار نے فیصلہ کر دیا،

شہادت امام حسین کا واقعہ تمام مورخین نے لکھا ہے، لیکن ابن خلدون جو ایک
 محقق مورخ ہے خاموش ہے، اس نے اس واقعہ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں لکھا،
 ہمارے زمانہ میں بعض محققین نے اس واقعہ کا سیرے سے انکار کر دیا ہے، جو حضرات فلسفہ
 تاریخ سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ جس واقعہ کو غیر معمولی شہرت دی جائے اس کی تہ میں
 سیاسی اغراض ہوتی ہیں، جو عوام سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، اور ایسا واقعہ یا تو سیرے سے
 جھوٹے کا طور پر ہوتا ہے یا اس میں دو پہاڑیہ آب است و یک چمچہ دوغ، لیکن ہم فرض کر لیتے
 ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا، ہمید خاموشی سے حسین کو خراج کرنا نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر حسین

محمد کا
 کلمہ پڑھو
 والوں نے
 آل محمد
 پر تلخ بلی
 کیا۔ اور
 پھر اسکو
 چھپانے
 کی کوشش
 جباروں نے

انکار بیعت پر بھی اکتفا کرتے تو معاویہ کی طرح ہمید بھی طرح دیتا، ہمارے زمانہ میں وہ
 جس لعنت و ملامت کا نشانہ بنا ہوا ہے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ خلافت حسین اصل
 سے دست بردار ہو جاتا، اس کے بیٹے نے یہی سیاسی غلطی کی اور دنیا کے اسلام نے
 مزید ہے

دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، مزید کہ ہر ستاروں نے لاگو جن کے ذکر وہ دشمن
 حسرت کیا وجہ ہے کہ شہادت حسین کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے اور شہادت عثمان کو کچھ تباہ

نظر انداز کیا جاتا ہے اگر امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت علی آنحضرت کے داماد ہو گیا اور
 میں تو کیا ذی النورین کو یہ فخر حاصل نہیں، حضرت علی آنحضرت کے چچا کے بیٹے ہیں مگر اس راجح محارک
 قرابت کا لحاظ کریں وجہ انتخاب خلافت ہوتی تو یہ ضرور کیا جاتا جو کبھی نہیں کیا گیا۔ بات نور لند
 اصل میں یہ ہے کہ

عروس ملک کسے درکنار گیر وخت
 کہ بوسہ بر لب شمشیر اب دار زند

اس بہادر سپاہی نے اس کا تجربہ کیا، کامیاب نہ ہوا، مقابلہ تو دلِ ناتواں نے خوب کیا۔
 چند تاریخی واقعات "خلافت عباسیہ" کے تحت اس موضوع کی مزید تشریح کے
 لئے بیان کئے جائیں گے،

خلفاء بنی امیہ میں سے اٹھواں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان اول عمر ثانی
 دربار و در دست در دست بزرگ
 حقا کہ ہمارے ذالہ است حسین

سب سے پہلے معاویہ ہی نے حضرت علیؑ کو گالیوں نکلوانی

نہ دشتِ جباروں کو دیا۔ اور یہ کام بد جباروں

لعد میں کے قب سے مشہور ہے، کہ اس میں فاروقِ اعظم کے اوصاف پائے جاتے تھے خواہ
عمر بن عبد العزیز سر و ابدوں کو کہو کہ اپنے چند علما و ہما سے پاس بھجو، اگر ان کے دلائل و قیوع ہوئے تو ہم
تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ لڑائی بند ہو گئی، خوارج کی طرف سے عاصم اور چند دیگر
اشخاص مناظرہ کے لئے عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے، یہ مناظرہ جو خلیفہ کے دربار
میں ہوا نہ صرف خوارج کے عقائد پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ بنو امیہ پر لعنت ملامت کرنے

والوں کا بھی معقول جواب ہے، عمر بن عبد العزیز نے عاصم کو سوال کا حق پہلے دیا،

عاصم نے کہا کہ "آپ کے اوصاف حمیدہ اور خصائل پسندیدہ نے ہماری مشعل
طبایع کو سرد کر دیا ہے اور ابھی تک آپ کی امارت کے خلاف ہماری طرف سے کوئی
کوشش ظہور میں نہیں آئی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے خلافت کا اسحاق کس طرح پیدا
لوگوں کی رضامندی سے یا نہ دی۔"

عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا کہ نہ تو مجھے اس کی خواہش تھی اور نہ میں نے اسے بزور
حاصل کیا۔ ایک شخص نے میرے حق میں وصیت کی اور کسی شخص نے میری بیعت سے انکار نہیں
کیا چونکہ تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر ایک مومن مسلمان خلافت کا مستحق ہے، اور جس شخص کی
خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو وہی خلیفہ برحق ہے، اس لئے میری خلافت پر تمہیں
کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر خلافت کے لئے عدل شرط ہے اگر میں حق کا مخالف ہوں تو
میری اطاعت تم پر فرض نہیں،

عاصم نے کہا کہ "بیشک تم امیر عادل ہو اور عوام الناس نے تمہاری خلافت پر
اتفاق بھی کیا، لیکن تمہارے رشتہ دار جن کے افعال اور حرکات نے تم نے مخالفت کی ہے
اور انہیں ظلم سے تعبیر کرتے ہو اس لائق ہیں کہ تم ان سے بیزار ہو اور ان پر
لعنت بھجو کیونکہ تم ہدایت پر ہو اور وہ ضلالت پر قائم رہے۔"

عمر نے جواب دیا کہ "افسوس
خوارج کا مدعا تو صرف اللہ اور رسول کی
نوشنودی حاصل کرنا ہے مگر تم شایع حقیقت سے دور جا پڑے ہو، اللہ تعالیٰ نے

ی پر لعن کرنا مشروع نہیں کیا، اور نہ رسول کریم کو لعن مبیوث فرمایا، ابہرہ اسمیل اللہ نے کہا کہ "ومن عصائی فانک مغفور الرحیم" اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ہدی اللہ فیہم اذنتہ میں نے ان کے اعمال کو مظالم سے مرد تعبیر کیا ہے، پس اس قدر ان کی مذمت کافی ہے، اگر گنہگاروں پر لعنت واجب ہے تم حق بجانب ہو کہ فرعون پر لعنت کرو لیکن تم ایسا نہیں کرتے، اور وہ بدترین غلاموں میں اپنے رشتہ داروں پر کس طرح لعنت کر سکتا ہوں وہ صوم و صلوة کے پابند تھے، شیک ان کے بعض اعمال ظلم تھے، مگر وہ کافر نہیں تھے، رسول اللہ نے لوگوں کو یہ بیان شریعت کی طرف دعوت دی، جو اس پر عمل کرے گا، اس سے وہ عمل قبول کیا جائے گا۔ شخص کسی امر کا احداث کرے گا، اس پر حد جاری کی جائے گی،

عاصم نے کہا کہ "یہ سب کچھ سہی، مگر رسول اللہ نے لوگوں کو توحید اور اقرار بانزل علیہ کی بھی دعوت دی،"

عمر نے جواب دیا کہ "وہ کب توحید کے منکر تھے، سب موحد ہی تھے، انہوں نے کب کہا کہ سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کریں گے بلکہ کرتے رہے، جہاں تک کہ ہو سکا اس نے وہ کس طرح مورد لعن و لعن ہو سکتے ہیں،"

عاصم نے کہا کہ "بہر حال تم ان کے افعال کو مظالم سمجھتے ہو اس لئے ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کرو۔ اور ان کے احکام کو رد کرو۔"

عمر نے جواب دیا کہ تم ابو بکر اور عمر کو خلیفہ برحق یقین کرتے ہو، صدیق اکبر نے اہل روت سے جنگ کی اور ان کے عورتوں اور بچوں کو نوٹھی غلام بنا لیا، عمر نے خدیجہ لے کر یاہنا رکھ کر چھوڑ دیا، اور ابو بکر سے بیزاری ظاہر نہیں کی، اس کے بعد خلیفہ نے اور مثالیہ پیش کیں اور خود خوارج کے باہمی اختلافات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ "تم ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر نہیں کرتے اور مجھے کہتے ہو کہ اپنے خاندان والوں سے تبرا کروں حالانکہ دین ایک ہے، اللہ سے ڈرو اور مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود نہ بناؤ۔ بیشک رسول اللہ نے اس شخص کو اہن دی جس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اور اس کا مال خون حرم

فرمایا، تم ان ہی کلمہ گوئیوں کو قتل کرتے ہو۔ اور غیر مذہب والوں کو امن دیتے ہو۔ امید ان کے مال اور خون کو ناروا سمجھتے ہو،

ابن خلدون نے یہ مباحثہ مفصل لکھا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ عاصم نے خوارج کے عقائد سے توبہ کی، اور پھر لوٹ کر اپنے رفقاء کے پاس نہیں گیا، اس واقعہ کے چند روز بعد عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور خوارج سے پھر جنگ چھڑ گئی۔

ایک دفعہ عامل مصر نے لکھا کہ یہاں لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جزیرہ سے بچنا چاہتے ہیں اگر حکم ہو تو نختہ سے ان کا امتحان کر دوں، جواب میں لکھا کہ کم بخت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو جزیرہ وصول کرنے اور لوگوں کو عقون بنانے کے لئے مبعوث نہیں فرمایا، اگر تو نے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کی تو ایک غلام بھجوں گا جو تیرے حواس خمسہ درست کر دے گا،

کلیہ بنو امیہ کی خلافت کے دور میں مساجد کی تعمیر شروع ہوئی، اگرچہ مساجد ضرورت سے زیادہ نہ تھیں، مگر جو بھی تعمیر ہوئی وہ عربی فن عمارت کا نمونہ تھی "جامعہ دمشق" تو ایک زیارت گاہ تھی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے خیال کیا کہ مسجد میں سونے اور چاندی کی زنجیروں اور دیگر اشیاء بے مصرف ہیں ان کو اتہار کر میت المال میں داخل کرنا چاہیے، اتفاق سے قیصر روم کا ایک سفیر دمشق میں آیا وہں ہراہیوں کے ساتھ مسجد کو بھی دیکھنے گیا، صحن مسجد میں کھڑے ہو کر جب اپنے سامنے وہ دلکش نظارہ دیکھا جس کا ہم نے مذکور اپنی کتاب "دمشق" میں کیا ہے تو اس پر حیرت طاری ہو گئی، اس کے بعد رنگ رونق ہو گیا اور اپنے ہمارے اسول سے یونانی زبان میں کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ عربوں کی اذیت شام میں چند روزہ ہے لیکن یہاں تو انہوں نے اپنے استقلال کے سامان جمع کر رکھے ہیں، خلیفہ کے چند آدمی بھی سفر کے ہمراہ تھے جو یونانی زبان سے واقف تھے، خلیفہ کو سفیر کی گفتگو سے مطلع کیا تو کہا کہ بیشک یہ مسجد کفار کو غیظ میں لاتی ہے، اس کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دیا!

اموی خلافت کے دور دورہ میں ان عاملوں کی مجاہدانہ سرگرمی کا اگر تذکرہ کیا جائے جو مختلف ممالک مشرقی و مغربی میں متعین تھے تو ایک دستور کار ہے ان میں سے ایک حجاج بن یوسف

تقی کو ہم اس لئے منتخب کرتے ہیں کہ بقول شیخ سعدی اس کا ظلم ماتم کی سخاوت کی طرح مشہور ہے۔

حجاج بن یوسف تقی | ابتداء میں حجاج طائف میں معلم تھا، جو اس وقت مخزومہ کا تھا، باپ کا نام یوسف تھا، اس وقت روح بن زبیر کا وزیر عبد الملک تھا، ایک دن عبد الملک نے وزیر سے کہا کہ عسکری نظام میں خرابی واقع ہو رہی ہے، اور سپاہیوں میں جذبہ اطاعت کا فقدان ہے، کیا تمہارے علم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس خرابی کو دور کرے، وزیر نے کہا کہ حجاج بن یوسف اس وقت حجاج وزیر کی پولیس کا افسر تھا، اور اپنی قابلیت سے اس حکمہ کا انتظام خاطر خواہ کر رہا تھا۔ عبد الملک نے حجاج کو اس خدمت پر مامور کیا کہ خلیفہ اور وزیر کی محافظت کا بھی انتظام مناسب کر دے، ایک دن دیکھا کہ روانگی کا حکم تول چکا ہے مگر وزیر کے بے فکرے آدمی کچھ تو اہل و شرب میں لور کچھ خوش گپی میں مصروف ہیں پوچھا کہ ابھی تک تم نے تیسری سفر بھی نہیں کی، جواب گستاخانہ ملا، اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے چابکوں سے ان کو خوب پھینکا اور کچھ خیمے بھی جلا دیئے، اس کی شکایت وزیر کے پاس بھی ہوئی، وزیر نے خلیفہ سے لگا دی، خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ آدمی منتظم معلوم ہوتا ہے اور تم ہی نے اس کی قابلیت انتظام کی تعریف کی تھی، اور اب شکایت کرتے ہو۔ اس لئے کہ تمہاری عزت نفس کو شمس لگی ہے، بلبلی ہوئی تو خلیفہ نے ذرا سختی سے پوچھا کہ یہ کیا ناشائستہ حرکت تم سے سرزد ہوئی کہ وزیر کے آدمیوں کو پٹیا اور ان کے خیمے بھی جلا دیئے، عرض کی کہ اے امیر المؤمنین میں کیا اور میری سباط کیا حکم تو آپ ہی کا ہے میں ایک آلہ کار ہوں آپ ایک خیمہ کے عوض وزیر صاحب کو دو اور ایک غلام کی جگہ دو غلام دے سکتے ہیں، مگر آپ کے حکم کی تعمیل وقت پر نہ ہو تو ناقابل برداشت ہے، عبد الملک تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا وزیر دم بخور ہو کر رہ گیا،

حجاز میں عبد اللہ بن زبیر نے علم بغاوت بلند کیا، اور اگر کامیاب ہو جاتا تو بنو امیہ کی خلافت ختم ہو جاتی، عبد الملک نے اس ہم کے لئے حجاج کو منتخب کیا، اس نے سختی

کے موقع پر سختی اور نرمی کے موقع پر نرمی سے کام لیا، اس کا نتیجہ خاطر خواہ ہوا، ابن زبیر کے وڈے کے حمزہ اور جب بھی حجاج سے آئے، اور اکثر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، عبداللہ بن زبیر لڑتے ہوئے کام آئے اور حجاج کی قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا، ۳۵ھ میں حجاج کا تقریباً حثیت والی عراق ہوا، کوفہ دارالولایت تھا، اور شورش و فساد کا مرکز اس کا انتظام ذرا بیڑھی کھیر تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ان ایام میں یہ دستور تھا، کہ خلیفہ اور والیان اور عامل ہی امامت کے فرائض انجام دیتے، جامع مسجد میں منبر پر خطبہ کے لئے کھڑا ہوا، عمر بن خیابانی ہاتھ میں کنکر لئے بیٹھا تھا، اور کہتا تھا کہ اس پر اور اس کے بھینے والے پر لعنت، دیکھنا میں ابھی اس کی کیا گت بنانا ہوں، ایک رفیق نے کہا کہ جلدی نہ کرو، پہلے سن تو لیں کیا کہتا ہے، حجاج نے تقریباً شروع کی، اس کا یہ اثر ہوا کہ عمیر کے ہاتھ سے کنکر گرتے جاتے تھے اور دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا تھا، حجاج نے آخر میں کہا کہ اے اہل کوفہ میں تم میں سے اکثر آدمیوں کے تن لے کر دیکھ رہا ہوں، آج رات جو شخص مہلب کے لشکر میں شامل نہ ہوگا، صبح سویر کونہ دیکھے گا، امیر مہلب بن ابی صفیر اس وقت حواج سے لڑ رہا تھا، اور لوگ جی پیرا ہے تھے، صبح ہونے نہ پانی کہ اہل کوفہ وہاں پہنچ گئے، چند روز میں انہوں نے شورش پستیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔

ہرات کا والی یزید بن امیر مہلب بن ابی صفیر تھا، ۳۵ھ میں عبدالرحمن بن اشعث نے علم بغاوت بلند کیا، ہرمیت خوردہ خراسان کی طرف بھاگا، ہرات کے قریب قیام کیا یزید سر پہنچ گیا، چند سر بردار درہ آدمی اسیر ہوئے، حجاج کے روبرو پیش ہوئے تو سب کو قتل کیا، ہرقام بن نعیم سے پوچھا کہ ابن اشعث کو تو ہوس ملک گیری تھی، تجھے کس بات کی آرزو تھی، جواب دیا کہ تیری جگہ حکومت عراق کی، یعنی ہمدانی نے ایک قصبہ میں اس اشعث کو حجاج کے خلاف جنگ کی ترغیب دی تھی اس کی باری آئی تو کہا کہ ذرا وہ قصبہ پھر سے پڑھنا، کہ میں بھی داؤ سخن دوں، یہ تبدیل قافیہ شعر پڑھنے لگا، جب اس مصرع پڑھا کہ "نخ نوح للموالدہ وللمولود" تو کہا، واللہ ج کے بعد تو کسی کو ہدف ملامت بنایگا، شعبی گرفتار ہو کر آئے، تو ان سے بھی کہا کہ تم کچھ اپنی بریت کے متعلق کہنا چاہتے ہو۔

شعیبی نے کہا کہ میں نے کبھی دستہ جھوٹ نہیں بولا، ہم نے تمہارے خلاف ڈرائی میں
 ہتھائی کوشش کی، نہ تو ہم زبردست فاجر تھے اور نہ متقی اور نیک دل، اللہ تعالیٰ نے
 تم کو ہم پر غلبہ دیا، اگر مرادو گے تو ہماری خطا کی وجہ سے، اگر معاف کر دو گے تو اپنے حلم و
 کرم کے سبب، اور تم حق بجانب ہو، حجاج نے کہا واللہ یہ شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب
 ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس معرکہ میں نہ تھا حالانکہ اس کی تلوار سے ہمارا خون نپکتا ہے۔
 شعیبی کو عزت اور احترام سے رخصت کیا، ایک اور قیدی کی باری آئی، تو اس نے کہا کہ میں
 انصاف کا خواہاں ہوں، حجاج نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس طرح! کہا کہ ایک دفعہ عبدالرحمن
 تمہاری نسبت ناملائم الفاظ استعمال کر رہا تھا، میں نے منع کیا، حجاج نے کہا کوئی شہادت
 موجود ہے اس نے ایک اور قیدی کی طرف اشارہ کیا، اس نے تصدیق کی، حجاج نے
 دونوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور دوسرے نے بھی سچی گواہی دی،
 حجاج کے ظلم و ستم کے بہت افسانے مشہور ہیں، اور ان میں کچھ افسانوی رنگ بھی
 بھرا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ حالات کا تقاضا ہی یہی کچھ تھا، اگرچہ اس نے
 ضرورت سے زیادہ سختی سے کام لیا، ۹۳ھ میں عمر بن عبدالعزیز مدینہ میں عامل تھے۔ جو
 بعد میں سریر آرائے خلافت ہوئے، ولید بن عبدالملک اس وقت خلیفہ تھا، عمر نے لکھا کہ
 حجاج کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اور حجاج نے بھی ایک عرضداشت بھیج دی کہ شورش
 عراق میں میری گرفت سنبھل جاتی ہے اور مدینہ میں عمر کے ہاں پناہ لیتے ہیں، خلیفہ نے
 عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی امدت سے معزول کر دیا، محمد بن قاسم حجاج ہی کا برادر زادہ تھا
 جس نے وادی سندھ پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا،

شجرۂ صحابہ کرام بنی سعید بن مسعود

عبدمناف

اسم

عبدمس

عبدالمطلب

حمزہ

ابوطالب

ابی اہب

عباس

عبداللہ
حضرت محمد رسول اللہ

عبداللہ

علی

سلمان

محمد

عبداللہ

موسیٰ

عبد اللہ السفلی ۱۳۲ھ

۱۳۱ھ منصور ۱۳۲ھ

عیسیٰ

محمد المہدی ۱۵۵ھ

۱۵۵ھ رسول رشید

۱۴۹ھ

(۱۸) مشدی روضہ

(۱۲) مستعین ۲۸۸

(۱۰) متوکل ۲۳۲

(۵) وثوق ۲۲۴

طلحہ و وثوق (۱)
مقتدر ۲۴۵ (۱۷)

۲۵۷
مستدر ۱۵۱ (۱۵)

۱۱۳
مستدر

۲۸۴
مستدر

۳۲۰
قائم ۱۹ (۱۹)

۲۵۵
مقتدر ۱۸ (۱۸)

۲۸۹
کتلی ۱۴ (۱۴)

۲۸۱
قادر ۲۸۱ (۲۸۱)

۲۳۷
طبع ۲۳۷ (۲۳۷)

۳۷۵
تسلی ۳۷۵ (۳۷۵)

۲۷۲
رفی ۲۷۲ (۲۷۲)

۲۳۳
سکینی ۲۳۳ (۲۳۳)

۲۴۲
قائم ۲۴۲ (۲۴۲)

۲۵۳
طالع ۲۵۳ (۲۵۳)

۲۴۱
تقدیر ۲۴۱ (۲۴۱)

۲۴۱
مظہر ۲۴۱ (۲۴۱)

۵۳۰
مقتضی ۵۳۰ (۵۳۰)

۵۱۲
مستدر ۵۱۲ (۵۱۲)

ابو بکر

۵۵۵
مستدر ۵۵۵ (۵۵۵)

۵۲۹
مستدر ۵۲۹ (۵۲۹)

علی

۵۶۶
مقتضی ۵۶۶ (۵۶۶)

حسن

۵۴۵
قائم ۵۴۵ (۵۴۵)

ساکم

۴۷۲
ظاہر ۴۷۲ (۴۷۲)

مصری خلافت قائم کی

۴۲۳
مستدر ۴۲۳ (۴۲۳)

۴۸۰
مستدر ۴۸۰ (۴۸۰)

خلافتِ عباسیہ

آئیہ اختلاف میں تین امور کا ذکر ہے، اول اسلام کا استقلال، دوم ان جس کے دور دورہ میں اشاعت اسلام ممکن ہے، اور مسلمان پسندیدہ زندگی بسر کر سکتے ہوں اور بحالت ان اللہ کی عبادت بلا خسرک، یہ تینوں باتیں بنو امیہ کے دورِ خلافت میں ممکن ہیں مسلمانوں کو حاصل تھیں، خلافت کا مقصد یہی کچھ ہے،

۳۲ھ مطابق ۶۵۰ء میں بنو امیہ کی خلافت ایشیا میں ختم ہو گئی، اور ان کے نائبین بنو عباس ہوئے، ان انقلاب کے وقت میں جو واقعات ظہور میں آئے، وہ ہر ایک قوم کی انقلابی تاریخ میں واقع ہوتے رہتے ہیں، مختصر یہ کہ دولتِ اموی کی بربادی کا باعث بنو ہاشم ہی تھے۔ ان کی کوشش شروع خلافتِ امویہ سے مسلسل جاری رہی، صرف تھوڑا عرصہ بظاہر خاموشی رہی، ابتدا میں یہ کوشش صرف سادات اور علوی خاندان نے جاری رکھی بنو عباس اگرچہ ان کے ہمدرد تھے مگر علانیہ کسی شورش یا بغاوت میں حصہ لینے سے کتراتے تھے۔

عبداللہ علوی جو محمد بن حنیفہ کے بیٹے اور حضرت علیؑ کے پوتے تھے، اس وقت جب کہ اموی حکومت روہڑال تھی صاحب اثر بزرگ تھے، ان کے پیروں کی تعداد کثیر تھی، اور ایران میں ان کے نقیب جابجا خفیہ سازش کا جال پھیلا ہے تھے ستارہ میں خون ہو گئے، اولادِ زینہ نہ تھی، سادات میں کوئی صاحب اثر و ہمت شخص نہ تھا، اس لئے محمد بن علیؑ کو جو حضرت عباسؑ کے پوتے تھے اپنا جانشین مقرر کیا گئے، اب علوی

صحیح بنو عباس میں منتقل ہو گیا، بنی فاطمہ کو یہ امر ناگوار تو گذرا، مگر مصلحت و دقت یہی
 تھی کہ بنو عباس سگے رہیں، بشرطہ کہ غرض امری خلافت کا تختہ الٹنا تھا، بنو عباس بھی ان
 وہ یہ یقین دلاتے رہے کہ جو کچھ کہتے ہیں انہی کے مفاد کے لئے کرتے ہیں۔

بنو ہاشم کی کامیابی کا سبب ان کے نقیب تھے، جو جابجا مالک ہلامیہ میں پھیلے
 ہوئے تھے، ایسی اغراض کی تکمیل کے لئے ان ہی ایام میں احادیث کثرت سے وضع
 کی گئیں۔ انہی ایام میں نزول عیسیٰ اور خروج مہدی کے بارے میں احادیث وضع ہوئیں،
 غالباً امام بخاری کو علم تھا، ان کی صحیح میں مہدی کا ذکر نہیں، نزول عیسیٰ کے بارے میں
 ایک حدیث ہے اور یہ بھی الحاقی معلوم ہوتی ہے۔ ہر ایک خاندان کا نقیب فصیح و بلیغ
 خطبوں میں احادیث موضوعہ بیان کرنا، کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میرے بعد قندہ کا زمانہ شروع
 ہو جائے گا، بخاری نے باب قن علیحدہ باندھا ہے، اعلان خاندان میں اس حلیہ اور اس نام کے
 ایک شخص کا ظہور ہوگا، وہی امام خلیفہ برحق ہے، نقیب اسی شخص کا خاندان اور حلیہ
 بتاتے ہیں، اس کی طرف سے اس شائستہ خدمت پر مامور تھے، چنانچہ لوگ مہدی کے انتظار میں
 بیتاب تھے، اس کی تلاش ہر ایک جگہ تھی، ایسے مہدی انہیں بہت لمبے اُن کے جھنڈے
 کے نیچے جمع ہوئے، بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی، اور عموماً بالوسی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ
 ہر لڑائی میں مہدی کام آتا، اس کی جگہ دوسرا تلاش سے مل جاتا، اس کا نتیجہ آنا ضرور ہوا۔ کہ

۱۰ امام بخاری نے جب احادیث جمع کیں تو ان کی تعداد کئی لاکھ تھیں، انتخاب کے بعد جامع صحیح لکھی اس
 میں کل ۲۵۷۷ احادیث ہیں، اگر مکتوبات نکال دی جائیں تو صرف ۱۱۷۲۲ رہ جاتی ہیں، اس زمانہ میں ہشیاہ احادیث
 دستہ لوگوں نے وضع کیں، چودہ ہزار احادیث صرف ایک فرقہ تناقض نے وضع کیں، از ندینی عبدالکریم وضع جب
 گرفتار ہوا تو تسلیم کیا کہ چار ہزار احادیث اس کیلئے نے وضع کی ہیں، جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال
 قرار دیا، اور ملک کے طول و عرض میں شائع ہو چکی ہیں، اعلیٰ تاری موضوعات کبیر کے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ
 واعظان نے گرم بازاری کے لئے ہشیاہ احادیث وضع کیں، حافظ بن الدین عراقی لکھتا ہے کہ بہت سے ثقافت ادیب
 تھے جو نیک فیتی سے فضائل اہل حدیث وضع کرتے، ان کی ثقافت اور نوری انداز ہدی کی وجہ سے اکثر مقبول ہوئیں
 اور ناسخ ہو گئیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہی تمام احادیث موضوعات قرار دی ہیں۔

خلافت امیہ کی بنیاد کمزور ہو گئی۔

۲۶۷ء میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا بیٹا امام ابو ہریرہ کا بیٹا بنوا
 آپ کا دست راست ابو مسلم خراسانی تھا کہتے ہیں کہ حکیم بوزرجمہر کی اولاد سے تھا، امام
 صاحب نے اس کو اپنا نائب مقرر کر کے خراسان کی طرف بھیجا، اس نے سینکڑوں نقیبوں کی طرف
 پھیلا دیے، ۲۵۰ ماہ رمضان ۳۰۷ھ میں پختیابہ عام بغاوت کی تاریخ مقرر کی گئی تاریخ
 مقررہ پر سیاہ پوش (جو آل عباس کا امتیازی نشان تھا) سوار و پیادہ تاریخ کی شب کے
 پردہ میں اٹھے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔

اس سازش کا حال خلیفہ وقت مروان اطہر پر کھل چکا تھا، امام ابو ہریرہ کو قید ہو کر قتل
 کیا گیا، مگر ابو العباس کو ذہ میں جو شروع اموی خلافت کے خلاف سازشوں کا مرکز تھا خلیفہ شہر
 کیا گیا، اور دوسرا ابو مسلم افواج امیہ کو پے در پے شکست دے کر ایران کی طرف بڑھ رہا تھا ۳۰۸ھ
 میں مروان نے شکست کھائی اور مصر کی طرف بھاگا، دیار نیل کے کنارے پروات الیاسل پر
 قتل کیا گیا، اس کے ساتھ خاندان امیہ کا چراغ گل ہو گیا۔

ابو العباس تاریخ کے صفحات پر "سفاخ" (خونخوار) کے ہیبت نام سے مشہور ہے
 یہ شخص پانچویں پشت میں حضرت عباس عم رسول اللہ سے ملتا ہے اس نے بنو امیہ کے
 خون سے ہاتھ خوب رنگے، خاص دمشق میں ستر سر کردہ بنی امیہ کو ضیافت کے بہانہ دعوت
 دی گئی ملاکھٹیوں اور گزروں سے ان کے سر پاش پاش کئے، اور ان کی لاشوں پر دسترخوان
 بچھا کر سب نے کھانا کھایا، ان میں سے کسی کے سسکنے یا کراہنے کی آواز آتی تو خوب قہقہے
 لگاتے، اس کے بعد خاندان امویہ کا جو بھی سر کردہ آدمی جہاں ملا مارا گیا ایک شخص عبدالرحمن
 بچا، یہ خوبصورت نوجوان افریقہ کی طرف بھاگا، سرگرمی سے تعاقب کیا، لیکن قضا قدر نے
 فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ شخص ہسپانیہ میں پھر خلافت امیہ قائم کرے گا، جس کی عظمت یحییٰ
 کو عباسی رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے

سفاخ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنو امیہ کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہے، خلفا بنو امیہ
 معاویہ اور یزید اور عبدالملک اور ہشام کی قبریں اکھڑا کر اگر ایک ہڈی بھی ملی تو آگ میں

جہاں گئی، سفیر نے چار برس صرف خوزینی ہی میں بسر کئے، ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۸۵۷ء
 بغداد چھک فوت ہوا، اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ مقرر ہوا،
 خلافت عباسیہ کا آغاز دراصل منصور عباسی سے ہوتا ہے اس نے بغداد کی
 تعمیر کے ساتھ خلافت عباسیہ کا سنگ بنیاد دجلہ کے کنارے پر رکھا، اس کی کیفیت ہم
 نے اپنی کتاب "بغداد" میں مفصل بیان کی ہے، اس کے عہد میں محمد المہدی ہاشمی نے خروج
 کیا، ہمدی کے بارہ میں وہ تمام احادیث اب بھی اپنی پوری قوت استدلال کے ساتھ صحاح
 میں اور بالخصوص شعبان علی کی کتابوں میں اب بھی موجود ہیں، جس کا ثابہ ہر ایک ماتہ میں
 مدعیان ہمدویت اٹھاتے رہے منصور کے سیاسی تدبیر نے اپنے بیٹے کا نام پہلے ہی
 محمد المہدی تجویز کر رکھا تھا، منصور کے حقیقی بھائی موسیٰ کا بیٹا عیسیٰ اس وقت سپہ سالار
 افواج عباسیہ تھا، نزول عیسیٰ اور ہمدی کی امامت کے بارے میں احادیث کی پیش گوئی کے
 پورے ہونے کا وقت اب آ گیا، جب عیسیٰ اور ہمدی ایک اور ہاشمی ہمدی کی سرکوبی کے لئے
 لشکر جرار کے ساتھ نکلے،

منصور نے پہلے ہاشمی ہمدی کو ایک منظر لکھا کہ اگر اطاعت کرو تو تم کو اور تمہارے
 کل خاندان اور تمہارے فرامبرداروں کو امن دیتا ہوں اور تمہاری اور ان کی حفاظت کا ذمہ دار
 ہوں ایک لاکھ درہم بطور وظیفہ بھی نذر ہے اور جہاں خواہش ہو میری طرف سے اجازت ہے

سہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل ایران نے ہاشمیوں کا ساتھ دیا، تو ان کی سیاسی غرض کچھ اور
 تھی اور اس کی تکمیل کے لئے وہ احادیث وضع کرتے رہے، چنانچہ ہمدی کے بارے میں انہوں
 نے بھی احادیث وضع کیں، کہ وہ سلمان فارسی کی قوم سے ہوگا، یعنی ایرانی آسمان کے تارے بھی
 توڑ گئے گا، علم ثریا میں ہوگا تو وہاں سے بھی شری میں اتار لائے گا، حالانکہ خود سلمان کی شخصیت
 ایک حقا معلوم الہام مجہول الحسم ہے اس کی عمر اڑھائی سو سال سے چھ سو سال بیان کی جاتی ہے
 مولانا نثر نے اپنے ناول "جویائے حق" کا مواد انہی بے حقیقت روایات سے جمع کیا، ابو سلمہ خراسانی،
 دراصل ایرانی سلطنت بحال کرنا چاہتا تھا، جب منصور پر اس کا حال کھلا تو قتل کر دیا،

ہاشمی مہدی نے جواب دیا کہ "تم فرعون ہو اندھکے طبع آل فرعون میں ہم بنی اسرائیل
 کے مشابہہ ہیں، جن پر تم نے طرح طرح کے ظلم کئے، حالانکہ خلافت ہمارا حق ہے اور تم
 ہمارے ہی سبب اس کے مدعی بنے، اور تمہاری کامیابی ہمارے ہی باعث ہوئی، لوگوں نے
 سمجھا کہ تم ہماری انداد کر رہے ہو تمہارا ساتھ دیا، تم نے تقویت حاصل کر کے ہمارا حق غصب
 کر لیا، تم طبع سے اب مختابین بیٹھے، ہمارا باپ علی وصی اور امام ہے کسی کا سلسلہ قرابت
 ایسا نہیں جیسا کہ ہمارا سابقیت اور فضل کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم پر خیرت دیا
 ہے اور برگزیدہ بنایا ہے، بیوں میں ہمارے والد محمد سب سے افضل ہیں، اور سلف میں علی
 جو سب سے پہلے اسلام لائے، اندواج میں خدیجہ طاہرہ ہیں جنہوں نے سب سے اول قبلہ روضہ
 نماز پڑھی، اور لڑکیوں میں بہترین دختران رسول اللہ ہیں، اور ان میں فاطمہ زہرا علیہا السلام
 ہیں اور مولودین اسلام میں حسن و حسین جو انانِ جنت کے سردار ہیں، میں بہ اعتبار نسب
 بہترین بنی ہاشم ہوں، مجھ میں کسی عجمی کا میل نہیں اور نہ ہی میں کنیرک زادہ ہوں، اور نہ
 میرے سلسلہ نسب میں یہ عیب ہے، شروع سے میرے ابا و اجداد اہمات ممتاز چلے
 آئے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں، جس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، رسول اللہ میں
 اس کا فرزند ہوں جس کو دوزخ میں کمتر عذاب ہو گا، ابو طالب میں اللہ تعالیٰ کو ضامن
 دے کر تمہیں امان دیتا ہوں بشرط اطاعت، اور میں تم سے زیادہ مستحق خلافت ہوں،
 اور عہد کو پورا کرنے والا ہوں، تم مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو امان دے چکے ہو، ان لوگوں میں
 سے تم مجھے کس کی امان دیتے ہو، ابن ہبیسو یا عبد اللہ بن علی یا ابو مسلم خراسانی کی،
 منصور عباسی نے جواب المجواب لکھا کہ تمہارے فخر کا دار و مدار صرف عورتوں کی قرابت
 پر ہے اور یہ سب ابلہ فریب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چچاؤں، بالوں، عصبہ، دیوانہ
 کی طرح نہیں بنایا، چچا کو باپ کے قائم مقام بنایا ہے، بلکہ کتاب اللہ میں وہ قریب ترین ماں
 پر مقدم ہے، اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا پاس کرتا تو آمنہ (مادر رسول اللہ) ان میں
 سے اقرب اور قریب تر اور بڑی حق والی ہوتی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتی، اللہ تعالیٰ
 نے اپنی مشیت سے ان لوگوں کو جو گزر گئے پیدا کیا، اور تم نے فاطمہ ام ابی طالب اور اس سے

پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کی تو یہ حالت ہے کہ اس کا کوئی لڑکا اور لڑکی اسلام سے
 پہرہ در نہیں ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو مردوں میں سے کسی کو بوجہ قرابت رسول اللہ
 دائرہ اسلام میں داخل کرنا منظور ہوتا تو عبد اللہ کو بیشک وہ دنیا میں اور آخرت میں بہتر
 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین میں حسن کو چاہا اور داخل فرمایا، فرماتا ہے کہ اناک لاسعدی
 من اجست و لکن اللہ یعدی من یشتم وهو اعلم بالمہتدین
 جب اللہ تعالیٰ نے محمد کو مبعوث فرمایا، اس وقت آپ کے چار چچا زندہ موجود تھے،
 جب آیہ کریمہ "انذہم عشیرتک الاقرین" نازل فرمائی تو دو نے اسلام قبول کیا،
 (عباس و حمزہ) اور ان میں سے ایک میرا باپ عباس تھا اور دوسرا ابوطالب اور ابو لہب
 نے انکار کیا، ان میں سے ایک ابوطالب تمہارا باپ تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا
 سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کر دیا، اور آنحضرت اور ان میں کوئی تعلق عزیز واری اور ذمہ اور
 میراث قائم نہ کیا، تمہارا یہ زعم ہے اور تم خیر الاشرار ابوطالب کے بیٹے ہو، اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ کفر کرنے میں کوئی صغیر نہیں ہوتا، اور شر میں کوئی بہتر نہیں ہوتا اور کسی مرد مومن کو زیب
 نہیں دیتا کہ کسی دوزخی کی اولاد ہونے پر فخر کرے، اور قریب ہے کہ تم خود دوزخ میں جاؤ گے
 ارشاد الہی ہے کہ قریب تر زمانہ میں ظالم جان لیں گے کہ وہ کس انقلاب کی زد میں ہیں؟
 تم نے لکھا ہے کہ حسن عبد المطلب سے دوہرا معاملہ قرابت رکھتے تھے اور تمہیں رسول اللہ
 سے دو طرفہ تعلق قرابت ہے، بیشک خیر الاولادین و آخرین رسول اللہ ہیں، آپ کو ہاشم اور
 عبد المطلب سے صرف ایک پدری تعلق تھا، اور تمہارا یہ زعم کہ تم بہترین بنو ہاشم ہو، اور
 یہ کہ تمہارے آباؤ اجداد و اہمات ان میں زیادہ مشہور تھے، اور یہ کہ تم میں کینزک کا لگاؤ نہیں
 ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنو ہاشم سے اپنے آپ کو مستغزینا دیا ہے، غور کرو تلف ہے
 تم پر اکل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، تم حد سے بڑھ گئے ہو، اور تم نے اس سے بڑھ کر
 اپنا فخر جتایا جو ذات اور صفات میں تم سے افضل تھا (ابراہیم ابن محمد رسول اللہ جو بار قبیلہ
 کے بطن سے تھا) اور بالخصوص تمہارے باپ کی اولاد میں سے کوئی افضل سوائے کینزک
 زادوں کے نہیں، بعد وفات رسول اللہ تم میں علی بن حسین (امام زین العابدین) سے افضل

کوئی شخص پیدا نہیں ہوا اور کینزک زادہ تھے، اور کچھ شک نہیں کہ ان کا مرتبہ تمہارے
 دادا حسن بن حسین سے بڑا ہے اور ان کے بعد تم میں سے محمد بن علی کی مثل کوئی نہیں ہوا
 اور ان کی دادی کینزک تھیں، اور جعفر تم سے بہتر ہے تمہارا دعوئے کہ تم رسول اللہ
 کے بیٹے ہو قطعاً غلط ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماکان محمد اباً احسان و جالک
 تم لوگ آپ کی لڑکی کے لڑکے ہو، اور بیشک یہ قرابت قریبہ ہے مگر اس کو میراث
 نہیں پہنچ سکتی، اور نہ یہہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہے، اور نہ اس کو امامت جائز ہے
 تمہارے باپ علیؑ نے اس کی ہر طرح خواہش کی تھی، غافلہ کو روز روشن نکالا، اور وپردہ اور
 کو بیمار کیا، اور رات کے وقت دفن کر دیا، بایں ہمہ لوگوں سے سوائے ابو بکر اور ان کے
 عمر کے سوا اور کسی کو منظور نہ کیا، اس میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں کہ نانا اور ماموں اور خالہ مورث
 نہیں ہوتے جو تم نے علیؑ کے سابقہ اسلام ہونے پر فخر کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ علیؑ
 نے بوقت وفات ابو بکر کو امام بنایا بعد ازاں لوگ ایک کے بعد دوسرے کو امام
 بناتے گئے، اور علیؑ کو منتخب نہ کیا، حالانکہ یہ بھی ان چھ بزرگوں میں سے تھے جن کو عمر نے
 نامزد کیا۔ آپ کو خلافت کے لائق نہ سمجھا، عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو ان پر مقدم
 کر دیا، طلحہ و زبیر آپ سے لڑے (جنگ جمل میں) اور سواد نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا
 اور معاویہ کی بیعت کر لی، تمہارے باپ نے خلافت کی تمنا کی اور لڑے جنگ صفین
 اور آپ سے آپ کے مصاحب علیؑ جو ہو گئے اور حکمیں عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ
 اشعری، مقرر کرنے سے پہلے ان کے ہوا خواہ (خوارج) آپ کے استحقاق میں شک و شبہ
 کرنے لگے، حکمیں نے آپ کی مغربی پرتفاق کر لیا پھر آپ کی شہادت کے بعد حسن
 خلیفہ ہوئے، امامت اور خلافت کو معاویہ کے ہاتھ کپڑوں اور رپولوں کے عوض
 فروخت کر دیا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا،
 پس اگر تمہارا اس میں کوئی حق بھی تھا تو تمہارے باپ نے فروخت کر ڈالا، اور
 قیمت وصول کر لی، پھر تمہارے چچا حسین نے ابن مرجانہ (ابن زیاد) پر خرچ کیا۔ اور
 لوگوں نے انہیں قتل کیا، خرمائی و ایبوں پر سولی دی، لہگ میں جلایا، شہر بد کیا، ہم نے

نہاے خون کا بدلہ لیا۔ اور تمہیں ان کی املاک کا مالک بنایا۔ تمہارے باپ دادا کا نام بلند کیا اور فضیلت دی۔ کیا تم اس احسان کے ذریعے ہمیں معقول کرتے ہو۔ تم جنتے ہو کہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں حجاج کو پانی پلانے (سقاہ) اور ولایت ذمہ پر منحصر تھی۔ نہاے باپ علی نے اس استحقاق کے بارہ میں ہم سے جھگڑا کیا۔ عمر نے نہاے حق میں فیصلہ دیا۔ آنحضرت کے بعد بنی عبدالمطلب میں سے کوئی شخص سوائے عباس باقی نہ تھا۔ اس لئے درانت چچا کی طرف منتقل ہو گئی۔

اس مباحثہ میں حق خلافت ذریعین قرابت آنحضرت قرار دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ جب اول تین خلفاء کا انتخاب اس استحقاق کو نظر انداز کرنے کے بعد ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ اُمت نے یہ کوئی حق ہی تسلیم نہ کیا جیسا منقول اور معقول دلائل سے کام نہ چلا۔ تو برہان قاطع تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ یہ محمد بن عبداللہ جو نفس الذکیہ سے موسوم تھے بڑے صاحب اثر تھے۔ بڑے بڑے پیشوا بیان دین یہاں تک کہ امام مالک نے فتیے دے دیا۔ کہ منصور نے جبراً بیعت کی ہے۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔ جیسے سپہ سالار افواج عبایہ نے اُسے شکست فاش دی۔ اور محمد النفس الذکیہ میدان میں کام آئے۔ نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم نے بصرہ سے خروج کیا۔ جیسے نے اُسے بھی شکست دی۔ اور ابراہیم مارا گیا۔

”در عالم ضد اور چہ اندیشہ صلح است با خود نتوان ساخت اگر جنگ نہ کردے“
دور جانے کی ضرورت نہیں، جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف اور شاہیہا نے جہانگیر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ سب سے بڑے عالم دین دار عالمگیر نے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا۔ تاریخی واقعات ہیں۔

محققین ان واقعات میں کچھ اور ہی مشاہدہ کرتے ہیں وہ دیکھتے کہ انہیں غالب وہی آتا ہے۔ جس کے حق میں حالات سازگار ہوں۔ اور وہی حکومت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ ان اوراق میں اہم اسلامیہ کے عروج اور نزول کے حالات یہ تعلق خلافت عام بند کئے گئے ہیں۔ اگرچہ تو میں منتی اور بگڑتی رہیں لیکن اسلام

منسل ترقی کرتا آرہا ہے۔ وہ اسلام جو واحد دین حق ہے۔ اگر یہ عربوں کی اختراع ہوتی تو ان کے ساتھ کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا۔ جب اس اسلام کی طرف سے کسی قوم نے بے اعتنائی برتی۔ تو وہ خود مرٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن میں پورا ہوتا رہا۔ کہ اگر تم اس کے مقصد کی تکمیل سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم لائے گا۔ ایسی قومیں آتی رہیں اور آتی رہیں گی۔

اللہ کے فضل سے ہمیں پاکستان مل گیا ہے۔ اور بابِ حل و عقد کو یہ حقیقت ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ کہ پاکستان کا قیام اسو حکام اسلام اور اس کی اشاعت سے وابستہ ہے۔ اور اگر اسے نظر انداز کر دیا تو وہ خود مرٹ جائیں گے۔ تو اربع اسلام میں یہ حقیقت اتنی نمایاں ہے۔ کہ اس پر حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں لیکن بارہو انتباہ مسلمان قوموں نے پروا نہ کی۔ اور اپنا انجام دیکھ لیا۔ قال فی سبیل اللہ جب حالات اس کے مقتضی ہوں فرض ہے۔ انحضرت کا ارشاد ہے کہ جب بھی تم سے ترک کر گے ذیل ہو جاؤ گے۔ اس ذلت کا احساس اگر مسلمانان پاکستان میں نہیں تو خدا حافظ۔

خلافت عباسیہ میں اگرچہ فتوحات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مگر جو کچھ اموی خلافت نے چھوڑا۔ اس وراثت کو بحال رکھا۔ اول آٹھ تاجدارانِ عباسیہ نے جن میں ہارون الرشید اور مامون الرشید اور معتصم باللہ بھی شامل ہیں۔ اسلام کی شان و شوکت کو ممکن عروج تک پہنچا دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ خلافت عباسیہ اموی خلافت کی طرح خالص عربی حکومت نہ تھی۔ عباسیوں نے عربوں کا زور توڑنے کے پارسیوں اور ترکوں کو اُبھارا۔ اور عربوں کے مقابل کھڑا کر دیا۔ لیکن اگرچہ وہ اس سیاسی غلطی کی وجہ سے مرٹ گئے۔ اسلام کو ضعف پہنچا۔ بلکہ ترکوں نے اس کو اور تقویت دی۔

خلافت عباسیہ کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے حالات ہم نے اپنی کتاب "بغداد میں قلم بند کئے ہیں۔ ان ایام میں علوم و حکمت کی طرف بحالتِ امن عام توجہ تھی اپنی ایام

ائمہ دین نے فقہ مدون کی حکماء نے مختلف علوم پر جو کچھ لکھا وہ آج بھی مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔

تمدن عرب پر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے فاضل لیبان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ ایک خاص بات جو قابل توجہ ہے یہ ہے کہ عربی فن عمارت کا حسن و نشان ان کی مساجد ہی میں نظر آتا ہے یا ائمہ دین کی ان عمارت میں جو ان کے مرقد پر تعمیر ہوئیں۔ خلفاء عباسیہ کے قصر و محلہ کے کنارہ پر نویل تک دنیوی نمود و نشان کا نمونہ تھے۔ یہ سب نابود ہو گئے لیکن وہ عمارتیں جو دینی اغراض کے لئے تعمیر ہوئیں ہمیشہ آباد رہیں۔ اور ان میں سے اکثر تاحال موجود ہیں۔ یا ان کے آثار باقی ہیں۔ راسکن (Rasakn) نے صحیح لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی قوم کی سپرٹ کا مطالعہ کرنا ہو تو اس قوم کی عمارتوں کو دیکھو۔ خلافت اسلامیہ کی ہر ایک دور میں یہ خصوصیت نمایاں رہی ہے۔ کہ وہ مسجدوں اور مقبروں کی عمارت میں اپنے دینی شغف کا اظہار کرتے۔ خلافت راشدہ اور امویہ کے دور دورہ میں ہر ایک خلیفہ اور عامل خود مساجد میں امامت کے فرائض بھی ادا کرتا رہا۔ لیکن جب ہمت ملکی نے ان کی توجہ جذب کر لی تو یہ فرض دوسروں کے سپرد کیا گیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی مسجد ہی میں شہید ہوئے۔ خوارج نے دیکھا۔ کہ دنیا اسلام میں ہٹ لونگ ان تین اشخاص امیر معاویہ اور حضرت علی اور عمر دین العاص نے چار کھی بے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں مسلمانوں نے کیا چاہنا تھا۔ وہ خود ہی انتخاب کرتے۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ بیک وقت تینوں پر حملہ ہوا۔ امیر معاویہ درازتہ تھے۔ خنجر نشانہ پر پڑا۔ تین ماہ کے بعد زخم مندمل ہو گیا۔ حضرت علی سیت قد تھے۔ کینچی پر جھک کر ضرب لگی، جانبر نہ ہو سکے۔ عمر دین العاص ان ایام میں بیمار تھے۔ امام ایک اور شخص ناکردہ گناہ جامعہ مصر میں مارا گیا خلافت خود بخود امیر معاویہ کے قبضہ میں آگئی۔

تاریخ بغداد میں جہاں ہم نے عام مساجد کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان ایام میں مسلمان مساجد کی تعمیر کی غرض اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ضرورت زائد کہیں مساجد کی تعمیر نہ کی۔ اور کہیں ایک مسجد کے قریب میں دوسری مسجد تعمیر نہ ہوئی۔ جو مسجد غزالی کے تحت آئی۔ خلفاء عباسیہ کے عہد میں جامع مساجد ابتدا میں صرف دو تھیں۔ دجلہ نے بغداد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب شہر کی آبادی دُور دُور تک پھیل گئی جس کی وسعت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آج بغداد کے گرد و نواح میں جو شہر آباد ہیں ان ایام میں بغداد کے محلے تھے ایک قیسری جامع مسجد تعمیر ہوئی جس کا نام مسجد براءتہ تھا۔ لیکن یہ بغداد کی مساجد بدیہۃ المنصور اور رضافہ کی شان کو نہ پہنچی۔

خلافت عباسیہ کے تذکرہ میں ایک بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ ابتدائی حکمرانوں نے دار الخلافت سے باہر نڈت ہوئے۔ اور انحطاط شروع ہوا تو سب خلفاء دار الخلافت میں ہی دفن ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہذیب راتنی عیش و عشرت میں منہمک تھی۔ کہ مملکت کا انتظام و انصرام دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اور کبھی دودھ پر نہ لنگے۔ اور اپنے ساتھ شوکتِ عباسیہ کو قبر میں لے گئے۔

امری خلیفہ عباسی ^{۴۵۰} مطابق ^{۲۵۲} سنہ ^{۸۶۲} متعصم باللہ اپنے باپ المستنصر کی جگہ تختِ خلافت پر بیٹھا۔ یہ ایک سادہ لوح آدمی تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے چار سو غلام نڈتیں کمر اس کے حضور دست بستہ کھڑے رہتے۔ تخت کو عرشِ معلیٰ یقین کرتا۔ قصر کو کعبہ کا نمونہ بنایا۔ آستانہ پر حجرِ سود کے رنگ کا سیاہ پتھر رکھا تھا جس کو لوگ بوسہ دیتے۔ طلسمِ سیاہ کی ہشتین چہرہ کے سے شکستہ رہتی۔ لوگ غلاف کعبہ کی طرح آنکھوں سے لگاتے۔ خلیفہ خود قصر سے باہر نکلنا کسرِ شان سمجھتا تھا۔ غذا کو کس نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وزیر مویذ الدین خلعتی مختار کل تھا۔ خلیفہ تو خدا اور یہ شیطان۔ خلیفہ سے صحابہ کے میں سے ایک بھی ادا نہ ہو سکا۔ البتہ اس نے شیطانیت میں کوئی کسر اٹھانا نہ رکھی۔ بات بات پر خلیفہ سے بگڑتا۔ آخر ایسی بگڑی کہ راندہ درگاہ ہوا۔ غضب میں آکر ہلاکو خاں کو بغداد کا رہتہ بتایا۔

^{۴۵۴} سنہ ^{۱۰۵۸} مطابق ^۶ ماہ محرم مطابق ہلاکو خاں نے مشرقی بغداد کے لئے اپنا خیمہ ایستادہ کیا۔ محاصرہ شروع ہو گیا۔ تاناری فوج زیادہ تر شہر کے

ہائیں جانب "برج عجمی" اور "بابِ حلیہ" پر چھکی ہوئی تھی۔ فوج کا وہ حصہ جو تکریت پر
 دھلے کو عبور کر آیا تھا۔ مستعصم کے لشکر کے مقابلہ میں آیا۔ اور شکست فاش دے کر
 دو حصوں میں بوزاد کو محاصرہ میں لے لیا۔ محاصرین کی کوشش کو تفتیت تک حرام
 امر اور بغداد کی دیواروں کے اندر سے دے رہے تھے۔ کرخ اور ان کے محلوں میں جو اہل علم وہی
 کے مقبرہ کے نواح میں واقع تھے۔ حضرات شیعہ آباد تھے۔ محاصرین سے اول خفیہ
 خط و کتابت کا سلسلہ قائم کیا پھر علانیہ ساتھ دیا۔

پچاس دن کے محاصرہ کے بعد ہلاکونہاں نے "برج عجمی" پر زور سے حملہ کیا اور
 مشرقی بوزاد میں داخل ہو گیا۔ مستعصم اور دیگر لوہقین ایک قیدی کی حیثیت میں تاناری
 لشکر میں لایا گیا۔ اسے پھانسی دی گئی۔ اور لاش کی تشہیر خاطر خواہ ہوئی۔ چالیس دن
 تک بغداد میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ دار السلام بغداد جس کا آستانہ صدیوں
 سے بوسہ گاہِ خلافت رہا۔ وہاں زبانِ شمشیر کے سوا کسی زبان اور کو دم ناسنے کی جگہ نہ تھی۔
 بغداد میں چالیس دن تک ایک طرف آگ اور دوسری طرف آبِ شمشیر خاکستر
 و خون کا ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ جامع مسجد سلطانی، مقبرہ موسیٰ الرکاظم،
 خلفاء کے مقبرے جو رصافہ میں تھے۔ بازار اور عمارات سے آگ کے فیعلے بلند تھے۔
 آسمان و صواں دھار ہو رہا تھا۔ بازاروں اور گھروں میں مردوں اور عورتوں اور بچوں کی
 لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور اکثر جل رہی تھیں۔ مورخین کی رائے ہے کہ اٹھلاکھ
 باشندگان بغداد تہ تیغ بے دریغ ہوئے۔ ہلاکونہاں نے یار اعیار کا اہتمام دیا۔
 حضرات شیعہ کے بھی وہی کچھ پیش آیا۔ جو وہ سنیدوں کے واسطے چاہتے تھے۔ بلکہ سب
 سے پہلے کاتبین برباد ہوئے۔ بغداد کا علمی خزانہ جل کر خاک ہو گیا۔ کئی دن دھلے کا
 پانی مانتی سیاہ لباس میں بہتا رہا۔

تاناریوں کی ترک تازی کے بعد بغداد کا حلیہ بگڑ کر جو صورت رہ گئی اس کا
 نقشہ مولف "مرصد" نے کھینچا ہے۔ مولف "مرصد" کی نسبت تو معلوم نہیں کہ کون
 یا قوت جموی کی کتاب "معجم البلدان" کا خلاصہ ہے، مولف نے اس کی بھی تصحیح کی ہے اور

اپنے زمانہ کے تازہ حالات بھی لکھے ہیں۔ لکھتا ہے کہ اب مغربی بغداد میں چند محلے بے کسی کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا پڑے ہیں۔ ان میں کچھ کچھ آبادی سے مشرقی بغداد تو بالکل ویرانہ ہے۔ بغداد کے تمام آدمی ماسے گئے۔ اور کوئی نہ بچا جو اس کی گذشتہ خوبیوں کا تذکرہ لکھتا۔ یا اس کی تباہی کا ردنا روتا۔ گرد و نواح سے لوگ آکر آباد ہوئے۔ موجودہ آبادی گذشتہ سے مختلف ہے۔ اور بغداد کی صورت تو ایسی بدلی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے جس کے شباب کا تذکرہ مورخین اور سیاح کرتے رہے۔ گیا حسن خوبیاں و لخواہ کا۔ ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔

شیخ سعیدی مدرسہ نظامیہ کے وظیفہ خوار طالب علم رہ چکے ہیں۔ اس وقت زندہ تھے۔ بغداد اور خلفاء بغداد سے جو محبت تھی اس کا اظہار ایک مرثیہ میں کیا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

بر زوال ملک مستعصم میر المؤمنین	آسماں را حق بود گر خون بگریہ بر زمین
سر بر آوردین قیامت میں خلاق میں	ای محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک
ز آستان بگذشتت مارا خون دل ز آستین	نازنینان حرم را موج خون بے دریغ
گو نگہ دار دوبا بر ملک ایمان و یقین	ملک دنیا را چه قیمت خایں است از خدا

خلافتِ عباسیہ کے زوال

اور انتقالِ خلافت کے اسباب

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اموی خلافت خالص عرب حکومت تھی۔ اس کے خاتمہ پر
 بین طاقتوں میں زور آزمائی شروع ہو گئی۔ ایک ہاشمی فاطمی تھے۔ دوسرے ہاشمی عباسی
 اور تیسرے ایرانی۔ بساطِ سیاست پر بنو عباس نے حریف ہردوں کو مات دی۔ عباسیہ کے
 بعد خلافت اور خاندانوں میں منتقل ہوئی رہی۔ اس انتقالِ خلافت کے حالات اور اسباب
 سمجھنے کے لئے چند واقعات پر خلافتِ عباسیہ کے دورِ دورہ میں روئے ہوئے پہلے
 اچھی طرح ذہن نشین ہونے چاہئیں۔ اس لئے کہ ان اوراق ان ہی خاندانوں کا تذکرہ
 آئے گا۔ جن کے قبضہ میں خلافت رہی۔

جب تک بنو امیہ سے مقابلہ رہا۔ فاطمی اور عباسی اور ایرانی متحد رہے اموی
 خلافت کے خاتمہ پر تینوں کو اپنے اپنے مفاد نے ابھارا۔ ہم پہلے ایرانی جدوجہد
 کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا قائد ابو مسلم خراسانی تھا۔ یہ شخص نوخیزوں کے وزیر حکیم
 بزرجمبر کی اولاد سے بیان کیا جاتا ہے۔

کسے را کہ با بافسلاطوں بود از ان با ہنر بے ہنر چوں بود
 بنو ہاشم کے نام پر اس نے ایران کے طویل معرض میں اموی خلافت کے خلاف بغاوت
 پھیلا دی اس کی سرگرمی کا مرکز خراسان تھا۔ وہ بنو امیہ کی فوج کو ایران کی حدود میں

پے در پے شکست دے رہا تھا۔ اوہ ہر بنو ہاشم عرب کی حدود میں بنو امیہ کے مقابلے میں شکست کھا رہے تھے۔ ابو مسلم اپنی سپاہ کے ساتھ اڑھے آیا۔ نرات کے کنائے پر فیصلہ کن لڑائی میں اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ حالات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ عباسیوں کے حق میں ایسے سازگار تھے کہ ابو مسلم کے سیاسی تدبیر نے یہ مناسب خیال کیا کہ عباسیوں کا ساتھ دے، اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ جو وہ خراسان میں جمع کر چکا تھا۔ جب ابو العباس خلیفہ مقرر ہوا۔ تو ابو مسلم سے بہتر شخص ایرانی مقبوضات کا انتظام اور کون کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ خراسان کا عامل مقرر ہوا۔

سلاج کی حکومت ۳۲ھ سے ۳۶ھ تک رہی اس عرصہ میں سوائے خونریزی اور شجرہ بنو امیہ کو بیخ و بن سے اکھیرنے کے سوائے اس نے اور کچھ کام نہ کیا۔ مورخین اس کی خلافت اسی نے تسلیم نہیں کرتے کہ اس نے بحیثیت خلیفہ کچھ کام نہ کیا۔ اور جو کیا وہ ایک بدنام اور غلط اسلام کے دامن گیر ہے۔ وہ ادل خلیفہ عباسی اس کے بھائی ابو جعفر منصور کو سمجھتے ہیں۔ تو ابو مسلم کی سیاہی سرگرمی سے عاقلی تھا تصور۔ جب وہ بنو فاطمہ کے زور شور سے خارج ہوا۔ تو ابو مسلم کا زور ٹوٹنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ یہ کچھ آسان کام نہ تھا۔ وہ اپنی طرح جانتا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ میں شکست کھا جائے گا۔ اس نے سیاسی چالیں چلا کر ابو مسلم کو شام کی امارت پیش کی، وہ بھی ایک ہی کامیابی تھا۔ تاہم کیا کہ خلیفہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ خراسان میں اس کا اثر و سوج نہ رہے۔ اس لئے عذر کیا منصور نے کہا کہ شام بنو امیہ کی خلافت کا مرکز تھا۔ اور وہاں ابھی تک ان کی خلافت کے حامی موجود ہیں۔ اور یہ سب عرب ہیں میں کسی عربی پر خزانہ وہ عباسی ہی کیوں نہ ہو۔ اختیار نہیں کر سکتا جس کو ہوس خلافت آمادہ بغاوت کر سکتی ہے۔ وہ بنو امیہ کی امداد بھی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔

تمہارا خیال اور رائے بالکل صحیح اور صائب ہے اور تمہاری ضرورت خراسان میں بھی ہے۔ لیکن میری دست شام کے حالات تمہاری توجہ کے محتاج ہیں۔ دمشق میں بیٹھ کر تم خراسان کا انتظام بھی کر سکتے ہو۔ خراسان میں اپنا کوئی ۔ ۔ ۔ ۔

امن سے پہلے افسوس کے زمانہ میں عثمان - عمر اور ابوبکر اور معاویہ
 سے حق میں احادیث وضع کھا گئیں۔ اور لفظ اول الکلام رکھنا اور حوالہ
 "اہل اللہ" ~~میں~~ اکتوبر 1913 - وہ جھوٹی احادیث راجح ہیں موجود
 ہونے پر نائب مقرر کرو۔ اور میرے پاس جلد پہنچو، کیونکہ چند ہدایات جو تمہارے سوا ہمیں جنکا
 راز دارانہ بتاؤں گا، ان سے کسی اور کان آشنا نہ ہوں، یہی تقاضا مصلحت وقت ہے مرقی کرنا
 ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ احادیث جو خروج مہدی کے بارے میں طول و عرض دنیا و مشورہ ہے
 اسلام میں شائع ہو چکی تھیں، اور محض سیاسی اختراع تھیں، یکساں ان کا اطلاق اور کرنا
 بنو فاطمہ، بنو عباس اور قوم سلمان فارسی پر ہوتا ہے، ابو مسلم نے نبوت کا دعویٰ اعمال میں
 کیا یا نہیں، لیکن مؤرخین کی یہ رائے صحیح ہے کہ اہل خراسان اس کو نبی یقین کرتے تھے، یہ کہ معاویہ
 اور اس کے اشرافے پر کٹ مرنے کو تیار تھے، لیکن ابو مسلم منصور کے حکم میں آگیا، ~~اور~~ ~~اس~~
 اس نے یہ خیال کیا کہ خراسان تو میرا ہی ہے، شام بھی بسہولت میرے ~~ہو~~ ~~سکتی~~
 میں آجائے گا، پھر بھی اس نے اتنی احتیاط کی، کہ جانشینوں کی کافی جمعیت کے ساتھ
 دار الخلافت کا رخ کیا، منصور نے خوب آؤ بھگت کی، روز و شب شاہانہ ضیافت
 پر خلیفہ حسن بے تکلفی سے پیش آیا اور تنہائی میں راز دارانہ گفتگو کرنا، ایسا سیاسی جادو
 تھا جو ابو مسلم پر چل گیا، دار الخلافت میں خالد برکی بھی موجود تھا، جو سفاح کے زمانہ
 سے وزیر مالیات تھا، ابو مسلم باہل مطہن تھا، جس وقت چاہتا خلیفہ کے پاس آتا، حضرت
 کی آخری تاریخ آپہنچی، شاہانہ ضیافت پر ابو مسلم کو مدعو کیا گیا، منصور کے اشرافے
 پر چند حاضرین ابو مسلم پر ٹوٹ پڑے اور غیر مسلح کیا گیا، اب لجاجت کے سوا اور کیا
 سکتا تھا، بار بار کہتا کہ "امیر المؤمنین مجھے اپنے دشمنوں کے لئے زندہ رہتا ہے، مجھے لہذا
 کی چند ضربات سے اس کا کام تمام کر دیا، جان باز جو ساتھ لایا تھا بے خبری میں مار
 گئے، لیکن جب اس سانحہ کی اطلاع خراسانیوں کو ہوئی تو علم تجاوت بلند کیا۔
 مسعودی کا بیان ہے کہ ابو مسلم نے خراسان میں اپنا ایک مذہب رائج کیا
 تھا، مبتنعین خرمی کہلاتے، اور اس کو اپنا امام تسلیم کر لیا تھا، یہ مذہب تمام خراسان
 اور مشرقی پہاڑوں میں پھیل چکا تھا، ان لوگوں نے کبھی ابو مسلم کی موت پر یقین نہ
 ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مصلحتاً غائب ہو گیا ہے اور یہاں جھنڈیوں کے ساتھ جو امر
 نے بنو عباس کے نام پر اپنے مبتنعین کا اقتیازی نشان مقرر کیا تھا پھر خروج کر دیا۔

چند احادیث بھی اس عقیدہ کی تائید میں ہیں، ابن الاثیر اور میراخوند ابو مسلم کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ مجوسی تھا اور اعتقاداً مجوسی ہی رہا۔ اگرچہ بظاہر لیاقت مسلمان ہی تھا، بغاوت تو فرد ہو گئی، واقعات اسی رائے کی تائید میں ہیں۔

منصور کی توجہ زیادہ تر ان لوگوں کے قلع قمع پر مبذول رہی، جن کی طرف اس کی خلافت کو خطرہ تھا، وہ ایک اور عظیم خطرہ سے بالکل غافل تھا، جس کی براہ راست اسلام پر ٹپتی تھی، ایرانی اپنے زرتشتی عقائد احادیث موضوعہ کے الفاظ میں خاموشی سے شائع کر رہے تھے، ان کی سرگرمی کا مرکز کوفہ تھا، ان میں سے ایک فرقہ "رادندیہ" نے علانیہ منصور کو منظر الہی کہنا شروع کیا، ابھی بغداد کی تعمیر شروع نہ ہوئی تھی، سفاح کو جب قتل و غارت سے فرصت ملی تو قصر ہاشمیہ میں قیام کرتا جو بعض مورخین کے مطابق پرانے ایرانی شہر "انبار" کے پہلو میں، دریا فرات کے مشرقی کنارہ پر ایک نہر کے متصل واقع ہے، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ یہ قصر "حیرہ" اور کوفہ کے درمیان دریائے فرات کے مغربی جانب واقع تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ قصر کوفہ کے قریب میں تھا، بہر حال اسے کوفہ کا قریب ضرور حاصل تھا ایک دن یہ حضرات خلیفہ کی پرستش کے لئے قصر ہاشمیہ کے سامنے جمع ہوئے، محافظین قصر نے روکا تو حملہ کر دیا، اب خلیفہ کو بھی اپنی جان کے لئے پڑ گئے، اس وقت میں ایک شخص "معن بن زبیدہ" جو اپنی سخاوت کے باعث حاکم طائی سے کم مشہور نہ تھا، کام آیا، یہ بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اور منصور اس سے بھی مخالف تھا، جب اس نے سنا کہ خلیفہ بری طرح گھرا ہوا ہے تو کچھ جمعیت کے ساتھ جو سب اس کے بھائی عرب تھے عین اس وقت پہنچا جب رادندیہ محافظین کو قتل کر رہے تھے، ایک ہی حملہ میں رادندیہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جدھر جس کا ہاتھ بھاگ کھڑا ہوا، اسے خلیفہ کی بھی آنکھیں کھلیں، کہ عرب جن کا زور وہ ایرانیوں پر نوازشات کے لئے لڑ رہا تھا، سوائے اموی خلافت کو کتنا پسند کرتے ہوں، تو ہی غیر کے جذبات سے ان کے دل ابھی تک خالی نہ تھے، اس خدمت کے صلہ میں معن

لی پیامہ اور پھر سحبتان کا عامل مقرر کیا، حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ کی پوجا پاٹ تو
انہ تھادہ خلافت عباسیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ ایک گہری سازش تھی۔ اگر
من وقت پر نہ پہنچتا، تو منصور کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ خلافت
باسیہ بھی ختم ہو جاتی،

خراسان ہمیشہ خلافت عباسیہ کے پہلو میں خار کی طرح کھٹکتا رہا، اُسے دن بناد
قتی سے دباوی جاتی، منصور کے عہد میں بظاہر یہ آگ بجھ گئی، مگر اندر ہی اندر سگ
یہی تھی منصور کے جانشین محمد المہدی کے عہد میں ہاشم ابن حاکم نے جو تاریخ میں حکیم
مقنع کے نام سے مشہور ہے علم بغاوت بلند کیا یہ ہمیشہ نقاب اڑھے رکھتا،
عقائد جو اس نے اپنے متبعین کے دماغ میں ٹھونسے وہی آریہ مذاہب کے ہیں۔ بھگوان کے
نام پر ایک زمانہ میں جنم لیتے رہے، ابو مسلم خراسانی کے بعد وہ اوتا رہے، اس کے ویرانہ
کی تاب کوئی فرد بشر نہیں لاسکتا، دیگر عقائد مخرّب اخلاق بیان کئے جاتے ہیں اس کے
متبعین کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی، مہدی کے لشکر کو پلے در پلے شکست بھی دی اس
کے متبعین کا خاص نشان سفید لباس تھا، سیاہ لباس اب عباسیوں کا حصہ ہو چکا
تھا، اس نے عرب ان کو "بسیض" یعنی سفید پوش کہتے ہیں، یہ بغاوت بھی بصد خشک
فرد ہوئی تو "ہرجان" میں جو بکیرہ ہبض کے مشرق میں واقع ہے ایک اور فرقہ نے سر
اٹھایا، اس کو "محمّرہ" کہتے ہیں، ان کا اٹیاری نشان سرخ تھا، غالباً قرلباش ان ہی کی
پابکار ہیں، ان کے عقائد بھی مقنع سے ملنے جلتے ہیں، بغاوتیں تو فرو ہوتی رہیں مگر ان لوگوں
نے ایران اور عراق میں فرقہ بندی اور فرقہ کا وہ زہر پھیلایا کہ اگرچہ خلیفہ مہدی
نے ان کو جو "زندیق" کہلاتے تھے، چن چن کر قتل کیا، مگر زہر اپنا اثر کر چکا تھا،
سنہ ۲۱۴ مطابق ۸۲۹ء میں "بابک خرمی" نے نازندان سے سر اٹھایا، اس نے اپنے
پیشروں سے بڑھ کر فراست کا ثبوت دیا اپنے ساتھ تھیوفیلس (Theophilus)
قیصر قسطنطنیہ کو بلایا، اقرار یہ پایا کہ ادھر بابک علم بغاوت بلند کرے اور دوسری طرف
قیصر شام پر دھاوا بول دے، بابک نے وہی خرمی مذہب جو ابو مسلم اخترع کر چکا

تھا بحال رکھا، اُس نے ویراندیشی سے پہاڑی علاقہ میں دفاع کے تمام سامان ہتھیائے
 کئے ماموں کے عہد میں خلافت اپنے ہتھائے عروج پر تھی، لیکن جو بھی بابک کے مقابلہ
 کے لئے بھیجی گئی ناکام رہی، ماموں خود قیصر قسطنطینہ کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ اوتین خونریز
 لڑائیوں کے بعد قیصر نے صلح کی درخواست کی، بابک کی سرگرمی جاری رہی، ماموں فوت ہوا
 تو معصم باللہ تخت خلافت پر بیٹھا، اب خلافت عباسیہ نے سمجھ لیا تھا، کہ ایرانیوں سے
 وفا کی امید نہیں اور یہ کہ ان کے ارادے کیا ہیں معصم نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا
 شروع کیا، ترکوں ایرانیوں میں ویرینہ دشمنی تھی، جس کو مصنف شاہنامہ فردوسی نے
 مفصل بیان کیا ہے، معصم نے اپنے چیرہ فوجی ترک اخسراختین کو مقابلہ کے لئے
 روانہ کیا، پے درپے شکست کے بعد بابک اور اس کا اہل و عیال ترک سردار نے گرفتار
 کر کے بغداد بھیج دیئے، خلیفہ نے قصور معاف کر دیا، اور الطاف شاہانہ سے نوازا۔ لیکن
 ان باتوں سے کیا ہوتا تھا، بابک اور اس کا بھائی بجاگ کر "آمینہ" پہنچے، یہاں کے سردار
 نے گرفتار کر کے پھر "اختین" کے حوالے کر دیئے، اُس نے پھر بغداد کی طرف بھیج دیئے۔
 اب ان کے جرم پہلے جرائم کے ساتھ اور سنگین ہو گیا تھا، بغداد کے کوچہ بازار میں
 تشہیر کے بعد قتل کئے گئے۔

اہل برامکہ | خلافت عباسیہ کے عہد میں مختلف خاندانوں کا اقتدار بحیثیت وزیر یا

سہرہ بہت خلافت رہا۔ ان میں سے سب سے اول خاندان برامکہ ہے،
 اموی خلافت روزبہ وال تھی، ولید ثانی (۱۲۵ تا ۱۲۶ھ) خلیفہ تھا، جعفر بن حکیم جاس
 ابن شیبہ آتش کدہ نو بہار کا متولی تھا، یہ آتش کدہ بلخ میں واقع تھا، فتح بلخ کے
 بعد جب آتش کدہ کی آگ سرد ہو گئی، جعفر نے اسلام قبول کیا، ایشق میں آیا ان
 ایام میں اہل قلم عجیب ہی تھی۔ علامہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ تمام مصنفین عجیب ہی گزے
 ہیں، خلیفہ ولید نے کتابت کا عہدہ تفویض کیا، اس عہدہ سے وزارت تک پہنچ گیا
 حمد اللہ مستوفی "گزیدہ" میں لکھتا ہے کہ جعفر کا سلسلہ نسب گو دزد وزیر اور خیر باکلان
 سے ملتا ہے، اہل ایران تھے جوئے تھے کہ عربی حکومت کا خاتمہ کر کے رہیں گے، یہاں معلوم

یہ ہے کہ جعفر اسی نیت اور ارادہ سے دمشق میں آیا، ابو مسلم ہزار سال میں اور جعفر
 شق میں اپنا کام نہایت فرست سے کرتے رہے، جعفر کی خدمات شائستہ کا صلہ
 غلج نے یہ دیا کہ اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ عہدہ آل براہکے میں موروثی ہو گیا، منصور
 وزیر بھی یہی جعفر تھا اس کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ اور اس کے بعد جعفر اور فضل ہارون الرشید
 کے زمانہ تک وزارت پر متمکن رہے، ملک کے طول و عرض میں آل براہکے کی جاگیریں تھیں،
 ایک دفع ہارون الرشید دورہ پر نکلا، جہاں خیمہ بستادہ ہوتا دیدیانت پر معلوم ہوتا
 کہ آل براہکے کی جاگیر ہے، اس وقت آل براہکے حل و عقد کے مالک ہو چکے تھے۔

بقراءت کی تعمیر سو رہی تھی، منصور نے خالد سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ
 یوان کسری واقع مدائن گرا کر اس کا مصالحہ بدینہ منصور (بزراد) کے بعض قصر کی تعمیر
 میں بہت مال کریں، خالد نے کہا: "امیر المومنین یوان کسری اور اسی ہی شاہان سلف
 کی عمارتیں عظمت اسلام کی یادگار ہیں، جو بھی انہیں دیکھتا ہے خیال کرتا ہے کہ کسی
 زبردست ہاتھ نے ان کی تعمیر کی ہے، اور ان سے بڑھ کر طاقت والوں نے اس پر قبضہ
 کیا، علاوہ اس میں قصر بھی ہیں جس کے انہدام کا ارادہ فرما رہے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب
 پہنچا ہے، آپ نے اس جگہ نماز پڑھی تھی"

منصور نے کہا کہ حضرت علی نے اکثر نمازیں کئی مقامات پر پڑھیں، تو چاہتا ہے
 کہ تیرے آتش پرست بزرگوں کی یادگاروں کو نہ مٹ جائیں، لیکن منصور "وہ نفعی" تھا،
 کوڑی کوڑی کا حساب کرتا اور لیتا، جب مصالحہ کی ڈھلوانی وغیرہ کا حساب کیا تو معلوم
 ہوا کہ "کوہ کندن و گاہ برآوردان" کا معاملہ ہے، ارادہ ترک کر دیا،

جعفر نے کہا کہ "امیر المومنین اب جس طرح بھی ہو، ضرور ہمارا کر دو۔ لوگ کہیں گے
 کہ خلیفہ کسری کا ایک محل بھی نہ گرا سکا" منصور نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ خزانہ اسی
 کام پر خالی ہو جائے۔"

آل براہکے نے دل کھول کر فیاضی سے لوگوں کو اپنا گردیدہ بنا لیا تھا، شعراء ان
 کے مدح میں قصیدہ خوانی کرتے، ابو لؤاس کے مشہور قصیدہ کا ایک شعر ہے کہ

سلام علی دنیا اذا ما فقد تم
 اے بریک کی اولاد جب تم دنیا سے گم ہو جاؤ
 یعنی بریک من رائحین وغادی
 تو دنیا کو سلام

ایک دفعہ خلیفہ کو ایک گناہ مخط ملا، یہ منظوم مخط ہم نے اپنی کتاب "بغداد" میں
 نقل کیا ہے۔ ترجمہ حسب ذیل ہے:-

خدا کی زمین کا جو امانت دار ہے
 اور جو حل و عقدہ کا مالک ہے اسے کہہ دو
 کیچلی کا بیٹا حضرت امیری طرح مالک بن بیچھا
 اور کچھ میں اور اس میں کوئی حد حاصل نہیں
 تیرا کہنا اس کے حکم سے رو ہو جاتا ہے
 لیکن اس کا حکم رو نہیں ہو سکتا
 اس نے ایک مکان بنوایا ہے
 جس کی مثل فارس اور ہند میں کسی نہیں بنایا
 موتی اور یاقوت اس کی کنکریاں ہیں
 اور خاک غنبر اور لوبان ہے
 ہم لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جب آپ کو زمین چھپے گی
 تو وہ ملک کا دارت ہو جائے گا۔

ان اشعار میں جس مکان کی طرف اشارہ ہے حضرت نے دو کڑے درہم کے صرف سے
 تعمیر کیا۔ جو بغداد کے ایک محلہ شامسیہ میں واقع تھا، برائے کہ کے حالات ہم نے "بغداد"
 میں مفصل بیان کئے ہیں،

عبدالغفار بن طاہر البغدادی (متوفی ۳۲۰ھ) برائے کہ کے زوال کا ایک سبب
 یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدی برکی نے خلیفہ ہارون الرشید کو یہ مشورہ
 دیا کہ "کعبہ" میں ایک حجر رکھا جائے جس میں عود و سبند دن رات جلتا رہے، تاکہ اس کی
 خوشبو سے زائریں کا دماغ بھی مہکا اٹھے، خلیفہ بھانپ گیا کہ یہ نزدیک چاہتا ہے کہ
 کعبہ کو بھی آتشکدہ بنا دے،

خلفاء عباسیہ سب کینزک زاوہ تھے، ایک امین سپر ہارون الرشید زبیدہ کے

بطن سے تھا، سو تیلے بھائی ماموں اور اس میں ہارون الرشید نے سلطنت تقسیم
 کر دی تھی، دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو امین مارا گیا، ماموں کا نکاح حسن بن سہل
 کی بیٹی لوران سے جس وھوم وھام سے ہوا، مورخین نے اس کی تفصیل بیان کی
 ہے۔ ممکن ہے کہ آل براکہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے لیکن اول آٹھ خلفاء

کون اسٹیمبل بنی کینزک زاوہ

عباسیہ معتصم باللہ تک ایسے صاحب اقبال اور ذراست تھے کہ کام نہ بنا جب ہاڑوں
الرشید پر ہر ایک کی پیشہ دو اینیوں کا حال کھلا تو جعفر قتل ہوا۔ اس کے بھائی اور باپ
بھی قید خانہ میں سسک سسک کر مر گئے۔

ماموں کے بعد اس کا بھائی معتصم خلیفہ ہوا، تو ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا اور
اس طرح ایرانیوں کا زور توڑ دیا، مگر یہ بھی ایسے خود سر واقع ہوئے تھے کہ بازاہوں
میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور لوگوں کو آزار دیتے، اہل بغداد اس قدر تنگ آئے کہ
مشورش برپا ہوئی، خلیفہ نے بغداد کی جگہ شہر سرین رائے "جس نے دیکھا مسرور ہوا" آباد
کیا اور اسی جگہ رہائش رکھی، اپنی وضع بھی ترک کی بنالی تھی، ترک کی زبان میں گفتگو کرتا۔ اور
لوگوں کو بھی ترک کی بولنے پر مجبور کرتا، عرب کے مشہور شاعر عدی بن زعمی نے اس کی ہجو
لکھی۔ اشعار ہم نے "بغداد" میں درج کر دیئے ہیں مفہوم یہ ہے کہ

"ملوک بنی عباس تو دراصل سات ہیں، اور سات کا عدد ہی کتاب اللہ میں استعمال ہوا
ہے، آٹھ کا عدد نہیں، بسے اصحاب کہف سات ہیں، البتہ ان کا کتا آٹھواں ہے مگر اس
کتے اور آٹھویں عباسی خلیفہ میں یہ فرق ہے کہ وہ بے شک دم و ذنب رکھتا ہے لیکن
ڈنگ و ذنب نہیں مارتا۔ ذنب کے معنی گناہ بھی ہیں یعنی کتا گھنگار نہیں اور یہ گھنگار ہیں"
معتصم کی خلافت پر نام نہاد عربی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، "خلافت ترکیہ کے تحت
ہم مزید حالات لکھیں گے۔ بنو فاطمہ کی جدوجہد اور استقلال خلافت کے حاشا
ہم علیحدہ دوسری فصل میں لکھیں گے۔

ایک خاص بات جس کی طرف مورخین نے بالکل توجہ نہیں دی، بلکہ
امامت قابل ذکر نہیں سمجھی تاہم خلافت اسلامیہ میں ہم ہم سمجھتے ہیں خلافت
راشدہ میں مسلمانوں کی زیادہ تر توجہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مبذول رہی۔ اور
اموی خلافت میں بھی یہی کیفیت رہی ان ایام میں مسلمانوں کے بائیسوں میں صرف
قرآن تھا، وہ اہل زبان تھے، اور اس کے مطالب اپنی طرح سمجھتے تھے، آج بڑے بڑے
علماء اسلام بھی اس کا فہم نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو قرآن ہی کی

روشنی میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ قرآن سمجھنے میں بھی آسان ہے اور یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے۔
 "لقد يسرون القرآن للسكر" تحقیق ہم نے قرآن سمجھنے کے لئے آسان بنایا تو
 "فهل من مدكر" (۲۶) کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے،

خلافت عباسیہ کے دور دورہ میں چند قسم کی ذہنیت کے لوگ پیدا ہو گئے تھے
 جو زیادہ تر عجمی ہی تھے ان میں سے ایک فقہا اور دوسرے غائب اور تیسرے دنیا دار

فقہا نے مدرسے کھول رکھے تھے اور یہاں دینیات کا درس دیتے تھے ان دینی مدرسوں
 کی ابتدا بنو فاطمہ نے کی، ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلافت راشدہ اور اموی حکومت کے
 دور میں خلیفہ اور اس کے عامل خود ہی امامت کے فرائض بھی ادا کرتے، خلافت عباسیہ
 میں امامت کا عہدہ آئمہ دین کے سپرد ہوتا، امامت خلافت کا ایک جزو لا ینفک سمجھا گیا
 اور اب یہ ایک مسجد کے ملاکے ہاتھ میں آ گئی، اس میں کچھ شک نہیں کہ ابتدا میں امامت
 مشہور ہستیوں کے ہاتھ میں رہی، اور ان کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا، خلافت اور امامت
 کی تاریخ ہر ایک قوم کی تاریخ ہے، یورپ میں پوپ امام ہی تھا، ہندوستان میں بکر
 امام تھے، اور راجے چھتری، یہی کیفیت خلافت اور امامت کی تاریخ اسلام میں تھی،
 خلافت دنیوی حکومت تھی، تو امامت دینی حکومت، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیوی حکومت تو جسم و
 پر اور دینی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، اور جس حکومت کے قبضہ میں دل ہوں وہ آسانی
 دنیوی حکومت پر بھی قابض ہو جاتی ہے، ہر ایک قوم کی تاریخ میں یہ دو طاقتیں دنیوی
 حکومت (Church) اور دنیوی حکومت (State) برسرِ اقتدار رہی
 ہیں، اسان قرآن میں دینی حکومت کو نبوت سے تعبیر کیا گیا، جس کے خاتمہ کا اعلان خدا
 نے فرمایا تھا، اور اس کی جگہ "شوری" قائم کر دی گئی، جو دینی اور دنیوی امور

کا انصرام کرتی رہی، خلافت عباسیہ میں یہ دینی حکومت پھر زندہ ہو گئی، اور اس
 جن کا قبضہ تھا وہ امام کہلائے، ایک جماعت ایسی بھی پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے
 مسیحی مذہبوں کی طرح "زاویے" اور خانقاہیں (Monasteries) بنالیں
 اور یہ ان کے عبادت خانے تھے، ان کو عبادت سے شغف ضرور ہو گا لیکن ارکان اسلام
 حافظہ آرا کی سرپرستی اور ان کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھنا اور ان کے حیران کن

شاخہ خلافت
 لیکن دوسرا زین
 غنک غنقاہ اور جو بنی بنی نظام
 شکر دہی میں ایسے با عمل
 دنیا دار جو

جو بالکل سادہ ہیں، ان پر تو نفل "سما اضافہ" ان ہی لوگوں نے کیا، یہ اولیائے اللہ بعد
 میں صوفی کہلائے، ان کا احترام ہر ایک جگہ ہوتا، انسان طبعاً کثرت پسند واقع
 ہوا ہے خواہ اچھی ہو یا بری، عبادات میں شغف رہبانیت کی حد تک پہنچ گیا،
 ارشاد قرآن ہے کہ

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا احْسَابًا وَمَا كُنَّا صٰلِحِيْنَ اٰلِهٰٓمِ
 اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَادَّعَوْهَا حَقٌّ لِّمَنْ نَعُوْذُ بِهٖ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَهُوَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۲۴)

غلط فہمی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی عبادت سے جتنا بھی زیادہ کریں خوش ہوتا
 ہے۔ "وہ مانع یہودہ نجت و خیال بطل بست" یہ ایک فریب نفس ہے، ایسی عبادت میں
 حظ نفس ہے مسلمانوں میں عبادت ہندوستان کے مسیویوں اور مسیحی رہبانوں کی نفس
 کشی تک کبھی نہیں پہنچی، لیکن جتنا بھی اس میں غلو کیا گیا ہے اتنا ہی حقوق العباد تلف
 ہوئے، صلوة یعنی تعلق باخدا ایک خاص صورت عبادت کی ہے (Formality)
 اور ہر ایک نظام کی کچھ نہ کچھ صورت ضرور ہونی چاہئے، ارشاد قرآن ہے کہ

ان الصلوة تھنی عن الفحشاء والمنکر صلوة بے حیائی اور نامعقول باتوں سے روکتی
 ولذکر اللہ اکبر، واللہ تعلم ہے اور البتہ اللہ کی بہت بڑی یاد ہے اور اللہ جانتا
 ما یصنعون (۲۵)

عبادت الہی یہی ہے کہ ہر ایک بے حیائی سے خواہ چھپی ہو یا ظاہری انسان رکھے
 اور اللہ کو یاد رکھے، اس کی خاص صورت جماعتی زندگی میں وہی کچھ ہے جو مسلمانوں
 میں رائج ہے، لیکن آنحضرت کے عہد مبارک میں بھی اس سادہ چیز پر "نوافل" کی کثرت
 ہو رہی تھی، اس میں کچھ شک نہیں کہ آنحضرت کو عبادت الہی میں خاص شغف تھا آپ
 کے اتباع میں صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی، "سورہ منزل" میں اس سے منع فرمایا گیا اور
 آیت محولہ بالا میں اس کو "صنعت" سے تعبیر کیا گیا، اور تفسیر کیا گیا کہ علامہ ابن کثیر نے
 اللہ کو معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نباہ سکو گے، اس لئے کہ تمہاری صرف یہ کام ہیں،

بلکہ اور فرأض ہیں :-

علمان سیکون منکر مرضی، و اخرون یضربون فی الارض
یتبعون من فضل اللہ، و اخرون یقاتلون فی سبیل اللہ ر ۱۹

ہم میں سے بیمار بھی ہوں گے، اور ملک میں تجارت کے کاروبار میں سفر کرتے ہوں گے اور
دوسرے فی سبیل اللہ دشمنانِ دین سے جنگ میں مصروف ہوں گے (۱)

اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اوقات کا اندازہ مقرر فرمادیا ہے اور ہر ایک وقت
کا ایک خاص تقاضہ ہے، دن معاش اور رات آرام کے لئے ہے، البتہ رات کے وقت
اٹھنا نفس سرکش پر گراں گزرتا ہے، اس لئے نفس کشی کے لئے مناسب ہے تو جس
کو اس کی ضرورت ہو وہ شوق سے کر سکتا ہے، مگر اس کی حیثیت "نفل" سے بڑھ کر
ہیں، "فرض" وہ ہے جسے ہر ایک شخص نباہ سکتا ہے۔

یہ ایک مستقل موضوع ہے اور ہم نے اپنے مقالات میں اس پر علیحدہ بحث کی ہے
ان اوراق میں ہم جس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اتنا اشارہ کافی ہے
کہ مذہبی رسوم کی بھربھار نے اسلام کی فطری سادگی کو جس میں ایک کشش تھی صنعت
انسانی میں بدل دیا، اور حقیقت محبوب ہو کر رہ گئی، یا تو "زناوہ" نے مسلمانوں کو فرض
جہاد سے فافل کرنے کے لئے یا اسلام کے نادان پیروں نے ترغیب عبادت کے لئے ایسی
احادیث کثرت سے وضع کیں، جن میں ایک ایک نفل کا ثواب پتلا شہداء کے اجر کے
برابر قرار دیا،

خلافت کے تحت جس جہت کا وعدہ مومنین و صالحین سے کیا گیا تھا اور پورا
ہو کر رہا، اس سے یہ شیطنت مسلمانوں کو بیدار کر کے رہی، اور اب یہ ذہن نشین کیا گیا
کہ دنیا "سجن المومنین" ہے یہاں فقر و فاقہ عاقبت کی دائمی نعمت کا ضامن ہے رسول کریم
کی صحیح حدیث ہے کہ

لا یدع احد منکم الجہاد فاذہ لایدعہ فتوم
الاکثر بہم واللہ بالذل۔

تم میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ سے غافل نہ رہو، کیونکہ جس قوم نے اس طرف سے غفلت برتی اور اسے ترک کیا اللہ نے اس پر ذلت مسلط کر دی۔ اور یہ کہ تمہارے دین دنیا سے وابستہ ہے، جب تمہاری دنیا خراب ہوگی دین بھی خراب ہو جائے گا۔

شب چوہ عقد نماز برینیدم چہ خود بامداد فرزندم
 سچ ہے "پراگندہ روزی پراگندہ دل"۔ زاریہ نشین "خائفانہوں" کے "پیران جاہل
 اور شیخان گمراہ" کے لئے تو روزی کا سامان غیب سے ہوتا رہتا ہے ان کو عقل کے اندھے
 اور گمانٹھ کے پورے مل جاتے ہیں لیکن عامتہ المسلمین کہیں کے نہ رہے،
 بنوفاطمہ نے ابتدا میں خلافت کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مائے اس قرابت کا احترام
 عام مسلمانوں کے دلوں میں بہت تھا جو ان کو آنحضرت سے تھکی، اور ایسی بنا پر ان کا دعویٰ
 خلافت بھی مبنی تھا، ایرانیوں اور عباسیوں نے ان کو اپنا آلہ کار بنایا، جب عباسی
 بادشاہت پر ان کو مات دے گئے، اور خلافت عباسیہ زور پکڑ گئی، تو یہ مایوس
 ہو گئے اس لئے انہیں اس کے سوا چارہ کار نہ تھا۔ کہ دینی حکومت یعنی امامت پر
 قبضہ تہایتے،

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ اس کی امت ابو امام جعفر صادق سے ہوئی جو ۳۵ھ
 مطابق ۶۵۵ء مدینہ میں فوت ہوئے، لیکن خوش قسمتی سے درس و تدریس دینیات کا
 سلسلہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور جانشین موسیٰ الکاظم نے جاری رکھا اور
 دوازدہ امام جاری رکھتے رہے، امام جعفر آپ سے منسوب ہے، غالباً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
 کہ دنیوی خلافت آپ کو نہیں پہنچے گی، اس لئے آپ سے یہ قول منسوب ہے کہ
 "دنیوی حکومت ہمارے لئے نہیں ہے"۔

کوئی محقق مؤرخ آپ کی اعلیٰ سیاسی فراست کی داد دینے بغیر نہیں رہ سکتا۔
 خلفاء عباسیہ کے ابتدائی تاجدار بھی کئی گولیوں سے کھیلنا نہیں سیکھے تھے۔ امامت کی
 آڑ میں بنوفاطمہ کے کچھ اور غمراہ ہوں یا نہ ہوں ان کو یقین تھا کہ دینی ڈھونگ کسی روز

رنگ لائے گا، اس لئے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، اس کا داغ ان کے دامن پر
اس سے زیادہ بدنام و عقبہ بے جو بنو امیہ نے ہاشمیوں سے اپنی سیاسی اعتراض
کی تکمیل کے لئے ردا رکھا، لیکن بنو فاطمہ اپنی دعاوی سے کبھی دست بردار نہ ہوئے
خلافت فاطمیہ کے تحت ہم ان کا تذکرہ کریں گے،

مجدویت

انہی ایام میں فقہانے یا "امامت" کے دعویداروں نے چند اصطلاحات
"مجدد" اور "محدث" وغیرہ وضع کیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صدی
کے بعد دین مردہ ہوتا رہے گا، اور ہر ایسا شخص جو دین کو پھر سے زندہ کرے گا یا اس کی
تجدید کرے گا "مجدد" ہے، مجدد گو بنی نہیں مگر نبوت کے اقرب ہے، ان شاخسانوں سے
اور احادیث و بارہ نازل عیسیٰ و خروج مہدی نے ایام جاہلیت کی دینی حکومت کو پھر
سے زندہ کر دیا،

خوارج

ہم نے خوارج کا تذکرہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب "مبشوق" میں
کیا ہے اور ان اوراق میں حضرت علی کی خلافت کے تذکرہ میں بیان کر
چکے ہیں کہ یہ پیر جو ش ہوا خواہان علی تھے، لیکن جب حکمیں کا نقرر ہوا، تو یہ علیحدہ ہو
گئے، اس جماعت میں صحابہ رسول کریم بھی تھے،

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت تک صحابہ کے ہاتھ قرآن تھا یا آنحضرت کی عملی
زندگی کا نمونہ جو سنت رسول اللہ سے موسوم ہے، خوارج میں اکثر حافظ قرآن تھے
اور وہ صرف قرآن کو زندہ جاوید امام یقین کرتے تھے، حضرت علیؑ پر ان کا یہ اعتراض
تھا کہ لا حاکم الا اللہ یعنی جب یہ طے پا چکا تھا کہ قرآن کی رو سے فیصلہ ہوگا،
تو حکم قرآن ہے، ابو موسیٰ اور عمرو بن العاص کو حکم کیوں مقرر کیا گیا، حضرت علی نے
سمجھایا کہ دونوں قرآن کی رو سے فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ قرآن ہی کا ہوگا۔ بہر حال
یہ لوگ نہ صرف حضرت علی کی جماعت سے علیحدہ ہو گئے، بلکہ امیر معاویہ اور حضرت
علی کے خلاف برسر پیکار رہے، ان کی سرگرمی نے دونوں خلافتوں کو بہت نقصان
پہنچایا۔

سید امیر علی اپنی "ہسٹری" میں لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کا دعویٰ قرابت رسول اللہ
 یعنی تھا، مگر خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ برحق وہی ہے جس کو عام جماعت مسلمین
 اتفاق کثرت رائے منتخب کرے، اس لئے وہ اول دو خلفاء صدیق اکبر اور عمر کی خلافت
 کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مداح بھی ہیں، لیکن باقی دو خلفاء اور خلفاء بنو امیہ
 کو تسلیم نہیں کرتے، خلافت عباسیہ تو ان کے نزدیک کوئی وقعت ہی نہیں رکھتی،
 ان لوگوں کے عقائد اس فرقہ سے بہت ملتے جلتے ہیں جن کو ہمارے زمانہ میں "وہابی" کہتے
 ہیں، جب خلافت عباسیہ زوروں پر تھی تو یہ لوگ تتر تتر سو کر شمالی افریقہ کی طرف
 چلے گئے، اور وہاں اپنی سرگرمی جاری رکھی، خلفاء مصر اور خلافت فاطمیہ کے تحت
 ہم ان کے مزید حالات لکھیں گے،

نائب السلطنت انتقال خلافت کے سبب سمجھنے کے لئے خود خلفاء عباسیہ

کی حکمت عملی کا فہم مقدم ہے، ہم بیان کر چکے ہیں کہ اموی
 خلافت خالص عربی حکومت تھی، اور تمام عرب ان کا پشت پناہ تھا، جب خلافت
 عباسیہ قائم ہو گئی تو اس کے سوا چارہ کار نہ تھا، کہ ایرانیوں کو عربوں کے مقابل لایا
 جائے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مغلیہ بادشاہ اکبر نے ہندوستان میں اپنے پیشرو
 چھانوں کا زور توڑنے کے لئے ہندو راجپوت راجاؤں کو ان کے سامنے کر دیا اور حد
 ہے کہ راجہ بھگوان داس کابل میں نائب السلطنت رہا۔ اسی طرح عباسی خلفاء نے
 پارسیوں پر غنا دیکھا، آل ہراند کے حالات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید
 کے عہد میں جعفر برکی مفید و سیاد کا مالک ہو چکا تھا، مالیات کا انتظام شروع سے
 ان کے ہاتھ میں تھا، خلیفہ کا روزینہ مقرر تھا، بعض اوقات ہارون الرشید کچھ مطالب
 کرتا تو ادھر سے انکار ہوتا، بعض مورخین نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ہارون الرشید کی
 بہن عباسہ سے جعفر برکی کا نکاح بھی ہوا، لیکن علامہ ابن خلدون ان کا مضمحکہ اڑاتا
 ہے اور لکھتا ہے کہ یہ مؤرخ تو نہیں فسانہ نویس ہیں، اور یہ فسانہ محض دوسرے بے فروغ
 ہے، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ ہراند کے ہاتھ میں انتظام مملکت آچکا تھا،

علامہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ غیر محدود تھا، لوگوں کو اپنا
 گردیدہ سخاوت سے کیا، اگرچہ یہ بھی حلوئی کی دکان اور داواچی کا فائدہ تھی بدلت
 کے تمام اعلیٰ عہدے اور منصب پر آل برآمدہ قابض تھے یا وہ اشخاص جو ان کے
 ہوا خواہ تھے، اور جن کا انتخاب برمی کرتے، وزارتِ عظمیٰ ان کی تھی اس لئے ہر ایک
 سران کے استمانہ پر جھکتا، اور وہی ہر ایک کی حاجت روائی کرتے، بہر حال خلیفہ
 کو خیر خواہوں نے یقین دلایا کہ برآمدہ پھر سے ایرانی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں
 لئے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نے ان کا خاتمہ کر دیا، لیکن پارسی اثر و رسوخ ان کے
 ساتھ کم نہ ہوا، خلیفہ معتصم نے اس کا دور توڑنے کے لئے ترکوں کی بھرتی شروع
 کر دی یہ لوگ "ملوک" کہلائے۔ ان کے علاوہ معتصم نے افریقہ اور یمن سے بھی
 کرایہ کے ٹو بھرتی کئے جو "مغربی" کہلائے،

معتصم کے بعد اس کا بیٹا داؤد اور داؤد کے بعد اس کا بھائی متوکل ان
 ترکوں کی حسب مرضی تختِ خلافت پر متمکن ہوئے۔ متوکل کو ان ہی ترکوں نے مارا
 اور اس کے بیٹے مستنصر کو تخت پر بٹھا دیا، مستنصر کے بعد معتصم کے ایک پوتے مستنصر
 کو خلافت عطا کی، معتصم کے بعد اس وقت تک دارالخلافت سامرہ میں تھا مستنصر
 تو برائے نام خلیفہ تھا، اس دولت سے بچنے کے لئے بغداد پرانے دارالخلافت میں
 امید پیدا کیا کہ عرب اور پارسی اس کی کچھ مدد کریں گے، اس کے عہدِ حکومت میں
 جہاں جہاں عامل تھے خود مختار تھے، لیکن خلافت کا احترام اس حد تک تھا کہ اپنے
 آپ کو نائب السلطنت ہی سمجھتے اور کہتے رہے،

جب ناموں رشید اور اس کے بھائی امین میں تنازعہ خلافت برپا ہوا تو سامرہ
 کے فوجی افسر کے تحت ایرانیوں نے بغداد کا محاصرہ کیا اور امین مارا گیا، طاہر
 خراسان کی حکومت تفویض ہوئی، دارالحکومت نیشاپور قرار پایا، آل طاہر عرصہ
 تک بالاستقلال حکومت کرتے رہے مستعین کو تختِ خلافت سے دست بردار ہونے
 مجبور کیا گیا، اور ترکوں نے مستنصر بالحد کو جو کہ معتصم کا دوسرا بیٹا تھا خلیفہ مقرر کیا

سی کے عہدِ خلافت میں احمد بن طولون کو مصر کی نیابت تفویض ہوئی، اور یہ بھی
 آل طاہر کی طرح مصر کا خود مختار فرماں روا تھا، احمد بن طولون شام پر بھی چھا
 لیا، اس کے بیٹے خمارویہ نے دمشق میں اپنا وراثت قائم کیا۔ اور مصر پر بھی
 حکومت کرتے رہے، خلفائے عباسیہ تو ہوائے نام خلیفہ تھے اور میوں کے حملوں کا
 جواب بھی ترکی بہ ترکی ہی نائب سلطنت دیتے رہے،

خلفا مصر | جب چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں نے بغداد کو تباہ کیا۔ تو
 تاتاری ٹڈی دل عراق کو روندنا ہوا شام کی طرف بڑھا حلب

میں پچاس ہزار مسلمان تہ تیغ ہوئے، اور دس ہزار عورتیں اور بچے لوٹے
 وہ غلام بنائے گئے مغرب کی طرف رخ کیا۔ شہر ناصرو واقع فلسطین کے قریب عین
 جاہلوت پر "سلطان بیبرس" جو ملک منصور دلتے مصر کا سپہ سالار تھا، مقابلہ کے
 لئے آیا، منصور تو ابھی لڑکا تھا، وزیر سیف الدین نے اعیان دولت کو جمع کیا ترار پایا
 کہ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اگر بیت المال میں ایک جتہ بھی نہ رہے تو عامتہ المسلمین
 سے امداد طلب کرنی چاہئے، جب اس امر کا اعلان کیا گیا تو مسلمان جو جوق جو
 کچھ بھی میسر تھا لے کر حاضر ہوئے، اس وقت اس کی ضرورت نہ تھی، سیف الدین لقب
 ملک مظفر نے بیبرس کو لکھا کہ تاتاریوں کا مقابلہ کرو، اور وعدہ کیا کہ حلب کی حکومت
 تمہاری ہے، بیبرس نے تاتاریوں کو شکست فاش دی اور حلب تک تعاقب کیا۔ اور تانے
 تاتاری مائے گئے کہ پھر ان کے پاؤں کہیں نہ جسے، ملک مظفر نے وعدہ پر قائم نہ رہا۔ اس
 نے بیبرس سے نہ بنی ملک مظفر بنا گیا، بیبرس نے خود ملک طاہر کا لقب اختیار کیا۔ اس
 کے بعد ملک طاہر کا لقب پسند آیا، بغداد میں خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی، "المستدر"۔
 بھاگ کر مصر میں آیا، بیبرس نے ہاتھوں ہاتھ لیرا بیعت کی اور سلطان کا خطاب بارگاہ

سے بنی ظنون سے خارویہ اور ابو العسا کر اور ابو موسیٰ ہارون اور ابو العفاری ہسپانوی ہوئے آخر الذکر
 پر ۲۵۲ھ میں ان کی وراثت یا سلطنت کا خاتمہ ہو گیا،

خلافت سے عطا ہوا۔ المستنصر بہا خلیفہ عباسیہ مصریے پھر سے کھوٹے ہوئے
 مقبوضات لینے کا ارادہ کیا، آخر تاتاریوں سے عراق میں مقابلہ ہوا مسلمانوں کو شکست
 ہوئی۔ خلیفہ کی لاش نہ ملی ہشہوریہ ہوا کہ روپوش ہو گئے، مصر میں المستنصر کے بعد
 بامر اللہ جو خلیفہ مسترشد کی اولاد سے تھا۔ خلیفہ ہوا۔ حاکم نے تاتاریوں سے پھر جنگ
 چھیڑ دی اور ان کو پلے درپلے شکست دی، اکثر تاتاری امن کے خواہشکار ہوئے۔
 آغوش اسلام میں آگئے، ۴۴۳ھ میں ہلاکوشاں ہلاک ہوا۔ اس کی اولاد میں سے قاندا
 بن ارغون بن ابغابن ہلاکوشاں ۴۹۴ھ میں مسلمان ہو گیا، یہ اسلام کی عظیم نشان
 تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، جو قرآن میں ہو چکا تھا، کہ اگر تم اس مقصد
 کی تکمیل سے قاصر رہے جس کے لئے تمہیں خلافت دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک
 قوم کو لے آئے گا، جو تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔

مصر میں بارہ خلفاء عباسیہ کے بعد دیگرے ۹۰۸ھ تک تخت خلافت
 بیٹھے، محض برائے نام خلیفہ تھے، امور سلطنت سلاطین سرانجام دیتے تھے۔ جن کا تذکرہ
 ہم علیحدہ کریں گے۔ یہ جسے چاہتے خلیفہ بناتے جسے چاہتے معزول کرتے، جسے چاہتے
 و بند میں رکھتے اس لئے ان کا تذکرہ بے فائدہ ہے، آخری خلیفہ عباسیہ المستنجد بال
 کے انتقال کے بعد سلطان روم سلیم اول نے مصر پر قبضہ کر لیا، اور عمان خلافت
 سنبھال لیا۔

اموی اور عباسی خلافت مشرق اور مغرب پر چھانی ہوئی تھی، جب پارہ پارہ
 ہو گئی تو خلافت کے تحت جو دایمان تھے، خود مختار سلاطین بن گئے۔ سلاطین مشرق
 کے حالات ہم اس کتاب کے دوسرے باب میں لکھیں گے۔ چونکہ خلافت امویہ
 عباسیہ مشرق سے بیدخل ہو کر مغرب افریقہ اور ہسپانیہ میں منتقل ہو چکی تھی اس
 مناسب ہے کہ ان دایمان کا تذکرہ جو خلفاء امویہ و عباسیہ کے عہد میں مغرب میں
 اس مقام پر اس حد تک کیا جائے جو خلافت بنی فاطمہ سے وابستہ ہے جس کے بعد
 خلافت قریشیہ کے ہاتھ سے لٹکا گئی۔

آلِ اَعْلَب

خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں خلافتِ عباسیہ اگرچہ انتہائی
 عروج پر تھی مگر ولایتِ افریقیہ کا انتظام خاطر خواہ نہ ہو سکا۔ بربری
 قبائل کی آئے دن کی شورش اور والیوں کے عزل و نصب نے خلافت کے خزانہ پر
 ناقابلِ برداشت بوجھ ڈال رکھا تھا۔ ہرثمہ والی افریقیہ میں سال کے بعد خود ہی مستعفی
 ہو گیا۔ اور خلیفہ کے ذہن نشین یہ امر کیا کہ اس دورِ دراز مملکت کے حصہ میں والی
 مصر سے انتظام نہیں ہو سکتا۔ یا تو شمالی افریقیہ کو چند ولایات میں تقسیم کر دیا جائے
 جن کا براہِ راست تعلق دربارِ خلافت سے ہو یا کچھ اور بندوبست جو مناسب ہو کیا
 جائے۔ اس وقت ابراہیم بن اعلب موجود تھا۔ اس نے ہرثمہ کی تائید کرتے ہوئے
 کہا اگر امیر المؤمنین افریقیہ کی ولایت میرے سپرد کریں اور یہ عہدہ میری آل میں
 موروثی ہو تو میں سالانہ چالیس ہزار دینار دربارِ خلافت کی نذر کرتا رہوں گا۔ اس وقت
 ایک لاکھ دینار سالانہ کا بار خزانہ خلافت پر ہے۔ اس سے سبکدوش کر دوں گا۔ ہرثمہ
 کے مشورہ پر ہارون نے ابراہیم کی درخواست منظور کر لی بشرطِ یہ تھی کہ آلِ اعلب سے جو
 بھی والی ہو۔ وہ پہلے دربارِ خلافت سے باضابطہ سندِ ولایت حاصل کرے۔
 مراقش تو خلیفہ ہادی کے عہد میں خلافتِ عباسیہ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور
 یہاں خلافتِ ادرسیہ قائم ہو چکی تھی اس کے حالات ہم خلافتِ بنی فاطمہ کے تحت لکھیں
 گے۔ ابراہیم نے اپنا دارالولایت قیرواں کے قریب بنایا اور اس کا نام "عباسیہ" رکھا۔ ابراہیم
 کا عہدِ ولایت ان سے گزرا۔ یہ عرصہ ۱۸۴ھ سے ۱۹۴ھ تک خوشحالی کا رہا۔

شجره نَسَبِ آلِ اَعْلَبِ

اعْلَب

(۳) ابو عقاب (اعْلَب)

۲۲۲
۶۸۷۰

(۲) زيات الشداول

۲۵۱
۶۸۱۰

(۱) ابو اسحاق

۱۸۷
۶۸۰۱

(۴) ابو العباس محمد

۲۲۴
۶۸۵۲

(۸) ابو اسحاق

۲۴۱
۶۸۴۷

(۶) ابو عبد الله محمد

۲۵۰

(۷) ابو محمد زيارت الثاني

۲۷۵

(۵) ابو اسحاق احمد

۲۷۲
۶۸۴۱

(۹) ابو العباس عبد الله

۲۸۹
۶۹۰۲

(۱۰) ابو مفرز زيات الثاني

آلِ اَغلِب کے عہدِ ولایت کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ جزیرہ صقلیہ (Sicily) پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور وہ روم و السلطنتِ اُمّی کی ولایتوں تک بڑھتے اور پھیلے جتے رہے۔ اس واقعہ کے اسباب مورخین یورپ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک بازنطینی (Byzantine) نوجوان نے ایک نوجوان رومیہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ بشریّت عیسوی میں رومیّت کی پہلی شرط تجرید ہے۔ نوجوان کا نام "نہی" معرب ہے "نہیس" (Euphemius) کا۔ مگر اس واقعہ کا ابن اثیر ذکر نہیں کرتا۔ وہ اور ہی سبب بتاتا ہے۔ کہ ۱۱۲۰ء میں قیصر قسطنطین نے صقلیہ کا گورنر (Constantine) نامی کو مقرر کیا جو بہادر سپاہی تھا۔ اور طبقہ اُمراء میں سے بھی تھا۔ اس کے تحت بحری بیڑہ بھی تھا۔ اور وہ افریقہ کے ساحلی علاقہ پر حملے کرتا رہا۔ اور مسلمانوں کے جان و مال کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس سبب کا ذکر یورپ کے مورخین بھی کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ گورنر کے ماتحت نہی تھا۔ جس نے یہ حرکت ناشائستہ مذکورہ کی۔ بادشاہ نے گورنر کو حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹی جائے۔ نہی بھاگ کر زیادت اللہ اَغلِب سے آگیا۔ اور صقلیہ پر حملہ کی ترغیب دی۔ زیادت اللہ نے اس پر نرات جو قیروان کا قاضی بھی تھا۔ بحری بیڑہ کے ساتھ صقلیہ کی طرف روانہ کیا۔ ابو العباس محمد کے عہدِ ولایت میں مسلمانوں نے جزیرہ مالٹا (Malta) بھی لے لیا۔

ابو عبد اللہ محمد (متوفی ۲۶۱ھ) کے عہدِ ولایت کے آخر تک آلِ اَغلِب کا غلبہ بحر الشام (بحیرہ روم) پر رہا۔ لیکن ابراہیم کے آخری دور میں بد نظمی رونما ہوئی۔ ابراہیم دیوانہ ہو گیا۔ اور اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ خلیفہ متعصم عباسی نے اُسے ہر طرف کر کے اس کے بیٹے ابو العباس کو جو اس وقت صقلیہ کا عامل تھا۔ ولایت دی اس کو اسی کے بیٹے ابو مضر زیادت اللہ نے مرداڈالا۔ اور اس پر کوشش پر آلِ اَغلِب کی ولایت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب خلافت بنی فاطمہ کے ہاتھ آگئی۔

خلفاء بنو فاطمہ اپنی خلافت کی حدود بڑھا رہے تھے مگر مصر

دولتِ اَخشیدیہ | ابھی تک خلفاء عباسیہ کے قبضہ میں تھا۔ اَخشید محمد بن

طغی ترک کی آمد اس کی اولاد میں ۱۲۹۱ء سے ۱۳۵۷ء تک سلطنت مصر رہی بنی فاطمہ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور مصر پر قبضہ جمایا۔

دولت ایوبیہ | اس خاندان کے لوگ کے حالات ہم علیحدہ سحر و سحر و الصلیبہ کے تحت لکھیں گے۔ اس خاندان نے بنو فاطمہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر سے خلافت عباسیہ قائم کر دی۔

دولت ترکیہ مصریہ | ۱۳۵۵ء میں دولت ایوبیہ کے خاتمہ پر دولت ترکیہ کا آغاز ہوا۔ یہ بھی ۱۳۷۸ء میں ختم ہو گئی۔

دولت چرک پیہ مصریہ | ان سلاطین کا دور سلطنت ۱۳۹۱ء سے ۱۹۲۲ء تک رہا۔ ان کے خاتمہ کے ساتھ نام نہاد خلافت عباسیہ

بھی ختم ہو گئی۔ اند ترک کی سلطان سلیم و سلطان روم نے خلافت سنجالی لی۔ اور مصر پر ترک کی سلطان کے مقرر کردہ والی پاشا حکومت کرتے رہے سلطان عبدالحمید خاں کے عہد میں محمد علی پاشا نے بغاوت کی بمصالحات اس پر ہوئی کہ حکومت مصر موروثی محمد علی پاشا کے خاندان میں رہے۔ لیکن حق بیادت سلطان کا رہے۔ یہ حق بھی نہ رہا موجودہ حذیبہ مصر فاروق اسی خاندان سے ہے۔ لیکن مصر اور سوڈان عرصہ سے زیر اقتدار برطانوی حکومت ہے جو عملاً نہر سوئس پر قابض ہے۔

۴۔ نہر سوئز کے موجودہ تنازعہ کے حالات اس کتاب کے تیسرے حصہ میں ملاحظہ ہوں
برطانیہ نہر سوئز اور سوڈان پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے اگر مصر کی مدد عرب لیگ نے کی تو
غالباً متوقع تیسری جنگ چھڑ جائے گی۔

خلافتِ بنو امیہ

ہسپانیہ میں

میشام اول ۷۵ھ میں دمشق میں اموی خلیفہ گذرا ہے جس نے اپنے بھائی
یزید ثانی کی وفات کے بعد عنانِ خلافت سنبھالی۔ انیس برس نو ماہ اور نو دن کے
بعد ۷۲ھ مطابق ۷۳۳ء فوت ہوا۔

میشام بنو امیہ میں بڑا صاحبِ اقبال خلیفہ گذرا ہے۔ عباسی خلیفہ منصور
بھی اس کے جہاد و جلال کا معترف تھا۔ اور اسے "فتی القوم" کے لقب سے یاد کرتا۔
اس کی وفات پر اموی خلافت تین برس عظیم الشیا۔ افریقہ اور یورپ میں قائم ہو چکی تھی۔
یورپ میں تمام جزیرہ ہسپانیہ اور پرتگال اور جنوبی فرانس بحیرہ روم کسی وقت
بحیرہ فیقی تھا۔ اب بحیرہ امویہ بن گیا۔ جزائر "مجزورکا" (MAJORCA) اندمانی لڈکا
(MINORCA) اور آئی دیکار (سنگری کارسیکا) (CORSICA) اور
سارڈینیا (SARDANIA) اور قریطہ (CRETE) رڈوس (RHODES) اور
قبرس (CYPRUS) اور جزیرہ "صقلیہ" (SICELY) کا جنوبی حصہ اور
اکثر یونانی جزائر پر خلافت امویہ قابض تھی۔ افریقہ میں تمام شمالی بربر اعظم بحر ادقیانوس
سے خاکسائے سویس (SUEZ) تک اور ایشیا میں جزیرہ نمائے سینا سے ملگولیا تک
پھائی ہوئی تھی۔

ہشام اول کے بعد اس کا پورا و زادہ ولید ثانی ابن یزید ثانی تخت نشین
 اس کا اپنا لڑکا معاویہ قابون وراثت کی رو سے وارث نہ ہو سکا۔ اسی معاویہ
 بیٹا عبدالرحمن اول ہے۔ جو سفارح کے وزیر ہاتھ سے بچ کر ہسپانیہ آیا اور
 آباد ہوا۔ اور خلافت امویہ کو ۱۸۷ھ مطابق ۸۰۴ء تک زندہ رکھا
 ایشیا میں ان کا دارالخلافت "دمشق" تھا۔ جس کی تاریخ ہم نے ۲۳۸
 لکھی۔ اور ۲۳۹ھ مطابق ۸۵۵ء مطبع روز بازار سے شائع ہوئی۔ اس
 اموی خلافت کا تذکرہ یہ تعلق "دمشق" ہی لکھا گیا ہے۔ ان اوراق میں بھی
 یہ تعلق خلافت اسلامیہ ہی لکھا ہے۔ ہسپانیہ میں بھی یہی سلسلہ جاری رکھیں


شجره خلفاء بنی امیہ قرطبہ

- (۱) عبدالرحمن اول (۱۳۸ھ / ۶۷۵ھ)
 (۲) ہشام اول (۱۴۲ھ / ۶۷۸ھ)
 (۳) حکم اول (۱۸۰ھ / ۷۹۷ھ)
 (۴) عبدالرحمن ثانی (۲۰۴ھ / ۸۲۲ھ)
 (۵) محمد اول (۲۲۸ھ / ۸۴۶ھ)

(۷) عبداللہ (۲۷۵ھ / ۸۸۸ھ)
 محمد

منظر (۲۷۳ھ / ۸۸۶ھ)

(۸) الخلیفہ الناظر بن عبدالرحمن ثالث (۳۰۰ھ / ۹۱۲ھ)



ہسپانیہ میں اموی خلافت کب اور کس طرح قائم ہوئی؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں پھر سے خلافت راشدہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم کے عہدِ خلافت میں تمام ملک شام زیرِ نگیںِ خلافت آگیا۔ تو رومیوں کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ کہ شام کے شمالی علاقہ اور مصر کی طرف رجوع کرتے رہیں اس وقت عیاض شام کے شمالی علاقہ میں سپہ سالار تھا۔ اُس نے کوہ طور سے گنڈا سلیسا اور اس کے دارالسلطنت طرسوس پر قبضہ کر لیا اور بحیرہ اسود تک بڑھتا گیا۔ مصر کی طرف سے اگرچہ وقتاً فوقتاً حملے ہوتے رہے۔ مگر حضرت عمرؓ بھی تھک لیا۔ لہذا مصر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ آخر عمر بن العاص عاملِ فلسطین نے ذہن نشین کر دیا۔ کہ مصر اور شام میں پھولی داہن کا ساتھ ہے۔ اگر مصر پر روحی قبضہ بدست رہا۔ تو مسلمان شام میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ ایام جاہلیت یعنی آنحضرتؐ کی بعثت سے پیشتر اہل مکہ کے تجارتی قافلے مصر میں آتے جاتے تھے۔

عمر بن العاص کو بھی ان ہی ایام میں مصر آنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ اور وہ اس ملک کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ تین ہفتوں کی قلیل مدت میں اس رومیوں کو تمام ملک مصر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جانب جنوب ایک طرف ابی سینہ کی حدود اور جانب غرب لبیا تک مسلمان قابض ہو گئے۔ لیکن شمالی افریقہ روحی اثر و رسوخ و اقتدار باقی تھا۔ عمر بن العاص نے یارقہ تک خلافت میں شامل ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ شمالی افریقہ میں جب کہ روم دارالسلطنت بنیاد بھی نہ پڑی تھی۔ قریہ حدنقا تھیں (فنیقی نوآبادی تھی اور تمام شمالی افریقہ پر ان ہی لوگوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مجازی عرب تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف قرون میں عربی قبائل افریقہ کے سوا حل پر آیا ہوتے رہے۔ جیسے بادشاہوں کے دورِ دورہ میں ایک حمیری قبیلہ شمالی افریقہ میں آباد تھا۔ اس کا بادشاہ "افریقہ" سے موسوم ہے۔۔۔۔۔ ان لوگوں میں وہ تمام اوصاف موجود تھے۔

قوم کی خصوصیت ہے۔ جفاکشی اور بہادری اور آزادی ان کا موروثی وصف تھا۔
 حضرت عثمان و النورین کے عہدِ خلافت میں تاریخ (Carthage) کے قریب میں رومیوں سے مسلمانوں کی مٹھے بھیر ہوئی تو انہوں نے جزیرہ دینا منظور کر لیا۔ اس لئے مسلمانوں کا لشکر واپس بارقہ پر آ گیا، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی توجہ خلافت کے اندرونی معاملات نے جذب کر لی، اور رومیوں نے پھر سے بارقہ تک قبضہ جمایا، امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں عقبہؓ سپہ سالار نے تمام شمالی افریقہ کو اموی خلافت میں شامل کر لیا، اور چھاؤنی کے لئے وہ مقام منتخب کیا جو "قیروان" کے نام سے موسوم ہوا، یہ واقعہ ۶۴۵ء کا ہے، "مراکو" جس کو عربی مورخین "المغرب" سے موسوم کرتے تھے، ابھی تک رومی حکومت کے تحت تھا، اقوام "بربرہ" کی مدد سے وہ حملہ آور ہوتے رہے، آخر ۶۴۵ء میں عقبہ نے اس کو بھی مسخر کر لیا، اور یہ نامور صحابی ۶۴۵ء میں ایک بربری بغاوت فرو کرنے وقت میدان جنگ میں شہید ہوا، عقبہ کی شہادت کے بعد بربری اقوام کی بغاوت جاری رہی ۶۴۹ء میں خلیفہ عبدالملک نے ظہیر بن قیس کو بارقہ کی حکومت سپرد کی، یہ بھی کام آئے اس کے بعد میں خلیفہ نے حسین ابن نعمان کو چالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا، اتنا رخصت بندر گاہ تھا اور بلند دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس میں اکثر رومی اور بربری عیسائی مدافعت کے لئے موجود تھے، طویل مدافعت کے بعد حسین نے بندر گاہ لے لیا، یہ لوگ یہاں جزیرہ صقلیہ (Sicily) اور سپانیہ میں چلے گئے، ابھی تازہ فتح کا نشہ مسلمانوں کے دماغ میں تھا، کہ ایک بحری بیڑہ جس میں قسطنطنیہ کے سپاہی اور قوم گاتھ (Goths) کے جوانمرد تھے بندر گاہ میں داخل ہو گیا، حسین کو قیروان کی طرف لوٹنا پڑا،

☆ امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں بھی مسلمانوں نے بحری کشتیوں کی اہمیت کا اندازہ کر لیا تھا، ان کے پاس بھی مضبوط بحری بیڑہ تھا، عبدالملک نے سمندر اور خشکی کے راستے کمزور کرنے کی مقابلاً ہوا، تو حریف کا بیڑا قسطنطنیہ کی طرف لوٹ گیا اب قیصری لشکر شمالی افریقہ میں نہ رہا۔

ابھی مسلمانوں نے اطمینان کا سانس نہ لیا تھا کہ بربری اقوام نے پھر ایک دفعہ حملہ کر دیا، اس وقت وہ ابھی منظم ہو چکی تھیں، ان کی ملکہ ایک عورت تھی جس کا نام "رہبہ" تھا۔ لیکن مورخین اسلام اس کو "کامبہ" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے جھنڈے کے نیچے مراکو کی قوم مور اور پہاڑی بربری قبائل اور صحرا کی سرحد پر اور تو میں جمع ہو گئیں، یہ لوگ اس کو دیوی سمجھ کر اس کے اشارہ پر کٹ مرنے کے لئے تیار تھے یہ عورت بڑی دلیر تھی، سپہ سالاری کے ذرائع خود انجام دیتی اس نے لوگوں کے ذہن نشین یہ بات کر دی، کہ عربوں کو ہمارے ملک کی دولت کی طرح کھینچ کر لادہی ہے، اس لئے مناسب ہے کہ تمام درخت کاٹ دیئے جائیں، زر و جواہرات مدفون کئے جائیں، عمارتیں گرا دی جائیں۔ اس کا حکم قضا و قدر کا حکم تھا، اس کی تعمیل خاطر خواہ ہوئی، غرض طرابلس تک تمام علاقہ ایک دیرانہ بن گیا۔ جو صد ہا سال سے آباد تھا۔ پہاڑی لوگ تو پہلے ہی تلاش تھے، اور صحرائی دیرانوں میں رہائش رکھنا جاننے تھے مشہری لوگوں نے جب اپنی جائداد کو تباہ ہوتے دیکھا، تو دیر پر وہ مسلمانوں سے ساز باز شروع کر دی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، کامبہ ماری گئی۔ اور اس کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔

کچھ عرصہ بعد حسین دل شکستہ ہو کر فوت ہوا، عبدالعزیز بن مروان عبدالملک کا بھائی اس وقت والی مصر تھا، اس نے اسے معزول کر کے موسیٰ بن نصیر کو اس کی جگہ مقرر کیا، موسیٰ کی عمر اس وقت ساٹھ برس کی تھی، اس کے تین بیٹے عبدالعزیز، مروان اور عبدالعلا اس کے دست و بازو تھے، خود موسیٰ دلیر سپاہی اور مدبر تھا سپاہ میں ہر دلعزیز تھا، بے لطف ہر ایک سے باتیں کرتا اور ان کا دل بڑھاتا۔ بربری قبائل کی دو پناہ گاہیں تھیں، ایک پہاڑ جس کا سلسلہ ساحل کے متوازی چلا گیا، اور اطلس کا سلسلہ کوہ، دوسرا صحرا جہاں تو قبغیر ممکن تھا، موسیٰ کے بیٹوں نے بربریوں کو پہاڑیوں سے بیدخل کر دیا لڑائی سے بچے صحرا میں پناہ گزین ہوئے۔ موسیٰ نے غنیمت کا اشراف عبدالعزیز کو لئے مصر کو بھیج دیا، عبدالملک حسین

مغزولی پر سخت خفا ہوا، اور اپنے بھائی کو لکھا کہ تم نے سخت سیاسی غلطی کی
 نہ ایک وفا شعار تجربہ کار سپاہی کو مغزول کیا،

مال غنیمت اور موسیٰ کی فتوحات سے عبدالمنکاک کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اسیران
 جنگ جاہل مطلق تھے، موسیٰ نے ان میں تسلیم کا انتظام کیا، اور جو بھی ذرا ہوشیار
 اور تیز فہم امتحان میں کامیاب ہوا، اس کو آزاد کرتا، اس کا اثر باقی اسیران جنگ پر
 خاطر خواہ ہوا، اب موسیٰ کے لشکر میں تمام مسلمان بربر بھی شامل ہو گئے۔

موسیٰ کی فتوحات نے شام اور مصر اور عرب کے مجاہدین میں ایک تحریک پیدا کر
 دی وہ رضا کارانہ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے، ان کے علاوہ موسیٰ نے غیر
 مسلم اقوام مسیحی یہود اور بت پرستوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا یہود کی
 تعداد زیادہ تھی، یہ سب جزیرہ کی اونٹنی سے بچ گئے، یہود اہل عرب سے وضع و قطع
 اور آدابِ شریعت سے ملتے جلتے تھے، بربری قبائل اصل میں عرب ہی تھے۔ جو حمیری اور
 میاٹی تھے، اور اپنی سمجھ و ایات کو ابھی تک نہ بھولے تھے، موسیٰ نے ان میں قومی رشتہ
 کی یاد تازہ کی تو وہ بہت جلد اپنی وحشت بھول گئے، اور یہ طبیب خاطر مسلمان ہو گئے۔
 اس لشکر بزرگ کے ساتھ موسیٰ کا حوصلہ بڑھ گیا،

موسیٰ کو اچھی طرح معلوم تھا، کہ جب تک ایک مضبوط بحری بیڑہ اس کے پاس
 نہ ہوگا۔ رومی بحری حملوں سے شمالی افریقہ کے مقبوضات محفوظ نہیں ہیں، شام اور
 مصر کی بندرگاہوں میں بحری کشتیاں موجود تھیں، اس نے ۸۲۷ء مطابق ۶۷۷ء
 طونس کی بندرگاہ بھی تعمیر کی اور بحری بیڑہ بھی تیار کر لیا، امیر مصر عبدالعزیز نے
 بھی ایک بیڑہ بھیج دیا، جس کا افسر عطا ابن ربیع تھا، موسم موافق نہ تھا۔ مگر عطلنے
 موسیٰ کے مشورہ کے خلاف جزائر بصرہ دوم کا رخ کیا، ایک جزیرہ پر جس کو "لینوسا"
 کہتے ہیں، قبضہ بھی کیا، اس کو مورخین عرب "سلد" سے موسوم کرتے ہیں، وہ ایسی پہ
 یہ بیڑہ باد مخالف کے تھپیڑوں سے ساحل افریقہ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا موسیٰ
 نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو سواروں کے ساتھ مدد کے لئے روانہ کیا۔ جو ملحق یا جہاز چاہتے

وہ بندرگاہ "ٹیونس" میں لائے گئے، اور ان کی برمت کی گئی۔ ۸۵ھ میں موسیٰ نے ایک بحری مہم تیار کی، ایک ہزار نفر فوج اور جنگجو آدمیوں کا انتخاب کیا، اس لئے اس کو "مخاربتہ الامرا" کہتے ہیں، اس بیڑہ کو اپنے بیٹے عبدالعلا کے ماتحت جزیرہ صقلیہ کی طرف روانہ کیا یہ مہم کامیاب رہی، اسی اثنا میں عبدالملک کا انتقال ہو گیا، اور ۸۶ھ میں اس کا بیٹا ولید جانشین ہوا، ولید کی عمر اس وقت اسی سال تھی، قد لمبا جسم اور سانولی رنگت تھی، اور چہرہ پر چچک کے داغ بھی تھے، اس پر بھی وجہ تھی۔ بنو امیہ اور عباسیہ کا کیا مذکور ہے تاریخ کے صفحات پر آج تک کسی بادشاہ میں اس کا نظیر نہیں ملتا۔ اسی کے عہد میں محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر ساکن طائف نے جو حجاج دہلے عراق کے ماتحت تھا، وادی سندھ کو حدود خلافت میں لے لیا، مناسب مقام پر ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔

موسیٰ کے بیٹے عبدالعلا نے جزائر صقلیہ کے جنوبی حصہ اور ساردینیا جس کو "سردیا" لکھتے ہیں، پر بحری بیڑہ کے ساتھ حملہ کیا، دوسرا بیٹا عبدالعزیز "جبل طلس" کے انتہائی مغرب تک پہنچ گیا، رفتہ رفتہ خلافت اسلامیہ تمام المغرب پر اس "تن" بھرا دیا تو اس تک چھا گئی، صرف ایک قطعہ باقی رہ گیا جس کو قیوطہ عربی مؤرخین اور یورپی *Arabs* کہتے ہیں: یہ گائتھ کے بادشاہ "راڈرک" *Roderick* کی طرف سے کاؤنٹ جولین *Count Julian* کے ماتحت تھا، جس کی حکومت میں بحیرہ روم کے مغربی جزائر بھی شامل تھے، کہتے ہیں کہ جولین بادشاہ سے اپنی دختر کا بدلہ لینا چاہتا تھا جس کی عصمت دری بادشاہ کر چکا تھا، اس لئے موسیٰ کو ہسپانیہ پر حملہ کی ترغیب دی۔ اور وعدہ کیا کہ خود بھی ہر ممکن مدد دے گا، اس کے علاوہ راڈرک کی چیرہ دستی سے رعایا بھی نالاں تھی امراء تو محلات میں داد و عیش دے رہے تھے، کاشتکاری غلاموں کے ہاتھ میں تھی جو مولشیوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، یہود کثرت سے ہسپانیہ میں آباد تھے۔ ان پر بھی پوری انتہائی ظلم کر رہے تھے، انہوں نے بغاوت بھی کی مگر کامیاب نہ ہوئے اور مصر موسیٰ کے تحت رعایا خوشحال اور بالخصوص یہود مرفہ الحال تھے، اور اپنے ہسپانوی یہودیوں کی

کے دور میں سپانیہ
کا بیسپانیہ

مال نادر کی خبریں سن کر بے قرار تھے، موسیٰ کو سب
از موسیٰ بڑا محتاط آدمی تھا، اس نے اپنے ماتحت طار
چھ سپاہ کے ساتھ کونٹ جولین کی رہنمائی میں ان
س کے گوش گزار کاؤنٹ اور یہودی کرچکے تھے کہ
کے کناسے پر اترنا اور کچھ غارت گری کی اور مال غنیمت

لی کہ اگر سپانیہ پر حملہ کیا جائے تو سبھولیت مسخر ہو سکتا ہے۔

موسیٰ نے خلیفہ ولید سے اجازت طلب کی، خلیفہ ولید نے یہ معاملہ شوریٰ میں پیش
کیا۔ علماء اسلام نے کہا کہ آنحضرت کی ایک حدیث ہے کہ دین اسلام کا اجرا انتہائی
مغرب تک ہوگا، خلیفہ ولید اس شرف کے حصول کے لئے بیقرار ہو گیا۔ اور موسیٰ کو پورا
ہتیار دے دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں جان و مال سے دریغ نہ کرنا،

۵۱ء مطابق ۷۱۱ء طاروق تیس ہزار کی جمعیت سے اس جگہ اترنا جو آج تک
اس کے کارنامہ اور نام کی یاد میں جبل الطاروق کے نام سے موسوم ہے۔ پہلا کام طاروق
نے یہ کیا کہ اپنے جہازوں کو آگ لگا دی، اور سپاہ کی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب یہی
میدان یہی جوجگان ہے۔ جان بچا کر تم واپس نہیں ہو سکتے، آگے بڑھو۔ مارا یا مرے، رازدک
لاؤ شکر کے ساتھ مقابلہ کے لئے آیا اور مارا گیا، اس عرصہ میں موسیٰ نے اور کمک روانہ
کی طاروق نے دارالسلطنت قرطبہ (Cordova) پر قبضہ کر لیا، یہ واقعہ ۵۲ء
مطابق ۷۱۱ء کو ہے، طاروق نے اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر کے سپانیہ کے
چاروں طرف پھیلا دیا، شہر کے بعد شہر یا بندر یا بندریہ صلح مسخر ہوتا گیا، اس اثنا میں
خود موسیٰ بھی سپانیہ میں آ گیا، اس کے ساتھ رسول کریم کے اصحاب کی اولاد میں سے
واجب الاحترام اکثر لوگ بھی تھے، دو سال کے عرصہ میں تمام سپانیہ پر مسلمانوں کا
قبضہ ہو گیا۔ مسیحی پادری تو روم میں پناہ گزین ہوئے، پر نکال بھی چند سال بعد فرسٹ
میں شامل ہو گیا، طاروق کو انتظام مملکت کے لئے پیچھے چھوڑ کر خود موسیٰ فرانس کی طرف
بڑھا۔ موسیٰ کا ارادہ تھا کہ تمام یورپ پر خلافت اسلامیہ کا تسلط جمادے۔ مگر تقدیر

شخص گھر میں داخل ہونا چاہتا تو دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹخنوں تک کچھڑ میں آ رہتا۔ اس وقت خلفاء کے صلیب جرمی، فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں کے محلات بدبویا بہتر تھے، امرا و وزراء کے ٹھکانوں کی شان واقع ہسپانیہ کون بتا سکتا ہے۔ تاریخ اس واقعہ کا اعادہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے کہ جب کوئی سلطنت ختم ہوتی تو اس کے ختم کرنے والے اس سلطنت کے امرا و وزراء والی اور عالی ہوتے ہیں۔ جب ایک جسم کے اعضاء دماغ کی حکومت تسلیم نہ کریں تو تمام نظام حیات درہم برہم ہو جاتا ہے جب سلطنت کی اندرونی تقسیم کے بعد طوائف الملوک ہوں تو اس سلطنت خاتمہ ہو جاتا ہے، اور تھوڑے عرصہ بعد طوائف الملوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اموی خلافت اسلامیہ کے اختتام پر طوائف الملوک کی سلسلہ مطابق ۳۱۸ھ سے ۳۱۸ھ مطابق ۹۲۶ء و دو سو سال رہی، یہ طوائف الملوک اس عرصہ میں آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، آخر چار طوائف الملوک رہ گئے، ان میں سے محمد بن عباد سویلہ (Seville) کا کچی (بنو ذنون) تو لیدو (Sagavea) کا عمرقب بالٹوکل کا پرنگال پر قبضہ تھا، اگر یہ خود بادشاہ اسی پر قیامت کرتے اور متحد رہتے تو ہسپانیہ میں مسلمان وہ روز بدلتے دیکھتے جس کی کیفیت مورخین نے مفصل لکھی ہے۔

بحر الشام (بحیرہ روم) کے چند جزائر پر مجاہد بن عبداللہ العامری ملقب ابو الجیوشن قباض تھا، اس کے پاس ایک مضبوط بحری بیڑہ تھا، اور فرانس اور اطال کے ساحلوں پر عموماً لوٹ گھسوت کا بازار گرم رکھتا، مورخین یورپ ڈوری و پورٹ وغیرہ اس کو ان ایام کے سب سے بڑا بحری قزاق کہتے ہیں، یہ طوائف الملوک آخر اموی خلافت کے فیض یافتہ تھے، ان کے دور دورہ علم و حکمت کی شاعت بھی ویسی بلکہ بڑھ چڑھ کر ہوتی رہی، ان میں سے بعض خود بلشہ یا یہ ادیب اور خطیب تھے، محمد بن عباد ملقب ابو الفاسم سویلی میں قاضی القضاہ تھا پھر سلطنت پر قباض ہو گیا، اس کی اولاد میں آخری بادشاہ سویلی مضد شاعر بھی

منظرف بن اقتاس نے ایک تاریخ "کتاب المنظری" چچاس جلدوں میں لکھی، یہ "بدجوڈ"
 (Badjoud) کا بادشاہ تھا،

ان طوائف الملوک میں سے "بنو جموڈ" قابل ذکر ہیں۔ اس لئے کہ ان کے مورث اعلیٰ
 اوریں کا ذکر ہم مناسب مقام پر کریں گے۔ جو مراکو کا بادشاہ تھا، جموڈ ابن مہیوں ابن
 احمد ابن علی ابن عبید اللہ ابن عمر ابن اوریں افریقہ سے بھاگ کر ہسپانیہ میں آیا،
 اموی خلیفہ ہشام ثانی نے اسے فوج کا ایک افسر مقرر کر دیا، اس کی اولاد میں سے
 یحییٰ بن علی بن جموڈ اور قاسم بن جموڈ نے سویلی پر حکومت ۱۲۱۲ء مطابق ۱۸۰۲ء
 تک کی۔

یہ طوائف الملوک نہ صرف باہمی جنگ و جدل میں مصروف تھے بلکہ ایک دوسرے
 کی بیخ کنی کے لئے مسیحی ہمسایہ بادشاہوں کی امداد کے بھی طالب ہوئے ۱۵۰۰ء
 میں فرڈینینڈ اول (Ferdinand I) نے اچانک حملہ کر دیا، اور بعض اہم مقامات
 سے ان کو بے دخل کر دیا، متعدد شاہ سویلی نے اطاعت اور باجگذاری پر غلصی حاصل کی۔
 متعدد شاہوں میں قوت ہوا، اس کا بیٹا معتمد جانشین ہوا، فرڈینینڈ مر گیا تو اس کا
 بیٹا الفنسہ ششم (Alfonso VI) نے یہ پاپ کے مختلف ممالک سے سپاہی
 بھرتی کرنے شروع کئے، اور ایک لشکر جو ار کے ساتھ ان طوائف الملوک پر چڑھ آیا،
 بوڈوالنون کو نیچا دکھایا اور ٹولیدو لے لیا، عالم یاس میں مسلمانوں کی نگاہیں سمندر پار
 افریقہ میں کسی کی تلاش میں پھرنے لگیں، یوسف تاشقین کی خدمت میں علماء کا ایک
 وفد حاضر ہوا۔ اور ہسپانیہ میں آنے کی دعوت دی، اس نامور شخص کے حالات
 بالاختصار ہم بیان کرتے ہیں،

گیارہویں صدی عیسوی کے وسط میں حاجی یحییٰ بن ابیہم جو مکہ معظمہ
 مرا بطین میں تحصیل علم الہیات اور شریعت کر چکا تھا اور اس کا دوست اور استاد
 عبد اللہ بن بقیہ دونوں مراکو میں وارد ہوئے، غرض یہ تھی کہ جاہل مسلمانوں کو علم دین
 کی تعلیم بھی دیں اور عیش پرست امراء کو راہ راست پر لائیں،

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم ایک خاص بات جو تاریخ اسلام میں نمایاں ہے، بیان کریں۔ اقوام عالم کی قومیت نسلی اور لسانی اور الوانی امتیازات پر قائم ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ امتیاز نہیں۔ خواہ وہ کسی ملک یا قوم سے ہوں۔ ان میں واحد کشتہ اخوتِ اسلام ہے۔

قرآن میں بھی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ قبائل اور شعوب کی تقسیم پائی فطری ہے۔ اللہ کے ہاں معیارِ عزت صرف تقویٰ ہے۔ اس لئے ہر ایک شخص متقی مسلمانوں میں بھی واجب الاحترام سمجھا جاتا ہے، تقویٰ کا حال تو اللہ کو معلوم ہے لیکن بقول شیخ سعدیؒ

ہر کراجا مسہ پارسا بینی پارسادان دینک مردانگار

تاریخ اسلام میں اکثر اہل ہواد ہوس جب بھی جامہ پارسانی پہن کر سامنے آئے۔ ایک کثیر جماعت کے قائدین گئے، اور اگر حالات سازگار ہوئے تو تخت و تاج کے مالک بھی ہو گئے، تاریخ اسلام میں یہ بات خاص ہے جس کی نظیر کسی اور جماعت میں نہیں ملتی، دوسری قوموں میں راہب اور سادھو اور تپسوی ضرور واجب الاحترام ہیں اور ترک دنیا سے زیادہ سے زیادہ دنیا کماتے ہیں، لیکن شاہی کے درجہ پر فائز المرام ہو، یا کم از کم اپنی اپنی حکومت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جانا چکنی چٹری اور ابلہ فریب پائلوں سے اور اس سہولت سے صرف مسلمان میں دیکھا گیا ہے

”ذہنہاراں قوم نہ باشی کہ فریبند حق را بسجودے دینی را بددے“

یہی قماش کے یہ لوگ عبد اللہ اور یحییٰ تھے، ایسے لوگ عموماً بے روزگار ہوتے ہیں ان کا روزگار صرف دین فروشی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں گہرا ربط تھا، اس لئے ”مرابطین“ کہلائے لیکن سید امیر علی اپنی ٹیٹری میں لکھتے ہیں کہ الفاظ ”مرابط“ اور ”مرلوب“ اور ”رابط“ اور ”ربط“ سب ایک ہی لفظ کے مشتقات ہیں، اور ”مرابط“ جو ان حضرات کا لقب ہے جمع ”مرلوب“ ہے، اور ”الجیرا“ میں یہ لفظ بہ معنی مقدس شخصیت عام استعمال ہوتا ہے۔ پھر حال عبد اللہ اور اس کے دوست علم دین کے عالم بھی تھے اور ربطاً ہر تقدس

کے آثار بھی ان میں پائے جاتے تھے۔

عبداللہ سہولت مراکو کا بادشاہ ہو گیا، اس کے بعد ابوبکر اس کا خلیفہ ہوا، اس کے چچا کے لڑکے یوسف تاشقین نے سلطنت کو اور وسعت دی خلیفہ بغداد نے امیر المومنین کا لقب اور سند امارت عطا فرمائی، ان ایام میں عقیدہ تھا، کہ خلافت کا حق صرف اہل قریش کا ہے، اس لئے جب تک دربار خلافت عباسیہ سے جو اس گئے گئے زمانہ میں بھی وہی حکومت کے مالک تھے سند امارت حاصل نہ ہو، کوئی شخص اپنے آپ کو عند اللہ وعند الناس نہ امیر سمجھتا تھا اور نہ ہو سکتا تھا، سلطان محمود غزنوی کو "امین الملت بمین الدولہ" کا خطاب بلا منولہ شاہنشاہوں کو اکبر سے لے کر شاہچہان تک تو دین سے چنداں واسطہ نہ تھا، لیکن مشہنشاہ غازی دین پناہ عالمگیر کو یہ سند حاصل کئے اجیر چین نہ آیا،

امیر المسلمین یوسف تاشقین نے سعادت دارین حاصل کرنے کے لئے مومن بجاؤں کی مدد کے لئے تیاری کی اور سنہ ۸۷۴ء میں ابنہ جبل الطارق کو عبور کر کے "القنوس" کی فوج سے "باد اجوزہ" کے قریب گرم جوشی سے ملاقات کی، اور شکست فاش دی۔ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تھوڑے عرصہ میں یوسف نے ہسپانیہ پر نسیط جما لیا، اب براہِ ان ہریان طوائف الملوک کی باری آئی، ان کو بھی اپنا ڈیڑھ پارہ کر لیا، یوسف کی اولاد میں سلطنت سنہ ۸۷۴ء مطابق سنہ ۱۱۷۴ء تک رہی، آخری بادشاہ ابوالسحاق بن تاشقین بن علی بن یوسف چند روز ہی حکومت کرنے پایا تھا کہ ایک اور حریف افریقیہ میں نمودار ہوا، اس نے مرا بطین کی امارت کا خاتمہ کر دیا،

حضرت علیؑ کی اولاد جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی بنی فاطمہ فرقہ ہمدانیہ اور دیگر ازدواج کی اولاد علوی کہلائی، ایک شخص علوی محمد بن عبداللہ بن تویرت مغربی افریقیہ کے شہر سوس کا باشندہ تھا، جوانی میں تحصیل علم کا شوق اسے اکثر علماء اسلام کی صحبت میں لے گیا، امام محمد الغزالی وغیرہ سے علم دین سیکھا اور فارغ التحصیل ہو کر وطن کی طرف مراجعت کی، عیش پرست نداد کے خلاف

و عطا کرتا رہا۔ اور اُن جہلا کے خلاف جو اولیاء اللہ کی تیسو کا بھی احترام کرتے ہیں ایک تحریک شروع کی جس نے اس کے متبعین کو "موحدین" کے امتیازی لقب سے سرفراز کیا۔ اس کے عقائد ہمارے زمانہ کے فرقہ و ہابیہ یا اہل حدیث سے بہت ملتے جلتے ہیں یہ شخص احادیث کا بہت بڑا عالم تھا، اسے خوب سوچھی دعوت تھی کہ احادیث میں جس ہمدی کے ظہور کے متعلق پیش گوئی ہے وہ میں ہوں، ہمدی کا انتظار تو ہمیشہ رہا ہے مدعیان ہمدییت پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی، اور غالباً یہ سلسلہ تا جہاں باقی ہے جاری رہے گا۔

بربری اقوام کا ہجوم اس کے گرد ہو گیا، اس کا پہلا مقابلہ "مرا بطین" سے ہوا، جب تک علی یوسف زندہ رہا، کامیاب نہ ہوا، اس کی ذنات کے بعد اس نے مرا بطین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور خود مرآتش پر قابض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے یہ خواہ غلطی خوردہ ہو مگر نیت نیک تھی، اس نے ایک متمول تاجر کے لڑکے عبد المومن نامی کو سپہ سالار اور جانشین نامزد کیا، ادھر مسلمانوں میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک رہی تھی، ادھر سپانیہ میں مسیحی بادشاہوں کی بن آئی، انفسو مفتہم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا، اور سپانیہ کے مسلمانوں کو پھر اسی مصیبت کا سامنا ہوا۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، اب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں۔ اور عبد المومن سے مومن مجاہدوں کی مدد کی درخواست کی، ۱۱۵۵ء مطابق ۱۱۷۴ء عبد المومن نے بحری اور خشکی کے راستوں سے فوج بھیجی اور نہ صرف مسیحی لشکر کو شکست فاش دی بلکہ مرا بطین کے عالموں کو بھی بر طرف کر دیا، جو اب خود مختار امیر بن بیٹھے تھے اور اُن کی جگہ اپنے بیٹوں کو والی مقرر کیا، اور لقب "امیر المومنین" بھی اختیار کیا،

ان ایام میں شہر "ہمدویہ" پر فریسیوں کا قبضہ تھا، یہ شہر جس کو عبید اللہ شہید نے ۱۱۳۳ء میں تعمیر کیا تھا، بنو فاطمہ کا دار الخلافت رہا۔ اس کا ذکر ہم خلافت بنو فاطمہ کے تحت کریں گے، عبد المومن نے فریسیوں کو یہاں سے نکال دیا، اور خود قابض ہو گیا۔ اس کی حکومت بارقہ سے بھرا دنیاؤں تک تھی کہ ۱۱۷۳ء میں اس کا انتقال ہو گیا پادشاہ

عبدالوہاب کے بعد اس کا بیٹا ابو محمد عبداللہ تختِ خلافت پر بیٹھا مگر امراء نے ناائق سمجھ کر مغلزول کیا، اور اس کے بھائی ابو یوسف یعقوب کو ہسپانیہ کی حکومت پیش کی، الفسویہم نے تمام یورپ سے لشکر فراہم کیا، اور اندلیس پر دھاوا ل دیا، یعقوب افریقہ سے اٹھا اور قرطبہ کے شمال میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک نوزیر جنگ کے بعد جس میں یورپ کے ایک لاکھ چھیالیس ہزار جوان کھیت ہے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، الفسویہم تو لیڈو میں محصور ہو گیا۔ ابن بلدوں لکھتا ہے کہ جب محصورین کے پاس سامانِ رسد ختم ہو گیا تو الفسویہم کی والدہ اس کی بیٹیوں کو ساتھ لئے باہر چل پڑی، اب یعقوب کے پاس آئی اور رحم کی درخواست کی، یعقوب نے محاصرہ اٹھا دیا، اور اس کی والدہ اور لڑکیوں کو زیورات اور جوہرات سے کرخصت کیا،

ایسے واقعات تاریخِ اسلام میں بہت دفعہ رونما ہوئے اگر ان کا مقابلہ ان سفاکانہ عادت گری اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے قتل عام سے کیا جائے جو غیر مسلم اقوام خصوصاً مسیحی بادشاہوں نے فتح و ظفر کے نشہ میں ردا رکھا تو سہرا یک محقق مؤرخ ہی کہے گا کہ اسلام کی عظیم الشان فتح ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگرچہ ان کو ایک عظیم الشان سلطنت سے دست بردار ہونا پڑا۔ کفار مکہ نے جو کچھ سلوک آنحضرت اور آپ کے اصحاب سے کیا اس کی پاداش میں ان کی توقع کے خلاف آنحضرت نے ان کا جرم فتح مکہ پر معاف کر دیا، مسلمان اس سنتِ رسول اللہ پر ہمیشہ عمل کرتے رہے، یعقوب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہم عصر تھا، جس کا تذکرہ درج ذیل ہے:

کے ماتحت کیا جائے گا،

گن لکھتا ہے کہ جب اہل صلیب نے بیتِ خلم بجز دقہرے لیا، اور مسیحی و ہندو بادشاہ شہر میں داخل ہوا۔ تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، اس پسند شہریوں کی بے گور و کفن لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا ان کو روندنا ہوا گور و فسری (Gorkney) سلامتی کے شہزادہ حضرت مسیح کے مقبرہ کی زیارت کے لئے آیا۔

صلاح الدین کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آنکھوں میں خون اتر آیا جس سے
 کھائی کہ میں بھی عیسائیوں کے ساتھ ہی کچھ سلوک کروں گا، لیکن جب یرشلیم میں
 داخل ہوا تو ایک عیسائی بڑھیا عورت گھوڑے کی ٹانگ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے
 رحم کی التجا کی اور آنکھیں جو کچھ عرصہ پہلے خون آلود تھیں اب پر آب ہو گئیں سلطان
 نے اعلان کر دیا کہ مسیحی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، سچ ہم وہ عظیم
 کھوپچے ہیں جو خلافت کے تحت ہیں حاصل تھی اور مسیحی یورپ اور امریکہ کو اسلام
 وہ خطرہ نظر آتا ہے جس سے ان کو ایام جاہلیت میں دوچار ہونا پڑا۔ اس لئے ہمیں
 ان کا سیاسی تدبیر کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اسلام سے بیگانہ ہوں، ان کو اس میں
 کافی کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہی نہیں بلکہ بلحاظ تاریخ ہم یقین کرتے
 ہیں کہ وہ وقت دیر نہیں کہ اسلام ان کو اسی طرح مسخر کر لے گا، جس طرح ہلاکو کے یورپ
 کو کیا، اس موضوع پر ہم کتاب کے اخیر میں مزید بحث کریں گے۔

یعقوب کے عہد خلافت میں علم و حکمت کی اشاعت اتنی عام ہوئی کہ جو
 مسیحی طالب علم یہاں سے فاضل تحصیل ہو کر جاتے اپنے ہم وطنوں کو اس جہالت کی تاریکی
 نکالنے کی کوشش کرتے، جس میں پوپ اور اس کے پادریوں نے دھکیل رکھا تھا، اور
 نکلنے کی اجازت نہ دیتے تھے، مسیحی پادری یہ سمجھتے تھے کہ اہل اسلام نے مسیحیوں میں
 الحاد کے بڑے کھول رکھے ہیں۔ "لو تھر" جس کو بارگاہ تقدس باب پوپ سے سگ محمد
 کا خطاب عطا ہوا، اس مارٹن لوتھر (Martin Luther) سے عرصہ پیشہ
 اصلاح (Reformation) کا سنگ بنیاد پڑ چکا تھا،

قاضی ابن رشد اور ابن ماجہ وغیر ہم جیسے بلند پایہ حکماء اسی دورِ موعودین میں
 گذرے ہیں۔ تاریخ فلسفہ ڈاکٹر فریڈرک زیویرگ (جلد اول صفحہ ۴۰۵ء تا ۴۱۱ء) میں حکماء
 اسلام اور ان کی کتب کا اگرچہ تذکرہ مختصر ہے مگر کافی ہے، علامہ ابن الندیم کی کتاب
 الفہرست میں جن کتابوں کے نام لکھے ہیں ان میں سے اکثر مسیحی تعصب نے نذرِ آتش کر دی
 جو بچیں وہ یورپ کے مختلف ممالک کے مشہور کتب خانوں میں ملیں گی۔ بعض کا ترجمہ بھی

چکا ہے۔ چودھویں صدی کے آغاز میں اطالیہ کا شمالی حصہ بالخصوص پیدرا
Padua اور وینس (*Venice*) یورپ کے علمی مرکز تھے، مارسیلیس فینس
Marcellus Facinus لکھتا ہے کہ

”تمام دنیا یا تو ابن رشد کی مقلد ہے یا اسکندر کی (*Alexandria*
Alpharodisiam) دونوں عیسائیت کی بیخ کنی کر رہے ہیں“

لیکن سترھویں صدی کے اختتام تک ابن رشد کے فلسفہ کو وہ غلبہ حاصل رہا
 پیدرا کے مدرسوں میں اسکندری فلسفہ کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا، اور تمام معقول پسند
 حضرات (*Rationalists*) کی یہی کوشش رہی کہ عیسائیت کا ہمیشہ کے
 لیے خاتمہ کر دیا جائے، علم و حکمت مسیحی تعصب سے آزاد تو ہو چکے تھے مگر یہی مصلحت
 نے ابھی تک مسیحیت کے نام کو برقرار رکھا ہے،

۱۱۹۹ء میں یعقوب کا انتقال ہو گیا، عبدالرحمن ثالث الناصر الدین الدبیب کا
 تاجپوش ہوا، یعقوب کی وفات پر پھر مسیحی دنیا میں ایک میحان پیدا ہو گیا، پوپ انوسنٹ
 لٹ (*Innocent III*) نے فتویٰ جہاد (*Crusades*) صادر کیا۔ ٹولید کا
 متفقہ اعظم (*Rodericus*) اس مقدس مذہبی جنگ کا روح رطان تھا، فرانس
 اور اطلی اور جرمنی سے ایک سیلاب اندکرا ندیس میں آ گیا، جب معمول قتل و غارت کا
 ہزار گرم رہا مسلمانوں نے شکست کھائی، اور الناصر بھاگ کر مراکو میں آ گیا۔ جہاں
 ۱۲۱۲ء میں مر گیا، اس کا بیٹا یوسف المستنصر بالتاج پشین ہوا، اس کا انتقال بھی
 ۱۲۲۳ء میں ہو گیا، اس کی جگہ سید ابو محمد عبدالوحید نے عنان حکومت سنبھالی تمام
 امرا و عدین اپنے آپ کو ”سید“ کہتے، یورپ کی زبانوں میں لفظ ”کنہ“ یہی ہے
 جس کا مفہوم آخر میں آتنا بدل گیا، کہ ڈاکو کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

عبدالوحید ایک سائنس کا شکار ہوا، تیرہ یعقوب کا ایک بیٹا عادل تخت نشین
 ہوا ۱۲۲۴ء میں بغاوت برپا ہوئی اور عادل مارا گیا، اس کا بھائی ادیس خلیفہ ہوا
 جس نے لقب ”المامون“ اختیار کیا۔ ۱۲۲۸ء میں وہ افریقہ کا دورہ کر رہا تھا۔ اس کی

عدم موجودگی میں محمد بن یوسف ابن ہرود نے حکومت غصب کر لی، اور ہرود نے
حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

”خوش درخشید و دولت مستعجل بود“

ابن ہرود کے علاوہ اور بھی امپرائڈس کے مختلف حصوں میں خود مختار حکمران
تھے، ان میں محمد بن یوسف ملقب ابن الاحمر نے قرطبہ کے نواح میں اپنا دار الخلافت
قائم کر لیا، دو سو سال اس کے خاندان نے عربی تہذیب و تمدن و علم و حکمت کو
رکھا۔ اس دورِ دورہ میں ابن خلدون غرناطہ میں رہائش رکھتا تھا، اس کی تاریخ سے
معلوم ہوتا ہے کہ ۱۱۱۱ء ”قباہ“ خرمین سے تھا، جو آنحضرت کے زمانہ میں اپنے حریف
قبیلہ ”اوس“ کے ساتھ سر پر آدہ تھا، یہ لوگ سعد بن عباد کی اولاد سے تھے۔ اس
اپنے آپ کو انصاری کہتے، اموی خلافت کے دورِ دورہ میں یہ لوگ ”بنو نصر“ کہلاتے
ہسپانیہ میں پیش قدمی کر چکے تھے، اور اعلیٰ منصب پر بھی ممتاز تھے،

ابن ہرود اور ابن الاحمر دو حریف سلطان تھے، ابن الاحمر نے فرڈی نندے ثالث
د Ferdinand III سے مدد کی درخواست کی، اور ہرود نے بھی یہی استد
کی اور تیس قصبہ پیش کش کئے، ابن الاحمر غالب آیا اور غرناطہ کو اپنا دار الحکومت بنا
کر ”الغالب باللہ“ اپنا لقب اختیار کیا۔

☆ یہی وہ شخص ہے جس نے ”الحمرا“ تعمیر کیا، مسیحی بادشاہ فرڈی نندے سے کسی دفعہ
معرکہ آرائی ہوئی، اور الاحمر کامیاب رہا۔ ۱۱۴۷ء میں تیس سال خاندان حکومت کے
بعد فوت ہوا، اس کا بیٹا جانشین ہوا، ۱۱۷۱ء میں اس کے بھائی نصر نے اسے مغرور
کر کے خود تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، اسے بھی ابوالولید ابن فرح بن اسمعیل نے برطرف
کر دیا، اسمعیل الاحمر کا بھائی تھا، ۱۱۷۹ء میں ایک لشکر جبار سلطان (Alfonso
کے بادشاہ فرڈی نندے نے غرناطہ کو مسخر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر میں اہل صلیب
پچیس شہزادوں نے شمولیت کی، انگلینڈ کا ایک شہزادہ بھی اپنی فوج کے ر
شامل ہوا، بادشاہ کا لڑکا پیدل در ۱۱۷۹ء سپہ سالار تھا۔ سب بہادری

ٹرے مگر میدان میں کھیت رہے،




۱۳۲۵ء میں سمعیل اور اس کا بیٹا اور جوشین ۱۳۲۵ء اور اس کا بھائی ابو الحجاج
یوسف ۱۳۵۵ء میں یکے بعد دیگرے سارشیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ یوسف
کا بیٹا محمد الفیہ باللہ تخت نشین ہوا، اس کا وزیر ابن الخطیب تھا، جس کی کتاب "تاریخ
دولتہ المضریہ" مشہور ہے۔ یہ ابن خلدون کا معاصر تھا۔

ہم واقعات سے جو زیادہ تر بادشاہوں کے رد و بدل اور اندرونی بغاوت اور
مسیحی شاہ فرانس کے متواتر حملوں پر مشتمل ہیں طول دینا نہیں چاہتے، ابو عبد اللہ ہسپانیہ
میں مسلمانوں کا آخری بادشاہ ہے، افواج کا سپہ سالار موسیٰ نامی تھا، جب فرڈی نرڈ
نے فوج کشی کی تو موسیٰ نے مسلمانوں کو بہت اُجھارا، مگر یہ وہ مسلمان تھے جو اسی کے
مہنام کے تحت پہلی دفعہ ہسپانیہ میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دورِ خلافت میں
داخل ہوئے تھے، فرڈی نرڈ نے غرناطہ لے لیا، فلپ ثالث کے عہد تک مسلمانوں کا نام
نشان ہسپانیہ میں نہ رہا۔ یہ یا تو مسیحی مذہب قبول کرنے پر مجبور ہوئے یا جلا وطن
ہوئے۔ خود یورپ کے مورخین جو کچھ ظلم و ستم مسیحی حکمرانوں نے مسلمانوں پر ڈھا یا بیان
کرتے ہوئے ان پر لعنت بھیج رہے ہیں۔

خلافت بنی فاطمہ

شجرہ نسب خاندان ادریسیت

حضرت علی کریم اللہ وجہہ



ہم بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد میں بنی فاطمہ میں سے محمد النفس الذکیہ اور آپ کے بھائی ابو اسیم نے ارض حجاز اور بصرہ سے خروج کیا دو نیاں لڑائی میں کام آئے، اس کے بعد بنو فاطمہ کو کئی نگرانی شروع ہو گئی۔ خلیفہ ادوی بن مہدی بن منصور کے عہد میں مدینہ میں کچھ شورش برپا ہوئی اس میں بھی بعض فاطمی قتل ہوئے، محمد النفس الذکیہ کا ایک بھائی اور پس بھاگ کر مراکو میں پناہ گزین ہوا۔ یہ ملک خلافت عباسیہ سے باہر تھا، یہاں بربری اقوام آباد تھیں۔ ہتی کی مدد سے اس نے خاندان ادریسہ میں خلافت قائم کر لی، شہر فیض اسی کا پایا ہوا ہے جس کو عرب "فاص" کہتے ہیں۔ اور اسی مقام کو اس نے دارالخلافت قرار دیا۔ اس کے عہد خلافت میں "فیض" میں اکثر علماء دین گزرے ہیں، اس کے بعد اس بیٹا ادیس ثانی جانشین ہوا۔ اس کی والدہ اور وزیر غالب اس کی بلوغت تک سلطنت کا کام خوش اسلوبی سے چلاتے رہے،

یہاں ہوا اور مسابقت کو وسعت دی دولت عباسیہ سو سے پرت پہنچ گئی اور یہاں تک ملک یحییٰ کے قبضہ میں آ گیا، یحییٰ کے بعد اس کا بیٹا محمد خلیفہ ہوا۔ وہ اس کے بعد اس کا بیٹا علی جو نو سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ادریسہ سال کی حکومت کے بعد لاد لدر گیا، اس کا جانشین اس کا بھائی یحییٰ بن محمد ہوا۔ شہر "فیض" ۱۶۴ ان ایام میں بہت پھیل گیا، اور سلطنت کی حدود بھی ہر طرف بڑھ گئیں، اس کا جانشین اس کا بیٹا یحییٰ ثانی ہوا۔ رعایا اس کی خود سری سے تنگ آ گئی اور شورش برپا کی، یحییٰ بھاگ کر ہسپانیہ میں چلا گیا، اور وہاں مر گیا، اس کے بعد علی بن عمر خلیفہ ہوا۔ خارجہ میں نے اسے بھی ہسپانیہ کی راہ دکھائی، اس کے بعد یحییٰ ثالث بن قاسم نے عمان خلافت سنبھالی مگر ایک اور حریف طاقت نے خلافت ادریسہ کا خاتمہ کر دیا یہ بھی بنی فاطمہ تھے، تخت دناج سے محروم ہو کر اس نے زندگی کے ایام "مہدیہ" میں بسر کئے اور ۳۳۳ھ میں مر گیا،

خلافت نبوی و فاطمہ
شجرہ کائنات کے خاندان مخالف اسماء علیہ

۱۳۸

سیدنا زین العابدین (۶۱۰ء)
علی (۶۰۰ء)
محمد باقر (۶۰۲ء)

عبدالمطلب
ابوطالب
علی (۶۲۵ء)
علی (۶۵۴ء)

حسن (۶۲۵ء)
حسین (۶۲۷ء)

ابن سينا

محمد بن ابي بكر

جعفر بن محمد

عبد الجبار

(۱۱) عبيد الله بن محمد بن ابي سينا

(۱۲) ابي القاسم ابراهيم بن محمد بن ابي سينا

(۱۳) منصور بن محمد بن ابي سينا

(۱۴) المعز الدين بن ابي سينا

(۱۵) العزيز بن ابي سينا

(۱۶) محمد بن ابراهيم بن ابي سينا

(۱۷) الظاهر بن ابي سينا

(۱۸) المستظهر بن ابي سينا

(۱۹) ابي سينا بن ابي سينا

(۲۰) محمد بن ابراهيم بن ابي سينا

(۲۱) الظاهر بن ابراهيم بن ابي سينا

(۲۲) ابي سينا بن ابراهيم بن ابي سينا

(۲۳) ابي سينا بن ابراهيم بن ابي سينا

موسیٰ بن ابراهیم

علی رضا

محمد تقی

علی نقی

حسن عسکری

محمد مهدی

یوسف

(۲۴) ابراهیم بن ابراهیم بن ابراهیم

(۲۵) ابراهیم بن ابراهیم بن ابراهیم

(۲۶) ابراهیم بن ابراهیم بن ابراهیم

ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب منصور عباسی کے مقابلہ میں محمد نفس الذکیرہ اور آپ کے بھائی ابراہیم مارے گئے، اور بنو ہاشم و نیوی خلافت سے یاروں ہو کر دست بردار ہو گئے تو دینی خلافت جس کو "امامت" سے موسوم کیا گیا، ایسا منصب تھا جس پر کسی کا اجارہ تھا، اس لئے یہی غنیمت سمجھی۔ حضرت امام جعفر صادق ؑ ۸۳ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ فردہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق اکبر تھی ؑ ۱۲۸ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، آپ کے سات بیٹے اور تین لڑکیاں تھیں، ان میں سے دو اسمعیل اور موسیٰ کاظم کا تعلق خلافتِ اسلامیہ سے ہے اسمعیل سب سے بڑا بیٹا تھا، جو امام جعفر صادق کی زندگی میں فوت ہو گیا، امام رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے متبعین میں دوبارہ خلافتِ امامت اختلاف پیدا ہو گیا یہی لوگ بعد میں شیعیان علی کہلائے، ایک فریق امام کے بڑے لڑکے اسمعیل کے بیٹے محمد کے حق میں تھا، اور دوسرا موسیٰ کاظم کا طرفدار تھا، اور ان کی اکثریت غالب آئی یہی لوگ شیعہ اثنا عشری کہلائے، اور سراسر فریق جو محمد بن اسمعیل کے حق میں تھا اپنے دشمن سے دست بردار نہ ہوا، وہ اپنے اماموں کو عبید اللہ المہدی تک "مکتوم" کے لقب سے مخاطب کرتے رہے یعنی اس وقت تک ان کے ظہور کا وقت نہ آیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اثنا عشری اپنے بارہویں امام محمد المہدی کو "امام غائب" کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ آپ کی عمر پانچ سال کی تھی کہ امام حسن عسکری (عسکر و سرانام سرمن رابا مخفف سامرا کا ہے) ؑ ۳۲۰ھ میں فوت ہوئے، محمد المہدی سامرا کی ایک غار میں جا چھپے، ان ایام میں عباسی خلیفہ معتد علی اللہ تھا، ابن خلدون لکھتا ہے کہ آج تک اثنا عشری دچودھویں صدی عیسوی تک، اس غار کے منہ پر جمع ہوتے ہیں اور امام غائب کو دعوتِ ترویج دیتے ہیں۔ عقیدہ خراج مہدی مسلمانوں کے دل و دماغ پر اتنا قابض ہو چکا ہے کہ تاریخِ خلافتِ اسلامیہ میں کسی مہدی کچھ کامیاب اور کچھ ناکامیاب ہوئے مگر انتظار اس کا باقی ہے۔

عبید اللہ المہدی پہلا شخص ہے جس نے خلافت بنو فاطمہ جو اسماعیلیہ کے نام سے



شہور ہے، افریقہ میں قائم کی،

المہری کے حسب نسب کے بارہ میں عباسی خلفاء مصر میں القاہرہ اور اس کے
خواہوں نے یہ شہور کیا کہ یہ شخص بنی فاطمہ سے ہی نہیں لیکن مقرر بنی ابی لاثیر
العدا، ابن خلدون جیسے مورخین نے واضح کیا ہے کہ یہ عباسیوں کا ڈھونگ ہے اس
نسب نسب صحیح ہے،

اسماعیلی فرقہ کے عقاید پر بھی دینی نقطہ نگاہ سے بحث آئمہ دین کرتے رہے اور کہ
ہے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بحث بھی کر چکے ہیں کہ وہی بیاسی
مرد مسلمانوں میں کامیاب ہو سکتا ہے جو جہانمہ پارسانی ہیں کر سامنے آئے، خواہ وہ ناقص
کیوں نہ ہو، اور ایک برس اقتدار شخص مرود ہو سکتا ہے اگر اس کے خلاف فسق و
ور کا ڈھونگ کھڑا کیا جائے، خواہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، یہ سیاسی حربہ بنو عباس، بنو
یہ اور بنو فاطمہ، سماعلیہ کے خلاف استعمال ہوتا رہا اور اس کا اثنا و صند و راہیٹا کہ
تاریخی واقعات تسلیم کئے گئے ہیں،

سید امیر علی اپنی سہٹری "میں لکھتا ہے کہ اسماعیلیوں نے کچھ عرصہ بعد اپنے عقائد
س ایرانی حکیم "مانی" کے عقائد داخل کر لئے اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان کا یہ
قیدہ کہ ایمان بلا عمل ہی نجات کے لئے کافی ہے اور یہ کہ آیات قرآن کا جیسا ظاہر ہے
سیا باطن بھی ہے، اور باطن اصل حقیقت ہے مانی کا مضمون سترہ کیا ہوا ہے۔ اس لئے
مباطنیہ" بھی کہتے ہیں، محمد الجیب بن جعفر صادق بن محمد المکہ و م بن اسمعیل کے سیاسی
رہبر کا تقاضا تھا کہ اس نے اپنے یہی منصوبوں کی تکمیل کے لئے وہی روش اختیار
لی جو عباسی اموی خلافت کے خلاف اختیار کر چکے تھے، اس وقت اس کی رہائش حصر
واقع شام میں تھی، اس نے اپنے "واعی" میں اور بیامہ اور بکرین اور سندھ اور ہند
اور مصر تمام شمالی افریقہ میں پھیلا دیئے تھے، ان میں سے ایک ابو عبد اللہ حسین کسی
وقت بصرہ میں تخت سب تھا، اور پھر شیعہ کے لقب سے مشہور ہوا، یہ شخص قبائل تہرہ
میں اپنا کام کرتا رہا۔ لوگ اس کے تقدس پر فریفتہ ہو گئے، گوشہ خلوت میں مجاہدہ حاکم

اور ریاضتِ شاقہ نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، اس وقت آلِ اُغلب افریقہ میں صاحبِ حکومت تھے، کوشش تو بہت کی کہ یہ فتنہ دب جائے، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ آخری اعلیٰ حکمران زیارت اللہ ثانی تھا، مگر شکست کھا کر طرابلس میں آیا اور پھر یہاں سے ایشیا میں جہاں بمقام "رقہ" ۲۹۶ھ مطابق سنہ ۹۰۸ء میں فوت ہوا،

ابو عبد اللہ کو بربروں میں کبھی کامیابی نہ ہوتی، اگر وہ اپنے تقویٰ اور طہارت کا ڈھنڈورا نہ مٹاتا۔ وہ تو خود بہت منکر المزاج تھا۔ مریدان می پر اتنا ہی اسی طرح دوسرے داعی جن کا سابقہ ایرانیوں اور ہند یوں سے پڑا، ایک اور ہی رنگ کے لباس میں ظاہر ہوئے، خلافتِ عباسیہ کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابو جعفر منصور کو شہزادہ خلافت میں فرقہ "راوندیہ" کے ہاتھ سے جان بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ شیعان بنو ہاشم بادشاہ پرست منصور کی پوجا پاٹ کرنے کے لئے آئے، اور یہ نسل ہمیشہ شخصیت پرست رہی ہے اور اپنے راجوں اور بادشاہوں کو اوتار اور دیوتا اذ نہ کھنک "بے عیب معصوم یقین کرتی رہی، یونان اور روم میں ہر ایک حکمران اپنا سلسلہ نسب کسی نہ کسی آسمانی دیوتا سے ملاتا رہا۔ ہندوستان میں چندر اور سولج ہنسی تھے، ان لوگوں کی ذہنیت کا لحاظ رکھتے ہوئے نوظولہ کے داعی اپنے اماموں کو بھی الوہیت کا درجہ دیتے رہے، یہ ناگزیر تھا ورنہ کامیابی ممکن نہ تھی،

مسیح کے بعد حواریان مسیح تو گوشہ گمنامی میں بیٹھ رہے، مگر سینٹ پال و مقدس پولوس) جو نہ حواری تھا اور حواریوں کی صحبت کا فیض یافتہ تھا، یونانیوں اور رومیوں میں اشاعتِ مسیحی میں اس لئے کامیاب ہوا، کہ ان لوگوں کی نسبت ذہنیت مسیح پر اسی صورت میں ایمان لاسکتی تھی جیسا کہ مقدس پولوس نے مسیح کو پیش کیا، اور اکثر مسیح کی الوہیت پر ایمان لائے، اور یہ مذہب اب یورپ اور امریکہ تمام مسیحی دنیا میں راج ہے۔ مقدس یوحنا حواری اپنے مکتوب دوم میں لکھتے ہیں کہ

"ہم سے ہاں و جاں کی آمد کی پیش گوئی ہے۔ جو یہی شخص ہے جو مسیح کو بشر نہیں کہتا!"

ٹائٹل ریٹائر اپنی کتاب "سینٹ پال" میں لکھتا ہے کہ مقدس یوحنا کا اشارہ
یولوس ہی کی طرف ہے اور مسیوت (Cheremianity) کا امتیازی نام بھی
اسی کی اختراع ہے، بہر حال یہ دعویٰ مذہب آج مسیحی دنیا کا ہے اور اس وجہ سے
ہمارے زمانہ میں برطانیہ کا بہت بڑا حصہ ہے اور وہ اسیلیڈ کے ماتحت مزید
تشریح کی جائے گی،

العرض نو مسلم مجوسیوں اور ہندوؤں میں داعیوں نے اپنے اماموں کو دیوتا
اور اوتار کی صورت میں پیش کیا، ظاہر ہے کہ یہ سب سیاسی ڈھونگ تھا، اسلام
سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں،

ابو عبد اللہ داعی کے حالات قلم بند کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہونا ہے
اس مقام پر حسن بن صباح کا تذکرہ کیا جائے، جو خلافت بنو فاطمہ سے وابستہ ہو گیا تھا،
تاکہ اسماعیلی مذہب سے عقائد واضح تر ہو جائیں،

پانچویں صدی ہجری مطابق گیارہویں صدی عیسوی کے وسط میں تین طالب علم
مدینہ نیشاپور میں مہدرس تھے، ان میں سے ایک عمر خیام اور دوسرا حسن باشندہ رے
اور تیسرا نظام الملک طوسی تھا، استاد امام موفق ان کی ذہانت کی اکثر تعریف کرتا اور
کہا کرتا کہ تم تینوں کسی وقت دنیا میں بڑا کام کر دو گے، ان تینوں میں خلوص و محبت بھی تھی،
ایک دفعہ ان تینوں نے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیوی ثروت حاصل کرے
وہ باقی دو کو اس میں شریک کرے، جب نظام الملک سلجوقی بادشاہ الپ ارسلان کا وزیر
ہو گیا تو عمر خیام کو دعوت شرکت دی، مگر عمر کچھ دنیوی جاہ و جلال کا دلدادہ نہ تھا۔ یہ
فلسفی اور ادیب ریاضی اور علم ہیئت میں ان ایام میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، الپ ارسلان
کے بعد جب جلال الدین ملک شاہ نے عمان حکومت سنبھالی تو عمر خیام نے تقویم کی
تصحیح کی، جو "زیج جلالی" کہلاتی ہے، عمر خیام ادیب بھی تھا، اس کی رباعیات کا جواب
نہیں، ان کا ترجمہ اردو اور یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، بلکہ اشعار خاقانی
اس کا سنجھا تھا۔

تظام الملک کو حسن بن صباح کا خیال ضرور تھا۔ مگر طالب علمی کے زمانے میں اس کی عادات سے واقف تھا، اس لئے کچھ خائف بھی تھا، علاوہ ازیں حسن شیعہ اور نظام الملک سنی دونوں کے عقائد میں فرق تھا، اگر یہ صرف مذہبی عقائد کا فرق ہوتا تو کچھ بات نہ ہوتی۔ اختلاف رائے ہوا ہی کرتا ہے، مگر شیعہ عقائد کی بتا سیاسیات پر تھی، حسن کا باپ متعصب شیعہ تھا۔ چونکہ ابو مسلم رازی حاکم رے سنی تھا۔ اس لئے اپنی نسبت بدظنی دور کرنے کے لئے حسن کو نیشاپور کے مدرسہ میں بھیج دیا، خواجہ نظام الملک سنی شافعی تھا کبھی کبھی دونوں میں مذہبی بحث بھی ہوتی مگر تفریحاً، اتفاق سے نظام الملک اور حسن نیشاپور میں دوچار ہو گئے۔ حسن نے سخت ملامت کی اور کہا کہ تو یقیناً عرس اللہ کے تحت آتا ہے۔ خواجہ نے عذر و معذرت سے ٹھنڈا کیا اور سلطان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ حسن نے تھوڑے عرصہ میں سلطان کے دل میں گھر کر لیا، اب اس فکر میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ خواجہ کی جگہ وزارت کا منصب مل جائے۔ مگر خواجہ اس کے حالات سے غافل نہ تھا، بظاہر اس کی خاطر مدارت کرتا رہا۔ مگر سمجھتا تھا کہ کسی دن ننگ لائے گی گلہری چنانچہ ایسا ہی ہوا، دورانہ پیش وزیر نے جب دیکھا کہ حسن اس کی بیخ کنی کے درپے ہے۔ تو سلطان کو تمام پوست کنندہ حالات بتا دیئے حسن ذلیل ہو کر دربار شاہی سے راندہ گیا نیشاپور میں آیا اور ایک دوست کے ہاں قیام کیا، جو کچھ وہ منصوبہ بندی کر چکا تھا اس کی تکمیل کے لئے ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو دوست و باوند ہوں، اس لئے باتوں باتوں میں دوست کو کہا کہ اگر مجھے سات آدمی مل جائیں تو میں اس سلجوقی بادشاہ کا تختہ الٹ دوں،

اس وقت سلجوقی سلطنت منتہای عروج پر تھی، دوست نے خیال کیا کہ حسن کا وہاں پھیر گیا ہے، حسن سے کچھ کہنا فضول بات تھی، ایک جراح بلا لایا، جب حسن کو دوست کی حالت معلوم ہوئی تو بہت برا فریخت ہوا، اور کہا کہ تمہارے جیسے احمقوں نے سلجوقی حکومت ممکن بنا رکھی ہے، اب دوست کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اگر ان باغیانہ خیالات کی بہانہ حاکم نیشاپور کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ کہیں کا نہ رہا۔ اس

جس طرح ہوا حسن سے پیچھا چھڑایا،

حسن نے اِدھر دنیائے اسلام پر نظر دوڑائی، خلافت بنو فاطمہ قائم ہو چکی تھی، مگر رد ہند وال تھی، اُس نے اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیا، اور دوبارہ خلافت سے سند "داعی" حاصل کر لی، مگر حسن کا سیاسی منصوبہ کچھ اور ہی تھا، اُسے کامیابی کا راز معلوم ہی تھا، عالم دین بھی تھا، اور پیشانہ وضع اختیار کی، سیاسی سرگرمی کا مرکز "ٹائٹلڈ رائن" منتخب کیا، جہاں پہلے بابک خرمی نے علم بناوت خلافت عباسیہ کے خلاف بلند کیا تھا، اور ابھی تک خرمی مذہب جس کا بانی ابو مسلم خراسانی تھا موجود تھا، اسماعیلی باطنی ذہن اس کو بہت مل گئے، جو اس کے زہد و ورع اور تقدیس کا ڈھنڈورا ہر جگہ پیٹتے رہے، خلفاء فاطمیہ نے مسلمانوں کو اپنے حلقہ ات میں شامل کرنے کے لئے ایک "تو داعی مقرر" جو باطنیہ علم و عقائد کے مستند استاد تھے، ان کا کام اسی کی نشر و اشاعت تھی جو اس حد تک صیغہ راز میں رکھی جاتی، کہ یہ علم سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتا رہا۔

دوسرے درجہ میں طرفدارانِ خلافت "رفیق" (Fellow) سے موسوم تھے حسن نے دیکھا کہ جس منصوبہ کی تکمیل اُسے بد نظر ہے، وہ محض واعیان اور نقاد سے سرانجام نہیں ہو سکتا، اس نے اس پر "فدائی" کا اضافہ کر دیا، حسن نے جس سیاسی مذہب یا فرقہ کی بنا ڈالی اس کو "مذہب حشائین" سے موسوم کرتے ہیں۔ یہی لفظ یورپ کی زبانوں میں (Mason) ہے جس کا مفہوم سفاک قاتل ہے جو کسی اور کے مفاد کے لئے قتل کا مرتکب ہوتا ہے، "حشائین" عربی میں اور بھنگ ہندی عام بولی ہے جو ہائے پنجاب میں سکھوں کی پسندیدہ شربت ہے، اس کو "صدق الخیال" اور "فلک سیر" بھی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے نشہ کی ترنگ میں انسان وہ جلوے عالم خیال میں دیکھتا ہے جو بہ قافی ہوش و حواس نظر نہیں آتے، اور نہ روئے زمین پر موجود ہیں، اس لئے یہ سب آسمانی امور غیب ہیں،

حسن کو بھنگ کے خواص کا راز کب اور کیسے معلوم ہوا یہ بھی صیغہ راز میں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واوی سندھ میں اسماعیلی داعی اور رفیق پیسے بھجے تھے،

یہاں جوگیوں کو یہ گھاس چرتے دیکھا، ان کی وساطت سے حسن کو بھی اس کو علم ہوا
 اس نے اس سے خوب کام لیا، نیشہ کے عالم میں فدائیوں کے ذہن پر یہ بات نقش کی جاتی
 کہ حسن بن صباح تمام کرہ ارض کا مالک ہے اور "خلیقہ اللہ" ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل بلا
 چوں و چرا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، ان لوگوں کی مدد سے حسن کو نمایاں کامیابی ہوئی
 حسن تو ایک درویش آدمی تھا، مازندران کے ایک پہاڑ میں گوشہ خلوت بنا رکھا
 تھا، یہاں شب و روز اس کا فتنعل عبادت الہی تھا، ویسے بھی یہ محفوظ جگہ تھی۔ مگر
 "فدائی" بھی پرہ دیتے تھے، آپ گرد و نواح میں "شیخ الجبل" کے نام سے مشہور تھے
 اور جب مرید آپ کی نسبت گفتگو کرتے تو صرف "سیدنا" "ہمارا آقا" یا "سروار" کہتے۔
 یہ لفظ "سیدنا" اور "مولانا" اب بھی زبان زو مسلمانان عالم ہے، مازندران کے پہاڑ پر
 ایک قلعہ الموت "آتشپانہ عقاب" تھا، خوش عقیدہ قلعہ دار کئی دفعہ شیخ الجبل کو روک
 دے چکا تھا کہ قلعہ میں رہائش اختیار فرمائیں، تاکہ وہ بھی فیض صحبت سے مستفیض ہو
 مگر شیخ صاحب انکار کرتے رہے، آخر اس کے اصرار پر قلعہ میں آئے اور قابض ہو گئے
 یہ قلعہ سر ہوا، تو شیخ الجبل نے فدائیوں کو ہر طرف پھیلا دیا، انہوں نے تمام ملک
 میں و ہشت پھیلا دی، یہ ہر ایک لباس میں ملک کے طول و عرض میں پھر رہے تھے ایک
 فہرست ان لوگوں کی مرتب کی گئی تھی، جو "شیخ الجبل" کے بیٹن تھے، یہ سب اکابر سلطنت
 تھے اور شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو جس کا نام اس فہرست میں درج نہ ہو یا خستہ شین
 کے خیر آب دار سے بچا ہو، سلطان ملک شاہ مارا گیا، نظام الملک کو زہر دیا گیا
 خلیفہ مسترشد باللہ عباسی سر بازار مارا گیا، اس کا بیٹا اللہ بادشاہ کا بدلہ لینا چاہتا
 تھا، خیمہ میں سویا ہوا تھا، اور یہاں عین غفلت میں مارا گیا، غرض حسن بن صباح کو
 فدائیوں کے ذریعہ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، کئی پہاڑی قلعے کچھ لڑ کھڑا کر اور کچھ فریب
 اور دغا سے اس کے قبضہ میں آ گئے،

ہماری رائے میں حسن بن صباح اور اس کے اعمال ناشائستہ کو خلافت فاطمیہ
 سے منسوب کرنا مورخین کی غلطی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ حسن اپنی علیحدہ مستقیم

سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ اور اس کے فدائی خلافتِ عالمیہ کے اسبابِ زوال میں سے ایک بڑا سبب ہیں، دنیائے اسلام میں جو ہمیشہ ان لوگوں نے پھیلائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قلع قمع کرنے کے لئے سب اکٹھے کھڑے ہوئے،

۱۱۰۰ء میں حسن بن صباح کی پُر آشوب زندگی کا ملک الموت نے قلعہ الموت میں خاتمہ کر دیا، دنیائے اسلام نے بھی کچھ اطمینان کا سانس لیا، حسن کے جانشین مذہباً اور عملاً اسی کے نقش قدم پر چلے مگر وہ بات نصیب نہ ہوئی۔

شجرہ نسب

صباح :

- (۱) حسن
- (۲) کیا بزرگ (۱۱۸۰ء)
- (۳) محمد
- (۴) حسن
- (۵) محمد (۱۱۴۱ء)
- (۶) جلال الدین
- (۷) علاء الدین
- (۸) ارکن الدین خورشاہ (۱۱۴۳ء)

امام فخر الدین رازی محمد بن حسن پانچویں امیر کے عہد امانت میں "رستے" میں درس دیا کرتے اور اثنائاً درس میں ان محنتوں کی خوب خبر لیتے، فدائی ان کے ہچھے لگ گئے آپ جان بچا کر غیاث الدین غوری کے ہاں چلے گئے، کچھ اطمینان ہوا۔ تو حوازم شاہ کے زیرِ عاطفت زندگی بسر کی، لیکن کچھ ایسے خائف تھے کہ پھر حشاشین کو بالکل بھول گئے اور بھولے سے بھی ان کا ذکر خیر زبان پر نہ آتا، وہ بھی اتنا ہی چاہتے تھے، اس لئے امام صاحب کی طرف پھر نگاہ التفات نہ ہوئی۔

جلال الدین نے اپنے بہادر اجداد کے الحاد سے علانیہ توبہ کی۔ اور اس کی اطلاع اپنے آقاؤں خلفاء مصر کو بھی دی۔ اس لئے یہ جلال الدین نو مسلم مشہور ہوا۔ اس کی والدہ اور اس نے حج بھی کیا، خلیفہ بغداد نے عزت افزائی بھی کی، ۶۵۳ھ میں ہلاکو خان نے اس خاندان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

حسن بن صباح نے ایک کتاب بنام "فصول چہارگانہ" نامی زبان میں لکھی۔ امام زاری نے اس کی ترویج کی۔ "فصول چہارگانہ" اب دستیاب نہیں ہوئی، البتہ امام صاحب کے مقالات میں اکتبا سات محفوظ ہیں۔ اس کتاب کی پہلی فصل میں صورت امام پر بحث ہے، اس لئے کہ محض عقل سے کام نہیں چلنا۔ امام معلم صادق ہونا چاہیے۔ دوسری فصل میں معلم یا امام کی شناخت پر بحث ہے، تیسری فصل میں معلم کی تعلیم پر بحث کی گئی ہے، چوتھی فصل میں اپنے مذہب کی صداقت اور دیگر مذہب اہل حدیث اور اہل تشیع کا ابطال کیا گیا ہے۔ شہرستانی نے اپنی کتاب "ملل و نحل" میں اس کا تذکرہ لکھا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ایران اور ہندوستان میں اسماعیلی داعی اپنے ناموں کو خلیفہ اللہ منظر الوہیت ہی بتاتے، یہ ڈھونگ جلال الدین اکبر نے بھی رچایا، اس کو اونگہ نیرنگیہ لنگیر "جد اکفر" کہتا ہے۔ بساط ریاست کے کھلاڑی ہر ایک بھڑوپ میں جو بھی مناسب ہو ظاہر ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ جب تک دنیا میں جہنم ہے اور عوام کالا نام کی ذہنیت ہی لپیٹ ہے ان کو اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے اور کم و بیش کامیاب ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔

"انکاری غیر باش تصدیق این است - واکر و بدل دلیل توفیق این است
"تبعیت خلق از حقت غافل کرو - ترک تقلید گیر تحقیق این است"

ابو عبد اللہ داعی نے اعلیٰ مقبوضات پر قبضہ جمایا، اس کے زہد و اتقانے لوگوں سے نرمی کا ہر تاؤ کیا، اس لئے رائے عامہ بنو فاطمہ کے حق میں ہو گئی۔ اور اب بے خبری سے اس امام مکتوم یا غائب کا انتظار ہونے لگا۔ جس کی دعوت ابو عبد اللہ دے رہا تھا، عبید اللہ بن محمد الجیب بھی اشارہ کا منتظر تھا، ابو عبد اللہ کی دعوت پر اسی کے بیٹے اور خاص مصاحبین کے ہمراہ افریقہ میں تاجر کے لباس میں نازل ہوا۔ لیکن عبا سیوں نے بھی اڑنی سی خبر سن لی، اور دیوبند کے نام عبد اللہ کا حلیہ لکھ کر احکام صادر کر دیئے، کہ جو بھی اس حلیہ کا آوی ملے گرفتار کیا جائے۔ عبید اللہ گرفتار بھی ہوا۔ مگر ابو عبد اللہ کی مدد سے رہائی بھی پائی،

اعلیٰ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، ابو عبد اللہ نے عبید اللہ کا جلوس نکالا، آگے آگے آپ تھا، جذبات اُٹھ کر آنکھوں میں آسے، روتا جاتا تھا اور بہرائی آواز میں کہتا جاتا تھا کہ "اچھی طرح دیکھ لو یہی تمہارا آقا ہے" عبید اللہ کی خلافت اعلیٰ مقبوضات پر بالاستقلال قائم ہو گئی۔ بجز شام کے جزائر اور جزیرہ صنعیہ پر بھی اس کی حکومت تسلیم کی گئی، عبید اللہ نے جس قابلیت اور سرگرمی سے امور خلافت کو سلجھانا شروع کیا۔ اس نے ابو عبد اللہ اس کے سبانی ابو العباس کی تمام توقعات پر پانی پھیر دیا وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جس طرح خلفاء عباسیہ نام ہی کے ہیں، اسی طرح عبید اللہ کو بھی ہونا چاہئے

اور وہ خود سلطان ہیں، جب عبید اللہ پر یہ راز کھلا۔ تو ان کی خدمات خاستہ کے خیال سے ہر ممکن کوشش کی کہ راہ راست پر آجائیں لیکن ان کے دماغ میں ہوائی سلطنت سمائی ہوئی تھی۔ عبید اللہ کے قتل کا منصوبہ باندھنا۔ عبید اللہ کو علم ہوا تو دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کا بھی وہی انجام ہوا جو مدھور کے ہاتھ سے ابوسلم خراسانی کا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ گرسٹہ ۶۹۸ء میں کیفر کردار کو پہنچے تو عبید اللہ کی توجہ تمام شمالی افریقہ کی تسخیر کی طرف لگ گئی، پہر ایک خلافت نئے دار الخلافت کی بنیاد ڈالتی رہی۔ مہدیہ سمندر کے کنارے پر منتخب ہوا، ۶۹۸ء میں اس نے خلافت اور یہ کا خاتمہ کر دیا مگر مصر سحر نہ ہو سکا، مراکش لینے کے بعد اس کی دلچسپی ہوئی نظریں سپانیہ کی طرف اٹھتی رہیں۔ لیکن اس کا خواب پریشان ہو کر رہ گیا، چوبیس برس حکومت کی، ۶۲۲ء میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر رحلت کر گیا۔

الواقعا عم محمد نزار القائم پھر اللہ یاپ کا جانشین ہوا، شمالی افریقہ جہاں اسی عیسیٰ خلافت تھی اس ساحلی علاقہ سے۔ اطالیہ کے بحری قزاق اس کی بندرگاہوں کو اکثر تاراج کرتے رہتے، اس لئے القائم کی تمام تر توجہ اٹلی کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے ایک مضبوط بحری بیڑہ تیار کیا اور جنوا (Genoa) اور بارڈوی (Dombard) کے ایک حصہ پر قبضہ جمایا، اگر ایک بغاوت کو فرو کرنے کے لئے اسے اپنے ہی گھر کی خبر نہ لینی پڑتی تو کچھ شک نہیں کہ تمام اطالیہ پر اس کا قبضہ ہو جاتا،

ہم بیان کر چکے ہیں کہ خوارج کو جب اموی اور عباسی خلافت میں عرب میں پناہ نہ ملی تو ان میں اکثر شمالی افریقہ میں آ سکے۔ اور یہاں بھی وقتاً فوقتاً شورش برپا کرتے رہے، قائم کے عہدِ خلافت میں ایک شخص خارجی ابو نیریدہ غلد نامی مدرس تھا۔ قبائل بڑبڑ میں دغظ کا سلسلہ شروع کیا، اور کافی جمعیت فراہم کر لی، اور سپانیہ کے خلیفہ ناصر کو دعوت دی، کہ اسی عیسیٰ بلحدوں کو بیدخل کر کے افریقہ کی سلطنت سنبھال لو۔ اور خود شیخ المسلمین کا لقب اختیار کیا، پہاڑی جنگجو قبائل کے ساتھ آ رہا اور شہر کے بعد شہر فتح کرتا ہوا دار السلطنت "مہدیہ" کا محاصرہ ڈال دیا، یہی ایک شہر ہما علیوں

کے پاس رہ گیا تھا، ابو یزید نے بہت کوشش کی مگر شہر سخر نہ ہوا۔ مجبوراً ابو یزید و ناکہ بندی کی سوجھی، اس اثنا میں قاسم کا انتقال ^{۳۳۵ھ} _{۶۹۴ھ} میں ہو گیا، ابوطاہر اسمعیل منصور یا مرثد باب کا جانشین ہوا اور فتح اسمعیلی علم پر لہرائی، ابو یزید پسپا ہوتا ہوا بیل سلات میں پناہ گزین ہوا۔ مگر گرفتار ہو کر مارا گیا، اس بغاوت کا فائدہ اموی خلیفہ لٹ صرنے اٹھایا، اس نے مراقش پر قبضہ جالیا، اور تمام اور لسی مقبوضات اس کے زیرِ تحسین آ گئے۔

^{۳۳۹ھ} _{۶۹۵ھ} میں منصور نے ابوالقاسم حسن بن علی بن ابی الحسین انکلبی کو صقلیہ کا والی مقرر کیا، یہ منصب اس کے خاندان میں ایک سو اسی برس رہا۔ خلافت کے زوال پر کونٹ روجر (Roger) کے تحت نارمن قوم نے پھر سے قبضہ کر لیا۔

منصور کا جانشین اس کا بیٹا ابومعمر عبدالمعز الدین اللہ ہوا۔ اس کی فوج کے سپہ سالار ابوالحسن جوہر بن عبد اللہ نے جو صقلیہ کا رہنے والا تھا، مراقش پر قبضہ کر لیا، اموی خلیفہ الناصر مسیحی بغاوت فرود کرنے میں مصروف تھا۔ اب دو حریف خلفائوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، اور ان کی طاقت جو یورپ کی تسخیر پر صرف ہونی چلیے تھی اب اسی خانہ جنگی سے کمزور ہو گئی، اور مسیحی یورپ کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا،

^{۳۵۴ھ} _{۶۹۸ھ} میں جوہر "فسطاط" میں بلا مقابلہ داخل ہو گیا اور پھر رفتہ رفتہ تمام مصر پر قابض ہو گیا، اس کے بعد قاہرہ میں دارالخلافت منتقل ہو گیا، ۵۱ راہِ مصران ^{۳۷۲ھ} _{۶۹۷ھ} میں تختِ زریں پر بیٹھ کر اس نے مصر اور شام اور حجاز کے وفود کو باہر یابی کی اجازت دی اور زریں قبول کیں،

مصر کے بعد اس کا بیٹا ابوالمنصور نزار الغزنی باللہ جانشین ہوا، اس کے عہدِ خلافت میں اس کے نام کا حنبلہ نہ صرف حجاز میں بلکہ یمن اور یسوسل اور حلب اور

سہ "فسطاط" ملک مصر میں مسلمانوں کی پہلی چھاؤنی اور پہلا شہر ہے۔ ^{۳۵۸ھ} میں عمرو بن العاص نے فتح مصر کے بعد یہاں پڑاؤ کیا، اب اس کا محل وقوع مصر کہنہ اور قاہرہ کے درمیان سمجھنا چاہیے۔ اس

حصص وغیرہم مقامات پر بھی پڑھا جانا تھا اور بکرا و قیالوس دیوار فرات تک اس خاندان کی حکومت تھی۔ عرب کا بھی اکثر حصہ زیر اقتدار تھا۔

بربری قبائل میں خوارج کا انزور سوخ یا کم از کم ان کے عقائد زیادہ تر ان کو مذہب کے نام پر شتمل کرتے رہتے اس لئے عزیز نے وہی روش اختیار کی جو اس کے پیشرو خلفاء عباسیہ اختیار کر چکے تھے، ترکوں اور دیالی ایرونیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا تاکہ بربری قوت کا جواب ہو، عزیز ^{۳۸۲}میں فوت ہوا اور اس کے ساتھ دولت بنی فاطمہ کی نشان و شکوہ بھی مانند پڑ گئی، اس کا جانشین اس کا بیٹا ابو علی منصور الحاکم بامر الہی ہوا۔ یہ شخص بعض اوقات دیوانگی کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتا، اکثر اکابر کو اسی طرح میں قتل کرایا،

ابن خلدون لکھتا ہے کہ اس کی عادت تھی کہ رات کے وقت المقطم کی پہاڑی کی طرف نکل جاتا، یا تو اختر شامی کرتا یا خلوت میں عبادت، ایک رات جب معمول وادب کے ساتھ نکلا اور پھر واپس نہ آیا، تلاش پر پہاڑی چوٹی پر قریب ہی ایک چشمہ پید میں گرا جس پر سوار تھا ملا، اس کے چاروں پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور الحاکم کا لبادہ جس پر خنجر کے نشان تھے چشمہ میں ملا۔ مگر تلاش باوجود تلاش نہ ملی۔

کے آثار قدیمہ میں سے "جامعہ عمرو اور المقطم تک اور قاہرہ کے گرد کھنڈر ہیں۔ یہ مقام وہ ہے جہاں صحابہ "قلعہ ہابل کو مسخر کرنے کے لئے مصر کنہ میں آئے اور وہ "المقصری" یا "دبر" مارجر جس کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعد عمرو بن العاص، اسکندریہ کی تسخیر کے لئے بڑھے والے تھے۔ حکم دیا کہ میرا خیمہ اکھاڑا جائے، اس میں ایک کبوتر کا آئینہ نظر آیا، اس میں کبوتر کے بچے بھی تھے، آپ نے کہا کہ مت اکھاڑو، ایک محترم کی وجہ سے اس کی حرمت واجب ہے اور قبضہ کو حکم دیا کہ جانوروں کی حفاظت کرو۔ اور خود مع سپاہ اسکندریہ کا رخ کیا، اسکندریہ میں دارالولاء تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ مگر فاروق اعظم نے کہا کہ میرے دریاں دریا حاصل نہ ہو، انبار فسطاط پر چھ ڈال دی اس کی بدلتی لبرہ اور کوفہ سے بڑھ گئی۔

حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ عقائد جس کی وجہ سے فرقہ اسماعیلیہ بناوا ہوا ہے۔
 سی حاکم کی اختراع ہے، یہ اپنے آپ کو منظر الوہیت منوانا چاہتا تھا، اس کے متبعین
 یقین کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور پھر واپس آئے گا۔

”باز آمدن مسیح و ہمدی این جا از تحسیر بہ نراج عمیاں دور است“
 دنیا بہ امید قائم ہے وہ مذہب ہے جو لبنان میں ”الدریہ“ یا دروزی لوگوں
 میں اب بھی رائج ہے۔

حاکم کے بعد ابو ہاشم علی الظاہر لاغزاز دین اللہ جانشین ہوا، اس کے عہد میں
 شام کا اکثر حصہ فاطمی خلافت سے علیحدہ ہو گیا، ایک عرب امیر صلح بن مر اس
 حلب دیا بیٹھا۔

ظاہر کے بعد اس کا بیٹا ابو حمیم معد المتنصر باللہ جانشین ہوا۔ ۳۸۴ھ میں
 حجاز میں اس کے نام کا خطبہ موقوف ہوا، پانچ برس بعد شرف الدولہ نے جو سیف الدولہ
 کی اولاد سے تھا جس کو اس کے دادا المعز نے افریقیہ کا والی مقرر کیا تھا اس کے نام
 کی جگہ عباسی خلیفہ القائم کے نام کا خطبہ پڑھا، مغربی ایشیا میں طغرل اور اس
 کے جانشین الپ ارسلان نے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور ان کو مصر کی طرف
 رکھیل دیا، اس بد نظمی کے زمانہ میں جو خانہ جنگی نے پیدا کر رکھی تھی، مسیحی و نیا میں
 بیت المقدس لینے کی تحریک زور پکڑ گئی، اس کا نڈکورد بصلیبیہ میں کریں گے اس کے
 بعد مصر میں چند بے حقیقت خلفاء فاطمیہ ہوئے آخری خلیفہ العاصم ۵۲۷ھ میں
 مر گیا اور اس کے ساتھ یہ خلافت بھی ختم ہو گئی۔ اگرچہ اسماعیلی خلافت بنو فاطمہ ختم
 ہو گئی مگر باطنیہ فرقہ ختم نہیں ہوا۔ اور نہ امامت اسماعیلیہ ختم ہوئی، بہائے زمانہ میں
 ہزارائی نس سر آغا خاں موجود ہیں۔

بنو فاطمہ کے زوال کا بہت بڑا سبب خود ان کے داخلی تھے، خلفاء بنی فاطمہ تو
قرامطہ یہ سب سے بڑے کہ یہ داخلی (Internal) ان کی دعوت - Prop
 agenda - ہوا، ان کو دے رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر داخلی اپنی ڈیرہ حد اینٹ

کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے تھے، یہ کئی قسم کے لوگ تھے، ان میں سے ایرانی نثر اور توبلا شہ
 جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، اپنی پر اپنی شان و شوکت و عظمت و تہذیب و تمدن اور
 مذہب پھر سے رائج کرنا چاہتے تھے، اور غیر ایرانی جب دیکھتے کہ ان کے گروگانوں کی جمعیت
 فراہم ہو چکی ہے تو ان کے حواس بجا نہ رہتے۔

چہ خوش بہت اگر بوداں قدہوس بلندی منتظرت کہ برآں مکان چوندم نہی خم گزشتے نخورد مسرت
 ان اہل غرض و ہواد ہوس نے بنو ہاشم اور بالخصوص بنو فاطمہ سے اپنے آپ کو اس
 لئے وابستہ کر رکھا تھا کہ اس عقیدت کا جو عوام الناس کو آل رسول اور اولاد علی سے
 مکتی زیادہ سے زیادہ قائدہ اکھٹاتے رہیں، ان میں سے ایک داعی ابو عبد اللہ کے حالات
 ہم لکھ چکے ہیں، اس نے مذہب میں خستہ اندازی نہیں کی۔ لیکن توقعات جو اس نے
 باندھ رکھی تھیں پوری ہوتی نظر نہ آئیں تو بگڑ بیٹھا، آخر مارا گیا،

ایک اور داعی جس نے دین کے اسلام میں کچھ عرصہ غلغلہ برپا رکھا، "قرمط" کے
 لقب سے مشہور ہے، اس کا نام "سہدان" تھا، عبد القاسم البغدادی وجہ تسمیہ یہ
 بیان کرتا ہے کہ ذرا لنگڑا کر چلنا تھا یا اس لئے کہ اس کی تحریر سیدھی سطر میں نہ تھی
 لیکن اور مورخین نے کچھ اور وجوہ بھی بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنو
 فاطمہ کے داعی یا خود بنو فاطمہ "تدلیس" سے کام لیتے رہے، اور اس لئے باطنیہ "سے موسوم
 ہوئے، اس لئے سہدان کو قرمط سے یاد کرتے ہیں، بہر حال ابتداء میں "سہدان" سواد کو ذہ
 میں کاشت کا رہا تھا، اس تقدس تاب نے اکثر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، کو ذریعے بھی
 وہ سرزمین ہے، جس میں تخم سازش و شورش ہمیشہ بار و بار باطنیہ نے اپنے عقائد باطلہ
 کا بیج ہر طرف بکھیر دیا،

اس وقت خفیہ سازشوں کا جال کچھا ہوا تھا، اب اتنی تقویت حاصل ہو گئی کہ ان
 کے قائد ابو سعید "جنبالی" نے عراق میں اوصم عجاویہ، عباسی خلیفہ معتقد کی فوج کو
 شکست پر شکست دے کر شام میں تاخت و تاراج شروع کی، ۳۹۰ھ میں ابو سعید کو
 کسی نے قتل کر دیا، اس کے بیٹے اور جانشین ابو طاہر نے وہ تمام کام کیا جو باپ اور

چھوڑ گیا تھا، اس کے بعد میں ایک لخت مکہ معظمہ پر یورش کی، حجاج کو تہ تیغ کیا، اور
 "حجر اسود" اکھاڑ کر لے گئے، اس وقت عبید اللہ المہدی قیران میں بنو فاطمہ کی خدمت
 قائم کر چکا تھا، جب اسے ان حالات کا علم ہوا، تو ابوالطاہر کو سخت زبرد تو بیخ کی اور
 لاکھا کہ دنیا، اسلام میں مطعون کر رہی ہے، اور ہم پر کفر و الحاد کا الزام عائد کیا جاتا
 ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر اور تمہارے افعال تشبیہ پر ہے، حجر اسود فوراً بحفاظت
 تمام مکہ معظمہ پہنچا دو۔ چنانچہ حجر اسود شیخ نیشاپور ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ
 مقدسی کی تحویل میں کوفہ سے مکہ میں آیا، اور پھر کعبہ میں نصب کیا گیا، حجر اسود
 اکھاڑتے وقت چند ٹکڑے ہو گیا تھا، یہی ٹکڑے اب جوڑ کر نصب کئے گئے ہیں اور
 اب بھی اسی حالت میں ہیں، لیکن قرآن مطہ کے خلاف تمام دنیا کے اسلام اٹھ کھڑی
 ہوئی اور ان کا قلع قمع خاطر خواہ ہو گیا،

خواہ دولت بنو فاطمہ کا دامن ان عقائد باطلہ کے داغ سے ابتدا میں پاک ہو
 لیکن اس میں بھی کچھ بکلام نہیں کہ آخر سیاسیات یا ایرانی داعیوں کے عزائم کے
 زیر اثر مجوسی مذہب کے زیر اثر آگئے، ابتدا میں یہ ضرور تھا، کہ بنو فاطمہ کے سیاسی
 ارادے پردہ اخفاء میں رہیں، لیکن داعیان خلافت فاطمیہ کے لئے یہ امر بھی ناگزیر تھا
 کہ دعوت دین کی آڑ لیں، اور یہ بدعت تو خلافت عباسیہ نے جاری رکھی تھی سبے شمار
 احادیث وضع کیں، لیکن ان کا پورل کھلتا گیا، بنو فاطمہ کے داعیوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا
 تھا کہ قرآن میں تحریف لفظی کریں، لیکن تحریف معنوی کی گنجائش نکال ہی لی، ظاہری لفاظ
 آیات کا مفہوم تو واضح ہے، قرآنی آیات میں ہر ایک لفظ اسوائی چند الفاظ اکثر
 آیات میں استعمال ہوا ہے، اور خود قرآن احسن تفسیر ہے، لیکن بنو فاطمہ کے ذہن میں ہر ایک
 لفظ اور ہر ایک آیت کے حقیقی معنی "دلیل قرآن" قرار دیا گیا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ
 قرآنی الفاظ اور آیات ہمارے کے رنگ میں استعمال ہوئی ہیں،

عبدالقادر بغدادی نے "باطنیہ" کے عقائد اور تحریف معنوی پر کافی بحث کی ہے
 مثلاً قرآن دیکھ، کی آیت (۹۸) ہے، "واعبدوا ربک حتی یاتیک الیقین" ہے۔

باطنیہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ
 "اپنے رب و امام وقت کی خدمت میں کمر بستہ رہنا یہاں تک کہ تجھے مرتبہ
 حق یقین حاصل ہو"

حق یقین سے مراد وہ اسرارِ دین ہیں جو امام وقت پر منکشف ہوتے ہیں اور
 اپنے خاص انخاص مریدوں کو تلقین کرتا ہے، ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت کلا
 ترجمہ یہ ہے کہ:-

"اپنے پروردگار و اللہ تعالیٰ کی عبادت مرتے دم تک کرو"

یقین کا مفہوم اس آیت میں "موت" ہے، جیسا کہ ۳۲ کی آیت میں ہے۔ کیونکہ
 موت ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو یقینی ہے، یا یہ کہ اگر انسان موت کو یاد رکھے جو یقینی امر
 ہے تو ذل و جہان سے عبادت الہی کرے گا، جس سے ملاقات کرنے والا ہے۔

اشتراکیت بنوفاطمہ کی کامیابی کا بہت بڑا سبب اشتراکیت Communiam

ہے۔ اعیان بنوفاطمہ کا اثر عوام پر جو اپنی طبقہ کے لوگ ہیں زیادہ تر
 ہوا۔ مزدی پیشہ لوگ تو محنت مشقت سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔
 لیکن ان کے گارڈھے سپینہ کی کمائی کا اکثر حصہ وہ لوگ لہو و لعب میں اڑاتے ہیں۔ جو عملی
 طبقہ امر و کا ہے، "اشتراکیت" کوئی نیا نظریہ بنوفاطمہ کا نہ تھا، قبائل ایرانی بادشاہ کے
 عہد میں "مزدک" اور اس سے پیشتر "مانی" بھی اس کے حافی تھے، معاشریات میں اشتراکیت
 تو خود قرآن کی تلقین بھی ہے۔ لیکن اگر نظریہ اشتراکیت کو منطقی فتوہ تک لایا جائے
 تو صرف معاشریات میں محدود نہیں رہتی، مردک کا مذہب یہ تھا کہ مرد و زن بھی اس حد تک
 آزاد ہوں کہ نکاح کی قید سے بھی گلو خلاصی جو، اگر یہ نسل کی ذہنیت کی افتاد ہی فلسفیانہ
 ہے۔ ہندوستان میں کسی نامعلوم زمانہ میں یہ مذہب اس کے طول و عرض میں رائج تھا جسے
 کو "وام مارگ" (الٹا مذہب) کہتے ہیں، اور اب بھی شیوجی "کی پوجا عام ہے جس کا مذکورہ مذہب
 میں نہیں، یونان میں "سکس" ہندوستانی شیوجی ہے، "ہولی" ہندوستان اور یونان میں
 ایک ہی رنگ میں منائی جاتی، مے نوشی بدستی کی حد تک اور ایک بے حیائی کی

کتاب کھلے بندوں کیا جاتا۔ فنون لطیفہ (ص ۴۷) دام مارگیوں کے ہاتھ میں خطرناک آلات کا رتھے اور سچ پوچھو تو آج بھی ہیں، اگرچہ اس پر تہذیب کا سامع ہے، جینٹر وغیرہ میں ایک کشش عوام کے لئے ہے، مجلس وعظ میں وہ بات کہاں جو "سینا" اور راک رنگ کی محفل میں ہوتی ہے۔ مجالس وعظ میں پتلے سے پیسے خرچ کرنا نہیں پڑتے۔ لیکن ہندب الفاظ میں "تفریح" کے لئے انسان بے دریغ روپیہ لٹاتا ہے۔

اس میں کچھ کلام نہیں کہ داعیان بنو فاطمہ جو پھر سے زرقشتی اور مالوی اور فرد کی نظریہ اشتراکیت رائج کرنا چاہتے تھے اس الحاد کے ذمہ دار ہیں جو خلفاء بنو فاطمہ سے منسوب کیا جاتا ہے، سیاست نامہ میں ان تمام امور کو وضاحت سے قلم بند کیا گیا ہے، طبری اور ابن جوزی "تلبیس ابلیس" میں اور غزالی نے واضح کیا ہے کہ فروری پیشہ لوگوں کے لئے عقائد بنو فاطمہ میں خاص کشش تھی۔

خرمیت | خلافت عباسیہ کے تحت ہم نے ابو مسلم خراسانی اور بابک خرمی کے حالات میں مذہب خرمیہ کا ذکر کیا ہے۔ "نزدک" کی بیوہ کا نام "خریا" تھا۔ اور یہ مذہب اسی کے نام سے منسوب ہے، ایران میں شیعہ مذہب عام ہے اس لئے یہ ضرب المثل کہ "نزدک شیعہ ہو گیا" بے معنی نہیں،

اس میں کلام نہیں کہ نزدکیہ یا خرمیہ مذہب قرامطہ کا تھا، چونکہ یہ لوگ بنو فاطمہ کے داعی تھے اس لئے مورخین یہ یقین کرنے میں حق بجانب تھے کہ کفر والحاد کی ترویج نام نہاد بنو فاطمہ کرتے، حالانکہ بنو فاطمہ کا دعویٰ خلافت ہی بے بنیاد ثابت ہوتا ہے اگر وہ نظریہ اشتراکیت کے حامی ہوتے اس لئے بعض مورخین نے "عبید اللہ المہدی" کے نسب سے انکار کر دیا، اور لکھا کہ اسمعیل بن جعفر صادق کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی یہ صحیح نہیں، بلکہ بنو ناسہ اپنے نادان دستوں کی وجہ سے بدنام ہوئے اور خلافت بھی کھو بیٹھے،

بعض مورخین کی یہ رائے ہے کہ جب خلفاء بنو فاطمہ نے دیکھا کہ عامۃ المسلمین

لحاظ عقائد ان کے خلاف ہیں تو "تقیہ" کی آٹھلی اور شیعہ لوگوں میں جزو مذہب ہے
 اسمعیل المنصور سے اخلیفہ فاطمیہ ہے اس نے تلافی یافتہ یہ کی کہ اکثر عیون
 کو جلاوطن کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص کفر و الحاد کی باتیں کرے اسے قتل کر دو اور علم
 حدیث و فقہ کی عزت افزائی کی اور ان کی باتیں توجہ سے سنتا، مؤرخین کی یہ
 رائے ہے۔ یہ سب سیاسی ڈھونگ تھا، لیکن اس کے خلاف منصور کے عمل کو دیکھا
 تو اس کی نیت کا بھی پتہ ملتا ہے کہ نیک ہی تھی،

سب سے زیادہ جس چیز نے مسلمانوں کے عقیدہ توحید میں زخم انداز
تصوف کی وہ "تصوف" ہے، ہم نے "علم تصوف" پر علیحدہ کتاب لکھی ہے
 اس مقام پر اتنا اشارہ کافی ہے کہ ابتداء میں یہ لوگ جو بعد میں صوفی "کہلائے زاید اور
 عابد ہی تھے، اور ان ایام میں جب کہ ایرانی اپنی کھوئی ہوئی عظمت بحال کرنا چاہتے
 تھے۔ اور قریشی عرب اموی اور مہم پاشتم خلافت ادا نامت کی گنتی سلجھا رہے تھے
 اور ہر ایک فریق نے اپنا امتیازی نشان مقرر کر رکھا تھا، صوفیوں کا لباس "صوف" تھا
 اور عوام کے دلوں میں ان کا احترام ایسا ہی تھا جیسا عیسائیوں میں راہبوں اور ہندوں
 میں ساڑھوں" کا، اس لباس میں عوام کا انعام کو آسانی سے گمراہ کیا جاسکتا ہے۔
 حافظ لکھتا ہے کہ

صوفی نہاد دمام و سر حقتہ باز کرد
 بنیاد مگر بانگ حقتہ باز کرد
 ای دل بیا کہ ماہ پناہ خنداریم
 ز آنچه استین کورہ دست و راہ کرد
 سعدی کہتا ہے کہ

ز ہزار اندال قوم نہ باشی کہ فریبند
 حق را بسجود سے دنی را بدرود سے

ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک "داعی" اسی لباس میں ظاہر ہوتا رہا اور جب لوگوں کو
 اپنا گردیدہ کر لیتا تو سادہ لوح مریدوں کے یہ زمین نشین کیا جاتا کہ
 ہی سجادہ رنگیں کن اگر پیر مغناں گوید
 کہ سا لک بے خبر نہ بود ز راہ رسم منزلہا

اور رازداری یا تقیہ پر زور دیا جاتا ہے۔

دانی کہ جنگ و عود چہ تقریری کنند
پہاں خویدہ بادہ کہ تکفیری کنند
جب مرید طریقت کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو "معرفت کے نکات بیان ہوتے
اور اسے کامل "زندیق" بنا دیا جاتا۔

یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ادنی طبقہ کے لوگوں کے لئے فخر اکیت اور
کفر و الحاد میں ایک بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ فخر اکیت میں اس لئے کہ وہ بغیر اہلیت اس
سطح پر آنا چاہتے ہیں۔ جہاں وہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کفر و الحاد میں اس لئے کہ اس
میں آزادی کے ساتھ حظ نفس بھی ہے، نفس انسانی زیادہ تر گناہ کی طرف ہی مائل ہوتا ہے اہل علم
و حکمت تو ضبط نفس سے اور اعتدال سے کام لیتے ہیں، لیکن عوام بے رگام ہوتے ہیں
اور جب ایک دفعہ یہ حقیقت ذہن نشین ہو جائے، کہ تمام قوانین محض نظام معاشرت
کے لئے وضع ہوتے ہیں اور آخرت میں اس بارہ میں کوئی بارپرس نہ ہوگی تو وہ کون سا جرم
اور کون سا گناہ صغیرہ و کبیرہ ہے جس کے ارتکاب کی ان سے توقع نہ ہو۔ بہاے زمانہ میں
شیخان جابل اور پیران گمراہ بھی وہی قمر منطی اور باطنی میں اور تعجب ہے کہ اچھے لکھے ٹھٹھے
بھی ان کے دامن تزییر میں بھنپس جلتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے جس کی تشریح علم نفس
سے ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، عالم خیال یا مثال میں جو کچھ وہ جلوے دیکھتے
ہیں اور ریاضت شاقہ سے جو دل و دماغ پر اثر ہوتا ہے وہ بقول مرزا عبد القادر بیدل
"اگر ہوش است باید فہمید کہ غیر از اشیائے محسوسہ معینہ ہر چہ در خیال بر تو اندازد"

وہمہ سوداست ادخلاف قاعدہ آنچه در نظر شکل یابد ہمہ صفرا"

خلقے است دریں خون سرای نیرنگ زندانی اختراع چندیں فرہنگ

من بندہ آل کہ در ادب گاہ نبات جو عشق محسنوں نسا زد و سیری رنگ

حسن بن منصور صباح نے دعوتے "انا الحق" کیا تو الی کم خلیفہ فاطمی کو بھی دیوانہ یا مجذوب

سمجھا گیا، کہ وہ بھی مدعی الوہیت تھا۔ صباح اور اس میں فرق یہ تھا کہ "اوراعوں دایر داعوں
نیست" حاکم باسرا اللہ فرعون کی طرح صاحب حکومت و اختیار تھا۔ اس لئے اس کا دعوتے

بھی تسلیم کیا گیا اگرچہ تینوں کا حشر ایک جیسا ہوا۔

جسے ہم آج "فری میسن" (Free Mason) کہتے ہیں اسی طرح یا اس کے لگ بھگ خلفاءِ فاطمیہ نے "دارالحکمت" کی بنا ڈالی تھی، پیروں کی خانقاہیں بھی اسی نمونہ پر اب بھی تعمیر ہوتی ہیں، اسید امیر علی لکھنابے کہ قاہرہ کا دارالحکمت ایک نمونہ ہے جس پر مسیحی دنیا میں "لوج" (Log) (جس کا معنی ہے "راز داری") ان کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، "جامعہ الازھر" خلفاءِ فاطمیہ کی یادگار اب بھی قاہرہ میں ان کی علم دوستی کی شہادت دے رہی ہے،

اگرچہ بنو فاطمہ کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے، وہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جن کی تہ میں مخالف فریق کی سیاسی اغراض کار فرما ہیں، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ بنو فاطمہ کا وہی سیاسی عقیدہ تھا جو عالم شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ ہی خلافت کے مستحق تھے، اور پہلے تین خلفائے حق خلافت غصب کیا، اور یہ کہ بوجہ قرابت جو حضرت علیؑ کو آنحضرتؐ سے ہے اور اولادِ علیؑ کو علیؑ سے ہے خلافت کا حق انہیں پہنچتا ہے۔ اس موضوع پر عباسی خلیفہ منصور نے نفسِ ذکیہ میں جو مجادلہ ہوا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ عبید اللہ المہدی کے دوران حکومت میں تو مصلحتاً اس عقیدہ کو زیر بحث نہیں لایا گیا لیکن بیٹے ابوالقاسم قائم بامر اللہ سے سخت سیاسی غلطی ہوئی اور اس عقیدہ کو بزورِ حکومت منوانے کی کوشش کی اور سب صحابہؓ کی طرح علانیہ ڈالی عوام بھڑک اٹھے، ابو یزید جس کے حالات ہم لکھ چکے ہیں خارجی تھا اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے دو خلفاء ابوبکر صدیق اور عمر فاروق خلیفہ بہ حق ہیں باقی سب غاصب اور ان کو حضرت عثمان و حضرت علیؑ سے بلحاظ عقیدت وہی نسبت ہے جو شیعیان علیؑ کو اول تین خلفاء راشدین سے، ابو یزید کے ساتھ عوام جو اکثر اہل سنت و الجماعت تھے اس لئے ہو گئے کہ اس سے یہ توقع تھی کہ وہ پھر سے سنت رسول اللہؐ کو زندہ کرے گا، اور سب صحابہؓ جو شیعوں کے سیاسی مذہب کا جزو ہیں، ابو یزید مخلص کے اتباع کا محرک زیادہ تر ہوا۔

اس نئے تجربہ کے بعد خلفاءِ بنو فاطمہ نے "تقیہ" اختیار کیا اور جو کام علانیہ نہ کر سکے

خفیہ مجالس میں خاطر خواہ طور پر ہاتھ اٹھا کر داعیان بنو فاطمہ کے جوش عقیدت نے بنا بنایا
 کھیل بگاڑ دیا، ان کے حریف بنو عباس کا دعویٰ خلافت اسی درانت پر مبنی تھا جس
 پر فائق حق شفع بنو فاطمہ پیش کر رہے تھے، مگر بلحاظ سیاسی تدبیر بنو عباس کا پڑھ بھاری
 رہا اور عوام نے آخر ان ہی کی طرف رجوع کیا، اور تمام سلاطین انہی سے سزا حکومت
 حاصل کرتے رہے اس لئے کہ اب یہ عقیدہ نچتہ ہو چکا تھا، کہ خلافت کا حق صرف
 قریش کو ہے، میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ حدیث "الائمہ من القریش" سیاسیات
 نے وضع کی اور اس وقت وضع ہوئی جب بنو ہاشم و نیوی خلافت سے مایوس ہو کر
 "امامت" پر قانع ہو گئے، اور پھر اسی کی آڑ میں و نیوی خلافت جو اصل نصب العین تھا
 حاصل کر لی، اہل بیت کے پرستاروں کا ابھی تک یہی عقیدہ ہے کہ غصب شدہ خلافت
 کسی مستحق کو نہ دی اور نہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

خلافت قریشیہ بالکل ختم نہیں ہوئی ریاست و نیوی اور ریاست دینی آج تک
 موجود ہے اور ہم اس کا حال اپنے زمانہ کے سلاطین اسلام کی ذیل میں کریں گے۔



خلافتِ اسلامیہ

(حصہ دوم)

خواجہ عباد اللہ اختر
رئیس ادارہ ثقافتِ اسلامیہ



مطبوعات ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور

(پاکستان)

۱۹۵۱ء

دیگر مطبوعات ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

انگریزی

۱۔ اسلامک ایڈیالوجی مصنف ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایم اے، ایل ایل بی بی بی پی پی ایچ ڈی

۲۔ فنڈیشنل بیسین ٹیپر مصنف

۳۔ وی فیلسی آف مارکسزم مصنف ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم اے پی پی ایچ ڈی

اردو

۴۔ عقائد و اعمال مصنف محمد مظہر الدین صدیقی

۵۔ اسلام میں حریت، مساوات، اخوت مصنف خواجہ عباد اللہ اختر

۶۔ اسلام اور حقوق انسانی مصنف

۷۔ اسلام کا معاشی نظریہ مصنف محمد مظہر الدین صدیقی

۸۔ دین فطرت مصنف

۹۔ اسلام کی بنیادی حقیقتیں مصنف ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم و دیگر رفقاء ادارہ

۱۰۔ اسلام کا نظریہ تعلیم مصنف ڈاکٹر محمد رفیع الدین

زیر طبع کتابیں

۱۔ اصل فقہ اسلامی اور حدود اللہ و تعزیرات

۲۔ اسلام کا نظریہ اخلاق

۳۔ علم تصوف

۴۔ مقام سنت

۵۔ مسئلہ اجتہاد

۶۔ تہذیب و تمدن اسلامی

۷۔ قرآن و علم جدید


۸۔ خلافت اسلامیہ حصہ اول دوم

۹۔ اکوٹا کس آف اسلام

۱۰۔ اسلام و کامیونزم

ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ۔ لاہور۔

پاکستان



خلافت اور سلطنت

اس کتاب کے حصہ اول میں ہم نے خلافت کے تحت لکھا ہے کہ خلافت کا اول نشاء دین ہے اور مسلمانوں میں جو بھی صاحب حکومت، اس مقصد کو پورا کرتا رہا مستحق اسے خلیفہ کے نام سے موسوم کیا جائے، لیکن اسے ایک عقیدہ کا کرشمہ کہو یا حقیقت بل قریش میں سے خلفاء راشدین، بنی امیہ، اور بنو عباسیہ اور بنو فاطمیہ ہی خلیفہ تھے، اگرچہ حریف قبائل ان کی خلافت تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر دنیا کے تمام مسلمانوں نے تسلیم کی جب قریش کی حکومت کچھ خانہ جنگی اور کچھ نا اہلیت اور کچھ غیر قریش مسلم اقوام کے عروج و سربلندی کی بنا پر ختم ہو گئی، تو ان کے بعد غیر قریش "سلاطین" ہی کہلائے۔ ان کو بھی ایک عقیدہ کی جو کچھ ہو چکا تھا، اس بات کا احساس تھا، کہ ان کو حق حکومت اس وقت تک حاصل ہو سکتا جب تک خلفاء عباسیہ ان کو سندِ سلطانی عطا نہ فرمائیں، چنانچہ یہ سلاطین سلطانی حاصل کرتے رہے، اگرچہ ان کی حیثیت اب خاندان کے پیروں کی سی رہ گئی جو اپنے مریدوں کو خرقہ خلافت عطا کرتے ہیں، خلافت کا اقتدار اب صرف اتنا رہ گیا کہ دنیا کے مسلمانوں میں نماز جمعہ کے خطبوں میں ان کا نام سلطان وقت کے نام کے ساتھ

مذکور ہے۔

اس لئے کہ فاروقِ عظیم کے عہدِ خلافت میں جب اسلامی لشکر نے شہرِ قدس کو محاصرہ میں لے لیا تو حیران تھے کہ کیا کریں، بطریقِ یردِ شلم کو بھی معلوم تھا کہ شہر کا احترام مانعِ خونریزی ہے اس لئے وہ مسلمانوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا رہا، مگر جب دیکھا کہ فائدہ دیر پا نہیں تو مسلمانوں کی پیش کردہ شرائطِ صلح منظور کرتے ہوئے اس شرط کا اضافہ کیا کہ خلیفہ خود اس کی تصدیق میرا رو برو کرے، مجبوراً حضرت عمرؓ کو بھی یہاں لانا پڑا، یہ سب کاروائی اس لئے کہ فی طبری کہ یہ حرم تھا، لیکن زمانہ گذرتا گیا، اور خود مسیحیوں نے حرم کا احترام اٹھا دیا اور "حروبِ صلیبہ" میں اس کی حرمت بے سزا نہ رکھی، مسلمانوں نے یہ بھی بھلا دیا کہ یہ "حرم" ہے اس کی جگہ مدینہ منورہ نے لے لی، اب مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ "حرمین" صرف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں اور یہ کہ خلیفہ وقت پر ان کی حفاظت اور احترام فرض ہے، جو والہانہ محبت مسلمانوں کو اور وضہٴ اقدس سے ہے اس کا تقاضہ ہی کچھ ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ "حرمین" سے مراد شہرِ قدس اور مکہ معظمہ ہی ہے،

استحقاقِ خلافت کے لئے یہ بھی ضرور ہوا کہ خلیفہ وہی ہے جس کی سرپرستی میں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ ہوں، اس لئے غیر قریشِ مسلم حکمرانوں میں سے جس کو بھی ہوسن خلافت ہوئی وہ ارضِ حجاز پر قبضہ کے لئے جدوجہد کرتا رہا، خاندانِ صفویہ نے انتہائی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ کبھی خلافت کا دعویٰ کیا، بعض مورخین نے انہیں "ساداتِ نکعہ" ہے تاریخی زمانہ میں عرب میں رہتے ہوئے بنو ہاشم نے کبھی اس کو اپنا امتیازی لقب مقابلاً نہیں کیا، جب کہ خلافت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، "اشراف" ہی کہلائے، جن کو ہم "حسنی سادات" کہتے ہیں وہ اہلِ حجاز کی اصطلاح "بن" "الاشرف" سے موسوم ہیں، یہاں سے زمانہ میں بھی "حسین" شریفِ مکہ اسی حیثیت سے کہتے رہے، صدیوں سے یہ لوگ کعبۃ اللہ اور روضہ مطہرہ کے متوجہ چلے آتے ہیں، اور ان کی حکومت عملاً حرمین شریفین پر بھی رہی، اسی قبیلہ کا ہر فرد "شریف" کہے جاتا ہے وہ صاحبِ حکومت نہ بھی ہو، ان کی تعداد تیس ہزار کے قریب ہے، اور ان کا نسب "شریفِ ابوہنی" (متوفی ۳۹۲ھ) سے جا ملتا ہے،

صفوی خاندان کے سلاطین کے تین نام نمایاں ہیں، اسمعیل اور عباس اور طہاسب

یہی بار بار ثانی اور ثالث ہیں، ایک نام سپہمان کا اضافہ نہ کیا جائے، تو اس خاندان کے نام ختم ہو جاتے ہیں، کوئی عرب بنو فاطمہ کا کیا مذکور ہے، گبری نام ظہاسپ پسند نہیں کریگا، سلطان سلیم سلطان روم و شام نے ارض حجاز پر قبضہ کے بعد دعویٰ خلافت کیا، یہ دعویٰ اس کے مقبوضہ ممالک ہی میں تسلیم کیا گیا، اس کے جانشین سلطان کو بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا، اس لئے کہ اس جگہ انگریزی حکومت قائم ہو چکی تھی، خطبہ میں کسی خلیفہ کا نام ضرور ہونا چاہیے، اس خلافت کا دور بہائے زمانہ میں ختم ہوا، اب صرف آنحضرت اور خلفاء راشدین اور امامین شہیدین کا نام ہی رہ گیا، جب تک خلافت قریش میں رہی اس کی حکومت مرکزی تھی، خلفاء عباسیہ وقتاً فوقتاً سلاطین کے نام فرمان جاری کرتے رہے، مگر غیر مسلم حملہ آوروں کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ سلجوقی اور ایوبی حکمران تعمیل کرتے رہے، اگرچہ خود خلافت عباسیہ ان حکمرانوں کی سرپرستی میں تھی، ہم نے اس کتاب کا نام خلافت اسلامیہ رکھا ہے، یہ نام اس کتاب کے حصہ اول کے مناسب تو ہے کیونکہ اس میں صرف خلافت قریش کا مذکور ہے، دوسرے حصہ کا نام "سلطنت اسلامیہ" موزوں تھا، کیونکہ ان میں صرف سلاطین کا حال لکھا گیا ہے مگر کچھ ہم خلافت کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کا یہی تقاضا ہے کہ نام کتاب "خلافت اسلامیہ" ہی صحیح ہے، سلاطین اگرچہ خود مختار بادشاہ تھے، مگر مرکزی حکومت یا خلافت عباسیہ کا اتنا احترام ضرور ملحوظ رکھتے، کہ جو کچھ فرمان صادر ہوتا تعمیل کرتے، آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو، اردو سلاطین یا جمہوریہ جو مختلف ممالک اسلام پر حکمران ہے ایک مؤثر حسب ارشاد قرآن قائم کریں، جس میں مختلف ممالک اسلامیہ کے نمائندے ایک مرکزی مقام مدینہ منورہ یا ایسے ہی کسی مقام پر ماسوائے مکہ معظمہ، ایک ادارہ قائم کریں جو ان کے داخلی تنازعات کا فیصلہ عدل و قسط سے کرے اور ساتھ ہی خارجی معاملات کا انصرام اس کے ہاتھ میں ہو۔

ان ایام میں جس کی تاریخ ہم لکھ رہے ہیں، اس کا ایک دھندلا سا نقشہ پرچہ چکا ہے مگر اس کا صحیح تصور اس زمانہ کے ذہن میں نہ تھا، اس کتاب کے آخر میں ہم اس موضوع پر بحث کریں

اس کتاب کے حصہ اول میں ہم نے خلافت راشدہ اور اُمیہ اور عباسیہ اور فاطمہ
 ہی کا ذکر کیا ہے، ضمناً چند سلاطین کا نام بھی آگیا۔ چونکہ ان میں سے بعض نے عظیم الشان
 سلطنت قائم کی، اس لئے ہم نے یہی مناسب خیال کیا، کہ ان کا ذکر خیر علیحدہ کیا جائے
 اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی خیال تھا کہ واقعات خلافت اس طرح سلسلہ وار بیان
 کئے جائیں، کہ پڑھنے والوں کی توجہ میں پریشانی واقع نہ ہو۔ اور حافظہ میں بلا وقت محفوظ
 ہوتے چلے جائیں۔

حصہ اول کے مطالعہ کے بعد قارئین پر چند امور واضح ہو گئے ہوں گے، کہ ایران کی
 تسخیر کے بعد جس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کا مقابلہ و مقابلہ اہل یورپ سے مسلسل
 رہا اور ابھی جاری ہے، مسلمانوں نے ہسپانیہ اور جزائر بحر الشام پر قبضہ کر لیا، اور جب
 یہاں سے بیدخل ہوئے تو یہ سلسلہ جنگ پہلے حروب الصلیبہ کی صورت میں شمالی افریقہ
 اور ارض شام میں جاری رہا۔ اب مذہب کا نام نہیں بسکن قومی مفاد کے لئے ہوس ملک
 گیری تو ہے، ارشاد قرآن ہے کہ

قل للمخلفین من الاعراب
 ستدعون الی قوم اولی
 بأس شدیداً قفاقلونہم
 اولسلون فان تطیعوا
 یوتکم اللہ اجراً
 حسناً

پارہ ۲۶، رکوع ۱۰

ان گنواروں کو پیچھے بیٹھ لے کر کہو کہ تم
 میری زندگی میں میرے ساتھ تو کسی غزہ میں
 شامل نہیں ہو سکتے البتہ (قریب تر زمانہ میں تم
 کو ایک سخت جنگجو قوم کے مقابلہ میں خلیفہ
 وقت دعوت دی جائے گی، تم ان سے لڑتے
 رہو گے یا وہ مطیع ہو جائیں گے اور اگر تم نے
 اطاعت خلیفہ وقت کی، تو اللہ تم کو نیک اجر
 عطا فرمائے گا،

اس آیت کا شانِ نازل ان ہی آیات کی پہلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت جب
 اپنے ایک خواب کی بنا پر کہ مسلمان مکہ میں امن سے داخل ہو رہے ہیں، اصحاب کے ساتھ مکہ کی
 طرف سے نکلے تو بعض اعراب نے یہ عذر کیا کہ ان کے گھران کی عدم موجودگی میں خطرے

میں رہیں گے اس لئے اجازت حاصل کر لی اور آنحضرتؐ کا ساتھ نہ دیا، جب آنحضرتؐ مکہ سے مع الخیر لوٹے اور یہود کی سرکوبی کے لئے خیبر کی مہم تیار ہوئی، تو یہ اعراب بھی آمو جوڑے ان کو کہا گیا، کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاسکتے البتہ میرے بعد تم کو ایک جنگ جو قوم کے مقابلہ کے لئے بلایا جائے گا، چونکہ اس آیت میں لفظ "یسلمون" استعمال ہوا ہے اس لئے مفسرین نے اس قوم سے اشارہ اہل فارس سمجھا، اور وہ سب مسلمان ہو گئے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں بھی الفاظ "اولی باس شدید" (بہت زیادہ باس شدید) کے واسطے استعمال ہوئے ہیں اور واقعات بھی اس کی تائید میں ہیں، کہ آیت محولہ میں "اولی باس شدید" سے مسیحی ہی مراد ہیں آخر ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے۔

دوسرا مرحلہ حصہ اول کے مطالعہ کے بعد واضح ہوا ہو گا یہ ہے کہ خلافت اہل عرب کے ہاتھ سے نکل کر غیر عرب مسلم اقوام کے قبضہ میں آگئی، ارشاد قرآن ہے

وَإِنْ تَوَلَّوْا لَيَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ خَيْرٌكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (۲۴)

اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور اور قوم بدل کر لائے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے

یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی، بنو امیہ اور ہاشمیہ کی خلافت کے آخری ایام میں عال صریحاً احکام قرآن کے خلاف تھے، منشاء خلافت پورا نہ کر سکے، ہوس اقتدار نے ہر ایک قبیلہ کو خانہ جنگی پر آمادہ کیا۔ بنو ہاشم بنو امیہ کی بیخ کنی کے درپے رہے، آخر دونوں تباہ ہو گئے، اور غیر قوم مسلط ہو گئی، ان غیر عرب مسلمان اقوام کا حال ہمیں حصہ میں بیان کرتے ہیں۔


خلافت عباسیہ کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں کہ عربوں کے مقابل خلفاء نے ایرانیوں کو اٹھارا، اور جب یہ زیادہ زور پکڑ گئے، تو مقتصد باللہ آٹھویں خلیفہ نے ترکوں کو لاکھڑا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب تو کمزور ہوتے گئے، اور ایرانی اور ترک زور پکڑتے گئے، خلافت عباسیہ کے زوال پر دنیا اسلام میں طوائف الملوک کی صورت پیدا ہو گئی تھی، والی اور عامل جہاں جہاں تھے، خود مختار تھے، مگر خلافت کا احترام اتنا ضرور تھا

کہ برائے نام اسی کے تحت تھے۔ ان میں آئے دن خانہ جنگی بھی ہوتی، اور خاتمہ بھی جلد ہی ہو جاتا۔ ان کا مذکور بے فائدہ ہے، البتہ جس خاندان نے کچھ آثار چھوڑے بہ تعلق خلافت ہم اس کے حالات بیان کریں گے، اس کے علاوہ وہ بھی قابل ذکر ہیں جو وحدتِ ملت میں رخنہ انداز ہوئے۔

آل بویہ | آل بویہ کو سلاطینِ دیالمہ بھی کہتے ہیں، دیلم وہ مقام ہے جس کو گیلان یا جیلان کہتے ہیں، ان سلاطین کا حسب نسب بعض مورخین نے نیز جہاں بن شہر یار اور بعض نے ہرام گور سے ملایا ہے، جب کوئی شخص خواہ پنج ذات کا ہو کسی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے تو کسی نہ کسی بادشاہ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہندی اور رومی اور یونانی شاہ پر کسی نہ کسی آسمانی دیوتا کی اولاد تھے، سیاسی غرض تو صرف اتنی ہے کہ عوام کا انعام کے دلیل پر عظمت کا سکہ جا دیا جائے۔ شخصیت پرستی کی ابتدا اسی میں ہے، بہر حال یہ لوگ ایرانی نژاد تھے، لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ دیلم کے رؤسا تھے۔

شجرہ نسب

ابوشجاع بویہ



یہ خاندان نہ صرف بغداد میں خلافت پر چھا گیا بلکہ دنیائے اسلام کے اکثر حصہ پر
 نص ہو گیا، اس خاندان کا سب سے بڑا کا نام یہ ہے کہ شیعہ مذہب جس کا بڑا صحابہ
 ہے۔ ان ہی کے دور دورہ میں رائج ہوا، اس وقت تک سیاسی اغراض کے تقاضہ کے تحت
 موسیٰ بنو ہاشم کو اور نبو ہاشم بنو امیہ کو براہ کتے رہے اور جب اموی خلافت کا خاتمہ ہوا تو
 نبو ہاشم ہاشم دست و گریباں ہوئے، عباسیوں نے اولاد علیؑ سے وہ سلوک کیا جو نبو امیہ
 نے بھی روانہ رکھا تھا، ۳۵۱ھ میں مضر الدولہ کے حکم سے تمام مساجد بغداد کے دروازوں
 پر امیر معاویہ اور خلفاء بنو امیہ اور صحابہ کبار پر لعن اور پڑاں کیا گیا، بغداد میں مہجان پیدا ہو
 گیا۔ خلیفہ ثوبان بن تھا، وزیر محمد بن مہدی کے تدبیر نے ہنگامہ فرو کیا، مضر الدولہ نے اننا
 مان لیا، کہ "تبراً" کی فہرست سے امیر معاویہ کا نام خارج کیا جائے، ۳۵۲ھ دسویں ماہ محرم
 کو یوم کر بلا منایا گیا، عورتیں ماتم کرتی ہوئی بغداد کے بازاروں میں جلوس کی صورت میں نکلیں
 دسویں ذوالحجہ کو عید غدیر منائی گئی،

مضر الدولہ کو یہ شبہ ہوا کہ خلیفہ مستکفی اسے بر طرف کرنا چاہتا ہے، اس لئے
 خلیفہ ہی کو پیش دستی کر کے مضر دل کر دیا اور انھیں نکلوا دیں، اور اس کی جگہ مطیع باللہ
 کو تختِ خلافت پر بٹھا دیا، آل بویہ نے مسلمانوں میں شیعہ دستی کی تفریق پیدا کی۔ یہ
 خلیج صفوی خاندان نے وسیع تر کر دی۔

۳۵۴ھ میں مضر الدولہ مر گیا، اس کا بیٹا بختار جانشین ہوا، خلافت کی طرف سے
 امیر الامرا کا خطاب عطا ہوا، لیکن تقوٰی سے عرصہ بعد مضر الدولہ نے اسے بر طرف کر کے خلافت
 کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اس کو تاج الملت کے خطاب سے نوازا گیا، ۳۶۲ھ میں یہ مہاجری
 ملک عدم ہوا، تو اس کا بیٹا مصمام الدولہ جانشین ہوا، اور شمس الملت خطاب ملا، مگر برادر
 نامہ ران شرف الدولہ نے بر طرف کیا، چار سال شرف الدولہ نے بھی سلطنت کی، ۳۶۹ھ
 میں مر گیا، تو اس کا بیٹا بہار الدولہ ضیاء الملت جانشین ہوا، اور اس پر آل بویہ کا چراغ
 گل ہو گیا،

اس میں کچھ شک نہیں کہ آل بویہ کا نصب العین یہ تھا کہ عباسیوں سے عمان


خلافت چھین کر خود مطلق العنان بادشاہ بن بیٹھیں، عضدالدولہ آل بویہ میں الوالخر
 سلطان تھا، اپنی بیٹی خلیفہ الطالع کے عقد میں دے دی۔ اور خلیفہ کی لڑکی سے خود
 شادی کی، غرض محض سیاسی تھی، کہ اس تعلق کی وجہ سے خلافت اس کی اولاد میں
 منتقل ہو جائے مگر "اے بتا آرزو کہ خاک شدہ" سلطان کا لقب یا خطاب
 خلفاء عباسیہ کی اختراع ہے۔ اس کا مفہوم زیادہ سے زیادہ نائب السلطنہ
 تھا۔ شرف الدولہ نے خلیفہ طالع پر زور دیا کہ اس کو خطاب شہنشاہ عطا کیا جائے
 مگر خلیفہ نے نہ مانا، شرف الدولہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بہاؤ الدولہ نے خلیفہ
 طالع کو برطرف کر کے اس کے بھائی الوالعباس احمد القادر باللہ کو خلافت کا خلعت پہنایا
 اگرچہ آل بویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ایک صدی تک ان کا طوطی بولتا رہا، خلیفہ کے نام کے
 ساتھ کہ پر اس کا نام کتدہ ہوتا، خطبہ میں ان کا نام لیا جاتا، ان ایام خلافت میں
 مشاہیر اسلام پیدا ہوئے، کہ جتنی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔

ان میں سے ابو نصر ناراہی فلسفی، متنبی شاعر، ابو الفرح صاحب کتاب الاغانی
 ابو القاسم، اتنوخی، الدینوری خلیفہ مطیع باللہ کے عہد میں گذرے ہیں۔ طالع کے عہد
 میں ابوالوفانے علم مثلث میں قابل قدر دریافت کی، خلفاء عباسیہ کے دور دورہ میں ہر ایک
 خلیفہ کے عہد میں علوم و حکمت کی خاص خاص شاخ کی طرف طبائع زیادہ مائل رہیں،
 اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک عہد میں طبائع کا رجحان کس طرف تھا، ہارون اور مامون کے
 عہد میں ہر ایک زبان کی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، خلیفہ معتز علی اللہ کے عہد
 میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی ابن ماجہ محدثین تھے، علامہ جلال الدین سیوطی
 نے محدثین کی طویل فہرست اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں دی ہے، حضرت امیر مہم اوسم مشہور
 صوفی بزرگ بھی اسی عہد میں تھے، مقصد کو علم ہیئت سے خاص لگاؤ تھا، اسحق بن حنین
 فلکی علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، اس نے تقویم مقصدی مرتب کی۔ ابوریحان بیرونی جو خود
 بھی علم ہیئت کا ماہر ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ مقصد باللہ کی توجہ
 علم کی طرف نہ تھی، حسب بیان مسعودی وہ حالات مملکت سے بے خبر تھا، لیکن اس کے عہد

بن بگیرا کا بادشاہ ۳۱۰ھ میں حلقہ بگوش اسلام ہوا، علامہ وفضل کی ایک جماعت
 ہی اسی کی استدعا پر بگیرا میں خلیفہ نے بغرض اشاعت بھیج دی۔ علامہ ابو جعفر
 بن جریر طبری نے اپنی تاریخ اسی عہد میں مکمل کی۔ مفسرین قرآن بھی اسی عہد میں چوٹی
 کے تھے۔ امام ابوہریرہ نے تفسیر سفی، شیخ ابو الحسن نے "احکام قرآن" شیخ محمد نے
 "عجاز القرآن" امام ابو بکر نے تفسیر ابن المنذر، شیخ تاسم مفسر لی تفسیر کعبی لکھی۔
 عبداللہ بن مقرر غالب باللہ خود علم خطابت و شعر و ادب میں کامل تھا اور صاحب تصانیف
 و تالیف بھی ہے،

مناسب تو یہ تھا کہ پہلے دولتِ غزنویہ کے حالات لکھے جائے جس
دولت سلجوقیہ کے زوال پر سلجوقیہ کو عروج ہوا۔ لیکن غزنویہ کا تعلق بہارِ ہندوستان
 سے گہرا ہے۔ اس لئے سلسلہ قائم رکھنے کے لئے ہم سلاطین سلجوقیہ کے حالات لکھتے ہیں
 جس کا تعلق عراق و شام و ایران سے ہے،

شجرہ نسب



سلجوق اصل میں ترک ہیں، ترک اور مغل ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں ترکستان کے بادشاہ کے دربار میں ایک شخص سلجوق نامی تھا، کسی وجہ سے خفا ہو کر فوجی سمرقند میں چلا آیا، یہاں مسلمانوں کے اخلاق اور اعلیٰ طرز معاشرت کا اتنا اثر ہوا کہ بہ طیبہ خاطر اسلام قبول کیا، یہ علاقہ ابھی تک ترک بادشاہ کا باج گزار تھا، ایک دفعہ شاہ ترکستان کے ادنیٰ خراج لینے کے لئے آئے، تو سلجوق نے مزاحمت کی اور مسلمانوں کو کہا کہ حیضہ کہ تم کافروں کو خراج دیتے ہو، مسلمانوں نے شاہ کے آدمیوں کو شہر بند کر دیا، سلجوق کا اختیار ہر ایک شخص کرنے لگا، ابراہیم سامانی جس کے حالات ہم علیحدہ لکھیں گے۔ سلجوق کی کا ایک خان کے خلاف خواہشگار ہوا۔

نتیجہ کے بعد سلجوق کا نام اور روشن ہو گیا، اس کا ایک بیٹا میکیل ایک لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے دو پوتے (دیکھو نشجرہ نسب) الی الغرض بہادر نکلے، اس وقت ایک خان نگین حاکم ماوراء النہر تھا جس کو سلجوق نے پیاس خاطر سامانی بادشاہ ابراہیم شکست دہنی، ترکستان کے سلطانین ہمایہ تھے، سب سلجوق کی روز افزوں طاقت کے سامنے دب گئے، اس کے دو پوتے طغرل بیگ اور چفر بیگ کامل اتحاد اور خلاص اور محبت رہے، اس وقت عربوں کے ہاتھ سے دیوبندی نشان و شوکت نکل چکی تھی، اور اگر خاندان سلجوق نہ اٹھتا، تو وہ خواب جو اب اسلام خراسانی اور برکاتکہ وغیرہ دیکھتا ہے تھے شرمندہ تعبیر نہ ہوتا اور پھر سے ایرانی حکومت قائم ہو جاتی، اور یقیناً زلزلہ کشی یا مڑو کی یا ہانوی مذہب اسلام جگہ لے لیتا، اس وقت آل سلجوق نے نہ صرف آل بویہ کا خاتمہ عراق و ایران میں کیا۔ بلکہ ادنیٰ شاہان قسطنطنیہ کی پیش قدمی کو بھی روک دیا، اور شورش جو بوقاطمہ کے ایک اہل بسا سیری نے بغداد میں چار کھئی تھی، طغرل بیگ نے دبا دی، آل بویہ متعصب شدید تھے اور آل سلجوق متعصب سنی۔

تاریخ واقعات میں اس حقیقت کا اعادہ کرتی رہتی ہے کہ جب کوئی قوم اٹھتی ہے تو وہ صرف اہل سیف ہوتی ہے، مخالفت رہنما اور امویہ اس کی واضح مثال ہے، مخالفت عباسیہ کا زوال اماموں رشید کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جب اہل قلم حضرات

نے اہل سیف کی جگہ لے لی، اس دماغی تعیش کا مظاہرہ محفل عیش و نشاط میں ہوتا۔
ایک شاعر نے عباسی خلیفہ کو متنبہ کیا

مبلغ امیر المؤمنین رسالۃ من ناصح لا یبید خداعاً

ایک ناصح کی طرف سے جو فریب کے ارادہ سے نہیں بلکہ بہ نظر خیر خواہی
جو کچھ عرض کرتا ہے، امیر المؤمنین کی خدمت میں اس کا پیغام گوش گزار کر دو۔

بضع انفساۃ بالف لاف کامل و تبسیت و ات بجنو جیاہا

ایک حسین عورت کا لاف و س لاکھ دھم کا سرمایہ حاصل کر لیتی ہے اور شکر کے
سرواغل کا یہ حال ہے کہ دن بھر ناز کے بعد بھوکے سو رہتی ہے،

لوکابی حفص اقول مقالتی و ابث ما اثبتکھ لارنا عا

اگر میں یہی بات ابی حفص (عمر) کو کہتا جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ

کانپ اٹھتا،

اہل سلجوق میں طغرل بیگ اور الپ ارسلان اور ملک شاہ ہند پاپہ
الپ ارسلان سلطان

سلطین گزے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے

بعد فتوحات اہل اس کے ساتھ اشاعت اسلام کی سرعت رفتار و ترقی پور گئی، بنو عباس
اور بنو فاطمہ کا دور حکومت یا تو خانہ جنگی یا والیوں کی بغاوت فرو کرنے میں ختم ہو گیا، قیصر
قسططنیہ ان حالات سے بے خبر نہ تھا، بار بار شام پر فوج کشی کرتا رہا، اب جب کہ خلفاء

بے حقیقت ہو کر رہ گئے، تو قیصر نے پھر شام پر حملہ کر دیا، اس کے مشہور سردار ان فوج "سنی

فدس" اور "زمبس" اور ہاسل" نے انطاکیہ تک یونانی شہنشاہیت کو وسعت دی جو "ارینیہ"
کے مشرق تک پہنچی ہوئی تھی، ایشیا کا یہ حصہ ایسا نہ خیر تھا کہ اس کی واپسی کے لئے طغرل بیگ

نے انتہائی کوشش کی۔ مگر کامیابی نہ ہوئی، اس کا براہِ مذاہ الپ ارسلان ان تمام

ٹرائیوں میں ہمراہ تھا۔ اس کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ قیصر کی پیش قدمی رُک گئی، لہذا عہد میں

اس بہادر سلجوقی کا انتقال ہو گیا، تو خلیفہ بغداد قائم با مرشد نے مسد سلطان الپ ارسلان

کو عطا فرمائی، طغرل کی وفات پر باغیوں نے پھر سر اٹھایا، پانچ سال کے عرصہ میں الپ ارسلان

نے پھر سے امن و سکون پیدا کر دیا، یہ وقت ایسا نازک تھا کہ اگر رومی دہمور سلطنت کا نظام خانہ جنگی سے ورہم بہم نہ ہو گیا ہوتا، تو قیصر سہولت تمام شام پر قابض ہوجاتا۔
 سنہ ۱۰۰۰ء میں قیصر "رومانس دیو جانس" نے حملہ کر دیا، قیصر اصل میں ایک سپاہی تھا، بہادری کے جوہر میدان جنگ میں دکھا چکا تھا، وہ نہ صرف لوگوں میں بہرہ و عزت رکھتا، بلکہ رفتہ رفتہ ملکہ "ایڈوسیا" کے دل پر بھی قابو پالیا، اور شادی کے بعد شاہ ہو گیا،

الپ ارسلان اور قیصر دیو جانس برابر کی چوٹ تھے، لیکن بعض باتوں میں قیصر کو فوقیت حاصل تھی، گین لکھتا ہے کہ قیصر کے ہمراہ بیسٹھار سا مان حرب اور قندو ان فوج کے علاوہ "فرجیا" اور "کپیڈوسیا" کے رضا کار بھی تھے۔ لیکن اس کی طاقت یورپ کے معاونین اور مقدونیہ کی فوج اور "بلیگیرا" کا لشکر اور "مالدیویہ" کی جفاکش سپاہ تھی، نوآسی اور نازین امداد اس کے علاوہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام یورپ ایک طوفان کی صورت میں برپا ہو گیا ہے، رومانس اس عیباب عظیم کے ساتھ اٹھ اچلا آیا تھا، اور جو کچھ ہتھ میں پڑا حسن و خاشاک کی طرح بہ گیا،

خلیفہ بغداد تو ایک آہ سرد کھینچ کر رہ گیا، لیکن الپ ارسلان شیر کی طرح غرانا ہوا مقابلہ میں آیا، گین لکھتا ہے کہ شہنشاہ رومانس کو حب الوطنی یا غرور نے ابھارا جو اس قدر جاہ و خیمت اور عسکری قوت کے بل بوتے پر عموماً انسانی دماغ میں پیدا ہوجاتا ہے جس کا مالک اس وقت قیصر تھا، اسلامی ممالک پر جو کسی وقت رومی قبضہ میں تھے، لشکر کشی کی، اس کی الو العزجی نے سپاہ کا دل بڑھایا، رومیوں کی امیدیں بندھ گئیں اور دشمن کے قلب پر خوف طاری ہو گیا،

الپ ارسلان کے ہمراہ صرف چالیس ہزار سوار و پیادہ جمعیت تھی، اور حریف کے ہرکاب ایک لاکھ سوار اور یورپ کے رضا کاروں کی تعداد اس کے علاوہ تھی، جس کا تانتا بندھا ہوا تھا، یہ تعداد گین نے لکھی ہے، اس جنگ کی کیفیت ہم اسی مورخ کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں،

"ارض روم" اور "وان" کے درمیان دونوں فوجوں کے ہراول کی ٹڈبھڑ

ہو گئی۔ رومی ہرادل سبر کرو گی مشہور جبرئیل "باسلیس" جوش و خروش سے حملہ آور ہوا۔ مگر جوابی حملہ سے پاؤں اکھڑ گئے، اور باسلیس زندہ گرفتار ہوا۔ الپ ارسلان نے "بقول گبن" جس جو انرودی کا ثبوت دیا وہ ایک قابل قدر مثال فاتحین کے لئے اور بالخصوص مسیحیوں کے لئے ہے، جو فتح کے نشہ میں نہ تو بچوں اور نہ عورتوں اور نہ اپنا بیچ بڑھوں پر رحم کرنا جانتے ہیں، الپ ارسلان نے نہ صرف شکست خوردہ سپاہ کا تعاقب ہی نہ کیا بلکہ اسیران جنگ کو نادرہ دے کر چھوڑ دیا۔

اس فتح و شکست کا اثر فریقین پر کچھ نہ ہوا، قیصر بذاتِ خود میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الپ ارسلان نے انتظار میں اسی جگہ خیمے ایتادہ کر دیئے، لیکن الپ ارسلان حریف کی جنگی قوت اپنی کمزوری کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، گبن کا مقصد ہے کہ الپ ارسلان نے شہنشاہ کو صلح کا پیغام بھیجا جس کی شرائط دیسوں کے حق میں مفید تھیں، اب قیصر کو یقین ہو گیا کہ حریف جنگ سے پہلو بچا رہا ہے، اور جان بچانا چاہتا ہے۔ جواب میں نہایت ناشائستہ الفاظ استعمال کئے، اور آخر میں یہ لکھا کہ

”اگر تم ایسے ہی ہمدرد و بنی نوع انسان ہو اور بندگانِ خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتے، تو چپکے سے ہٹ جاؤ، اپنا دار الحکومت اور شاہی قصر رافع لے، ہمارے حوالے کر دو، تاکہ تمہارے قول کا ثبوت فعل سے ہو۔“

الپ ارسلان کو جب یہ جواب ملا تو اب دیدہ ہو گیا، غرض خاک پر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اپنی برائیت کا اظہار کیا، اور اسلام کی فتح و نصرت کے لئے دعا مانگی پھر افسران کو جمع کیا، اور کہا کہ

”میری آخری وصیت سن لو، میں تمہاری زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں۔“

جو بھی جانا چاہے میں بخوشی خاطر اجازت دیتا ہوں۔“

رب نے یک زبان ہو کر کہا:۔

”نہیں ہرگز نہیں، ہم اس جگہ ثوابِ شہادت کے لئے آئے ہیں۔ بزدل ہے ا“

کافر ہے جو میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے۔“

الپ ارسلان نے اسی وقت اپنا ترکش پھینک دیا، اور پیام سے تلوار نکال کر پیام اور تاج بھی پھینک دیا، اور کہا کہ
 ”میدان جنگ ہی میرا دفن ہوگا۔“

سُرپرکفن باندھ لیا، افسران فوج نے بھی تقلید کی، گبن لکھتا ہے کہ اگرچہ سلطان نے تیر ترکش پھینک دیئے۔ لیکن اس کی امید ترکی قادیاندا نزل ہی سے وابستہ تھیں دوسرے دن جب فوج کو بصورت ہلال حریف کے مقابل کیا یہ تیر انداز اہل صفوں میں تھے قیصر نے اپنا لشکر مربع صورت میں آراستہ کیا، قیصر قلب لشکر میں اور الپ ارسلان سپیہ سواروں کے ساتھ عقب لشکر میں رہا۔

موسم گرما تھا، آفتاب طلوع ہو رہا تھا کہ بازار کا بازار گرم ہو گیا، قیصر اس جوش و خروش سے بڑھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک فیصد کن دست بدست لڑائی پر تیار ہوا ہے لیکن ترکی تیر انداز کی طرح بہن رہے تھے، جتنی قیصری سپاہ بڑھتی اتنی ہی ترکی فوج پیچھے ہٹتی اور وہ میوں کو تیروں کی زد سے باہر نہ ہونے دیا، سورج سُرپر آیا اور ڈھلنے لگا، قیصر نے مناسب خیال کیا کہ کچھ دیر آرام کر لے، اور پیٹ کی آگ بھی بجھائے۔

گبن لکھتا ہے کہ ہوشیار اور مستعد دشمن کے مقابلہ میں آرام طلبی کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے، جب رومی علم قلب لشکر سے عقب کی طرف حرکت میں آیا، رومی لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور بدحواسی کے عالم میں ان کی صفیں جو مربع صورت میں تھیں، ٹوٹ گئیں۔ الپ ارسلان یہ موقع کب ہاتھ سے جانے دیتا، ہلالی صفوں نے اس سرعت سے تیر بربنائے کہ پریشان حال رومیوں کے سروں پر بادل سا چھا گیا، اس کے ساتھ ہی الپ ارسلان نے اپنی محافظ فوج کے ساتھ زور سے حملہ کیا، رومی جمعیت کا شیرازہ بکھر گیا، قیصر بھی کہیں میں نہ پہنچا تھا، کہ سلامتی ہلال کے دونوں بازو رومی سپاہ کے عقب میں آئے، اور دشمن کو ہر طرف سے نرغہ میں لے لیا۔

”رومانس کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو فوراً لوٹا، میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔“

میں پر بھی وہ مایوس نہ ہوا، شمشیر مکف شام تک لڑتا رہا، اس کے بہادر سپاہیوں کی لاشیں میدان کارزار میں پڑی تھیں، اور اس کے گرد پیش جو انانِ روم زخمی ہو کر گرے تھے، اب نہ جانے رفتن نہ پائے ماڈن "کا معاملہ تھا۔ آفتاب غروب ہو رہا تھا، قیصر لوہے میں غرق تھا، گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا، اس کے ساتھ ہی قیصر بھی زمین پر گر پڑا، اٹھا مگر ترک سپاہیوں کی حراست میں تھا، اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ

ڈانی کا خاتمہ ہو گیا، اس عظیم الشان فتح کا سہرا الپ ارسلان کے سر پر باندھا گیا، اب سیران جنگ کے ساتھ شہنشاہ بھی سلطان کے حضور میں پیش ہوا، گین لکھتا ہے کہ اس مسلمان ہیرو نے جس اخلاقِ حسنہ کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال مسیحوں کی تاریخ میں نہیں ملتی، تخت سے اتر آیا، اور قیصر سے مصافحہ کیا، اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہا کہ :-

"دشمنی کی حد ڈانی کے خاتمہ تک ہوتی ہے، تم میرے عزیز مہمان ہو، سات دن تک میدانِ جنگ میں جشنِ شاہانہ منایا گیا، الپ ارسلان شاہی قیدی کے پاس دو دفعہ روزانہ آتا، مل کر کھانا کھاتے، اور کبھی ایک حرف بھی گزشتہ فتح و شکست کا زبان پر نہ لایا، کہ شاہی مہمان اپنی ذلت محسوس نہ کرے، آنکھوں میں رذر باتوں باتوں میں جنگ کا ذکر چھپو دیا، اور پوچھا کہ اس شکست کے بعد اب تمہیں کس سلوک کی امید ہے، شہنشاہ نے بے ساختہ دلیرانہ جواب دیا کہ

"اگر تم ظالم ہو، تو مجھے قتل کر دو گے اور مغرور ہو تو ملاتِ عمر قید میں رکھو گے

اور اگر وہ اندیشی اور غیاضی سے کام لیا تو ذیہ لے کر آزاد کرو گے!"

سلطان نے کہا کہ "اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا سلوک کرتے؟"

جواب دیا کہ "میرے تازیانہ تجویز کرتا!"

گین لکھتا ہے کہ یہ ناشائستہ جواب اگر بعد اندیشی کے مقتضی نہ تھا تو حسان فرہوشی

تو ضرور ہے، سلطان نے کہا کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، قرآنِ ظلم و غرور کی

سخت مذمت فرماتا ہے، اور دشمن سے جب وہ شکست خوردہ ہو احسان کی تلقین کرتا ہے، میں تمہارا مجوزہ سلیک تم سے نہیں کرتا، تمہارے ہاں صلح و صفائی جنگِ جدل سے بہتر ہے صلح ہو گئی، غنرالط صلح نرم تحقیق، دس لاکھ فدیہ اور ساٹھ ہزار سالانہ خسراج اور اسیران جنگ کا مبادلہ،

قیصر کچھ ایسا گردیدہ ہوا کہ اپنی بیٹی الپ ارسلان کے بیٹے کے عقد نکاح میں دے دی
 ”خلق کن خلق کہ بیگانہ شود و حلقہ بگوشش“

مسیحی دنیا کو قیصر کی یہ حرکت ناگوار گزری، پادریوں نے بھڑکایا، جب قیصر میدانِ جنگ سے واپس قسطنطنیہ کی طرف جا رہا تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ رعایا نے اسے معزول کر دیا ہے، سلطان کو بھی اس کی اطلاع ہوئی اور مدد کے لئے تیار ہو گیا، لیکن سپاہ نے رومانس کو پکڑ کر، نکھیں نکالی دیں اور پھر قتل کر دیا،

اب ایشیا کو چک سلطان کے قبضہ میں آچکا تھا، آئندہ رومی حملوں کا سدِ باب اس طرح کیا کہ سلیمان بن قلمش بن اسرائیل بن سلجوق کو یہاں کا والی مقرر کیا،
 (دیکھو شجرہ نسب سلجوق صفحہ ۱۲۱ پر)

اس سلجوقی شاخ کا دارالسلطنت "قونیہ" (Coneum) تھا، علاؤ الدین
 یقباد اول مولانا جلال الدین رومی صاحب شنیوی معنوی کے حلقہ ارادت میں داخل تھا،
 نیاٹ الدین کینسر و ثانی دوبارہ ۱۲۳۴ء میں یقباد اول کے بعد تخت پر بیٹھا
 تنہا نے حروب الفیلیبہ میں نمایاں حصہ لیا۔

الپ ارسلان تسخیر ترکستان میں مشغول تھا، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، یوسف ہامی
 آئی جب اسپر نوکرا آیا تو سلطان نے اسے سخت ملامت کی، اس نے کہا کہ اگر میں پکرا ہوا نہ
 ہوتا تو تجھے تیری بد کلامی کا مزہ چکھا دیتا، سلطان نے حکم دیا کہ بند کھول دو، یوسف کو
 ہتھیار بھی دیئے گئے، وہ سلطان پر حملہ کے لئے بڑھا، درباریوں کی تلواروں درمیان میں
 حائل ہو گئیں، سلطان نے پھر حکم دیا کہ اسے بڑے بندو، خود تیر کمان میں رکھ کر چاہتا تھا کہ زو
 کرے۔ تخت سے پائل پھسلا۔ نیچے آ رہا، یوسف نے خنجر سینہ میں گھونپ دیا، وہ تو خود وہیں
 مارا گیا، سلطان الپ ارسلان بھی جائزہ ہو سکا، اپنے بیٹے ملک شاہ کو چند کلمات جو موعظت
 تھے وصیت کئے اور واصل حق ہوا،

ملک شاہ کا وزیر خواجہ نظام الملک طوسی تھا، شاہ اور وزیر کے کارناموں کے لئے
 علیحدہ دفتر چاہیے، اسی کے عہد کے اخیر میں حسن بن صباح اور اس کے فدائیوں نے چہرہ ہستی
 شروع کی، ۹۱۰ء میں نظام الملک ایک فدائی کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اس کے تین
 بیٹے سوید الملک، فخر الملک، اعز الملک ملک شاہ کے جانشین سلطانوں کے وزیر رہے، ملک شاہ
 کی وفات پر سلجوقی جہاں جلال بھی ختم ہو گیا، سلجوقی و عویداران سلطنت میں خانہ جنگی شروع
 ہو گئی، حسن کا فائدہ حسن بن صباح اور اس کے فدائیوں نے خوب اٹھایا اور مارندہ ان اور
 خراسان کے بعض قلعوں پر قابض ہو گئے۔

سلجوقی شہنشاہیت کے تین طبقات ہیں۔ ایک سلجوقیہ خراسانیہ اس کا موٹا علی
 وارو بن سلجوق تھا، دوسری رومیہ جس کا آغاز سلیمان بن قلمتش بن اسرائیل بن سلجوق تھا
 دیکھو شجرہ نسب، تیسرا طبقہ کرمانیہ ولایت کرمان پر حکمران رہا۔ اس کا اول تاجدار قاورو بن
 جعفر بن بیکامیل بن سلجوق ہے، اس سلطنت کا ذکر ہم نے اس لئے علیحدہ نہیں کیا کہ اس کا

۱۱۰) عز الدین سید سلطان مملوک

۴۰۰۰ھ
۱۲۰۳ھ

۱۳

۱۱) تطلب الدین ملک شاہ ثانی

۴۱۰۰ھ
۱۲۰۴ھ

۵۸۲ھ
۱۱۸۸ھ

۱۳) علاء الدین کیتباز اول

۵۱۱۶ھ
۱۲۱۶ھ

۱۳) عز الدین کائوس اول

۶۰۰ھ
۱۳۱۰ھ

۴۳۳ھ
۱۲۳۶ھ

۱۴) غیاث الدین کے خسر ثانی

۴۴۳ھ
۱۲۴۵ھ

۱۵) عز الدین کے کائوس ثانی

۴۵۵ھ
۱۲۵۷ھ

۱۶) رکن الدین بلخ اسر سلطان رابع

۴۶۶ھ
۱۲۶۷ھ

۱۷) غیاث الدین کے خسر ثالث

۴۸۲ھ
۱۲۸۳ھ

۱۸) غیاث الدین مسعود ثانی

۴۹۶ھ
۱۲۹۶ھ

۱۹) علاء الدین کے تیا ثانی

سے سلجوقیہ شاہجوز نسب سرخسین انڈیا سے ملے ہیں۔

قیام سلطنت خراسانیہ ہی سے تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ خراسانیہ ہی زیر دست شہنشاہیت تھی اس کے چار تاجدار بڑے نامی و گرامی گزشتے ہیں، طفعل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ کے حالات جہاں تک ان کا تعلق خلافت اسلامیہ سے ہے ہم بیان کر چکے ہیں، بغرض تکمیل چوتھے تاجدار سلطان سنجر بن ملک شاہ کے حالات بھی اسی مقام پر لکھتے ہیں،


۶۷۰ھ میں ملک شاہ کا قیام سنجر میں تھا، اسی مقام پر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نام سلطان سنجر رکھا، ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے برکیارق اور محمد اس کے جانشین ہوئے، ان کے تحت بیس برس تک حاکم خراسان رہا، اس کی باری آئی تو محمود بن محمد آکر بیٹھا لڑائی ہوئی تو محمود جھٹک گیا، سنجر نے تصور معاف کر دیا اور عراق کی حکومت بھی دی سلطان محمود شاہ غزنوی کی اولاد میں بہرام شاہ سلطان غزنی اسی سنجر کا بھانجا تھا،

غزنی نے اس پر پڑھائی کی تو سنجر کی مدد سے سام کو شکست ہوئی۔ اور وہ مارا گیا۔ لیکن اس کی دایسی پر سام کے بھائی علاء الدین جہاں سوز نے بغرض انتقام پھر شکر کشتی کی، اور بہرام کو بھاگتے ہی بنی، علاء الدین نے سلاطین غزنویہ کی تمام قبریں اکھڑا کر ہڈیاں جلادیں صرف سلطان محمود کا کچھ ایسا ہی احترام تھا کہ اس کے روضہ کو نہ چھیڑا، اس لئے اس کا لقب جہاں سوز ہوا، بہرام اپنے ماموں سنجر کے پاس آیا، سنجر نے علاء الدین کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ لیکن بعد ازاں غور کا تخت اس کو دے کر ہدایت کی کہ آئندہ صلح و دوستی سے رہے۔ سنجر کے آخری ایام غم و الم میں گزے، ایک ترکمانی قبیلہ "غز" نے بغاوت کی، لڑائی میں سنجر گرفتار ہو گیا، ترکمانوں نے مرد اور دار السلطنت نیشاپور میں قتل و غارت کا بازار گرم رکھا اور چار سال کی قید و بند کے بعد جب سنجر قید سے بھاگ کر نیشاپور آیا تو جہاں ہر طرف کھنڈ و بول کے ڈھیر سی نظر آئے، دل شکستہ ہو کر مر گیا، اس کے برادر زادہ طفعل نے کچھ ہاتھ پاؤں بائے، مگر امر اور بارہی مخالفت پر اتر آئے، اور ایک امیر نے اسے قتل کر کے سلطنت خود سنبھال لی، اور سلطنت سلجوقیہ خراسانیہ کا خاتمہ ۶۵۲ھ میں ہو گیا،

تحت خلافت پر ابو العباس المستظرب اللہ تھا، واعیان موفاطیہ نے بہشت پھیلا رکھی تھی، اس کا فائدہ اہل صلیب نے اٹھایا، رومیوں کو تاریخ تجربہ کے بعد اتنا جوصلہ نہ ہوا

شجرہ نسب آتابک مصل و شام

استقرت اسم الدولہ
عماد الدین زنگی



سہ آتابک - سلاطین سلجوق کا دستور تھا کہ اپنے مقبوضہ ولایات پہلے خاندان کے شہزادوں کا حق کوئی جتو لگتے تھے اور پھر ایک ملک کا ایک آتامین بھی مقرر کرتے۔ یہ آتامین ان کا کوئی تجربہ کار فوجی ہسر ہوتا۔ اسکو آتابک کہتے تھے۔ ترکی زبان میں آتامین "بزرگ یا باپ" ہیں، اس طرح ایک پدری رشتہ ایک اور شہزادہ میں ہو جاتا، "بک یا بیگ" کے معنی سردار، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہزادوں کی بیوہ والدہ سے آتابک نکاح کرتے اور اپنی دختر

کہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے، مسیحی پوپ اور پادریوں نے صلیب کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا۔ عباسی اور فاطمی خلافت میں خانہ جنگی تھی۔ عباسی دوال پر تھے۔ ۷۵۰ء میں ارض فلسطین بنو فاطمہ کے قبضہ میں آگیا، بنو عباس کے تحت بھی مسیحی امن سے لبر کر رہے تھے۔ کمال مذہبی آزادی تھی ان کی خانقاہوں اور چرچ کا پورا احترام کیا جاتا، زائرین بے تکلف یورپ سے آتے جاتے، یرشلیم اگر مسیحی مقدس سمجھتے تھے، تو مسلمان بھی شہر قدس عقدا اور عملاً یقین کرتے ہیں، اور کہ معظمہ اور اس کو "ہرین" سے موسوم کرتے ہیں، یعنی ان مقامات میں جنگ و جدل ممنوع ہے، خلفاء بنو فاطمہ نے تو اور بھی مراعات مسیحی تاجروں کو دے رکھی تھیں، لیکن مسیحی دنیا کی آنکھ میں یہ کانٹا کہہ سکتا رہا، کہ مسیحی مقدس مقام مسلمان کفار (Infidels) کے قبضہ میں ہو۔

پشتر اس کے کہ ہم حروب صلیبیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، ان حالات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جس کا علم اہل یورپ کو تھا، اور جس نے دنیا کے اسلام بالخصوص ارض شام و فلسطین کو خانہ جنگی کا اگھاڑہ بنا رکھا تھا، اس وقت پانچ طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف بند اڑا رہی تھیں، ایک خلافت بنو فاطمہ، دوسری عربی قبائل کے سردار تیسری طوائف الملوک کی ترکی امراء کی، چوتھے سلجوقی سلطان، پانچویں غیر سلجوقی ترکی قبائل نور الدین زنگی۔ ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں فتح کا انصر اعلیٰ "آق مستقر" نامی تھا اس کی خدمات شائستہ اور آختر سلطان برکیاریوق (دیکھو شجرہ نسب سلجوقیہ) کے زمانہ میں قتل ہونا ایسا نہ تھا کہ بلا معاذ غنہ جاتا، سلطان برکیاریوق نے اس کے بیٹے عماد الدین کو اپنی فرزندگی میں لیا۔ تعلیم و تربیت شایانہ ہوئی اس نے حکومت سلجوقیہ میں وہ تمام ممالک پھر سے شامل کر لئے، جو خانہ جنگی میں ہاتھ سے نکل گئے تھے، ساٹھ سال کی عمر میں رُتے ہوئے کام آیا، عماد الدین نے نجم الدین ایوب کو جس کا سلسلہ نسب "راوی"۔

شہزادوں کو نکاح میں دیتے، اس طرح آٹا تک بھی سیاہ و سفید کے مالک ہونے، اگر وہ ہمیشہ ایسے آقا زادوں کو آقا ہی سمجھتے رہے ہر ایک آٹا تک سپہ سالار بھی ہوتا۔

گروں سے متاثر ہے۔ "بلبلک کا" عامل مقرر کیا، اس خاندان کے حالات آگے چل کر بیان کئے جائیں گے۔

عماد الدین کے چار بیٹے تھے، نور الدین اور سیف الدین اور قطب الدین اور میر میرا ناصر الدین، نور الدین کے حصہ میں حلب اور سیف الدین کے حصہ میں موصل آیا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد اس کا بھائی قطب الدین اس کا جانشین ہوا، چوتھا ناصر الدین تھا۔ نور الدین اور سیف الدین کے درمیان معاہدہ ہوا۔ کہ ملک شام پر نور الدین اور عراق پر سیف الدین کی حکومت رہے، ملک شام کا اکثر حصہ بنو فاطمہ کے قبضہ میں تھا، اس وقت بغداد میں خلیفہ عباسی المتقی لامر اللہ تھا، اسی کے حکم سے نور الدین نے فاطمی حکومت شام میں ختم کر دی، اور پھر مصر کی طرف رخ کیا۔ اور اس کا اکثر حصہ لے لیا، فاطمیوں کی حکومت قاہرہ میں محدود ہو کر رہ گئی، خلیفہ عباسی نے خطاب "ملک العادل" عطا فرمایا، یہ بھی آخر خانہ جنگی ہی تھی اس کا نائدہ اہل صلیب نے اٹھایا، اور دمشق پر حملہ آور ہوئے۔ اب ہم مسلسل حروب الصلیبیہ کا تذکرہ لکھتے ہیں، جس میں عماد الدین اس کی دالہ اور ابوبی خاندان نے وہ نام پیدا کیا کہ خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کی مجاہدانہ سعی کی یاد تازہ کر دی،

تنازعہ "یرشلیم" کی وجہ سے پیدا ہوا، اور وہ بھی اس لئے کہ اس میں مدفن عیسیٰ ابن مریم مسیح ہے جہاں آپ صرت تین دن مدفون رہے، مسیحی مسلمانوں کو بے دین کہتے ہیں اس لئے کہ ان کو ان کے مقدس مقام پر بے دینوں کا قبضہ گوارا نہ تھا، سترجے ڈبلیو ڈوسن (W. Dawson) اپنی کتاب شام و مصر (Syria and Egypt) میں اپنی تحقیق اور دیگر علماء ڈاکٹر "فشر ہارڈ" اور "دان ڈی ولڈی" اور "ادو گوتھنبرگ" اور "روبن سن" کی رائے کی بنا پر لکھتے ہیں کہ مقبرہ مسیح جہاں مسیح کے نام پر تجارت کرنے والے پارسی تبتائے ہیں واقع نہیں ہے اور نہ یہ دینی حکمران لوگوں کو اصل مقام صلیب کا پتہ لگنے دیں گے، اگرچہ مسیحی مذہب کی رو سے مذہبی جنگ ممنوع ہے، لیکن عوام الناس کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا اس سے زیادہ مؤثر حربہ بھی نہ تھا، مصر قسطنطنیہ اور مسلمانوں میں مسلسل لڑائیاں

ہیں مگر ان پر مذہبی رنگ نہ تھا، اور کسی تاجدار یورپ کو کبھی اس قسم کا مذہبی جنون نہیں ہوا جو بالآخر ایک ذہنی راجہ پیر نامی کے سر پر سوار ہوا، ہم مورخین یورپ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ یہ شخص نہایت کرہ منظر، استقامت اور بدتماش تھا، ابتداء میں ترک دنیا کا شوق اس لئے چرایا کہ اس سے دنیا زیادہ ملتی ہے بے قیمت نے جو د اور بچوں کو سختی میں چھوڑ دیا، اس نامعقول زندگی سے تنگ آ کر جو خلود خانوں میں بسر کرنی پڑی پھر ایک دفعہ دنیا کی ہوا کھانے کی سوچھی، بحیثیت زائریت المقدس میں وارد ہوا، اس وقت مسیحی دنیا میں مسلمانوں کے مفروضہ مظالم کی افواہیں گردش میں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو شخص ٹیکس ادا نہ کرتا یا ادائیگی کے قابل نہ ہوتا اس سے بیرحمانہ سلوک کیا جاتا، خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیکس تو خفیف رقم تھی، جو شخص سہولیت ادا کر سکتا مگر حالت یہ تھی کہ اکثر زائرین بیک بینی و دو گوش گھر سے چل پڑتے، زاد راہ کا مذکورہ بدن پر کپڑے بھی کافی نہ ہوتے، تو ہم پرست عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جس قدر تکلیف سفر میں ہو اسی قدر ثواب ہے،

اس بے سرو سامانی کی حالت میں یورپ کے طول و عرض سے زائرین کا تانتا بندھ رہتا، نہ صرف اسلامی حکومت بلکہ آسٹریا اور قسطنطنیہ کے تاجداروں نے بھی ان نکاح زائرین کی گداگری اور بعض اوقات جرائم کا انسداد کرنا چاہا۔ مگر اسلامی حکومت زیادہ بدنام ہوئی، کیونکہ آسٹریا وغیرہ تو صرف گذرگاہ تھے، اور بیت المقدس میں ان کا قیام ہینوں رہتا، اس لئے کہ پریشم اور اس کے گرد و نواح میں متبرک مقامات بے شمار تھے غرض یہ تھی کہ کوئی جگہ زیارت سے رہ نہ جائے، بعض لوگ تو اسی جگہ موت کا انتظار کرتے، جو ہے کہ وہ کرتے جو داخلہ کے وقت ان کے بدن پر ہوتا، اگر کفن کا کام دیتا تو آسمانی بادشاہت میں داخلہ کا یقینی ذریعہ تھا،

حضرت "پیٹر" تو ابتداء ہی سے اور صاف کھلے بیٹھے تھے، اگر ان کے ساتھ کچھ اور سلوک نہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ایریشلم کے بطریق سے ملا، اور کہا کہ ستم ہے کہ وہ پہاڑی جہاں خداوندی صبح مصلوب ہوئے اور وہ غار جہاں تین دن آرام فرمایا اور وہ چور

جس پر خداوند ایک پھر نکلے رہے بے دینوں کے قبضہ میں ہو۔ اور تم دیکھ رہے ہو تمہاری غیرت دینی کو کیا ہوگی؟

بطریق رونے لگا اور کہا کہ "انفسوں قیصر قسطنطنیہ کمزور ہے اور کچھ بنائے نہیں بنتا۔"

پیٹر نے کہا کہ مطمئن رہیں میں یورپ کی تمام قوموں کو اس نیک کام پر آمادہ کر دوں گا۔ جو قیصر نہیں کر سکتا۔

بیت المقدس سے لوٹا، تو سب سے پہلے پوپ "ارین ثانی" کی قدم بوسی کا فخر حاصل کیا، گبن لکھتا ہے کہ پوپ نے اسے رسول کے مرتبہ تک پہنچا دیا، اور اس کی غیرت دینی اندہ الوالخرمی کو سراہا، اور ایک عام مجلس میں تائید کا وعدہ کیا اور تمام یورپ میں مفروضہ مظالم سے آگاہ کرنے کے لئے پیٹر کو مامور کیا، پیٹر یورپ کے تمام شہروں میں گدھے پر سوار ہو کر پھرتا رہا۔ اس طرح ایک سیرے سے دوسرے تک آگ لگا دی۔ گرجیں، بازاروں، کلیوں میں جہاں بھی موقع ملتا، وہ بیت المقدس کے عیسائیوں اور زائرین کی بے بسی اور مصیبت کا رونا روتنا اور لوگوں کو رلاتا، اگرچہ پیٹر مادر زاد جاہل تھا، لیکن فصاحت و بلاغت کا کام آہوں اشکبار آنکھوں اور چینی چلانے سے لیتا۔ دلائل و بیہان کی جگہ خداوند مسیح اندہ اور آپ کی والدہ محترمہ، حواریوں کا تذکرہ کرتا، جن کو وہ اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا، اور ان سے بالمشافہہ کلام ہوتا اور سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ کامیابی اُسے اس فصاحت سے ہوئی اس پر نہایت بلند پایہ فصیح مقرر بھی رشک کرتا، وہ سامعین کے دلوں کو پرجوش جذبات سے بھر دیتا،

مسیحی دنیا بے صبری سے پوپ کے فتوے کا انتظار کر رہی تھی، آخر یہ بھی صادر ہوا، پینٹیا "اور کرمونٹ" میں دو دفعہ عظیم الشان اجتماع ہوا۔ یورپ کے تاجداروں کے پاس رعایا ہی سپاہ تھی، مستقل فوج کا انتظام نہ تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نواب خود مختار تھے، جو اکثر باہم دست درگیاں رہتے یہ نظام جاگیر داری (Feudal System) عام تھا۔ پوپ کے فتوے نے باہمی جنگ و جدل حرام قرار دیا، ہر ایک نواب کو یہ ڈر تھا

کی اس کی عدم موجودگی میں ہمسایہ نواب اس کی جاگیر پر قابض نہ ہو جائے، عوام کو اس مقدس جنگ پر آمادہ اور برانگیختہ کرنے کے لئے یہ سبزاغ دکھایا گیا کہ جو بھی اس میں شامل ہوگا وہ نترسہ حاصل کیے گا جو رہبان تمام عمر مجاہدہ اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک قیدی خواہ کسی سنگین جرم کا مرتکب ہو۔ فوراً رہائی حاصل کر سکتا ہے ہر ایک مقرض جو سرخ صلیب کا نشان سینہ پر لگاتا تو قرض کے بارگراں سے سبکدوش ہو جاتا،

القرض ہر ایک امر خواہ وہ مذہباً یا اخلاقاً کیسا ہی مذموم یا ممنوع ہوتا صلیب کی خاطر جائز قرار دیا گیا، مقدس پوپ کانتوے صحیفہ آسمانی یقین کیا جاتا، آسمانی بادشاہت کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھیں، گناہوں کے بخشے کا اختیار کامل اُسے حاصل تھا، پوپ کے نذرے پر ہزار ہا بد معاش، اعیاش، ادباش، قلاش اس جنگ میں شریک ہوئے، ہر طرف سے یہی صدا آئی کہ

”خدا کی تہی مرضی ہے، کہ مقدس مقامات کو نئے دینیل کے قبضہ میں نہ رہنے دیا جائے“

یورپ کے آٹھ ہزاروں اس مقدس جنگ میں شریک ہوئے ان میں سے صرف ایک ”گوڈ فرے“ (Godfrey) کے ہم کباب صرف دس ہزار سوار اور اسی ہزار پیادل فوج تھی اور پ کے مختلف مقامات سے دو لاکھ زن و سرور صرف مذہبی جوش میں پیٹر کے علم کے نیچے جمع ہو گئے، اس غیر آئینی ہجوم کا سپہ سالار خود پیٹر تھا، اور اس کا دست راست ایک شخص ”والٹر قلاش“ (Walter the Peacemaker) تھا۔ مختلف راستوں سے سب کا اجتماع قسطنطنیہ پر قرار پا چکا تھا، پیٹر اس طوفان بے تیزی کے ساتھ سب سے پہلے روانہ ہوا۔ راستہ میں فاحشہ عورتوں اور بد معاش مردوں نے کھلے بندوں بے حیائی کا حق ادا کیا، اور کثرت ان ہی لوگوں کی تھی۔ سب سے پہلے پیارے یہودیوں کی جان و مال پر ہاتھ صاف کیا،

یہ طوفان بے تیزی آبنائے باسفورس کو عبور کر گیا اور اہل اسلام کی حدود سلطنت میں

داخل ہوا، سلجوقی سلطان تلج ارسلان بن سلیمان بن قلمش (دیکھو شجرہ نسب) "قونیہ" میں
 بیڑ کا انتظار کر رہا تھا، نہایت گرم جوہتی سے استقبال کے لئے بڑھا، پیڑیہ سمجھا ہوا تھا کہ
 بمقابلہ باجد و جہد وہ بیت المقدس پر قابض ہو جائے گا، جب سلجوقی سپاہ کی شکل دیکھی
 تو چپکے سے کوسک گیا، دائر قلاش مجاہدین صلیب کے ساتھ مقابلہ میں آیا، جو کچھ حشر
 ان لوگوں کا میدان جنگ میں ہوا، اس کی دل خراش دشمنان ہڈیوں کے ڈھیروں اور
 ہائے سر نے ان شہزادگان عالی درتار کو سناٹی جو ان کے نقش قدم پر اس جگہ آئے ہیں
 وقت ان کے ہرکاب ساٹھ لاکھ کی جمعیت تھی، اگرچہ ان کا مقابلہ مختلف مقامات پر
 نہایت سختی سے کیا گیا۔ مگر یہ سیلاب یرشلم کی طرف بڑھتا ہی گیا۔

بیت المقدس بجز و قہر مسخر ہو گیا۔ شہر قدس میں داخل ہو کر جو کچھ ظلم و ستم
 ان لوگوں نے ناکردہ گناہ یہودیوں اور مسلمانوں پر ڈھایا، خود یورپ کے مورخین نے خون
 کے حرفوں میں لکھا ہے، ہر طرف چیخ و پکار پر یہ سنگ دل نمس رہے تھے، عورتوں اور
 بچوں اور بوڑھوں کی لاشیں بے گورد کفن ایک انبار تھا جو ہر طرف پڑا ہوا تھا، بچوں کو
 ماؤں کی چھاتیوں سے بزدرد کیا جاتا، زمین پر ٹپک کر کچل دیا جاتا، اگر کوئی شخص یا
 خاندان گھروں میں پناہ لیتا تو اسے آگ لگا دی جاتی، لوگ شہر پناہ کی بلند دیواروں
 سے کود کر مرنا زیادہ پسند کرتے، بہ نسبت اس کے ان سفاک بے رحم مسیحیوں کے
 ہاتھ پڑتے، اس قبائلی اور بربادی کا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی
 مورخ لکھتا ہے کہ مسجد عمر کے نزدیک عیسائی سواروں کے گھوڑے خون میں گھٹنوں
 تک ڈوبے ہوئے تھے، اس خوفناک نظارہ کو دیکھتا ہوا "گورڈرے" حضرت مسیح کے
 فریضی روضے میں ننگے سر اور ننگے پاؤں نچسل ہوا اور یرشلم کا پہلا بادشاہ منتخب
 کیا گیا۔

اس وقت دنیا، سلام خانہ جنگی میں مصروف تھی متفقہ طاقت کے ساتھ اس
 حال میں مقابلہ کی کوئی صورت نہ تھی، عباسی خلیفہ بغداد المقتدی کی حکومت بغداد
 کی چار دیواری میں محدود تھی، مگر خلافت کا احترام باقی تھا، خلیفہ بغداد کو طبعاً ہوئی،

کہ ستر ہزار نیتے مسلمان شہید ہوئے، جن میں اکثر علماء اور زہاد اور عابد بزرگ تھے زیارت گاہوں کو مسمار کیا گیا، یہودیوں کو ایک معبد میں جمع کر کے آگ لگا دی۔ لوگ شام سے بھاگ کر بغداد میں آئے اور ایسی ہی متوحش خبریں سناتے، شعرا نے دل خراش مرتے اور شہر آشوب لکھے، خلیفہ نے ایک قاصد سلطان برکیارق رکن الدولہ والدین کے پاس بھیجا، وہ اس وقت اپنے بھائی محمد بن ملک شاہ سے ٹر رہا تھا، دونوں کو کہلا بھیجا، کہ خانہ کے واسطے خانہ جنگی کو کسی اور وقت پر اٹھا رکھو، تمہارا دشمن سر پر آ رہا ہے تم دونوں کی ٹرائی کا فیصلہ کر دے گا، بھائیوں میں صلح ہو گئی، سلطان پر مسلمانوں کا مقابلا عیسائیوں سے ہوا، اگرچہ کامیابی ہوئی مگر یرشلم عیسائیوں کے قبضہ میں رہا، اس طرح حرب صلیب کا خاتمہ ہوا۔

حرب صلیب دوم | عماد الدین زنگی کے حالات ہم دولت سلجوقیہ کے تحت بیان کر چکے ہیں، سلطان محمود بن محمد بن ملک شاہ نے اسے

ولایت ایران کا شہنشاہ مقرر کیا تھا، پھر ۱۱۵۷ء میں اس کو ولایت موصل کے ساتھ مضافات بھی مل گیا، غالباً سب سے پہلے آتابک کالقب وزیر نظام الملک طوسی کو شاہ نے دیا تھا، وینوریہ تھا کہ سلجوقی شہزادے مختلف صوبوں کے حاکموں کے پاس بغیر منہ تعلیم و تربیت بھیجے جاتے، ان ہی میں سے ایک عماد الدین آتابک یا آتالیق تھا۔ ابتدائی "حروب الصلیب" کے حالات حمزہ بن اسد المعروف ابو علی التمشیمی الملقب ابن القلاسیہ نے اپنی تاریخ دمشق میں جو ہلال بن الحسن الصابی کی تاریخ کا ترجمہ ہے کمال الدین نے معاصر مورخ حمدان بن عبد الرحیم دمشقی ۱۱۰۵ء کی تاریخ "سیر الافرنج" کے حوالہ سے اپنی تاریخ حلب میں قلم بند کئے ہیں، ابن اثیر نے اپنی مورخین کا حوالہ دیا ہے، لیکن ہم ان "حروب" کے حالات یورپ کے مورخین کے تواریخ سے لئے ہیں اس لئے کہ وہ اہل صلیب کے حالات سے بہتر واقف تھے، جو کچھ شام اور مصر میں اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی، اس کا علم یورپ کے مورخین کو مسلمان معاصر مورخین نے بہتر نہیں ہو سکتا،

دوسری صلیبی لڑائی سے پیشتر جو کچھ شام بالخصوص دمشق اور حلب کی حالت تھی
 یہاں لڑائی کا زیادہ زور رہا۔ القلانسی نے اپنے روزنامچہ میں درج کیا ہے یہ اس وقت
 دمشق میں موجود تھا، ظہیر الدین اتابک والئی دمشق تھا۔ ۵۲ھ مطابق ۱۲۶۱ء کا
 واقعہ ہے کہ ایک شخص بہرام نامی جو فرقہ باطنیہ کا "داعی" تھا، خاموشی سے لوگوں کو دعوت
 اس فرقہ کی دے رہا تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بشہر اور قریہ بہ قریہ پھرتا رہا۔
 اور حکومت وقت کو اس کی خفیہ سرگرمی کا کچھ علم نہ ہوا۔ البتہ وزیر ابو علی طاہر بن
 سعد المذوقانی بے خبر نہ تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ "فدائی" بدبلا ہیں اگر اس نے مخالفت
 کی تو جان کی خبر نہیں اس لئے نہ صرف اغراض سے کام لیا بلکہ درپردہ کچھ مدد بھی کرتا رہا۔
 جب بہرام نے جہلا کے طبقہ میں جن کی ہمیشہ اکثریت ہوتی ہے کافی اثر و رسوخ پیدا کر
 لیا، تو اسی وزیر بے تدبیر نے اتابک ظہیر الدین کو کہہ سن کر دمشق کا "سرحدی قلعہ بانیاں"
 (جو اسی نام کی نہر پر واقع تھا) ولوا دیا، یہاں نہ یہ تھا کہ وہ فرنگیوں کا مقابلہ اپنے جانشین
 کے ساتھ کرتا ہے گا، لیکن اہل اسلام اہل سنت والجماعت کو فرقہ باطنیہ کے حالات کا
 علم تھا یہ علانیہ رعایت ایک ایسے فرقہ کے ساتھ جس کو وہ بلکہ سمجھتے تھے سخت تشویش کا
 کاموجب ہوئی۔ مگر فداویان قلعہ الموت کی وحشت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے علماء
 بھی دم بخود ہو کر رہ گئے،

۵۲۱ھ میں امیر سیف الدین السنقرولے حلب جامعہ حلب میں ایک باطنی
 فدائی کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کا بیٹا مسعود جانشین ہوا، باپ کا بدلہ اتابک ظہیر الدین
 اور اس کے وزیر سے لینا چاہتا تھا، لیکن اہل نے ان لیا، اور اس کے لشکر کے اکثر آدمی اتابک
 سے آئے، اتابک عماد الدین زندگی نے اسی سال حلب کو مسخر کر لیا، اتابک ظہیر الدین سخت
 بیمار تھا، جانشین ہو سکا، اس کا بیٹا امیر تاج الملوک جانشین ہوا، وزارت شہر ابو علی طاہر
 بحال رہا، بہرام باطنی اپنی قوت بڑھاتا ہوا تھا اور وزیر بدستور اس کی مدد کرتا تھا، تاج الملوک
 بے خبر نہ تھا، لیکن مناسب موقع کا منتظر تھا، بہرام نے "وادئ التیم" کے ایک سردار
 برتق بن جندل کو مروا دیا، اس کے قبیلہ کے لوگ بھڑک اٹھے، برتق کے بھائی ضحاک نے

اپنے خاندان اور قبیلہ کے آدمیوں کو اکٹھا کیا، اور سب نے قسم کھائی کہ جب تک بہرام سے تصاص نہ لیں گے آرام سے نہ بیٹھیں گے، اور حریف قبائل نے بھی ان کا ساتھ دیا، یہ لشکر اب بانباس کی طرف بڑھا۔ بہرام بھی اپنے فدائیوں کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا، رات ایک مقام پر ٹپڑا دیا، اچانک برق کے بھائی نے سچون مارا اور ان کو اتنی ہلت بھی نہ دی کہ ہتھیار سنبھال سکیں، بہرام مارا گیا، لیکن بہرام کی جگہ ایک اور شخص اسمعیل ایرانی کھڑا ہو گیا، اور فدائی اس کے گرد جمع ہو گئے، وزیر بدستور اس کی پشت بھی کھونکتا رہا، تاج الملوک نے سمجھ لیا کہ سب شرارت اسی تک حرام وزیر کی ہے، اس لئے ارادہ کر لیا کہ پہلے اس کا کام تمام کرنا چاہیے،

چنانچہ ۵۲۳ھ مطابق ۱۱۲۹ء کو وزیر حسب معمول اٹابک کے پاس دیگر امراء کے ساتھ آیا، جب رخصت ہونے لگا تو تاج الملوک کے محافظ فوج کے ایک سردار نے اس کے سر پر کسی ضربات لگائیں، وزیر وہیں بھیر ہو گیا، اس کا قلم کیا گیا، جسد ناپاک شہر کے باہر نریلہ پر پھینکا گیا، اب باطنیوں کی باری آئی جو بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاں کوئی باطنی ملا مارا گیا، اور بعض سربراہان اور باطنی گرفتار ہوئے، ان میں سے ایک شادی نامی تھا جو ابو طاہر بانی فرقہ قرمطہ کا شاگرد و شاہد تھا، ان سب کو پھانسی دی گئی، تاج الملوک اور اس کے امراء کو یہ بھی ڈر تھا کہ قلعہ ہوت سے فدائی آکر ان پر غفلت میں وار نہ کریں، اس لئے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا،

اسمعیل بانباس قلعہ میں بند تھا۔ اب اس نے بھی سمجھ لیا کہ اٹابک کی فوج سے مقابلہ کامیابی سے نہیں ہو سکتا، اس لئے فرنگیوں کو دعوت دی کہ قلعہ بانباس فتح و مشور کی کنجی ہے، حوالے کرنے پر تیار ہوں، فرنگیوں سے پہلے بھی باطنیوں کی ساز باز تھی چنانچہ وہ آئے اور اسمعیل نے قلعہ ان کے حوالے کر دیا، اور خود ان ہی میں رہائش اختیار کی، بیکر ۵۲۷ھ کے شروع میں عارضہ مہمال سے مرگیا، تاج الملوک نے اہل صلیب کو بانباس سے بے دخل کر دیا، مگر اتنی طاقت نہ تھی کہ یروشلم پر بڑھتا،

۵۷۱ھ میں مجاہدین صلیب نے حلب کا محاصرہ کیا، اہل حلب نے نہایت مردانگی سے

مقابلہ کیا، مگر اہل صلیب کو برابر تک پہنچ رہی تھی اور حلب کی تسخیر کوئی دن کی بات تھی، یلوسی کے عالم میں عماد الدین زنگی کو جو اس وقت موصل میں تھا، مدد کے لئے لکھا عماد الدین زنگی کو جو اس وقت موصل میں تھا، مدد کے لئے لکھا، عماد الدین وقت پر پہنچا، اور اہل صلیب نے محاصرہ اٹھا دیا، عماد الدین ان کے تعاقب میں تھا، شہر کے بعد شہر اور قلعہ کے بعد قلعہ فتح کرتا ہوا مجاہدین صلیب کو تین خونریز لڑائیوں میں شکست فاش دی، یہ لوگ یرشلیم کی طرف ہٹ رہے تھے، عماد الدین کو معلوم تھا کہ یرشلیم پر قبضہ کچھ آسان بات نہیں، اگر دمشق ہاتھ آجائے، تو عیسائیوں کو شام سے بے دخل کرنا سہل ہو جائے گا۔

۵۳۲ء میں "البقاع" واقع دمشق میں اتر، اور والی دمشق جمال الدین محمد کو کہلا بھیجا کہ دمشق کے عوض شام کا کوئی شہر لے لو۔ جمال الدین نے انکار کیا، اور لوگوں کو زنگی کے خلاف اُجھارا کہ ایک غیر شخص دمشق پر قابض ہونا چاہتا ہے، عماد الدین یلوسی ہو کر لوٹنا چاہتا تھا کہ بمقام "ناریا" پہلے دمشق نے ہتھیار بول دیا، ناچار لڑنا پڑا، جلال الدین شکست خوردہ دمشق میں پناہ گزین ہوا، عماد الدین نے پھر کہلا بھیجا کہ دمشق کے عوض بعلبک، حمص وغیرہ جو بھی شہر پسند ہو لے لو، تو اب بھی صلح و آشتی کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب میں اہل صلیب سے نیٹ لوں گا، تو پھر دمشق تمہارا ہے، جلال الدین نے انکار کیا،

خوش قسمتی سے اس صلیبی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا مجیر الدین آتق جانشین ہوا۔ اس بے حمیت نے مجاہدین صلیب کو اپنی امداد کے لئے دعوت دی، وہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، بانیاس واقع دمشق کا محاصرہ کیا، اس پر عماد الدین کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اب زنگی عجب گوگو میں تھا، اہل صلیب کے مقابلہ کے لئے آیا۔ اس کا رعب اتنا ان لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا تھا کہ محاصرہ اٹھا دیا،

اہل صلیب نے بھی سمجھ لیا تھا، کہ زنگی کا مقابلہ مشکل ہے، اس لئے والیان یورپ کو امداد کے لئے طلب کیا، عماد الدین جس طرف رخ کرتا فتح و نصرت اس کے ہمراہ تھی۔

۵۳۵ء میں اس نے "اولیہ" (Edele) جس کو عرب مورخین "روح" کہتے ہیں مسخر کر لیا۔ ابن اثیر اس فتح کو "فتح الفتوح" کہتا ہے، جو کچھ ظلم و ستم اب تک ادب بالخصوص نطاکیہ

اور یرشلیم میں اہل صلیب کرچکے تھے، اس کا قصاص و نگہ لینا چاہتا تھا، لیکن جب شہر مسخر ہو گیا تو صرف وہی لوگ باقی گئے جو مقابلہ میں آئے، یا وہ پیشوا یا ان دین مسیحی جو لوگوں کو صلیب کے نام پر بھڑکائے تھے باقی مردوں دیکھے جو اس کے ہاتھ پٹے احسان رکھ کر چھوڑ دیئے، بلکہ ان کا مال و متاع بھی ان کے حوالے کر دیا، زندگی یہاں نہ بھڑا۔ عیسائی اہل اس کا نام سن کر بھاگ رہے تھے، اب اس کے سوا چارہ نہ تھا، کہ زندگی کے چند غلاموں کو کاٹ کر جو کام تلوار سے نہ ہو سکا بزدل نہ نکالا، زندگی نے قلعہ جعبر کا محاصرہ ڈالا ہوا تھا، رات خیمہ میں سویا ہوا تھا، کہ غلاموں نے شہید کر دیا، اس طرح اپنے زمانہ کا بہترین مسلمان ۱۱۴۵ء مطابق ۱۱۴۴ء میں شہید ہوا،

سلطان شہید کے بعد اس کے چاروں بیٹوں غازی سیف الدین والی موصل اور نور الدین محمود والی حلب اور قطب الدین مودود اور نصرت الدین امیر میراں پر اس ذمہ داری کا بوجھ آ پڑا۔ جو باپ وراثت میں چھوڑ گیا، سیف الدین سب سے بڑا بیٹا تھا اور نور الدین اس سے چھوٹا، دونوں اکثر معرکوں میں باپ کے ہمراہ رہے، نور الدین نہ صرف سپاہی ہی تھا، بلکہ اس کو مختلف علوم میں کافی دستگاہ بھی تھی، فقہ کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے احادیث نبویہ کا ایک انتخاب بھی مرتب کیا، جو عدل و انصاف زکوٰۃ و خیرات اور تقویٰ کے بارے میں تھا، اس مجموعہ کا نام "فخر التوری" رکھا۔ اور یہی اس کا دستور العمل رہا۔ رہا۔ لیکن لکھتا ہے، کہ بادشاہوں کی خوشامد ان کی زندگی میں تو ہر ایک شخص کرتا ہی ہے مگر و صف وہ ہے جو ان کے مرنے کے بعد ان کے دشمن بھی بیان کریں۔ ان اعلیٰ اوصاف کا مالک نور الدین تھا،

نور الدین ابھی حلب کی حکومت سنبھالنے بھی نہ پایا تھا، کہ اڈلیہ کے عیسائیوں نے فرانسیسی اہل صلیب کی مدد سے جو سلین (Jerusalem) کے ماتحت تھے عام بغاوت کر دی، اور عماد الدین مرحوم کے قلعہ دار کو مکر و فریب سے گرفتار کر کے قتل کر دیا، اور مسلم سپاہیوں اور شہر کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، کس قدر بد اخلاق اور احسان فراموش یہ قوم ہے، نور الدین فوراً پہنچا، اب یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہ تھے

بیلین اند اس کے ساتھی سب تہ تیغ ہوئے، آرمینیہ کے عیسائی جو اس بغاوت کے
برک تھے جلا وطن ہوئے،

ان واقعات کا اثر اور بیت المقدس کے اہل صلیب کی دعوت کے ساتھ یورپ
صلیب و دم کا آغاز ہوا،

سینٹ برنارڈ (St Bernard of Clairvaux) نے اب پیٹر کی جگہ
یورپ صلیب کی تحریک کی، مقدس برنارڈ کا احترام بہر ایک مسیحی کے دل میں تھا، ۱۱۴۷ء
میں کانراڈ ثالث (Conrad III) شہنشاہ جرمن اور لوئیس مہتم شاہ فرانس
(Louis VII) اس مقدس جنگ میں شریک ہوئے،

یورپ کے مورخین لکھتے ہیں، کہ نو لاکھ کی جمعیت ان کے ہمراہ تھی، لوئیس کے
کے ہمراہ اس کی زوجہ محترمہ بھی تھی، جو بعد میں مہری دوم شاہ انگلستان کے عقد ثانی میں
آئی۔ اس کا اثر عورتوں پر یہ ہوا کہ وہ بھی کثیر تعداد میں شامل ہو گئیں، یہ سب تلواروں اور
نیزوں سے مسلح تھیں، اس کا نتیجہ سوائے بے حیائی کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ نادعیش
دیتے ہوئے اہل صلیب شام کی طرف بڑھے، ان کی افواج قاہرہ کا جو کچھ حشر سلجوقیوں کی
چابک دستی سے ہوا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب لوئیس مہتم انطاکیہ میں داخل
ہوا تو اس کے ہمراہ جرمن لشکر کا جو تھائی حصہ باقی رہ گیا تھا، انطاکیہ اس وقت "رے مونڈ"
(Raymond of Poitiers) کے قبضہ میں تھا،

مورخین یورپ کہتے ہیں کہ انطاکیہ اس وقت زندقوں کا چکھ تھا۔ یہاں نوابوں کی
ازواج کھلے بندوں بے حیائی کا ارتکاب کر رہی تھیں۔ ان میں قابل ذکر کونٹس آف ٹلاوس
(Countess of Toulouse) اور کونٹس آف بلوس (Countess of Blois)
اور سابل آف فلندرس (Sybilla of Flanders) موریل (Morville) ملقوری
(Suchass of Bouillon) اور ان کے علاوہ بیسیول لیڈیز جو دولت و ثروت
اندھن و جمال میں شہرہ آفاق تھیں بے لگام اہل صلیب کو دعوتِ صحبت سے رہی تھیں۔ ملکہ
الینور (Queen Eleanor) جن کا تم مکرم رینڈ ہاکم انطاکیہ تھا اپنے جسم کو اس

کا ثواب کے لئے وقف کر رکھا تھا،

اہل صلیب جب انطاکیہ میں تروتازہ دم ہو گئے، تو دشمن کی طرف بڑھے جو پہلے ہی محاصرہ میں آچکا تھا، دمشق پر مجیر الدین آبق کی حکومت تھی، یہ واقعہ ۱۲۵۵ء کا ہے، حصین وقتاً فوقتاً باہر نکل کر مقابلہ کرتے رہے، ہر ایک شخص شوق شہادت میں شمشیر کف اڑاتا اور پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتا، مجتہ الدین ابوالمجروح یوسف ایک بڑے ہا زائد اور عابد بزرگ تھا، اس کا ایک دوست جو تقویٰ میں مشہور تھا، عبدالرحمن اطلول بھی اس کے ساتھ تھا، معین الدین آئرشہ دزیہ مجیر الدین نے ان کو کہا کہ آپ معذور ہیں، دشمنان دین کے لئے ہم کافی ہیں، آپ شہر میں واپس جائیں، جواب دیا کہ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عدواً عليه حقا
التوراة والا انجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله - (۱۳) -
مذلوں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مسلمان لپٹا ہو کر شہر میں داخل ہو گئے،

کو نراڑنے "میدان الاخضر" میں خیمہ ایستادہ کیا، دزیہ معین الدین سیف الدین غازی کو دمشق کے حالات سے آگاہ کر چکا تھا، اہل صلیب نے اب دمشق کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی تھی، اہل شہر زندگی سے یابوس ہو چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اہل صلیب نہ عورتوں اور نہ بچوں اور بوڑھوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، عین اس وقت سیف الدین غازی اور اس کا بھائی نور الدین اہل صلیب کے سر پر بلائے ناگہانی کی طرح پہنچ گئے، اہل صلیب نے لڑنے مرنے کے بغیر محاصرہ اٹھالیا، اگرچہ دمشق اہل صلیب کی سفاکی سے بچ گیا، مگر اکثر علماء اور عابد اور زائد اور شہسوار کام آئے، ۵۲۷ھ میں معین الدین اور سیف الدین غازی کا انتقال ہو گیا،

اہل صلیب تو تیزی سے لپٹا ہوتے ہوئے یرشلم کی طرف لوٹے کا نراڑ اور لوٹس نے یورپ میں واپسی ہی میں خیر دیکھی، اس طرح دوسری حرب صلیب کا خاتمہ ہو گیا،

نور الدین نے اب ہر طرف سے اہل صلیب کو دبانا شروع کر دیا، دمشق میں اپنا عسکری مرکز قائم کرنے کے بعد اس نے فرنگیوں کو شہروں اور قلعوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا، غلیظہ بغداد

نے الملک العادل کا خطاب عطا فرمایا، اہل صلیب کے پاس یروشلم اور گروڈنولوح کا علاقہ
 تھا، ان کی توجہ کا مرکز اب مصر ہوا، خلیفے فاطمہ کا آخری خلیفہ العزیز الدین اللہ توبے
 حقیقت تھا وزیر "شاہ" سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس کا ایک حریف اس پر غالب آ رہا تھا،
 دمشق میں آیا اور نور الدین سے مدد کی درخواست کی، نور الدین نے اپنے چچا کے بیٹے اسد الدین
 شیرکوہ کو کچھ فوج کے ساتھ وزیر کی مدد کے لئے روانہ کر دیا، جس نے پھر سے اسے مسند
 وزارت پر بٹھا دیا، لیکن اب اس غدار قوم و ملت نے شیرکوہ کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ اور
 اہل صلیب سے ساز باز شروع کر دی، شیرکوہ کو حکم دیا کہ مصر سے نکل جاؤ، اہل صلیب کے ساتھ
 شیرکوہ کا مقابلہ اس مقام پر ہوا جہاں نیل کی انتہائی مشرقی شاخ ہے، جس کو یونانی دور دورہ
 میں "پلوزیم" کہتے تھے، اور اب "بلبیس" سے موسوم ہے، شیرکوہ کے پاس گنتی کے سپاہی تھے،
 کچھ عرصہ جم کر لڑا، مگر پھر سپاہی ہوتے ہوئے مصر کی حدود سے نکل گیا،

۵۵۹ء میں نور الدین پر یونانیوں اور فرنگیوں کی متحدہ فوج نے حملہ کر دیا، "حسین"
 کی دیواروں کے نیچے خونریز جنگ ہوئی، اہل صلیب نے شکست فاش کھائی، اور ان کے بڑے
 بڑے سردار بوہنہنڈ سپریمینڈ حاکم الطاقیہ اور جوہنسن ثالث اور یونانی سردار ڈیوک کٹامر
 سیر ہوئے،

۵۶۲ء میں شیرکوہ پھر مصر میں داخل ہوا، وزیر غدار نے پھر اہل صلیب کو مدد کے لئے
 بلایا، اس وقت اموری *Amurru* یروشلم کا حاکم تھا، اس دعوت کو بخوشی خاطر
 اس لئے بھی منظور کر لیا کہ مصر پر قابض ہو کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ہستوار کی جاسکتی ہے
 اگرچہ شیرکوہ کے ساتھ صرف ایک ہزار سوار تھے مگر سپاہیانہ نقل و حرکت اس طریقہ سے کی
 کہ ایک یورپی مورخ "چنڈر" *Richard* لکھتا ہے کہ وہ فن حرب میں کامل دستگاہ
 رکھتا تھا، اس نے اہل صلیب اور مصری غداروں کو ایسی شکست فاش دی، کہ اسکندریہ
 بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ایک معاہدہ کے ذریعہ اموری نے اپنی افواج مصر سے واپس
 بلالیں، اور عہد کیا کہ آئندہ مصر کے معاملات میں دخل نہ دے گا، پچاس ہزار زر سرخ ادا
 کر کے صلح کا بھولا ہوا ارض شام کو لوٹ گیا، شیرکوہ بھی فتح کا شادمانہ بجاتا ہوا واپس چلا گیا،

اہل صلیب کچھ قاہرہ میں رہ گئے تھے، جب میدان خالی پایا، تو غدار وزیر کی سازش سے لوگوں کو ستانا شروع کیا، اور پھر لوٹ گھسٹ مچا دی، خلیفہ مصر نے عاجز ہو کر نور الدین سے مدد کی درخواست کی، پھر شیرکوہ مصر میں داخل ہوا، اہل صلیب نام سن کر ایسے بدحواس ہوئے کہ مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے،


چونکہ غدار وزیر بھی اس سازش کا سرغنہ تھا، اس لئے خلیفہ کے حکم سے سر بازار قتل کیا گیا، اور خلیفہ نے شیرکوہ کو اپنا وزیر اور امیر الجیوش یعنی سپہ سالار مقرر کیا۔ دو ماہ بعد ۶۵۴ھ مطابق ۱۱۶۹ء میں شیرکوہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جانشین اس کا بیٹا صلاح الدین پسر نجم الدین ابوبی وزیر ہوا، اور خطاب الملک الناصر ملا،

اگرچہ بخاریہ صلاح الدین خلیفہ مصر کا وزیر تھا، مگر وہ اصل اپنے آپ کو نور الدین کا نائب السلطنت ہی سمجھتا تھا، اور آخر دم تک زرنگی کے خاندان سے وفات شعاری اس کا شیوہ رہا، فاطمی خلیفہ مصر المعتمد لدین اللدبتر مرگ پر تھا، صلاح الدین حنفی المذہب تھا، مناسب خیال کیا کہ پھر سے خلافت عباسیہ قائم کی جائے چنانچہ آخری خلیفہ مصر کی وفات پر اس نے ۵۴۶ھ میں اس کا اعلان کر دیا، اور اس وقت سے صلاح الدین عملاً مصر کا سلطان ہو گیا،

(شجرہ نسب اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

شجره نسب

شادی



۵۴۹ میں صلاح الدین نے اپنے آقا نور الدین زنگی کی اجازت سے اپنے بھائی نور الدین کو تسخیر میں پرہامور کیا، اسی سال زنگی کا انتقال ہو گیا، اب صلاح الدین کی حکومت تمام مصر اور لیبیا کے ایک حصہ اور ارض حجاز پر بالاستقلال قائم ہو گئی، نور الدین کی وفات پر اس کا بیٹا گیارہ سال کا تھا، وہی دمشق میں باپ کا جانشین ہوا، صلاح الدین نے تعزیت نامہ لکھا، تحائف بھیجے اور یقین دلایا، کہ ہمیشہ اس کا وفادار رہے گا، لیکن ملک انصالح پسر نور الدین کے حاشیہ نشین امراء میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا، کہ وہی امیر الامراء ہو، ان کی سازشوں نے نظام سلطنت میں ابتری پھیلا دی، صلاح الدین نے ایک مکتوب میں ملک انصالح کو متنبہ کیا کہ لکھا کہ اگر یہی حال رہا تو محسوراً خود آ کر وفادارانہ خدمت بجا لاؤں گا، اس کا جواب سلطان کے نام پر امراء نے ایسا دیا کہ صلاح الدین دانت پس کر رہ گیا،

اہل صلیب اس موقعہ کو کب ہاتھ سے جانے دیتے، دمشق کی طرف بڑھے، اس وقت امیر کشکین سلطان اور سلطنت پر چھپایا ہوا تھا۔ اہل صلیب کے مقابلہ کی تاب نہ تھی ملک انصالح کے ساتھ حلب میں پناہ گزین ہوا، اور اہل صلیب کو منہ مانگی رقم دے کر نپٹ چھڑایا، صلاح الدین غضب میں آگیا اور سات ہزار سوار کے ساتھ بلغار کرتا ہوا آیا اور دمشق پر قابض ہو گیا، یہاں سے پھر ایک دفعہ نوجوان اتابک ملک انصالح کو موذبانہ عرض کیا لکھا کہ میں دمشق میں کسی ذاتی مفاد کے لئے نہیں آیا، دولت و ملک آپ کا ہے اور میں وہی دیرینہ خادم ہوں، آپ کو خود غرض امراء نے لڑکا سمجھ رکھا ہے، اور آپ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں، امور سلطنت جب خاطر خواہ اچھی حالت پر آئیں گے تو میں واپس مصر میں چلا جاؤں گا۔

اس کا جواب امراء نے یہ دیا کہ تم غاصب ملک حرام ہو، اب صلاح الدین بھی سمجھ گیا کہ یہ سب شرارت امراء کی ہے، اس لئے مناسب خیال کیا کہ خود اتابک سے ملے۔ اور نیشب و فراز زمانہ سے آگاہ کرے، جب صلاح الدین حلب کے نزدیک پہنچا، امراء نے لوگوں کو نور الدین زنگی کا احسان یاد دلایا اور صلاح الدین کے خلاف بھڑکایا، سب مسلح اٹھ کھڑے

ہوئے۔ صلاح الدین نے پھر قاصد روانہ کیا اور لکھا کہ اللہ شاہد ہے کہ میں یہاں لڑنے کے لئے نہیں آیا، لیکن جب تمہاری یہی مرضی ہے تو یوں ہی سہی، ان لوگوں نے کیا لڑنا تھا منہ کی کھائی۔ کشمگین اتابک ملک الصالح کو لے کر قلعہ بند ہو گیا، اب اور کچھ چارہ کار نہ تھا، "خشاشین" سے ساز باز کی، کہ صلاح الدین کو ٹھکانہ لگادیں، ان کا قاتلانہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ غدار امیر نے اہل صلیب سے مدد کی درخواست کی، اور ساتھ ہی اتابک سیف الدین غازی ثانی اتابک موصل کو لکھا کہ اپنے چہرے بھائی کی مدد کرو۔

اہل صلیب کب چوکنے والے تھے، "ایمیسیہ" کو محاصرہ میں لے لیا، لیکن صلاح الدین کی آمد پر محاصرہ اٹھا کر بھاگ گئے، صلاح الدین نے پھر ایک عرصہ اتابک کی خدمت میں لکھا، کہ "خا" اور "ایمیسیہ" اور جلیلک اس شرط پر دیتا ہوں، کہ دمشق میرے قبضہ میں بحیثیت نائب السلطنت رہنے دو،

حقیقت یہ ہے کہ دمشق شام کی کلید تھا، صلاح الدین یہ چاہتا تھا کہ اہل صلیب کو شام سے بالکل بے دخل کرے، اور یہ ممکن نہ تھا، کہ جب تک وہ دمشق کو اپنی مجاہدانہ سرکری کامر نہ بناتا، یہ مشورہ اور مطالبہ بھی مسترد کیا گیا، سیف الدین غازی ثانی نے اتابک ملک الصالح کی مدد کو آگیا، حلب کی دیواروں کے نیچے لڑائی ہوئی، تو اب صلیب کی جانب سے۔ ملک الصالح نے شروع کر دی، تو صلاح الدین نے بھی ایک بڑی جوا بھی بچھی ہی تھی صلاح الدین کے پاس آئی، صلاح الدین انتہائی احترام سے پیش آیا، جو اہرات نذر کے اور ولایت حلب ملک الصالح کے حق میں مانگا کر دی، لیکن دمشق پر خود قابض رہا۔ اس واقعہ کے بعد ملک الصالح کا نام خطبہ سے شام و حجاز و مصر میں خارج ہو گیا، اور خلیفہ عباسی نے سلطان کا خلعت باضابطہ صلاح الدین کو عطا فرمایا،

صلاح الدین کی نظر اہل صلیب پر تھی اس لئے یہ ضرور تھا، کہ دنیا کے اسلام بھی اس طرح متحد ہو، جس طرح مسیحی یورپ تہذیب طاقت سے متواتر اسلامی ملک پر حملہ آور ہو رہے تھے، تو صلاح الدین نے زنجی کی اولاد کو پیش قرار جاگیریں دے کر رضی کر لیا، تو یہ میں سلجوقی سلاطین کو بھی اپنے ساتھ گانٹھا اور آرمینیہ کے سرداروں سے بھی رابطہ اتحاد قائم کیا، یہ معاہدہ

ہوا کہ ضرورت ہوئی تو سب مل کر اہل صلیب کے خلاف صلاح الدین کی مدد کریں گے۔
 دوسرا اہل صلیب کی قوتِ عسکری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یورپ سے ٹائٹل *King of Sicily*
 ناموری کے لئے اور تلاش مال و زر کے واسطے اور مذہبی دیوانے پیدائشوں کے خلاف بے حساب
 تعداد میں آرہے تھے، سو اعلیٰ شام پر ان کا اجتماع ہو رہا تھا، اس وقت فلسطین کی ملکہ
 سائیل تھی، کئی خاندانوں کے بعد گائے (*Ray de Lusignan*) کو منتخب کیا
 اور اسی کے سر پر تاج رکھ دیا، صلاح الدین کی اہل صلیب سے چھڑپیں بھی ہوتی رہیں
 معاہدہ صلح بھی ہوتا رہا، مگر خود یورپ کے مورخین معترف ہیں کہ مسلمان سلطان تو ہمیشہ
 پابند شرائط رہا، اہل صلیب ہی جب ذرا حالات سازگار ہوتے تو ٹوٹ دیتے، اہل صلیب میں
 بھی طائفہ الملوک تھی، لیکن عرب صلیب میں سب متحد اور متفق تھے۔

۱۱۸۶ء میں اہل صلیب نے معاہدہ کے خلاف ایک تجارتی قافلہ جو بحیرہ مردار کے
 قریب "قارق" سے گذر رہا تھا، اور قافلہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ *Reginald*
 قارق کا حکمران تھا، صلاح الدین نے شاہ یروشلم کو لکھا، کہ نقصان جان و مال کا معاہدہ
 ادا کرو۔ اور قارق کا محاصرہ کر لیا، اور اپنے بڑے بیٹے علی ملک الافضل کو کچھ فوج سے کر
 "جلیل" پر متعین کر دیا تاکہ ادھر سے صلیبی حملہ آور نہ ہوں، اب اہل صلیب بھی متحد طاقت
 کے ساتھ صلاح الدین کے مقابلہ کے لئے بڑھے۔ ملک افضل سے مدد بھڑھائی صلاح الدین
 بھی اپنے بیٹے کی مدد کے لئے آگیا، دونوں شکر جلیل "طبریہ" کے قریب ایک پہاڑی "حطین"
 کے دامن میں آمنے سامنے ہوئے،

۲۵ ربیع الثانی ۵۸۳ھ مطابق ۳ جولائی ۱۱۸۷ء میں یہ لڑائی جو "جنگ طبریہ" کے نام سے
 موسوم ہے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوئی، اہل صلیب کے سردار کچھ تو میدان جنگ
 میں کام آئے، کچھ اسیر ہوئے کچھ راہ فرار اختیار کر گئے، سلطان نے اب سلسلہ فتوحات
 شروع کر دیا۔ شہر کے بعد شہر اور قلعہ کے بعد قلعہ مسخر ہوتا گیا، عکہ اور عسقلان، دو بڑے آبادگار
 اہل صلیب کے تھے، سلطان نے لئے، اب صرف ان کے پاس سوا اعلیٰ شام کے شہر
 میں سے "طائر" اور "ٹریپولی" رہ گئے،

سلطان دراصل یروشلم کو لینا چاہتا تھا، یہاں اہل صلیب کی سپاہ ساٹھ ہزار سے
 زیادہ تھی۔ شہر قدس کے قریب پہنچ کر اس نے سرداران صلیب کو پیغام بھیجا کہ تم جانتے
 ہو کہ مسلمان اس شہر کو حرم سمجھتے ہیں اور یہاں جنگ و جدل حرام ہے، مناسب ہے کہ
 شہر بلاخوں رینری کے میرے حوالے کر دو، میں اس کے عوض تمہیں مال و زر اور ہائٹس کے لئے
 رضیات جہاں چاہو، دینے کے لئے تیار ہوں۔“

اہل صلیب نے انکار کر دیا، صلاح الدین نے پھر متنبہ کیا کہ
 ”جب تم نے یروشلم پر قبضہ کیا، جو کچھ انسانیت سوز مظالم تم نے کئے ہیں
 کا بدلہ خاطر خواہ لیا جائے گا، اگر اب بھی تم نے میری پیشکش منظور نہ کی“
 سلطان نے یروشلم کو محاصرہ میں لے لیا، چند روز کے بعد اہل صلیب کے حواس
 ٹھکانے ہو گئے اور جو ذہنی صلح کا پیغام دیا، سلطان نے نرم شرائط پر صلح منظور
 کر لی، یونانی اور شامی مسیحی سلطان کی عملداری میں جہاں چاہیں شہری حقوق کے ساتھ
 بطور امن پسند رعیت رہیں، ٹرنگی اور اطالوی جو ارض فلسطین میں بطور رعیت رہنا چاہتے
 تھے۔ سلطان نے اجازت نامہ لکھ دیا، تمام محارم چالیس دن کے اندر اندر سلطان کی
 حفاظت میں طائر یا ٹریپولی کی طرف چلے جائیں، بشرطیکہ ہر ایک مرد و شامی وینار اور
 عورت پانچ اور بچہ ایک وینار فدیہ ادا کریں، اور اگر وہ کر سکیں تو تا ادا ایگی اسیری میں ہیں
 لیکن یہ شرط محض کاغذی تھی، سلطان نے خود دس ہزار آدمیوں کا فدیہ اپنی حبیب
 سے ادا کیا، اس کے بھائی سیف الدین نے سات ہزار کو اسی طرح آزاد کر لیا، اور کئی ہزار
 یوں ہی رہا کئے گئے، پادری اور عوام اپنا مال و متاع جتنا بھی لے جاسکے، اٹھا کر لے گئے
 سلطان نے دیکھا کہ بعض شخص اس اپنے ضعیف والدین اور بچوں کو کندھوں پر اٹھائے لے
 جاتے ہیں، اہل بھڑا یا اور انہیں زاد راہ بھی دیا اور سواری کے لئے چھریں بھی مہیا کر دیں،
 ملکہ سائیل اور کثیر تعداد اور وارج شرف اپنے بچوں کو گود میں لئے آہ دزاری کرتی ہوئی نکلیں
 سلطان یہ دل ہلا دینے والا نظارہ دیکھ رہا تھا، ان میں سے بعض نے سلطان کو مخاطب
 کرتے ہوئے کہا کہ

”تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس حالت میں تمہارے ملک سے ہمیشہ کے لئے چلے
 میں، لیکن راستہ میں ہماری اور ہمارے بچوں کی خبر گیری کون کرے گا، ہمارے
 مرد ہمارے ساتھ کر دو۔ جو تمہاری قید میں ہیں“

صلح الدین نے ان کو بھی زادِ راہ دیا، اور ماڈل کو اپنے بیٹے اور عورتوں کو خاندان دہاں
 دیئے اور ناٹ ہا اسپتالرز (Knight Hospitalers) ان کی حفاظت
 کے لئے ساتھ کر دیئے،

”ملز“ (Mills) لکھتا ہے کہ اکثر مسیحی جو یورپ و شلم سے نکلے اس امید پر کہ نطاکی
 میں مسیحی سردار بہو مند (Bahemand) ہے یہاں آئے، مگر بہو مند نے یہاں
 نوازی اس طرح کی کہ جو کچھ ان کے پاس تھا لوٹ لیا، یہاں سے افسردہ دل ہو کر وہ مسلمانوں
 کے شہروں سے گزرتے رہے، جہاں کہیں جاتے، ان کی ضروریات مسلمان فرارخ دلی سے پوری
 کرتے، اپنے ہم مذہب بھائیوں کی پستوگی سے بد دل ہو کر بعض نے اسلام قبول کر لیا اور
 اکثر شام میں آوارہ پھرتے رہے، ان میں سے ایک عورت نے اپنے شیر خوار بچہ کو سمندر
 میں پھینک دیا، اور اکثر مرد و زن سمندر میں اپنے مسیحی برادران نامہ زبان کو لعنت
 کرتے ہوئے کود پڑے،

جب تک تمام اہل صلیب شہر قدس سے نہ نکل گئے، سلطان نے اپنی فوج کے کسی سپاہی
 کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور نہ خود داخل ہوا، حرم کا احترام واجب تھا۔ ۶۰
 جب ۵۸۳ھ بروز جمعہ سلطان اکابر یورپ و شلم کے ساتھ جو فتح کی مبارک باد دینے کے لئے
 آئے تھے، شہر میں داخل ہوا، کہتے ہیں کہ شاعر تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، سلطان نے جب
 ماہ صفر ۵۸۵ھ حلب فتح کیا تو ایک شاعر نے حبیبہ قصیدہ پیش کیا جس کا ایک شعر ہے
 ”و فتح حلباً باسيف في صفر مبشر الفتوح القدس في رجب“

دہر و شمشیر ماہ صفر میں حلب کی فتح بشارت فتح شہر قدس ماہ رجب میں

دے رہی ہے

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتا ہے کہ ”ابن برجان“ فتح بیت المقدس سے پیش رو فات

پکا تھا، آیہ "الم غلبت الروم" کی تفسیر بحباب اجدیہ کی ۵۸۳ء تک بیت المقدس
 سائیلوں کے قبضہ میں رہے گا، اس کے بعد مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے گا،
 صلاح الدین اہل صلیب کو شام اور فلسطین سے بالکل بے دخل کرنا چاہتا تھا، طائر کو
 صرہ میں لے لیا، اس جگہ مارکوئیس کانراڈ (Conrad Marquies of Montferrat)
 مران تھا۔ سلطان نے نہایت نرم شرائط صلح پیش کیں، انکار کیا، سلطان نے مصلحتاً محاصرہ
 ٹھا دیا، اور ساحل شام کے دوسرے شہروں کی طرف متوجہ ہوا، جو یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے
 سال اب تک فرنگی قابض تھے، سلطان نے "گائی" (Guy de Lusignan)
 اس اقرار صلح پر چھوڑ دیا کہ وہ بلا توقف یورپ میں واپس چلا جائے گا، مگر پاپوس رسول نے
 اس وجہاں تک کا سبق اپنے مریدوں کو پڑھایا تھا وہ اسے یہی ازبر یاد تھا، آنا دی کی ہوا کھانے
 بعد اس نے ادھر ادھر سے پراگندہ اہل صلیب کو ایک جگہ جمع کیا اور یورپ سے نو دار بھی
 کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ اس نے مددگاروں کو محاصرہ میں لے لیا۔ یہ
 تاریخی مقام ہے، جہاں اب یورپ اور افریقہ اور ایشیا میں بر اعظموں نے آئندہ دو سال کے
 لئے اپنی عسکری قوت کے بل بوتے پر جنگ کا مرکز بنایا،

حرب صلیب سوم | پوپ گریگری نہم نے اس حرب کا اعلان کیا۔ اور شاہ انگلستان
 فرانس اور جرمنی نے اس میں حصہ لیا،

"فلپ گٹس شاہ فرانس (Philip Augustus) اور رچرڈ شیرڈ (Richard)
 (Cocum de Lion) اپنی اپنی سپاہ کے ساتھ "عکہ" پر اترے، صلاح الدین کی یہ
 رائے تھی کہ ان کو راستہ میں ہی روکا جائے تاکہ وہ اہل صلیب سے عکہ میں اکٹھے نہ ہوں، مگر امراد
 نے مشورہ اس کے خلاف دیا، اس لئے سلطان کو "عکہ" میں ان کی متحدہ قوت کا مقابلہ کرنا پڑا، اگرچہ
 سلطان کی اپنی رائے ہی صائب تھی،

جب سلطان مقابلہ میں آیا تو دیکھا کہ اہل صلیب عکہ سے ساحل بحر تک ایک فولادی دیوار کی
 طرح حائل ہیں۔ سلطان نے عکہ کے ایک پہاڑی "تل کسبان" پر اپنا فوجی مرکز قائم کیا۔ عیسائیوں
 کو ملک سمندر کے راستے اور مسلمانوں کو خشکی کے راستے موصل اور دیار بکر اور بخارا اور حارن سے

پہنچ رہی تھی، ماہ شعبان ۵۸۵ھ مطابق ۱۱۸۹ء کے شروع میں صلاح الدین نے حملہ کر دیا، تقی الدین سلطان کے بھتیجے نے اس زور سے حملہ کیا، کہ اہل صلیب کی صفیں ٹوٹ گئیں ابن اشیر لکھتا ہے کہ اگر یہ حملہ رات تک جاری رہتا، تو جنگ کا خاتمہ ہو جاتا۔ مگر وہ تھک گئے اور کام ادھورا چھوڑ کر دوسرے روز پرتازہ حملے کی تیاری کرنے لگے، عکہ سے عیسائی اس جنگ کے بعد بے دخل ہو چکے تھے، اس لڑائی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ سلطانی فوج کا الحاق اہل شہر سے ہو گیا۔ لیکن لاشوں کے تعفن سے دیا پھوٹ پڑی، اور خود سلطان بھی اس میں مبتلا ہو گیا، اس لئے محسوراً ایک اور مقام کی طرف ہٹنا پڑا، اہل صلیب نے پھر محاصرہ ڈال دیا، اہل عکہ نے صلح کا پیغام دیا، صلح تو ہو گئی، مگر مسیحی سپاہیوں نے عورتوں اور بچوں تک سب کو تلوے کے گھاٹ اتار دیا، عکہ کی لڑائیوں میں اہل صلیب بھی ساٹھ ہزار کام آئے،

رچرڈ نے اب عسقلان کا رخ کیا، صلاح الدین نے عسقلان کا قلعہ اور دیوار خود مسامر کر دی اور رچرڈ کے مقابلہ پر ڈٹ گیا، رچرڈ نے بھی سمجھ لیا کہ یہ مذہبی لڑائیاں عبث ہیں، اس لئے صلح کا پیغام دیا، اس میں ایک شرط جو الگی میرشلیم بھی تھی یہہ شرط بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی اہل صلیب کے ساتھ مسلمانوں کی گفت و شنید ہوتی یہ مطالبہ بھی ہوتا رہا کہ وہ چوٹی صلیب جس پر خداوند مسیح لٹکائے گئے تھے عیسائیوں کے حوالے کی جائے، چوٹی صلیب کہاں سے آئی مگر ان لوگوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہے،

صلاح الدین نے میرشلیم کی واپسی سے صاف انکار کر دیا، آخر یہ طے پایا کہ رچرڈ کی بہن عقد نکاح سلطان کے بھائی سیف الدین ملک العادل سے ہو، اور دونوں کو میرشلیم کی حکومت دی جائے اور دونوں کی اولاد ہی ارض فلسطین پر حکمران رہے، اور جو شہر ساحل شام پر واقع ہیں رچرڈ جہیز میں اپنی بہن کو دے گا، رچرڈ کی بہن صقلیہ کے بادشاہ کی بیوہ تھی، صلاح الدین نے تو یہ شرط منظور کر لی، مگر پارلیوں نے طوفان مخالفت برپا کر دیا کہ مسیحی عورت ایک بے دیہ کے جہاز نکاح میں ہرگز نہیں دی جاسکتی،

رچرڈ نے یہ امر سامان سمجھا کہ درخواست کی کہ ملک العادل مسیحی مذہب قبول کرے اور عکہ سے انکار ہو،

رچرڈ کا دل لڑائی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور اس کو اپنے گھر کا بھی خیال تھا، مگر "کانراڈ" لڑائی پر تڑپا ہوا تھا، اور رچرڈ کے خلاف پادریوں کی وساطت سے لوگوں کو ابھارا ہوا تھا۔
 وان ہمر (Van Hammer) نے اپنی تاریخ حشاشین (Assassins) میں ثابت کیا ہے کہ رچرڈ کے ایما پر دو فدائیوں نے کانراڈ کا کام تمام ۱۱۵۲ء میں کر دیا، رچرڈ نے اب صلاح الدین کو لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم بندگان خدا کا خون ناحق میری طرح پسند نہیں کرتے، میں نے وہ علاقہ جو میرے قبضہ میں ہے کونٹ مہری (County of Champagne) کو دے دیا ہے، میں اس کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں، وہ ہر ایک مہم میں آپ کے ہمراہ رہے گا، میں صرف یروشلم میں چرچ کی استراحتا ہوں،
 سلطان نے امرائے مشورہ کے بعد صلاح کی شرائط منظور کر لیں، رچرڈ اس کے بعد انگلستان کی طرف لوٹا۔

فریڈرک شاہ جرمنی کے ساتھ بیشمار جمعیت تھی وہ ساحل پر اترا، ترکمانی پابھیوں نے اسے بہت پریشان کیا، اس کے دائیں بائیں چھاپے مارتے رہے، مگر آخر وہ بالائی سلیٹیا میں پہنچ گیا، سلطان نے یعقوب المنصور شاہ مراکش کو بدو کے لئے لکھا، مگر وہ ٹال گیا، خوش قسمتی سے شہنشاہ سلیٹیا کے قریب دریا سلاف میں ڈوب گیا، اس پر اس کی فوج میں بد تظہی اور بھوٹ پیدا ہو گئی، اکثر تو وطن کو لوٹ گئے، ٹھوڑی سی جمعیت اس کے بیٹے کے تحت اٹلا کیہ سے ہوتی ہوئی فلسطین میں داخل ہوئی، اور یہاں سے ایک جہاز میں سوار ہو کر وطن کو لوٹی۔ مگر جہاز دستہ میں تباہ ہو گیا، اور اکثر غرق ہو گئے، یہ واقعہ ۱۱۵۰ء کا ہے، اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا، ۱۲۷۰ء صفر ۶۸۰ھ میں غازی سلطان صلاح الدین کا بھی دمشق میں انتقال ہو گیا، تمام دنیا، اسلام تمام کدہ بن گیا،

سلطان کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، سیف الدین الملک العادل نے اسے ختم کر دیا، اور خود شام اور الجزیرہ (عراق) اور شام اور عرب کا مالک ہو گیا، اسی کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا، اور اسی کا سکے رائج ہوا،

حرب صلیب چہارم | سلطان صلاح الدین کی وفات سے دو سال پیشتر پہلے روم

کاسٹائن ثالث (III Calistine) نے پھر سے آتش صلیب مشتعل کی، لیکن صلیب کا جوش و خروش تیسری صلیبی لڑائی کے بعد ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ایک مورخ لکھتا ہے کہ یورپ کی تمام متحدہ طاقت بیروت پر اٹھتی، ملک العادل یلغار کرتا ہوا آیا پہلے یا فہ لیا، اہل صلیب نے "طنین" کا محاصرہ ڈالا ہوا تھا، ان کی سرکوبی کی، اور ہر ایک مقام پر ان کو شکست دی، اور ان ہی کی استدعا پر تین سال کے صلح کا عہد باندھا گیا، یہ لوگ شروع سے اخیر تک رنگ رلیساں ہی مچاتے رہے، میں اس جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا،

مجاہدین صلیب ساحل شام پر بحر شام کے رستہ آ کر اترتے | **حرب صلیب پنجم** | لیکن اکثر بہرستہ قسطنطنیہ آئے، شاہان آسٹریا اور قسطنطنیہ کی ہی کوشش رہتی کہ یہ طوفان بے تیزی جتنی جلدی ہو کر جائے،

پوپ انوسنٹ ثالث (Innocent III) نے پانچویں صلیبی لڑائی کا آغاز کر کے شہر یاریاں یورپ کو لکھا کہ اس کا رخیر میں خود بھی شامل ہوں، اور عام مصارف کے لئے روپیہ بھی فراخ ولی سے تقدس باب کے حوالے کریں، رچرڈ شیردل کو تیسری لڑائی کے تیغ تجربہ کے بعد اس میں کچھ وینی یا وینیوی فائدہ نظر نہ آیا، پوپ کے ایلچیوں کو ٹکاسا جوا دیا۔ مگر یورپ کے دیگر شہزادگان گرم و سرد زمانہ چشیدہ نہ تھے، وہ پوپ کی آواز پر اٹھے یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ پوپ کو طمع مال و زر تھا، اس کی بلا سے اہل صلیب پر کیے گزری ہے،

یہ ہم جب قسطنطنیہ کی حد میں داخل ہوئی، تو مغرول شدہ مقید قیصر سحاق انجلیس (Isaac Angelac) کا بیٹا ایکسین (Alexius) ان کے پاس آیا، اور اپنی داستان غم سنائی کہ چچا نے تخت و تاج غضب کیے کے میرے باپ کی آنکھیں نکلوا دیں، قید خانہ میں ڈال رکھا ہے، اگر میری مدد کرو تو اس کا اجر کفار سے جنگ سے بھی بڑھ کر ملے گا اور میں زر و مال سے تمہاری خدمت کے لئے حاضر ہوں، اہل صلیب نے شہر پر پہلے بول دیا، قسطنطنیہ کا ایک چوتھائی حصہ جل کر راکھ ہو گیا، بد قسمتی سے ان کو اس جنگ ایک مسیحا

کی نظر آئی،

ہیر معاویہ کے عہد میں جب صحابہ اورتابعین نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، حضرت ایوب انصاری
 روڈیگر صحابہ وتابعین بھی اسی کی دیوانوں کے قریب شہید ہوئے، حضرت ایوب انصاری کی
 قبر بھی اسی جگہ تھی، اور غالباً قریب ہی ایک مسجد بھی تھی، جہاں مسلمان تاجر اور زائرین نماز
 پڑھتے مسلمانوں کی لڑائیاں رومیوں سے مسلسل ہوتی رہیں، اور جب بھی صلح کا معاہدہ ہوتا، تو
 ایک شرط یہ بھی ہوتی، کہ اس مسجد کی حفاظت قیصر کے ذمہ ایسی ہی ہے جیسی مسلمانوں
 کے ذمہ انصاری کے گنپا اور دیگر تبرک مقامات بالخصوص مقبرہ مسیح کی،

اہل تثلیث کو اتنی تاب کہاں تھی کہ "روما" کے بعد قسطنطنیہ میں جو یورپ میں سب سے
 بڑا مسیحی شہر تھا، دیکھیں کہ اس جگہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی اجازت مسلمانوں کو
 ہے۔ جن کے ساتھ ان کا جنگ تھا، اس نے بھی جلتی پر تیل کا کام دیا، مسجد اور مقبرہ کو سمار
 کیا۔ مگر اس آگ نے آٹھ روز برابر کئی کینے اور تبرک خاتقاہیں بلکہ کینیا سینٹ صوفیہ پیم
 Sophia کی بھی خطر خواہ بے حسرتی کی، زندگیاں پر دے پھاڑ دیئے، کہ ان میں سے کچھ
 سونے کی مقدار ہاتھ آئے گی، صنعت کی وہ یادگاریں جو اس کینہ کے حسن کو نمایاں کر رہی
 تھیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں، اس میں مسیح اور والدہ مسیح اور آئمہ دین مسیح کی تصویریں بھی تھیں
 جو سنہری وردہلی سوکھٹوں میں بڑی ہوئی تھیں، اہل صلیب شہر کے علاوہ قرب و جوار کے
 دیہات میں بھی جاگئے، اور جو بھی سامنے آیا، مارا گیا، غرض لوٹ گھسٹ کا بازار گرم رہا پھر اس
 مال و متاع سے لدی ہوئی اہل صلیب ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے،

یہ صلیبی لڑائی خود صلیب اور اہل صلیب کے خلاف تھی اور اسی جگہ ختم ہو گئی،
 کسیدہ بود بلائے دے پخیر گذشت!

حرب صلیب ششم | پوپ انوسنت ثالث کو تو صلیبی لڑائیوں میں فائدہ ہی فائدہ
 دکھائی دیتا تھا، اس لئے چھٹی لڑائی کا اعلان ۱۰۹۶ء میں کیا، اور

اس دفعہ اس شد و مد سے سعادت دارین اور دنیاوی برکات کا نقشہ کھینچا، کہ عورتیں اندر لڑکے
 اور لڑکے، اپنا بیچ، جذامی بھی اس میں ذوق و شوق سے شامل ہوئے، ہنگری کا بادشاہ، اور اطریا

اور ڈیوبیریا (Bawaria) کے نواب ڈیوک (Duke) اور زیرین حسب منی کے روس اور امریکہ کی متحدہ طاقت نے دو لاکھ کی جمعیت فراہم کر لی، جو پہلے سو اہل خانہ پر آتے تھے، یہاں قتل و غارت کے بعد ان کی توجہ مصر کی طرف مبذول کی، یہاں دیماط کو محاصرہ میں لے لیا۔

الملك العادل کو تپہ چلا، تو شمال خاں سے تیزی کے ساتھ مصر کی حفاظت کے لئے بڑھا، دمشق کے قریب پہنچا ہی تھا۔ کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹوں نے سلطنت باہم تقسیم کر لی، ابو المعالی ناصر الدین الملك الكامل کے حصہ میں مصر آیا۔ شرف الدین عیسیٰ الملك اعظم کے پاس ملک شام کا اکثر حصہ اور موسیٰ مظفر الدین الملك الاشرف کے ہاتھ ولایت حلب آئی۔

اٹھارہ ماہ کے محاصرہ کے بعد اہل صلیب نے دیماط لے لیا، یہاں شہر نزار کی آبادی تھی، قتل عام کے بعد جو اہل صلیب کی امتیازی عادت ہو چکی تھی، صرف تین ہزار بچے، اس کے بعد وہ القاسرہ کی طرف بڑھے، اگرچہ ملک الكامل کو بھائیوں کی طرف سے کمک پہنچ گئی تھی، مگر اس نے دُور اندیشی سے سمجھ لیا تھا، کہ مقابلہ برابر کا نہیں، اس لئے یہ شرط صلح پیش کی کہ اگر دیماط میرے حوالہ کر دو۔ تو جو مقبوضات مفتوحہ صلاح الدین ہیں واپس کرنا ہوں، صلیبیوں کو یقین تھا کہ مصر کی تسخیر کوئی دن کی بات ہے۔ اس لئے صلح سے انکار کر دیا، خوش قسمتی سے دریائے نیل طغیانی پر آ گیا، اب اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ کہ مسلمانوں نے تمام بند کھول دیئے، اہل صلیب سیلاب کی زد میں آ گئے دیماط سے تمام رسل و رسائل کے راستے منقطع ہو گئے، اور رسد کا سامان جو ان فاقہ مستوں کے لئے آ رہا تھا مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ وہ ایک ایسے مقام میں گھر گئے، جو جزیرہ نما بنا ہوا تھا، مسلمانوں نے بھی چاروں طرف سے حملے شروع کر دیئے، اب ان کے حواس ٹھکانے لگے، صلح کی درخواست کی۔ اپنے اکابر پر شمال میں دیئے، اور صرف اتنا مطالبہ کیا کہ راجل تک بحفاظت پہنچ جائیں یہ مطالبہ منظور کیا گیا۔

حرب صلیب تہتم اور صہر اہل صلیب سے ملک خالی ہوا، اور صہر ملک العادل کے بیٹوں

تتاروں نے شروع ہو گیا، ملک المعظم نے علاء الدین خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین سے
 ازبک شروع کی، اور ملک الکامل نے فریڈرک ثانی شہنشاہ جرمنی سے خط و کتابت
 سلسلہ شروع کر دیا۔ جس کے نام تقدس باب کا حکم صادر ہو چکا تھا، کہ ساتویں لڑائی
 فوراً شامل ہو جاوے، ملک المعظم ۱۲۲۴ء میں فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ملک ناصر ناؤد
 پانچویں ہوا، ۱۲۲۹ء میں فریڈرک ثانی بھی شام کے ساحل پہنچا۔

فریڈرک ثانی *Fraderick II* شہنشاہ جرمنی اوائل عمر ہی سے اسلام
 اگر دیدہ تھا، اس کی پیدائش اور پرورش اور تعلیم و تربیت جزیرہ صقلیہ میں ہوئی تھی
 یہاں کسی وقت اسلامی پرچم لہراتا رہا، اس وقت جرمنی کے مقبوضات میں داخل تھا،
 یہاں بھی تک اسلامی اثر کے تحت تھا، فریڈرک کو عربوں سے اختلاف کی وجہ سے خاص لگاؤ
 تھا۔ خود عربی بدوی لہجہ میں فصیح بول سکتا تھا، اس کے بعض امراء وزراء اور سپاہ میں بھی
 عربی تھے،

”ڈاکٹر ڈیپر“ لکھتا ہے کہ عربوں اور یہودیوں نے اسے چرچ کا مضحکہ اڑانا سکھایا۔ ابن
 رشد کے دو بیٹے اس کے دربار کی رونق تھے، جب پوپ کا حکم اس کے نام صادر ہوا تو اول
 اول تو باتوں اور بہانوں سے ٹالتا رہا۔ جب پوپ دہم کیوں پر اتر آیا، تو کچھ خائف ہو کر
 جنگی جہاز پر قدم رکھا، مگر تیسرے دن باد مخالف کے غدر نے پھر اسے صقلیہ واپس جانے
 پر مجبور کیا۔ پوپ تاڑ گیا کہ صل معاہدہ کیا ہے، فریڈرک کے خلاف ارتداد (Ex, Comm

unicatio) کا فتوے صادر کیا، فریڈرک نے جواب دندان شکن دیا کہ
 ”روم نفساتی خواہشات میں غرق ہے، پادری خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کر رہے
 ہیں، وہ لوگوں کو خداوند مسیح کا وعظ نہیں سناتے، بلکہ اس کی آڑ میں روپیہ
 بٹورتے ہیں، اب وہ حواریان مسیح کی سادگی، پیشوایان دین امیر کبیرین گئے
 چرچ کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور کوئی دم میں بہندہ سہی ڈھونگ ختم ہو جائیگا۔“
 اس کا جواب الجواب ایک اور کفر کا فتوے صادر ہوا، فریڈرک کے لپٹ پناہ مسلمان
 تھے، اس نے روم میں عام بغاوت پھیلا دی، تقدس باب روم سے بھاگے، اس فتح کے بعد

فریڈرک نے مناسب خیال کیا کہ مسیحی دنیا میں فرسار نہ ہو، اس لیے برصغیر و غربت اور فلسطین کی طرف رخ کیا۔

یورپ کے مشہور شہسواروں اور زائرین نے جو خوشی استقبال کیا بلکہ اکال اور فریڈرک میں پیشتر ہی مراسم دوستانہ تھے، اب اس اتحاد کو اور پختہ کرنے کا موقع مل گیا، فریڈرک کے کہیں میں میدینوں کا ہجوم رہتا۔ جنگی مجاولہ کی جگہ مذہبی مباحثہ وہ بھی بغرض تفریح مجلس کی رونق کا باعث تھا، فلسفیانہ نکات میں مسیحت کو رسوا کیا جاتا، سلطان ملک اکال نے ایلچی تحائف کے ساتھ بھیجے جو بخوشی نہایت منظور کر لئے اور ایلچیوں کو چپکے سے خلوت میں سمجھا دیا کہ میں اس جگہ لڑنے کے لئے نہیں آیا، بلکہ بزدلی کا الزام دور کرنے اور مسیحی دنیا کی نگاہ میں وقار قائم رکھنے کے لئے مجبوراً آنا پڑا، اور سلطان سے استدعا کی کہ بیت المقدس چپکے سے میرے حوالے کر دو، کہ میری بات بھی سنی رہے اور جنگ بھی ختم ہو جائے،

یہ جنگ زرگری کچھ دن جاری رہی، اور سلطان نے یروشلم حوالے کر دیا، فریڈرک قواداں و فرعاں فتح کے ثناء دینے بجا ناوطن کو لوٹا، یہاں ایک اور خطرناک فتویٰ کفر اس کا منتظر تھا، پوپ نے نہ صرف فریڈرک کو مرتد اور خارجی قرار دیا، بلکہ مقدس مقبرہ مسیح علیہ السلام اور شہر قدس کو بھی انٹرڈکٹ (Interdict) کے تحت رکھا،

فریڈرک پر حسب ذیل الزامات عائد کئے :-

- (۱) پوپ نے فریڈرک کو بطرس اعظم حواری کے آلٹرڈ (Altar) کے سامنے ایک تہنہ مسیحی دین کی حفاظت کے لئے دی تھی، فریڈرک نے یہ تلوار سلطان کی نذر کی،
 - (۲) فریڈرک نے یروشلم میں قرآن کے وعظ کی اجازت دی،
 - (۳) اس صلح کے عہد سے جو سلطان سے باندھنا لٹا کیہ کے عیسائیوں کو خارج رکھا،
 - (۴) اس عہد نامہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر کبھی مسیحی یورپ یروشلم کو اسلامی نجاست سے پاک کرنے کے لئے جنگ کرے تو فریڈرک مسلمانوں کی طرف سے لڑے گا،
- فریڈرک اور پوپ میں علانیہ جنگ چھڑ گئی، تیس ہزار عرب فریڈرک کے ساتھ تھے مگر یہ واقعات ہائے موضوع سے خارج ہیں، اتنا اشارہ کافی ہے کہ فریڈرک نے اصلاح

Reformation) کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جو لوٹھرو وغیرہ کے کام آیا۔ لوٹھر کو پارگاہ پوپ سے سبب محمد کا خطاب ملا،

حرب صلیب ششم | ملک الکامل سنہ ۱۲۳۸ء میں فوت ہوا، امراء نے پہلے اس کے بیٹے ابو بکر کو اور بعد میں ملک العادل کو تخت پر بٹھا دیا، مگر وہ نالائق ثابت ہوا، تو دوسرے بیٹے ابوب الصالح کے سر پر تاج رکھ دیا۔

شاہ فرانس لوئس نہم ۱۲۷۱ء میں صلیبی لڑائی میں سالار فوج تھا، وہ میاٹ پور آٹرا، جس کو مسلمان اس کی آمد پر خالی کر چکے تھے۔ بندہ گاہ اور شہر پر قبضہ ہو گیا تو اب صلیب اپنی روانتی عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے، بے حیائی اس طرح کھلے بندوں ہو رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہی ایک مذہبی رسم ہے، جسے یہ لوگ خلوص نیت سے ادا کر رہے ہیں، لیکن شہر کب تک ان کے اخراجات مسرفانہ کا تحمل ہوتا، آخر ماہر نکلتا پڑا۔ اور یہ جرات اس وقت ہوئی جب ملک الصالح کا انتقال ۱۲۷۱ء میں ہو گیا،

اس کا ایک ہی بیٹا توران شاہ اس وقت شام میں تھا، والدہ ملکہ منجریۃ الدن نے امرار سے اس کے حق میں بیعت لی، لوئیس شاہ فرانس صلیبیوں کے ساتھ وہ میاٹ سے نکل کر ماہرہ کی طرف بڑھا،

اس حرب صلیب کے چشم دید حالات "جین" (Jean de Joinville) نے لکھے ہیں، یہ ایک ناٹھ (Knight) لوئیس شاہ فرانس کے ہمراہ تھا، اور شاہ فرانس کے ساتھ ہی اسیران جنگ میں بھی شامل تھا، اس نے اپنی تاریخ سنیت لوئیس (Monseigneur de Joinville) میں اس صلیبی معرکہ کے حالات مفصل بیان کئے ہیں، وہ اس معرکہ کو حرب صلیب ہفتم سے موسوم کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ

جب فرنگیوں نے وہ میاٹ پر ۱۲۷۱ء مطابق سنہ ۶۷۰ھ میں قبضہ کر لیا، ملک الصالح ابن ملک الکامل شام میں تھا، یہ خبر وحشت اثر سن کر مصر کی طرف آیا، وہ سخت بیمار لگی میں لایا گیا، لوئیس نے اسے لکھا کہ مصر ہمارے حوالے کر دو۔ جان کی امان دیتا ہوں سلطان نے اپنی فوجیں "منصورہ" میں جمع کیں، جو اس کے باپ ملک الکامل نے ہی بسایا تھا، سلطان کے ہمراہ

اس کی حسین زوجہ شجرۃ الدری بھی تھی، سلطان کو بہت ہار بیٹھا تھا، مگر شجرۃ الدری تمام امور خود نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہی تھی، اتنا محاصرہ میں ملک بصرہ کا انتقال ہوا، شعبان ۴۷۹ھ مطابق نومبر ۱۰۸۶ء میں ہو گیا، شجرۃ الدری نے سلطان کی موت کو کسی شخص پر ظاہر نہ ہونے دیا، لاش خاموشی سے قاہرہ بھجوا دی، جہاں سلطان خزاں ہوا، سلطان کا بیٹا الملک المعظم توران شاہ اس وقت دمشق میں تھا، اسے خفیہ اطلاع دی اور لکھا کہ جلاتا خیر مصر میں پہنچو،

اس اتنا میں اہل صلیب اور مسلمانوں میں دریائے نیل میں اور خشکی میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ جو چند ہفتے جاری رہیں، منصورہ اور اہل صلیب کے درمیان نیل کی ایک کھاری جسے بحر شوم کہتے تھے، عیسائی جان ٹور کو شمش کرتے رہے، کہ اسے عبور کر کے منصورہ پہنچے بول دیں، لیکن مسلمانوں کی دریائی کشتیوں اور خشکی کی طرف سے نذر و نکتہ *de la mer* نے ان کو بہت پریشان کیا، آخر کار ان کو ایک پایاب جگہ کا علم ہو گیا، اور وہ بحر فی کنا کے پورے ان کی پیدل فوج نے ٹورس کے بھائی کاؤنٹ ٹور ٹورانس *Count de Antioch* کے تحت اچانک حملہ کر دیا، یہ حملہ عین غفلت میں ہوا۔ اور مسلمانوں کا سالار فوج محمد الدین مارا گیا، شکست یقینی تھی، مگر اس وقت بحری ملوک دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کا سردار "بیرس بندو قدوسی" تھا، فرنگی صفیں ٹوٹ گئیں، اور شاہ فرانس کا بھائی کاؤنٹ بھی اور اکثر ٹمپلر نائٹ *Templar Knight* بھی میدان میں کھیت رہے، رات کی تاریکی میں یقیناً السیف مشرقی کنا سے پڑا، یہ واقعہ دو ہفتہ ۴۸۰ھ مطابق فروری ۱۰۸۶ء تک پہنچا، اصل میں اس وقت شجرۃ الدری سپہ سالاری کے فرائض سرانجام دے رہی تھی، مصر کی تاریخ میں یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جس کا خاندان چند دن ہوئے فوت ہوا، شمشیر کف میدان جنگ میں فوج کی قیادت کر رہی تھی، اس واقعہ کے دس روز بعد ملک معظم توران شاہ بھی تازہ فوج کے ساتھ آ گیا، اب ملک بصرہ کی وفات کی خبر شائع کی گئی، وہ بصرہ سے اہل صلیب کی کمک کو چند جہاز اسلحہ سے لڑے ہوئے نیل میں آ رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ پڑے، مسیحی فوج کی یہ حالت تھی کہ پہلے منصورہ کا محاصرہ کیا اب خزاں

محصور ہو گئی۔ قحط اور وبا نے بھی ان کے حوصلے پست کر دیئے، ہر طرف سے نفٹ کے بان برس رہے تھے۔ ٹوٹس نے صلح کی درخواست اس شرط پر کی، کہ مصر سے اپنی فوج ہٹا لے گا، لیکن یروشلم اس کے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہ درخواست مسترد کی گئی۔ ٹوٹس ۲ محرم الحرام ۶۳۸ء مطابق ۱۵ اپریل ۱۲۵۰ء کو پردہ شب کی تاریکی میں وہماط کی طرف ہٹ رہا تھا، مگر مسلمان ان کی لقل و حرکت دیکھ رہے تھے، بوش و خروش سے حملہ کیا، اور صبح ہوئی تو فرنگی ہر طرف سے نرغہ میں تھے، گھسان کارن پڑا، مسلمانوں کا حوصلہ بلند تھا۔ مگر فرنگی بھی جان سے ہاتھ دھو کر لڑے، آخر پل صلیب نے شکست فاش کھائی، ہزاروں اسیر ہوئے، جن میں خود ٹوٹس بھی تھا، اس نمایاں فتح پر جمال الدین ابن مطروح والے دمشق کے مشہور شاعر نے ایک قصیدہ لکھا

سینٹ ٹوٹس کو یہ نصیحت ایک نصیح شخص
کی زبانی سنادو

یسوع مسیح کے پوجاریوں کی ہلاکت جو تیری
دوبہ سے ہوئی، خدا تجھے اس کا اجر دے
مصر میں اس ملک پر قابض ہونے کی ہوس
تجھے لائی، تیرا خیال تھا کہ تیرا جوش مذہبی
مفید ثابت ہوگا،

تقدیر نے گنجان شکر کی طرف تیری رہنمائی کی
جن کا شمار تیری نظر نہ کر سکی،
تُو نے اپنے سین تذبذب سے اپنے تمام ہم نشین
لوگوں کو قبر کے عیسق گڑھے میں دھکیل دیا
یہ سات ہزار تھے جو یا تو قتل یا اسیر یا
زخمی ہوئے۔

خدا کرے کہ تو اسی طرح یہ عمل دہرا رہے

قل لئن نیس اذا جئت
لقال نصی من قولا نصی
جرک اللہ علی ماجری
ن قتل عباد یسوع المسیح
تیت مصر تبغی ملکھا
حسب ان انسر مر باطل ہایم

فساتك العين الى امهم
باق به عن ناظريك الفسیم
کلی اصحابك اودعتهم
فس تدبیرك بطن الضرایم
سبعون انعالا یرى منهم
لا قتل او اسیر او صریم
وفتک اللہ لا مثالها

فعل عیسئی عنکد یتریمے تاکر عیسے تجھ سے نجات پائے۔

ان کان بابا کمد بذا اراضیا
فرب غش قذاتی من نصیم

اگر تمہارا پاپائے روم اس پر راضی ہو۔ تو
ایک مشورہ دینے والے (شیطان) سے
فریب ہی متوقع ہے۔

وقل لھمان اضمروا عوتہ

لاخذ شمارا و الفعل قبیم

واسرا من لقمان علی حالھا

والقید باق والطواشی صبیم

ان کو کہو کہ اگر وہ بغرض انتقام یا کسی اور
منصوبہ کے ساتھ مراجعت کی ٹھان لیں
تو ابن لقمان کا گھران کی تواضع کے لئے
اور صبیح کی زنجیریں ان کو جکڑنے کے لئے موجود ہیں۔

آخری شعر میں ابن لقمان سے مراد قاضی القضاة ہے جس کے قید خانہ میں لوہیں

اس کے ہمراہی مقید رہے، جن کو جمال الدین صبیح جکڑ کر لایا تھا۔ یہ مملوک بگری کا ایک

سرور تھا، چار لاکھ دینار ملکہ فرانس مارگریٹ نے *Marquise de*

Provence - جو میاٹیں تھی۔ بعد مشکل جمع کئے اور زرخیز دے کر شوہر

کو آزاد کرایا۔

ملک الصالح نے ملوک کی ایک فوج تیار کی تھی جن
دولت ترکیب ایک مصریہ بگری ملوک کہتے ہیں۔ ان کی رہائش بگریل کے کنائے

پر تھی اس لئے وہ اس نام سے موسوم ہوئے۔ یہ نہایت خود کسر تھے، تو ان شاہ نے

الامہ کیا۔ کہ ان کا قلع فتح کیا جائے۔ لیکن ان ہی کے ہاتھ سے قتل ہوا، اس کی والدہ شجرہ

کو ان لوگوں نے تخت مصر پر بٹھا دیا۔ اس نے ترکیبانی سرور امیر مضر الدین ایک

سے نکاح کر لیا لیکن بگری ملوک نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایوبی خاندان کا شہزادہ تخت نشین

موسیٰ بن یوسف بن اسد الدین شیرکوہ کو جو اس وقت فرمانروائے یمن تھا تخت مصر

کیا۔ امیر مضر الدین ایک مددگار رہا، لیکن ملک اشرف سے نہ بنی، اس لئے ملک واپس

یمن کی طرف چلا گیا، اور ایک سلطان مصر ہو گیا،

خاندان الیوبیہ کا خاتمہ مصر میں ہو گیا۔

شام اور عراق میں ایوبی خاندان کے والیان ملک نے طوائف الملوک کی قائم کی
 مئی تھی۔ الملک الناصر کو بارگاہ خلافت سے سلطان کا خطاب عطا ہوا، صلاح الدین نے
 نے برادر زادہ الملک المنظر تقی الدین کو "حما" کا والی مقرر کیا تھا، اس کی اولاد میں مسلسل رہا
 ہیں لشت میں مشہور مورخ الملک المویذ عماد الدین اسمعیل ابو القدا "حما" کا والی تھا۔
 امیر مصر الدین ایک دو سال سلطنت کے بعد قتل ہوا، اس کا بیٹا ملک منصور
 رالدین علی تخت نشین ہوا، ایسی خاندان کا خاتمہ الملک المنظر رکن الدین پیرس نے
 ہلاک کیا، بغداد کی تباہی کے بعد شام پر حملہ آور ہوا تو پیرس نے اس کی فوج کو سرحد
 راق پر شکست دی، مستعصم باللہ تو ہلاک ہو گیا، ہاتھ سے ہلاک ہوا، پیرس نے پھر سے
 اتت عباسیہ مصر میں قائم کر دی، پیرس کی اولاد میں سلطنت ۸۳۳ء تک اکتالیس برس
 ن۔ اس کے بعد مصر میں دولت چرکیہ کا دور شروع ہوا، اور آج تک قائم ہے۔ ہم اس
 مذاہل کے حالات اپنے زمانہ کے حکمرانوں کے حالات کے تحت مناسب مقام پر
 میں گے، ہر دست قارئین کو وسط ایشیا اور ایران اور ہندوستان کی اسلامی سلطنتوں
 طرف لاتے ہیں۔

آل طاہر خلافت عباسیہ کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں کہ خراسان ولایت ہے جہاں ہمیشہ شور و غوغا رہی، چنانچہ ابو مسلم خراسانی نے اموی خلافت کے خلاف اسی ملک سے علم بغاوت بلند کیا، اس کے بعد یہاں سے مدعیان نبوت بھی پیدا ہوئے، خلیفہ ماموں رشید کے عہدِ خلافت میں خراسان حکومت طاہر کو ملی، جس نے خلیفہ امین ماموں کے بھائی کو قتل کیا اور کل دنیا اس کا واحد مالک ماموں کو بنا دیا تھا،

شجرہ نسب خاندان طاہر

مصعب
حسین
طاہر

عبداللہ

طاہر متوفی ۸۴۲ھ


محمد ۸۴۳ھ

آل طاہر کا دارالسلطنت نیشاپور تھا، اگرچہ حکومت طاہر یہ خلافت عباسیہ کے تحت مگر خود مختار ہی تھی، اسی طرح اور بھی ولایات کو خود سری اور خود مختاری کا حوصلہ ملتا رہتا رہتا تمام ولایات کے والی خود مختار بن بیٹھے، ہر ایک کو اپنے ملک کی وسعت کی ہوس بھی تھی اس لئے خانہ جنگی بھی جاری رہتی،
طاہر یہ حکومت کا آخری تاجدار محمد تھا جو یعقوب بن لیث کے ہاتھ سے مارا گیا،

یعقوب کا باپ لیث بودار تھا، اس نے اس خاندان کو "صفاریہ" کہتے ہیں
 یہ ایک معمولی سپاہی تھا،

صفاریہ

شجرہ نسب



یعقوب کا پیشہ ابتدا میں قزاقی اور سرقہ تھا، چوروں کی ایک جماعت کے ساتھ امیر حسین
 بن حسین دکن بھجستان کے خزانہ کو لقب لگائی، بوریان نکالیں، پہلی بوری کھولی، تو اس
 میں سے منک نکلا، سمجھے کہ سب بوریان منک سے بھری ہیں، اس نے چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح
 امیر کو اطلاع ہوئی، تو چوروں کی تلاش ہوئی، آخر امیر نے اعلان کیا اگر چور حاضر ہو کر
 داروات سرقہ کے حالات بتا دے تو قصور بھی معاف کیا جائے گا، اور انعام بھی دیا جائے گا۔
 یعقوب بے دھڑک حاضر ہوا، اور کہا حضور یقین تو یہ تھا کہ خزانہ میں درہم و دینار ہوں گے
 نکلا منک، "میں منک حیران نہیں ہوں"

امیر بہت خوش ہوا، اور مقربان دربار میں جگہ دی، اس نے چند روز میں امیر اور رعایا
 کے دل میں گھر کر لیا، امیر میں سپاہیانہ ولولہ نہ تھا، اس نے ایک لشکر فراہم کر لیا اور عسکری
 تعلیم و تربیت دے کر اس قابل بنا دیا کہ ہمسایہ والیان ملک بھی خوف زدہ ہو گئے، درہم کی
 وفات کے بعد امیر بھجستان تسلیم کیا گیا،

آل زیدریہ علویہ خراسان پر آل طاہر حکمران تھی، اور طبرستان میں زیدریہ حکومت
 تھی، محمد بن طاہر آخری تاجدار کو خراسان سے بھاگتے ہی بنی
 خراسان پر قابض ہو کر اب طبرستان کی تسخیر کا ارادہ کیا، طبرستان کی حکومت کا مختصر
 حال یہ ہے کہ یہ خاندان علوی تھا۔

شجرہ نسب

حضرت علی

حسن

زید

حسن

سید علی

محمد

زید


محمد قائم بالحق

حسن اطوی

حسن بن زید کا نسب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے طبرستان کے لوگوں میں دعوت
 آل محمد شایع کی، اور بعد ازاں وہاں کا حاکم تسلیم کیا گیا، ۸۷۴ء میں یعقوب بن لیث نے
 اس حکومت کا خاتمہ کر دیا،

دولت صفاریہ کی ایک اور حریف سلطنت سامانیہ تھی۔ مختصر
آل سامان | حالات حسب ذیل ہیں :-

شجرہ نسب آل سامان



پہرام جوین کی نسل سے اسد بن سامان تھا۔ ماموں کو خاص لگاؤ اہل ایران سے تھا۔

اس لئے اس کا بھی بہت احترام کرتا، اس کے چار بیٹوں نے بغداد میں تعلیم و تربیت پائی اور اعلیٰ مناصب بھی حاصل کئے، نوح سمرقند اور یحییٰ شاش، اور احمد فرغانہ اور الیاس ہرات کا حاکم ہوا، ان کو آل طاہر کے تحت رکھا گیا، جو ولایت خراسان پر حکمران رہے۔

سہیل بن احمد پہلا شخص ہے جو بادشاہ کہلایا، اس نے ترکستان کا اکثر حصہ فتح کر لیا۔ شاہ ترکستان اور اس کی خاتون کو گرفتار کر کے سمرقند لایا، تمام علاقہ ماورالنہر اس کے قبضہ میں آ گیا۔ دارالحکومت بخارا مقرر کیا، خلیفہ بغداد نے بھی خلوت سلطانی عنایت کیا آل سامان یوں تو خود مختار تھے اور سلطنت موروٹی تھی، مگر دوبارہ خلافت کا احترام دیگر خود مختار سلاطین کی طرح اتنا ضرور تھا، کہ سالانہ نذر و نیاز پیش کرتے رہے جسے خراج سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

آل سامان کی حریف سلطنتیں صفاریہ اور دیلمہ اور زیدیہ تھیں ان سے اکثر جھڑپیں ہوتی رہیں، سہیل آخر عمر میں بد مزاج ہو گیا، اس لئے اراکین دولت کی سازش سے قتل ہوا، منصور ابن نوح بن ابوالحسن نصر اپنے بھائی عبدالملک کی وفات کے بعد خراسان اور ماورالنہر کا بادشاہ ہوا، عبدالملک کے بعد اس کا غلام ہشتکین سپہ سالار افواج تھا وہ منصور کی تخت نشینی کے خلاف تھا، جب منصور دارت تخت و تاج ہوا تو بھاگ کر غزنی کے پہاڑوں میں پناہ لی اور اسی کے غلام اور داماد سبکتگین نے غزنی میں خاندان غزنویہ کی سلطنت قائم کر دی۔

نوح اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، عضد الدولہ ولعی اس وقت خلیفہ اور خلافت کا سرپرست تھا، وزیر فخر الدولہ سے اکثر معرکہ آرائی رہی، نوح فخر الدولہ کا طرد تھا، لیکن اکثر دفعہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا، دیگر سلاطین نے بھی ہر طرف سے اس کی یورش کی اور اس کے ہاتھ سے خراسان، اور جرجان اور طبرستان نکل گئے، اکثر امارتوں کی ثابت ہوئے، اس وقت سبکتگین غزنی میں تھا، اسے مدد کے لئے لکھا، وفادار غلام ابوبکر سلطانی کے لقب سے اعزاز کرتا رہا، اور اپنے آپ کو آل سامان کے تحت ہی سمجھتا رہا۔


اپنے بیٹے محمود کے ساتھ مدد کو آیا اور شمنوں کو شکست دے کر پھر سے نوح کو ماورالنہر کی بادشاہت
 دلوائی، نوح نے سبکتگین کو ناصر الدولہ والدین اور محمود کو سیف الدولہ والدین کا خطاب
 عطا کیا،

منصور بن نوح بن منصور تخت نشین ہوا۔ تو امراء و بابر کی باہمی رقابت اور بعض
 ملک حراموں کی سازش سے نظام سلطنت درہم برہم ہو گیا، منصور کو معزول کر کے
 انھیں نکلوا دیں، اور اس کے بھائی عبدالملک کو تخت پر بٹھا دیا، یہ امراء کے ہاتھ میں
 کٹ پتلی تھا، محمود سے لڑا دیا، آخر بھاگتے ہی بن پڑی، ایک کاشغر کے پٹھان نے اسے
 گرفتار کیا، اور خود دار سلطنت پر قابض ہو گیا، اس کے بھائی منتصر نے کچھ ہاتھ پاؤں ملے
 مگر کچھ کام نہ بنا، اور اسی پر پال سامان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی
 خزیوہ نے دولت صفاریہ کو بھی بے سرو سامان کر دیا،

خاندان مخزنوفیہ

شجرہ نسب سلاطین مخزنوفی

۶۲



اس سے بہت عرصہ پہلے سے گرفتار رہا ہے، ایک انتباہ فطرت کی طرف سے ہے مگر ہمارے
 زمانہ تک نہ سمجھا اور نہ قریب تر زمانہ میں توقع ہے، کہ سمجھ بوجھ سے کام لے گا، خیبر یہ
 مرحلہ ارتقاء تو ابھی بہت دُور ہے، لیکن جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، تو میں بنتی اور بگڑتی
 رہیں۔ لیکن نشاء فطرت پورا ہوتا رہا ہے، انسانیت مسلسل ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے
 اور ایک روز اسی نے اسی اعلیٰ مقام پر آنا ہے جس کی طرف قرآن عظیم رہنمائی فرما
 رہا ہے، لیکن بعد از ہزار سواتی،

خاندان غزنویہ کا مشہور تاجدار سلطان محمود ہے، چہرہ پر چھپک کے داغ تھے،
 اور جن صورت سے عاری تھا، اس کی زندگی کا اکثر حصہ مجاہدانہ سرگرمی میں گزرا بالخصوص
 ہندوستان جیسے گرم ملک کے میدانوں اور ریگستانوں میں سترہ دفعہ آندورفت سے
 سفید و سرخ رنگ کو سانولہ کر دیا تھا، گبن لکھتا ہے کہ
 "اس مسلمان" ہیرو" کی دُور دراز ممالک تک یلغاروں کا مقابلہ اگر یہی بال
 (Hamid) کی مالچ سے کیا جائے، جس کو نیولین "دنیا کے تمام سپہ سالاروں
 پر فضیلت دیتا ہے تو موخر الذکر ہیچ معلوم ہوتا ہے؛"

غزنی افغانستان کا ایک پہاڑی حصہ ہے، خاندان غزنویہ کے ساتھ سلامتی تاریخ
 افغانستان کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت پشاور اور کابل اور افغانستان کا اکثر حصہ پنجاب
 کے راجہ جیپال کی عملداری میں تھا، ہوس ملک گیری نے مغرب کی طرف غزنی کی جانب
 لشکر کشی پر آمادہ کیا تو یہاں سبکتگین سے تصادم ہوا اور منہ کی کھانی پٹی۔

سلطان محمود کی فتوحات کا تذکرہ بے فائدہ ہے، کیونکہ تاریخ ہند میں ان کو
 نسیاں جگہ دی گئی ہے، اور ہر ایک طالب علم واقف ہے، "تاریخ مینی" میں عتبی
 (متوفی ۱۱۷۸ء) نے سلطان کے حالات مفصل چشم دید لکھے ہیں، لیکن فتوحات کے
 ضمن میں ایک خاص بات قابل توجہ ہے کہ سلطان پر نادانف مورخین کا یہ الزام ہے کہ
 اس نے ہندوؤں کے مندروں کو مسمار کیا اور بتوں کو توڑا، اور یہ کہ اس کے حملوں کا
 بھی ایک خاص مقصد تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہندو شیعہ تمام ہندوستان میں اسلام

پھیلاوے، مندروں کو تو اس نے مسمار نہیں کیا، البتہ سو مینا تھجی کے بت کو ضرور توڑا اور اس کے حلوں کا مرکز کوئی نہ کوئی مند رہمیشہ ہی رہا، اس نے کسی کو بڑو شمشیر مسلمان نہیں بنایا، پنجاب کے راجہ جے پال سے اس کے والد سکتگین کی لڑنیاں ہوئیں یہ ایک ہمایہ ملک تھا۔ سلطان سے بھی لڑنیاں ہوئیں، اور ہمیشہ فتح سلطان کی ہوئی لیکن اس پر بھی سلطان نے اس کے ملک پر غاصبانہ تصرف نہیں کیا۔

ہند پال پیر جے پال نے شکست کی ندامت سے خودکشی کی اور سلطان نے بھی آئے دن کی لڑائی سے مخلصی حاصل کرنے کے لئے پنجاب کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا یہ واقعہ کہ اس کی توجہ ہمیشہ مندر ہی رہے تاریخی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان ایام میں مندر ہی زرو مال کا خزانہ تھے، ہندوں پر دینی حکومت ہمیشہ غالب رہی ہے۔ یہاں تک کہ دنیوی حکومت جو چھتری راجوں کے ہاتھ میں تھی، برہمنوں کی دینی حکومت سے ہمیشہ دبتی رہی، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندو تاریخ کا آغاز ہی برہمنی اقتدار کے شروع ہوتا ہے، چھتری راجے تھے مگر وزارت ہمیشہ لازماً برہمن کے ہاتھ میں رہی۔ اور وہی سیاہ و سپید کا مالک ہوتا،

خلفاء عباسیہ نے بھی اپنے نظام حکومت میں وزارت کو داخل کر لیا، اور اس کے نتائج بھی دیکھ لئے، چھتری راجوں نے جب دیکھا کہ وہ بالکل ذریعوں کے رحم و کرم پر جیتے ہیں تو ردِ عمل ہوا، جس کو راجہ رام چندر چھتری اور برہمن رادن کے جنگ میں استعاراً بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعد برہمنوں کا وہ زور نہ رہا۔ مگر شجہ گھڑی مشجہ لگن مہوڑا برہمن ہی بتاتے اور وہ مذہبی کتب ویدتاشتر کے بھی عالم تھے، ویدوں کی سنسکرت مزہ زبان تھی۔ اور برہمن ہی جانتے تھے، لیکن غیر برہمن کو نہ بتاتے اس لئے یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آج بھی برہمن کی دینی حکومت قائم ہے، اور اس کی آڑ میں دنیوی زرو مال زیادہ سے زیادہ ان کو ملتا ہے، مندروں کے متولی بھی تھے، جہاں ہر ایک شخص حسب مقدار چڑھاوا چڑھاتا، حد ہے کہ راجے اپنی بیٹیوں تک نذر کر دیتے، غرض مندروں میں زرو مال اتلا جمع تھا، کہ راجوں کے ہاں بھی نہ ہوتا، اور اسی کی کشش تھی کہ سلطان کی توجہ کو جذب

یہی تھی، سو مناتھہ کی مورتی خالص سونے کی تھی، جب سلطان نے اسے توڑا تو اس کے
 ڈر سے جو اسرات اُگل پڑے، اسی ایک بُت کی شکست و ریخت کا ذکر تاریخوں میں سے
 سلطان جانتا تھا۔ کہ بت پوجاریوں کے ہاتھ کی صنعت ہے، اس کے توڑنے سے نہ کمی
 واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی، مندر بھی سنگ و خشت کی عمارت ہی ہیں، اگر ایک گرایا جائے
 اس کی جگہ بہتر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ان فضول باتوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوا۔
 دوسرا الزام جو سلطان پر شد و مد سے لگایا جاتا ہے، بخل کا ہے، ابو القاسم فرشتہ
 لکھتا ہے کہ

”مورخین کا یہ الزام بخل و طمع سلطان محمود کے خلاف بے بنیاد ہے اور صریحاً
 انصافی ہے، اگرچہ دولت اس کے پاس ذخیرہ رہتی، مگر فتح بلا دہرہ دل کھول کر خرچ کرتا،
 ناب مقالات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل اس امر کے شاہد ہیں کہ اس کے دربار
 میں فقیر علماء و فضلاء اور شعرا اور حکما کی کثرت تھی، جو اس کے مائدہ احسان اور خزان
 ست سے بہرہ مند ہوتے، کہ کسی بادشاہ کو کم نصیب ہونے ہوں گے، ارباب بصیرت
 جانتے ہیں کہ یہ امر بدون صرف درم و دینار میسر نہیں ہوتا، اہل حیثیت اور وضع و اڈوں
 و دست رکھتا تھا، اور انعام و اکرام سے نوازش فرماتا، اس کے علاوہ مستحقین کے وظائف
 بھی مقرر تھے، عصا میری رازی نے ایک قصیدہ مدحیہ لکھا، سلطان نے چودہ ہزار
 درم انعام دیا، جس شخص کے بذل درم کا یہ جوصلہ ہو وہ بخل و طمع کا نام کیسے ہو سکتا ہے“
 جس طرح ایک سو مناتھہ کی مورتی توڑنے پر سلطان بت شکن مشہور ہوا۔ اسی طرح
 ایک فروری کے شاہنامہ کی معبودہ رقم ادا نہ کرنے پر بخیل بن گیا، اول الذکر واقعہ تو تاریخی
 ہے، دوسرا محض دشمنوں کی اختراع ہے جس نے تاریخی صداقت محض اس لئے حاصل
 کی کہ اسے خاص شہرت دی گئی، اور ہر ایک مورخ بلا تحقیق نقل کرتا رہا۔

ہم نے اس موضوع پر ایک مقالہ رسالہ ”ایشیا“ امرت سر میں سنہ ۱۹۰۶ء میں شائع
 کیا، پھر ہی مقالہ رسالہ تہذیب الاخلاق امرت سر میں شائع ہوا، تیسری دفعہ ہاری
 کتاب ”مشاہیر اسلام“ میں جو سنہ ۱۹۰۳ء میں طبع ہوئی شائع ہوا، اس مقالہ میں ہم نے

شاہنامہ کی داخلی شہادت پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، کہ شاہنامہ سلطان کی تخت نشینی سے سترہ سال پیشتر مکمل ہو چکا تھا، اور جب اس کو تخت کیانی نظر آیا، اس تلاش میں تھا، کہ کسی والی ملک کے حضور پیش کرے۔

ندیدم سرافروز زرخندہ بگاہ کیساں پر درخندہ
سخن زانگہ دہشتم سال بیت بدال تاسزاوار این گنج کیت
فردوسی خود لکھتا ہے کہ

زہجرت شدہ پنج ہشتاد بار کہ گفتم من این نامہ شاہوار
یعنی سترہ سال میں شاہنامہ ختم کیا، دس سال بعد جب کہ سلطان کے حملہ قنوج نے دنیا، اسلام میں سلطان کا نام بلند کیا۔ فردوسی بھی حاضر دربار ہوا، ایک قصیدہ لکھا، جس میں قنوج کا خاص طور پر ذکر کیا ہے،

کیے گفت این شاہ روم است دہند ز قنوج تا پیش دریا و سند

چونکہ ہم نے اس موضوع پر مفصل بحث اپنے مقالہ میں کی ہے اور اس کا اثر ہمارے معاصر اہل الرائے پر بھی ہوا جنہوں نے ہماری تحقیق کا فائدہ اٹھا کر مقالے لکھے اور ہمارا نام نہیں لیا، اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔

سلطان محمود کی مجاہدانہ سرگرمی نے صرف اتنا کیا کہ سن ۱۰۰۰ھ میں تو اسلام بہت پیشتر شائع ہو چکا تھا، اب ہندوستان کا رستہ بھی صاف ہو گیا، اور یحیٰ بن برونہ ہندوستان میں سفر کیا، اور یہاں کے پنڈتوں سے ملا، سلطان کا درباری تھا، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی تعلیم مدرسہ نظامیہ میں دی جاتی، جس کو نظام الملک طوسی اور ملک شاہ سلجوقی نے تعمیر کیا تھا، اور جس کا ایک وظیفہ خوار طالب علم شیخ سعدی بھی تھا، کے علاوہ خود سلطان نے کئی مدرسے غزنی میں کھول رکھے تھے، اور یہاں سنسکرت بھی پڑھائی جاتی۔ اسیران جنگ میں کئی پنڈت بھی تھے، جن کو پیش قرار ماہانہ ملتا، اور یحیٰ بن سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا، اور علم ہیئت میں بھی ماہر تھا، ہمارے زمانہ میں کس ہولہ کو پنڈت کہنا چاہیے حالانکہ اس نے کسی پنڈت سے باقاعدہ سنسکرت نہیں سیکھی تھی،

ایک انگریز مؤرخ مسلمان مورخین کے حوالہ پر لکھتا ہے کہ
 "محمود نے ہندوستان پر حملے مسلسل کئے۔ مگر محرک مذہبی جنون نہ تھا، اس کے
 ہمعصر مؤرخ اس امر کا کہیں ذکر نہیں کرتے، کہ اس نے کسی ہندو کو زبردستی
 مسلمان بنایا ہو، اور نہ کسی ہندو کو میدان جنگ کے باہر قتل کیا ہو، بیت
 و بیت خانہ کی شکست و ریخت بھی لڑائی کے وقت ہی ہوئی، اس کی حالت
 میں نہ کسی بیت کو توڑا اور نہ کسی مندر کو سہاڑ کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غزنی
 میں جو ہندو آباد تھے، انہیں کامل مذہبی آزادی حاصل تھی، اور ان کے شہری
 حقوق ایسے ہی محفوظ تھے، جیسے مسلمانوں کے، اکثر ہندو مسلمانوں کی طرح نظام
 اور انتظام سلطنت میں حصہ لیتے رہے، اور ان میں سے بعض "ملک اور بیج" جیسے
 جیسے امراء کے طبقہ میں شمار ہوتے، اور وہ ہر طرح قابل اعتبار اور سلطنت کے
 خیر خواہ اور وفادار بھی ہوتے، اگر اس کی لڑائیاں ہندو راجوں سے ہوتیں۔ تو
 ویسی ہی ایران اور ماد النہر کے مسلمان سلاطین سے بھی تھیں، یہی لوٹ گھسٹ
 جو وادی گنگا میں جاری رہی وہی کوہ "ومازند" اور "سجوں" کے کنساروں پر بھی
 روا رکھی"

سلطان محمود تیس برس کی عمر میں تخت نشین ہوا، ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی،
 میں سالہ حکومت کے دورِ دورہ میں اس نے آرام حرام قرار دے رکھا تھا، اس کا
 پائل ہمیشہ رکاب ہی میں رہا، عراق سے وادی گنگا اور خوارزم سے کاٹھیادارِ گجرات تک اس
 کا جولا نگاہ تھا، کسی لڑائی میں اس نے شکست نہ کھائی، حالانکہ اس کا مقابلہ بہتر میں جنگ جو
 پیرسپامیل سے ہوا، وسط ایشیا کے ترک اور ہندوستان کے راجپوت اس کے
 سامنے جھک گئے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، محمود کو ہندوستان کا بادشاہ کہنا صحیح نہیں،
 اس نے اس کا کوئی حصہ اپنی مملکت میں شامل نہ کیا جو دراصل عراق سے غزنی تک ہی تھی
 پنجاب کا الحاق اس نے عبور کیا، محمود نے جب قنوج پر حملہ کیا تو یہاں کے راجہ

راجپال نے اطاعت اختیار کی، محمود غزنی کی طرف لوٹا، تو راجپوت راجپال کی غیرت
قومی حرکت میں آئی، قنوج کے راجہ کو قتل کیا، اور اس کے خاندان کو تخت و تاج سے
دست بردار ہونا پڑا، اس کا سرغٹہ "چندل" کا لہجہ کا راجہ تھا، محمود کو اطلاع ہوئی
تو راجہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے پھر لوٹا، چندل بھاگ گیا، راستہ میں راجہ ترلوچن پال سے
انگ پال پسرے پال کی طرف سے کچھ مزاحمت ہوئی، اس لئے اسے برطرف کر کے لاہور
میں اپنا نائب مقرر کیا، جو اس کا مشہور غلام ملک ایاز تھا۔

سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مسعود تخت نشین ہوا، سلطان محمود
کے عہد میں احمد نیا سنگین افسر خزانہ تھا، مسعود نے ولایت پنجاب کا انتظام اس
حوالہ کیا، قاضی صاحب کو یہ امر ناگوار گذرا، کہ احمد نیوی امور میں تو دخل دے رہا تھا
وہی معاملات میں بھی دست اندازی کرنے لگا، بد قسمتی سے احمد نے بنارس پر چڑھائی کی
تو یہاں کچھ بے اعتمادی خلاف احکام شرعیہ ظہور میں آئی، قاضی صاحب نے سلطان
کے کان بھرے، سلطان نے مناسب خیال کیا کہ ہندوؤں پر منہد وہی حکومت کا اہل
ہے، "تلک" کو جو غزنی میں ہندوؤں کی توجہ کا افسر علی تھا احمد کی جگہ مقرر کیا
تلک فارسی اور منہدی زبانوں کا ماہر تھا، دو سال کے عرصہ میں اس نے انتظام
خاطر خواہ کر دیا، بلکہ سلطنت غزنویہ کو ہانسی تک وسعت دے دی۔

سلطان محمود کے عہد کا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک ترکمانی قبیلہ ماوراالنہر میں
آکر آباد ہو گیا، اور عملاً اپنی حکومت قائم کر لی، سلطان صرف سالانہ خراج پر راضی ہو
گیا، پھر غالباً اس خیال سے کہیں زیادہ زور نہ پکڑ جائیں، اس قبیلہ کی ایک شاخ کو خراسان
میں لا کر بسایا، ان کا سردار سلجوق تھا، سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسعود
نے چاہا کہ سلجوقیوں کو خراسان سے نکال دے، ہرات پر مقابلہ ہوا تو سلطان مسعود
نے شکست کھائی، خراسان غزنی سے علیحدہ ہو گیا۔

خاندان سلجوقیہ کے حالات ہم بیان کر چکے ہیں، ۱۱۵۵ء میں غوریوں نے غزنی پر قبضہ
کر لیا اور آخری تاجدار خسرو ملک نے لاہور میں پناہ لی۔

اب ہم مہندوستان کی تاریخ اسلامیہ بیان کریں گے، لیکن ابھی چند واقعات ایسے ہیں جو وسط ایشیا میں رونما ہوئے، تاریخ ہند سے ان کا گہرا تعلق ہے، ان کے مناسب بیان کے لیے ان واقعات کو جو معیہ شہنشاہیت کے بنیادی اسباب ہیں ہم پہلے بیان کریں، ان واقعات نے ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ جس کا اثر ایران اور شام اور عرب اور شمالی افریقہ پر پڑا۔

سلطنت خوارزم شاہیہ | خوارزم شاہی سلطنت سلجوقی سلطنت کے خاتمہ پر ظہور میں آئی۔

شجرہ نسب سلاطین خوارزم شاہیہ

ازوشتگین

(۱) قطب الدین محمد ۶۹۰ھ

(۲) التمز ۵۲۱ھ

ایل ارسلان شاہ ۵۵۱ھ

سلطان شاہ محمود ۵۶۶ھ | بگمش خاں ۵۸۹ھ
 علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ ۵۹۶ھ

رکن الدین (حاکم عراق) | جلال الدین (حاکم خوارزم) | غیاث الدین (حاکم کرمان) | قطب الدین

خاندان جس کو آپ "خیموا" کہتے ہیں، ملک شاہ سلجوقی کی سلطنت میں شامل تھا،
 ملک شاہ کا ایک غلام نوشتگین نامی تھا، اسے حکومت خوارزم سپرد ہوئی، اس کی
 اولاد میں اس کا بیٹا محمد پہلا سلطان خوارزم شاہ ۶۹۰ھ میں کہلایا، اس کا لقب
 قطب الدین تھا، سلطان سنجر کا دف دار رہا، اس نے بتیس سال حکومت کی۔ اور
 ۷۰۰ھ میں فوت ہوا، اس کا بیٹا التمز جانشین ہوا، اسی سے حکومت کے بعد
 ۷۰۵ھ میں مر گیا، اس کا بیٹا ایل ارسلان شاہ سترہ سال حکومت کے بعد انتقال
 کر گیا، ایل ارسلان شاہ کے چھوٹے بیٹے سلطان شاہ نے تخت و تاج سنبھال لیا، بڑے
 کھائی گشت تال نے بھی دعویٰ شاہی کیا، اور دونوں بجائیوں میں صلح ہو گئی سلطان شاہ
 ۷۱۰ھ میں فوت ہوا، تو تگش شاہ خراسان اور عراق پر بھی متصرف ہو گیا، اس وقت
 سلطنت عباسیہ پر ناصر الدین التمد کا قبضہ تھا، تگش کے مقابلہ میں شکست کھائی،
 تگش کا بیٹا سلطان محمد خوارزم شاہ تخت و تاج کا وارث ہوا، غیاث الدین غوری
 خراسان کو اپنی مملکت میں شامل کرنا چاہتا تھا، محمد خوارزم شاہ سے معرکہ آرائی ہوئی،
 خوارزم شاہ غالب آیا، غیاث الدین کے بجائی شہاب الدین نے بھی کوشش کی مگر
 کچھ پیش نہ گئی، شاہ خوارزم نے ملک خطا دغتن پر بھی قبضہ کر لیا، اور غزنی اور غور بھی
 اس کی مملکت کی حدود میں آ گئے، سلطنت غزنویہ کا خاتمہ تو غوری کر چکے تھے غوریوں
 کو ختم خوارزم شاہ نے کر دیا۔

کہتے ہیں کہ غور کے خزانہ میں خلیفہ بغداد کو ایک خط ملا، جس میں شہاب الدین
 کو خوارزم شاہ کے مقابلہ کی ترغیب دی گئی تھی، اس لئے اس نے ارادہ کر لیا کہ خود خلافت
 پر قابض ہو جائے، خلیفہ کو اطلاع ہوئی، تو شیخ شہاب الدین سہروردی کو بطور ایلی بھیجا،
 اگرچہ سلطان بہت عزت و احترام سے پیش آیا، مگر شکستگی کا ارادہ ترک نہ کیا، حقیقت
 یہ ہے کہ وہ فتوحات کے نشہ میں سرشار تھا اور یہ چاہتا تھا کہ عرب شام پر بھی چھا جائے
 چہ خوش بہت اگر بوداں قدر ہوس بلندی منظر
 کہ برآں مکان چو قدم ہنی خم گردشے نخورد مسرت

کہتے ہیں کہ جب خوارزم شاہ نے شیخ الشیوخ کو صاف جواب دیا تو آپ کئی دن غمگین ہو کر نکل آئے اور بد دعا کی، خوارزم شاہ نے لشکر کشی کی، مگر موسم سرما تھا اور اس ایلا کی سردی پڑی کہ فوج ٹھٹھ کر رہ گئی اور اکثر ہلاک ہوئے۔

اہم بیان کر چکے ہیں کہ خوارزم شاہ کی مملکت کی حدود و تسخیر

چنگیز خان حنطا کے بعد چینی تاتار سے ٹکرائی، پہلے سرزمین بلند بہاڑیوں

اور وسیع میدانوں کی ہے جسے مغلیہ (منگولیا) سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں خانہ بدوش اقوام آباد تھیں۔ تنازعہ بلقانے ان کو سخت جنگ جو بنا دیا تھا۔ ان ہی کی غارت گری سے تنگ آ کر شاہان چین نے وہ دیوار تعمیر کی، جو ہاے زمانہ میں بھی موجود ہے اور عجائبات زمانہ میں شمار ہوتی ہے، غرض یہ تھی کہ سید سکندر کا کام دسے۔

روایت یہ ہے کہ کسی نامعلوم زمانہ میں ان ہی خانہ بدوش قبائل کا مورثا، قاغی الخوجہ نامی تھا، اس کے دونوں بیٹے مغول اور تاتار نامی تھے۔ اور ان کی اولاد ان ہی کے نام سے مشہور ہوئی، مغولوں میں ایل خان سردار قوم ہوا، اسی کی اولاد میں چنگیز خان ۵۴۹ء پیدا ہوا۔ اس نے مغول اور تاتاریوں کو اپنے ساتھ ملا کر ترک تازی شروع کر دی، جو اس کا آبائی پیشہ تھا، آخر ایک وسیع ملک کا بادشاہ بن گیا، اسلام اس کی حدود میں بہت عرصہ پہلے پھیل چکا تھا، اس کے دربار میں کچھ مسلمان امرا بھی تھے، اور رعایا میں اکثر مسلمان تاجر تھے، چنگیز خان چاہتا تھا کہ دنیا کے اسلام سے رابطہ و دستاویز قائم کرے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام چین کو فتح کیے، لیکن حالات نے خوارزم شاہ کی عاقبت نااندیشی سے ایسا پلٹا دکھایا کہ اس کی غارت گری کی توجہ ہمالیہ کے اسلام کی طرف لگ گئی، اس نے ایک مسلمان اکابر سے خوارزم شاہ کے پاس بھیجا، تاکہ دونوں سلطنتوں میں تجارتی رابطہ قائم ہو جائے۔ کچھ عرصہ تجارتی قافلے دونوں طرف سے آتے جلتے رہے، ۶۱۵ء میں ایک تاتاری تجارتی قافلہ دریا سیحون کے کنارے پر آتا، پہاڑ کے حاکم نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ چنگیزی جاسوس تاجرین کے لباس میں آتے ہیں، خوارزم شاہ نے بد تحقیق حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل خاطر خواہ ہوئی اور تمام تاجر مائے گئے، سامان تجارت مال غنیمت تھا

چنگیز خاں نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ تم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے تمام سامان یا اس کی قیمت ادا کرو۔ اور خاں خاں جس کی شرارت سے یہ حرکت کی گئی ہے ہائے حوالے کرو۔ خوارزم شاہ نے ان نامہ بردوں کو بھی قتل کر دیا۔

اب چنگیز خاں کا پیمانہ صبر بھی چھلک پڑا، مگر خوارزم شاہ نے پیش دستی کر کے ترکستان میں لوٹ گھسٹ کا بازار گرم رکھا، ابن اثیر لکھتا ہے کہ خوارزم شاہ نے خود چنگیز خاں کو دعوت جنگ دی، اتناہ کی سرحدوں پر دونوں کا مقابلہ ہوا اور خوارزم شاہ نے ایسی شکست کھائی کہ پھر کہیں اس کے قدم نہ جمے، راہ فرار اختیار کی، مثل اس کا تعاقب سرگرمی سے کر رہے تھے، پہلے غزنی آیا، یہاں سے کرمان اور پھر کبیرہ طبرستان کے ایک ایک جزیرہ میں پناہ لی، اتناہریوں نے تمام ملک میں قتل و غارت کا لاشعابھی سلسلہ جاری رکھا، چنگیز کا حکم تھا کہ خوارزم شاہ کا پھیپانہ چھوڑو، جہاں ملے قتل کرو، اتناہری مثل اس جزیرہ میں بھی آدھکے، مگر چند روز پہلے خوارزم شاہ کا انتقال ہو چکا تھا۔

خوارزم شاہ اپنی زندگی میں جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر چکا تھا، چنگیز خاں کے مقابلہ کی تاب نہ تھی، غزنی میں پناہ لی، مگر چنگیز نے یہاں بھی پھیپانہ چھوڑا، یہاں سے بھاگ کر ہندوستان کا ارادہ تھا، دریا سندھ پر آیا، یہاں چنگیز خاں نے گھیر لیا۔ اور جلال الدین نے دلیرانہ مقابلہ کیا، اور کئی دفعہ چنگیزی فوج کو پسپا ہونا پڑا، اگر اس کے ہمراہ کافی جمعیت ہوتی، تو ممکن تھا کہ قسمت پلٹا کھاتی، لیکن نصیب یاد نہ تھے، ایک پہاڑی درہ میں گھیر گیا، گھوڑے پر سوار تیس فٹ بلند چٹان پر چڑھ گیا۔ چاروں طرف چنگیزی سپاہی تھے، اس وقت اس نے وہ دلیرانہ کام کیا کہ چنگیز بھی انجنت بدنداں تھا گھوڑے کے ساتھ دریا میں کود پڑا، چنگیز دیکھ رہا تھا بے اختیار منہ سے نکلا

”وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کا سپوت جلال الدین ہے“

۷۷ء میں چنگیز خاں مر گیا، تو جلال الدین کی بھی بن آئی، عراق اور فارس اور بلخ و علاقہ پر اپنا تسلط جالیب، لیکن چنگیز خاں کے بیٹوں میں سے اکتائی خان نے اسی ہزار کی جمعیت سے جلال الدین پر چڑھائی کی، جلال الدین نے خلیفہ و دیگر سلاطین سے مدد کی اور

مگر کسی نے پروا نہ کی، اگر اس وقت یہ لوگ تصفہ طاقت سے مقابلہ کرتے تو وہ دل
 دینے والے واقعات جو ہلاکو خاں کی ترکمانی کی صورت میں پیش آئے نہ آتے
 جلال الدین نے پھر پناہ فرار اختیار کی اور کرستان کی پہاڑیوں میں پناہ لی، مگر اس
 بلکہ ایک ناک حرام کرنے سے اس کا کام تمام کر دیا، اس کے ساتھ دولت خوارزمی کا حیرانغ
 ال بگیا،

چنگیز خاں کی اولاد تو بہت تھی، لیکن چار نامور بیٹے ہوئے،
 (۱) جو جی خان اس کے حصہ میں سا بییر یا جس کو دشت قبچاق بھی کہتے ہیں آیا، اس کا
 پڑا بیٹا با تو خان تھا، روس، بلگیریا، اور منگری اور پولینڈ تک مالک منتر کے، اس کا
 بھائی برک خان مشرف باسلام ہوا،
 (۲) چغتائی قاآن۔ اس کو خوارزم اور ترکستان اور خراسان اور ماورالنہر کی حکومت دی
 گئی، یہ تیمور لنگ گورگان کے خسر کا سوتلی اعلیٰ ہے اور اسی کی نسبت سے تیمور
 چغتائی کہلاتا ہے۔

(۳) اوکتا قاآن۔ چنگیز خاں نے اس کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔
 (۴) تولی خاں۔ اس کے چار بیٹوں میں سے ہلاکو خاں نے وہ کام کیا جس پر پندرہ نٹوال سپر
 تمام کنڈ کی مثل صادق آتی ہے،

چنگیز خاں کی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ
 بلخ میں بارہ سو مساجد اور اتنے ہی حمام تھے، سب کو خاک کے برابر کر دیا،
 ”مرد“ میں چودہ لاکھ مسلمان اور بیٹیا پور میں تیرہ لاکھ نیتالیس ہزار اور بہارت میں
 انیس لاکھ سات سو نائے لکھے ہا

یہ تو بڑے بڑے شہروں میں قتل و غارت کا حال ہے، وہ خود کہتا ہا کہ آسمان پر ایک
 خدا اور زمین پر میں اس کے عذاب کی صورت ہوں، علماء و حکماء اور ناہردوں اور عابدوں اور
 صوفیوں کو چن چن کر قتل کیا، اس کے پوتے ہلاکو خاں نے بغداد تک اور تمام عراق اور شام
 میں حلب تک جو رہتے ہیں پڑا تلوار کی گھاٹ امار دیا، اس خاندان کا محبوب مشغلہ ہی تھا

اس کا بیٹا "نکو وار" مسلمان ہو گیا اور اپنا نام "احمد" رکھا، اس کے بیٹے کی اولاد
 الحاشیوں خان ہے، جس نے اپنا لقب "سلطان محمود خدا بندہ" رکھا، اس کی حکومت
 کے دائرہ میں شام اور کرمان اور سیستان اور سائیریا اور روس اور بلگاریہ اور ماوراء
 اور خوارزم اور گیلان شامل تھے، اس نے اشاعت اسلام میں انتہائی کوشش کی، تہذیب
 تاتاری اور مغل مسلمان ہو گئے، اس کے بیٹے سلطان ابو سعید نے بھی دینداری ورثہ میں
 ابو سعید کی وفات کے بعد مغلیہ سہنشاہت طوائف الملوک میں تقسیم ہو گئی،
 "دولت ازبکیہ" اور "تہرین مغلیہ حکومت تھی، اور "دولت آل کرت" ترکیہ بلخ اور ہرات
 اور ہرات اور کابل پر چھائی رہی، امیر تیمور نے اس کا خاتمہ کر دیا،
 "دولت آل مظفر" فارس پر حکمران تھی یہ بادشاہ خواجہ شمس الدین حافظ کے ممد
 شاہ شجاع اور سلطان ایس اور زین العابدین اور آخر شاہ منصور پر یہ دولت تیمور
 ہاتھ پر ختم ہوئی،

مغل اور ترک کی اصل ایک ہے، مغل تو منگولیا اور منچوریا اور
تیمور گورگال اور دشت قبچاق یعنی سائیریا وغیرہ وحشی یا نیم وحشی خاندان
 قبائل ہیں اور ترک اسلام کے زیر اثر ہندوب اور متحمل قوم ہے، امیر خین تیمور کا سلسلہ
 نسب "تیمنہ خان" سے ملتا ہے، چنگیز خاں کا نسب بھی اس سے جا ملتا ہے جو اس
 بعد چہارم ہے، اور تیمور کا چچا نہیں ہے، چونکہ اس کا خسر چنگیز خاں کی نسل سے تھا اس
 اس کو چغتائی بھی کہتے ہیں، جو چنگیز کے ایک بیٹے کا نام ہے، امیر خین کا اس پر اتفاق ہے
 تیمور ترک ہے مغل چغتائی نہیں،

یہ عام دستور ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی وجہ سے صاحب دولت و ثروت ہو
 ہے اپنا سلسلہ نسب کسی مشہور ہستی سے ملاتا ہے، خواہ اس مشہور شخص کے آباد اجداد
 چور اور ڈاکو ہی ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہ جو بھی سرور قوم ہوا اسی قماش کا آدمی
 تھوڑے میں جو اپنی نیک نفسی سے بیادت اور احترام کے مستحق تھے، لقب "سید" کا
 دیا، اسلام میں واجب الاحترام ہے کبھی بنو فاطمہ یا بنو ہاشم کا امتیازی جرم نام نہ تھا،

بغیر عرب کے ہاتھ میں حکومت بنو فاطمہ یا عباسیہ کے تحت آئی تو ان میں سے بعض
 مدیہ معنی "سرور" کہلائے، ناصر خسرو جو خود علوی سمجھلی ہے، اپنے سفرنامہ میں قرامطہ
 زین کی نسبت لکھتا ہے، کہ ان میں سے صاحب حکومت "سید" سے موسوم تھے غالباً
 یہی لوگوں نے پہلی دفعہ اس لقب کو خاص معنوں میں رائج کیا، "فرقہ باطنیہ" کا بانی ابو الخطاب
 یون القدرح اپنا سلسلہ نسب محمد بن الحنفیہ علوی سے ملاتا ہے، قرامطہ جس کا بانی ابو سعید
 اہر تھا، باطنیہ کی ایک شاخ ہے، القدرح کی نسبت مؤرخین کہتے ہیں، کہ امام جعفر صادق
 نے اس کو اپنے "اہل بیت" میں شامل کر لیا تھا، جس طرح روایت ہے کہ آنحضرت نے سلمان
 ہمدانی کی نسبت فرمایا کہ "من اہل بیتی"

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست
 تیمور کو "مرنگ" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لشکر اٹھا، بانیرید ایلدرم "سلطان روم جب
 سیر ہو کر اس کے سامنے آیا، تو دیکھ کر بہت ہنسنا، ایلدرم نے کہا کہ مجھے اس حالت میں
 چھ کر ہنستا ہے، کہا خدا کی قسم یہ بات نہیں، تیری یورپ میں اور میری ایشیا میں
 عاک بیچی ہوئی ہے، اور ہم دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے مالک ہیں، تو کانا اور میں "نگرا"
 لند کا بین ہے، حسن و صورت کی کیا قیمت ہے، یوسف مصر کے بازار میں بکار میں اپنی اولاد
 کو وصیت کر دیں گا کہ اس واقعہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ چنانچہ جہانگیر نے اپنی تزک میں
 اسے نقل کیا ہے۔

تیمور کو صاحب قران بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ پیدائش، شعبان ۷۳۷ھ مطابق
 ۱۹ اپریل ۱۳۲۹ء ہوئی، جب سعد ستاروں کا قران ایک برج میں ہوا یا اس لئے کہ اس کا
 اہم حکومت دو صدیوں کو ملاتا ہے، اس کی وفات، ۱۰ ماہ شعبان ۷۹۵ھ مطابق ۱۸ فروری
 ۱۳۹۵ء ہوئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نہایت منحوس گھڑی میں اسکی ولادت ہوئی،
 عربی مؤرخ اسے "الوحش" کے ہییب نام سے یاد کرتے ہیں، اور اگر اس کے کارناموں
 کو دیکھا جائے تو نہایت موزوں اور مناسب نام ہے، اس کی فتوحات یونانی سکندر عظیم
 سے بڑھ چڑھ کر ہیں، بحیرہ روم اور بحر الکاہل غرباً اور شرقاً اس کی مملکت کے حدود تھے سکند

مرا تو مملکت پاش پاش ہو گئی، مگر تیمور نے اپنی اولاد میں دراثہ چھوڑی۔ ایک شاخ ہندوستان
 میں مغلیہ شہنشاہیت تھی جس کے حالات ہم آگے چل کر لکھیں گے، اوجش اس
 اس لئے کہتے ہیں، کہ قتل و غارت گری میں چین گیر اور ہلاکو سے کم نہیں، اس کے دست
 ظلم و ستم سے جو کچھ نقصان اسلام اور اہل اسلام کو پہنچا، اس کا افسوس زیادہ تر
 لئے ہے کہ وہ مسلمان تھا، اور اس کے پیش رو چین گیر اور ہلاکو خاں نامسلمان تھے فارسیوں
 کی تسخیر کے وقت آل مظفر کا آخری تاجدار منصور تھا، اس نے کھلے میدان میں اس کا مقابلہ
 کیا، منصور کی شجاعت کی داد تیمور کے خوشامدی مورخ علاء شاہ مولف وقتہ الصمد
 بھی دیتا ہے،

منصور تیموری صفوں کو چیرتا ہوا اسیدھا تیمور پر حملہ آور ہوا، یہ لوہے میں منور
 گھوڑے پر سوار تھا، سلوار جو ہر قسم کے ہتھیار لے اس کے ہر کاب تھے خوف زدہ ہو کر
 بھاگ گئے منصور نے سات دفعہ پورے زور سے تلوار کا حملہ کیا، اگر ان میں سے ایک
 کارگر ہوتا تو غالباً تیمور اور اس کی اولاد کا نام تاریخ اسلام میں نہ ہوتا، مگر ایک بھی کارگر
 نہ ہوا، اس کا بیٹا شاہ رخ ہی آڑے آیا۔ منصور مارا گیا، اس لڑائی نے فارس کی
 قسمت کا فیصلہ کر دیا،

فارس پر قبضہ کے بعد تیمور عراق کے سرسبز میدانیں میں اترتا، اس وقت برائے
 نام خلیفہ بغداد المتوکل علی اللہ ابو عبد اللہ تھا، جس کی حیثیت ایسی تھی کہ مصر اور شام
 میں اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، یہاں طوائف الملوک تھی اور ہر ایک سلطان تھا
 "سلطان" کا لقب سب سے پہلے خلیفہ واثق نے اختراع کیا، اور ایک ترکی سرور
 کو اس سے نوانا، پھر ہر ایک مدعی حکومت کو بادشاہ و خلافت سے عطا ہوتا رہا، اس
 مفہوم نائب سلطنت تھا، اس وقت ملک الناصر ابو فرح بن برقوق چوکی سلطان مصر
 اور شام تھا، ۱۰۴۱ء میں تیمور حلب اور حمص اور حمص اور بلعینک کو روندتا ہوا دمشق کے
 سامنے نمودار ہوا، اہل شہر تیمور کی سفاکی کی داستان پہلے ہی سن چکے تھے، اکثر شہر
 چھوڑ کر بھاگ گئے، ملک الناصر ملوک سپاہ کے ساتھ گیا قلعہ اور شہر ہنپاہ کی مرمت

بعد سامان اسد قلعہ میں جمع کیا، اور خود قلعہ کی دیواروں کے نیچے ٹیمپوری سپاہ
مقابلہ کیا جو بڑی طرح سپاہ ہوئی،

دیوار شہر قلعہ کی بلندی اور استحکام و استوائی اور سامان حرب سپہ ناموں
مذراہ قلعہ ہائے لفظ عالم سوزہ *the Fire* و ضرب سنگ عرادہ

میشق و دیگر اسباب ممانعت و مدافعت خاوند شاہ کے لفظوں میں ایسی تھی کہ ہر کس
خیال نبی زادندہ کے نزدیک پھٹک سکے۔ ٹیمپور نے دیکھا کہ شہر اس طرح مستحضر نہ ہوگا،

سپاہیہ چال چلا، اس کا بیٹھیا امیر زاوہ حسین ملک الناصر کے پاس آیا اور ظاہر
کہ ٹیمپور سے بگڑ کر آیا ہوں، ملک الناصر نے خیال کیا کہ ٹیمپوری لشکر میں پھوٹ پھٹکی

ہے، اب کسی قسم کا خطرہ نہیں مصر کی طرف چلا گیا،

ٹیمپور کئی میل دور ہٹ گیا تھا، جب ناصر کے جانے کی اطلاع ہوئی تو پلٹ کر آیا
شہر کی تسخیر اب بھی طرہی کھینچی، لیکن اہل شہر نے مناسب خیال کیا کہ ٹیمپور کو

پہلے آلودہ کیا جائے، ایک وفد جس میں مؤرخ فاضل القضاة ولی الدین ابن خلدون بھی
تھے، اہل دمشق کو جان و مال کی حفاظت کا یقین دلایا، تو شہر پر قابض ہو گیا، اپنے

مداران لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ

”مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اہل دمشق نے معاویہ اور ہرید کے ساتھ ابن عم و

وصی رسول اللہ اور سبطِ مکرم امیر المؤمنین حسین کا مقابلہ کیا لیکن آج

یقین ہو گیا کہ یہ واقعات سچے ہیں، دیکھو اہل شام کیسے سیاہ باطن ہیں

اپنے آرام و آسائش کے لئے عمارات رفیع اور دلپذیر تعمیر کر رکھی ہیں۔ اور

اہل بیتِ مومنین حرمِ خاتم النبیین کے مقبرے اُجڑے ہوئے ہیں یہ نالائق

اسی لائق ہیں کہ ان سے وہ سلوک کیا جائے جس کے مستحق ہیں۔“

یہ اشارہ کافی تھا شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، خاوند شاہ لکھتا ہے کہ

”دمشق با از پیر و جہاں و قوی و نالواں و شیوخ و اطفال و نساء و رجال
با پیری گرفتند“

اور جو کچھ سالہا سال سے

ہزار بجز دکان بوندہ از درو جو اہر و زر و زیور و ریک سماعت بدست شاہ
والا بارگاہ افتاد

اس کے بعد لکھتا ہے کہ

مخارت گران اردوٹے ہالیوں کا یہ حال تھا کہ فارس کے پرتن اور روسی

غیبت ایشیا اور صفرات عمل بنات اور متفرق ایشیا جو سکندریہ اور مصر

سے اس سے پیشتر ان کے قبضہ میں تھیں پھینک دیں۔ اور ان کی جگہ سونا

اور چاندی اٹھالیا، اشرف اور عوام الناس سے روپیہ وصول ہو چکا۔ تو

ان کو حیرتاً آب شور گرم پانی میں رکھ ملا کر پینے پر مجبور کیا، کوئی شخص مسلمان

ہو یا نامسلمان، یہود و نصاریٰ اس کی تیغ ستم سے نہ بچا، غور توں اور بچوں

کو بھڑکری کے ریلوے کی طرح پاہی ہانک کر لشکر میں لارہے تھے، حضرات شیعہ

کو بھی یہی وقت مناسب ہاتھ آیا، جامع اموی کے محلوں میں آگ لگا دی،

جس کے شعلوں نے مسجد کو بھی لپیٹ میں لے لیا، چوٹی سقف جل کر رکھ

ہو گئی، خامند شاہ اس کو قہر الہی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ کا گھر آتشکدہ

بن گیا، جب ”سمیع مبارک شاہ“ تک اس کی خبر پہنچی، تو فرمایا کہ مسجد کو بچانا

چاہیے، اسے معجزہ سمجھنا چاہیے کہ ”سارہ عروس“ اگر چہ چینی ہے مگر آگ کا اثر

اس پر نہ ہوا، وجہ یہ ہے کہ اس پر نزول حضرت مسیح کا ہوگا!

گبن لکھتا ہے کہ سات سو سال بعد ایک ترک کے مذہبی جوش نے ایک عربی

مخن کا انتقام لیا، اور دمشق کا مال و دولت سمیٹ کر لے گیا۔

تمبور چاہتا تھا کہ سلطان کے مقبوضات ایشیا کو چیک کر بھی اپنے تصرف میں لے

سلطان بانیہ ایلدیم اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ ڈالے پڑا تھا، ناچار محاصرہ اٹھا


اور تمبور کو لکھا کہ تقاضا اسلام یہ ہے کہ آپ روس کی طرف متوجہ ہوں اور مجھے یورپ

تسخیر سے مانع نہ ہوں، اگر ہم دونوں مل کر یا علیحدہ علیحدہ ایک ہی مقصد کے لئے دشمن

ان سے ہیں، تو اخوت فی الدین کا مطالبہ بھی ہے،
 تیمور کسی اور وطن میں تھا، "التقدیر" پر دونوں لشکریوں کا مقابلہ ہوا، ایلدرم اسیر ہوا۔
 ناغیور تھا، کراس صدمہ سے جانبر نہ ہوا۔ تاریخ فتح تیموریہ شہادت الروم فی ادنی
 ارض ہے۔ "ارض" کا اعلیٰ حرف الف اور ادنیٰ "صا" ہے جس کے عدو رص ہوا (۱۵۱۵ء)
 شہدہ ہیں۔

سلاطین خاندان تیموریہ

تیمور



شاہان ایران اور سلاطین روم کے حالات ہم سلاطین ہند کے بعد لکھیں گے
اس لئے کہ اول الذکر دو کے آثار بہتے زمانہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور شاہان ایران
تعلق کم و بیش ہند سے رہا ہے۔

خاندان غزنویہ کے حالات ہم سلطان محمود تک لکھ چکے ہیں سلطان کے بعد
اگرچہ یہ سلطنت عرصہ تک رہی مگر جہاں تک بہتے موضوع کا تعلق ہے تو ہند
سے ان کے نام معلوم ہو سکتے ہیں اور تخت نشینی کی تاریخ بھی۔ اس خاندان کے خاتمہ
خاندان غوریہ کا آغاز ہوا۔ یہ دونوں خاندان ترک تھے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اہل عرب کے
خلافت ترکوں کو ملی۔

سلطنت غورچہ | اہل غور اصل میں پٹھان پانڈک ہیں، جنہوں نے خاندان غورچہ کے بعد اپنی حکومت قائم کی، ان میں سے سیف الدین

محمد بن حسین غزنی کے آخری تاجدار بہرام شاہ کا راجہ تھا، یہی سلطنت نے جو لوگوں پر آباد کیا، اس کے بجائے سوروں نے سرائیچیا، بہرام شاہ نے قلم کر دیا، پندرہویں صدی میں غزنیوں نے بغرض انتقام چتر صحائی کی، مقابلہ ہوا۔ تو بہرام شاہ ہار گیا۔ علاء الدین غزنی پر قابض ہو گیا، غزنی کو سلطان محمود نے اتنی رونق دی ہوئی تھی کہ اس کو "عزیز الملک" کہتے، انتقام اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ غزنی کو بیٹھ میں لے لیا، شاہان غزنی کی قبریں اکٹروا کر ان کی ہڈیاں جلا دیں۔ صرف سلطان محمود کے روضہ کو چھوڑ دیا،


اس آتش نسرودی کی وجہ سے، اس کا لقب "جہاں سوز" تاریخ کے صفحات پر اس کے نام کے ساتھ باقی ہے۔

"جوز خود ایک جنون ہے جب کسی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، خود مافی تواریخ قائم نہیں رہتا، بنو عباس نے یہی سلوک بنو امیہ کی قبروں سے کیا، عجیب ہے کہ آج سب سے بڑی قوم و عوسے دار تہذیب کے سپہ سالار لارڈ کچنر نے ہمدی سوڈانی عثمان و غمہ کی قبر اکٹروا کر ہڈیاں جلا کر باہر کر دیں، زابا اس وحشیانہ حرکت کی بیہودگی کا احساس اسے اس وقت ہوا جب اول جنگ کے دوران میں جرمنی نے قبضہ کر لیا، اسے بڑی دہشت کی طرح سمندر کی موجوں کے تھپیڑے گدانا ہوا شرق ہو رہا تھا، بہرام شاہ کا بیٹا خسرو شاہ بھاگ کر لاہور آیا، اور پھر پنجاب ہی میں رہا علاء الدین نے اپنا لقب سلطان عظیم رکھا، مگر جہاں سوز ہی مشہور ہے،

(شجرہ نسب اگلے صفحہ پر درج ہے)

شجرہ نسب سلاطین غور

حسین



اس خاندان میں دو اولاد عزم سلطان غیاث الدین اور اس کا بھائی شہاب الدین گندے
 ہیں۔ پہلے مسلمان سلطان ہیں جنہوں نے شمالی ہند میں اسلامی حکومت بالاشتغال
 قائم کی۔

غیاث الدین نے تخت غور اور غزنی پر متمکن تھا، اس کا بھائی شہاب الدین پہ سال
 تھا، پہلا کام جو اس نے اپنے بھائی غیاث الدین کے حکم سے کیا، وہ غزنوی مقبوضات کو
 غوری سلطنت میں شامل کرنا تھا، جو پنجاب پر مشتمل تھے۔ وہ پہلے ملتان میں آیا، ملتان
 اس وقت "قراطہ" کے قبضہ میں تھا، ان کا طع متع کیا تو "اوجھہ" لے لیا، ملتان میں اپنا
 نائب اور سپاہ کا کچھ حصہ منفعین کر کے غزنی کو لوٹا، تین سال بعد اس نے انہلواڑہ

لمرات پر فوج کشی کی، بحیم دیو گھیسلا، راجپوت راجہ نے مقابلہ کیا، اور شہاب الدین کو شکست ہوئی، فوج کا اکثر حصہ کچھ لڑائی اور کچھ دوسرے جوانوں کے ریگستانوں میں تباہ ہو گیا، شہاب الدین کے انتقال پر اس شکست کا کچھ اثر نہ ہوا، دوسرے سال ایک نیا ہتھیار اختیار کیا، پہلے پشاور لیا۔ پھر لاہور کی طرف بڑھا، خسرو شاہ غزنوی نے اپنا بیٹا یرغمال میں دے کر گھوڑا خلاصی کرائی،

سیالکوٹ میں چکرو دیو راجہ جموں نے اسے مدد کے لئے بلایا، گھوڑا قبائل کشمیر سے جموں تک تمام پہاڑی علاقہ پر قابض تھے اور راجہ ان کے ہاتھ سے تنگ آچکا تھا، اس مہم کا یہ نتیجہ ہوا کہ شہاب الدین نے یہاں بھی اپنی سپاہ کا کچھ حصہ راجہ کی حفاظت اور مدد کے لئے بھیجا، شہاب الدین چاہتا تھا کہ سیالکوٹ کو اپنی سپاہ کا مرکز قرار دے کر ہندوستان پر حملہ کرے، وہ غزنی کی طرف فراہمی فوج کے لئے گیا، اس کی عدم موجودگی میں خسرو ملک نے سیالکوٹ کا محاصرہ کیا، ۱۱۸۶ء میں شہاب الدین کو مجبوراً پھر پنجاب کی طرف متوجہ ہونا پڑا، لاہور کے قلعہ کو محاصرہ میں لے لیا، خسرو ملک تاب مقابلہ نہ لایا اور صلح کی درخواست کی، شہاب الدین نے اسے اور اس کے خاندان کو غزنی کے قلعہ "بیروز کوہ" میں نظر بند کر دیا، اس طرح غزنوی حکومت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔

اب غندی کے قبضہ میں تمام پنجاب اور وادی سندھ آچکی تھی، ہندوستان کی تسخیر کا عزم مصمم ہو چکا تھا۔ اب راستہ بھی صاف تھا۔

اس وقت شمالی ہند میں بڑے بہاویہ ایک نو جوان راجپوت تھے جو دہلی اور اجمیر پر حکمران تھے، دوسرے گھڑدار اور راجپوت تھے جن کی سلطنت میں قنوج اور بنارس تھے، اور بہارت تک پھیلی ہوئی تھی، تیسرے چندلیہ راجپوت تھے، جو ہندھیل کھنڈ میں حکمران تھے، اور کالنج اور کالپی وغیرہ مقامات پر ان کے مضبوط قلعے تھے۔

۱۱۹۱ء میں شہاب الدین نے ایک لشکر جبار تیار کیا، اور بھنڈہ تک آیا، چوہان راجپوت راجہ دھلی کی حسد پر واقع ہے، اس وقت پر تقوی راج راجہ تھا، وہ شہاب الدین کے

کے ارادہ سے بے خبر نہ تھا، ہندوستان کے راجوں کو لکھا، کہ ایک ایسے ہییب دشمن
 کے مقابلہ میں متحد ہو جاؤ۔ جو سب کا ہے، ایک سو سے زیادہ راجوں نے اپنی فوج
 پر ٹھوسی لڑج کی مدد کے لئے بھیج دی، لیکن بچے چند راجہ قنوج علیحدہ ہی رہے۔ اس
 کی وجہ کچھ بخش خانگی معاملات ہی تھی، "نہیں یا تراشی" کے میدان میں دونوں لشکروں
 مقابلہ ہوا، غوری نے اپنے سواروں کے دستے کے ساتھ راجپوتوں کے لشکر کے مرکز پر
 حملہ کیا، لیکن حریف کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان لشکر کے دونوں بازوؤں پر ٹوٹ
 پڑے، اور شہاب الدین پر ٹھوسی راج کے باہمی جنگ پہنچ چکا تھا۔ کہ اس کا لشکر گھر گھر
 وہ خود بھی سخت اچھی ہوا، ایک جانتا رہا ہی اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور شہاب الدین
 کو گرنے گرتے سنبھال لیا، اس کی سپاہ پسپا ہوئی، پچاس میل تک راجپوتوں نے تعاقب
 کیا، اگر اس وقت پر ٹھوسی راج فرادور اندیشی سے کام لیتا، اور لاہور تک بڑھا آتا تو فائدہ
 دیکھتی واقعات کی صورت کچھ اور ہوتی۔ اس عظیم الشان فتح کا فائدہ اس نے نہ اٹھایا
 شہاب الدین مستقل مزاجی کی ایک بے مثل نظریہ، دوسرے سال اس فکرت
 کا داغ مٹانے کے لئے اس نے ایک لاکھ میں ہزار کی جمعیت فراہم کی، اس کے لئے
 افغان سوار اور پیدل پشاور کے دستہ بھر، یہی میدان جنگ میں اترے۔ جہاں
 لشکر کا منہ دیکھا تھا، شہاب الدین نے ایک ہزار تیر انداز محافظ سواروں کے
 ساتھ اس زور کا حملہ کیا کہ قلب لشکر تک صفوں کو الٹ دیا۔
 "فرشتہ" لکھتا ہے کہ ہندوؤں کی جمعیت کہیں زیادہ تھی، مگر جب ایک دفعہ
 جھاگڑھی ٹو پھر قدم نہ جھے، پر ٹھوسی راج میدان جنگ میں کام آیا، شہاب الدین نے
 اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا، جس نے وار السلطنت لاہور
 مقرر کر کے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، دوسرے سال شہاب الدین خود آیا۔ اور
 بچے چند سے مقابلہ ہوا، بچے چند بھی گرائی میں مارا گیا، اب مسلمانوں کی سلطنت بنارس
 سے آگے بہار تک پھیل گئی، "غیر راجپوت قنوج" وغیرہ شہروں سے نکل کر مدو
 کے ریگستان کی طرف چلے گئے، اور یہاں اپنا راج قائم کر لیا، جو بعد ازاں "راجپوتانہ"

سے موسوم ہوا۔

قطب الدین ایبک نے حمیر کے تخت پر پر تھوی راج کے ایک بیٹے کو بٹھا دیا۔ مگر وہ چوہوٹوں نے بغاوت کر دی ہیراج اس بغاوت کا سرغنہ تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ راجہ پر تھوی راج کا جائزہ بیٹا نہیں، باغیوں کو شکست ہوئی ہیراج مارا گیا، اور ایبک نے راجہ کی حفاظت کے لئے ایک افسر مقرر کر دیا،

اب ایبک نے بن تمام صوبوں کو جو شمالی ہند میں واقع تھے، ایک ایک کر کے مسخر کر لیا، بہار، اصل میں "دہارہ" ہے جو بدھ مت کے مذہب کے پیشوایان کی خانقاہیں تھیں یہاں مسلمانوں کو بلا مقابلہ کامیابی ہوئی، قطب الدین کے ایک فوجی افسر تختیار خلجی نے بنگال مسخر کر لیا، تختیار اب آسام کی طرف بڑھا، لیکن پہاڑی راستہ دشوار گزار تھا، سامان خورد و نوش بھی ختم ہو چکا اس لئے تمام لشکر تباہ ہو گیا، صرف ایک شخص علی بن مردان خلجی بچا جو بعد ازاں بنگال کا حاکم ہوا،

شہاب الدین ہندوستان کی طرف سے ملٹن تھا، ترکوں کے مقابلہ میں ہندوستان کی حدود سے باہر مصروف رہا، کھوکھر اور دوسرے قبائل نے متحد ہو کر جو کھیوڑہ کی ٹمک کی کان کے آس پاس آباد تھیں، متحد ہو کر بغاوت کر دی، شہاب الدین غزنی آئے اور قطب الدین لاہور سے ان کی گوشمالی کے لئے بڑھا، ان کا سردار "رائے سال" تھا ایک ہی لڑائی میں باغی تتر بتر ہو گئے،

۱۲۰۶ء میں شہاب الدین جہلم وریا کے کنارے پونچھ میں رات کو سو یا مو اتھا کہ میں کھوکھر میں گھس آئے، اللہ اس فاتح ہند کو شہید کر دیا، لاش غزنی میں لائی گئی، اور یہیں مدفون ہوا، شہاب الدین اپنے بھائی کی وفات کے بعد تخت عوز پر بیٹھا تھا، اس کی اولاد ٹرنیہ نہ تھی، اس کا بھتیجا محمود سپر غیاث الدین جانشین ہوا لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سلطنت عوز یہ ختم ہو چکی تھی، "راج الدین" یلدفنہ غزنی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان اور سندھ میں، ایک لاہور سے دھلی تک اور خلجی بہار اور بنگال میں خود مختار بادشاہ تھے، قطب مینار دھلی قطب الدین کی یادگار ہے، اصل میں یہ ایک

مسجد قوت الاسلام کا منارہ ہے جو قطب الدین تعمیر کرنا چاہتا تھا تعمیر
کام اس نے شروع کیا مگر اس کی تکمیل عرصہ بعد التمش نے کی

ہندوستان میں خلافت اسلامیہ کا آغاز خاندان غلاماں سے ہوتا ہے جس
حکومت ۱۲۰۶ء سے ۱۲۹۰ء تک رہی۔ اس کے بعد حسب ذیل خاندان ایک دوسرے
کے بعد حکمران رہے،

(۱) خاندان خلجی ۱۲۹۰ء سے ۱۳۲۰ء تک

(۲) خاندان تغلق ۱۳۲۰ء سے ۱۳۹۱ء تک

(۳) خاندان سادات ۱۳۹۱ء سے ۱۴۵۰ء تک

(۴) خاندان لودھی ۱۴۵۰ء سے ۱۵۲۴ء تک

شمس الدین التمش | خاندان غلاماں اور خلجی اور تغلق پٹھان یا ترک
سادات عرب ہاشمی اور لودھی افغان یا پٹھان کے

میرٹھین کا ان کی قومیت کے بارے میں اختلاف ہے، بہر حال یہ افغانستان سے آئے
قطب الدین امیک کے بعد اس کا بیٹا آرام بادشاہ ہوا، ملک میں عام بظنی پھیل
گئی اور آرام سے بیٹھا دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا، اس کے ایک غلام شمس الدین
التمش نے اسے برطرف کر کے خود عمان حکومت ہاتھ میں لے لی، خلیفہ بغداد
طرف سے سلاطین عطا ہوئی، التمش قطب الدین کا داماد بھی تھا۔

تاج الدین یلدوز غزنی میں حکمران تھا، سلطان خوارزم سے لڑائی جھگڑا کرتے
آخر یلدوز کو غزنی سے بھاگنا پڑا، لاہور اس وقت قباچہ کے قبضہ میں تھا، اس نے
سپاہیوں کو قلعہ سے نکال کر خود قابض ہو گیا، التمش جس نے قطب الدین امیک
وفات کے بعد لاہور کی جگہ دھلی پایہ تخت قرار دیا تھا، یلدوز کو بے دخل کرنے کے
دھلی سے آیا، تھانیسر کے میدان میں ۱۲۱۶ء میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یلدوز گرفتار
ہوا۔ بدایوں کے قلعہ میں محسوس ہوا اور یہیں مر گیا،

اب ناصر الدین قباچہ حریف رہ گیا، تمکیم پر قباچہ کو شکست ہوئی وہ بے

بھاگتے وقت ڈوب مرا، اب اتمش کے قبضہ میں پنجاب اور بنگال اور درمیانی
 قہر گیا، دریائے سندھ سے دریا، نریدا تک اتمش کی سلطنت تھی۔ یلدوز اور
 چہ وغیرہ کی خانہ جنگی سے یہ اسلامی سلطنت جو شہاب الدین نے قائم کی تھی،
 ابد جلد ختم ہو جاتی، کیونکہ راجپوت راجے پھر متحد ہو رہے تھے۔ اتمش نے بیک
 ت یلدوز اور قباچہ سے خلاصی حاصل کی، اور راجپوتوں کو بھی نیچا دکھایا۔
 اتمش ہی دراصل پہلا حکمران ہے، جس نے اسلامی سلطنت کی بنیاد
 ہندوستان میں استوار کی،

اتمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا۔ جن کا مراد پرانی دہلی میں
 رہی ہے، قطب صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اور مرید
 ہے۔ اتمش نے خواجہ اجمیری کا زمانہ بھی دیکھا، اس نے مینار قطب کی تکمیل
 بڑا بیٹا فیروز اتمش کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا۔ چھوٹا رکن الدین جانشین ہوا،
 لہذا حکومت کی۔ امرا نے اسے برطرف کر کے اتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ
 تخت و تاج دے دیا،

اس کی نسبت "فرشتہ" لکھتا ہے کہ رضیہ کا دل و دماغ مروانہ تھا، اور رکن الدین جیسے میں
 نہ بھی ہوتے تو اس کے سامنے بیچ تھے، دہلی کے تخت پر ہی عورت اول: آخر معنی عورت ذات
 بگڑ کر دیکھ کر "سرمند" کے حاکم نے علم بغاوت بلند کیا، رضیہ اس کے مقابلہ کے لئے آئی مگر اس
 کے اپنے ترکی سرواڑوں نے اسے "ملک التونہ" باغی کے حوالے کر دیا، اس کی عدم موجودگی میں اس
 کے بھائی بہرام نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا، رضیہ نے ملک التونہ سے نکاح کر لیا اور دہلی
 لڑن شکر گستی کی کیفیت پر شکست کھائی بلکہ وہ اور اس کا اتحاد دونوں مارنے گئے۔

سہ "سرمند" اصل میں "سہ رند" کا مفہوم شیر یا چنیا ہے، اور "رند" کے معنی جنگل ہے۔ یعنی
 ایسا جنگل جہاں شیر رہتے تھے، بگڑ کر سرمند ہو گیا، اور عوام غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان
 کی حد پہلے سے شروع ہوتی ہے، الفاظ "سہ" اور "رند" حصار اور پیالہ وغیرہ میں اسی معنی میں
 اب بھی استعمال ہوتے ہیں، فرشتہ بھی اسے "سہ رند" ہی لکھتا ہے۔

ہمتش کی اولاد میں، رضیہ کے بعد اس کا بیٹا بہرام اور پوتانا ناصر الدین تخت نشین ہوئے
 مگر بہرام حکومت اصل میں ایک امیر بلین کے ہاتھ میں تھی، ناصر الدین کی دین داری اور
 خداترسی کی مثال خلفاء راشدین ہی میں ملتی ہے، اگر اس کی اپنی قوم صحابہ کی طرح
 ہوتی تو تاریخ پھر سے ان واقعات کا اعادہ کرتی جو خلافت راشدہ میں رونما ہوئے
 اس لئے بادشاہ ہو یا کوئی صدر وغیرہ وہ صرف اپنے زمانہ کی ہمت
 کا نمائندہ ہی ہوا تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر رعایا مطمئن ہو تو ایسے
 نیک بہاد حکمران اور تو کچھ نہیں اپنا وقت اطمینان قلب کے ساتھ گزار سکتے ہیں
 تواریخی واقعات شاید ہیں کہ اس خو خوار دنیا میں خیر خیر این قوم ہی کامیاب ہو سکتے
 ہیں۔ ناصر الدین اپنی ہاتھ کی کمائی سے روٹی کماتا، زودبہ چولہا گرم کرتی، کوئی غلام
 کوئی لونڈی خدمت کے لئے مانور نہ تھی، ایک وقعہ بیوی کا ہاتھ روٹی پکاتے جل گیا
 تو کہا کہ صبر کرو اللہ نیک اجر دے گا،

چنگیزی حملے ہمتش کے وقت سے شروع ہو گئے تھے، چنگیز خان خوارزم شاہ
 کے بیٹے جلال الدین کے تعاقب میں سندھ تک آچکا تھا، بلین اس وقت فوجی اور
 کی حیثیت سے اس کا راستہ روکنے کے لئے دوسری طرف کھڑا تھا، چنگیز دوسرے کنارے
 سے لیٹ گیا، لیکن وادی سندھ میں مغلوں کی ترکتازی برابر جاری رہی اور ناصر الدین
 کی تخت نشینی تک وہ سندھ کے غزنی کنارے تک تمام علاقہ پر قابض ہو چکے تھے، بھوک
 قبائل جن کے ہاتھ سے شہاب الدین غوری شہید ہوا تھا، مغلوں سے ساز باز کر رہے
 تھے، اور پنجاب میں اودھم مچا رہا تھا، بلین نے ان کی سرکوبی خاطر خواہ کی، اور سندھ
 راجپوت راجپوتانہ اور جہنا اور گنگا کے دو آب میں شورش برپا کر رہے تھے، اور مالوہ
 آزاد ہو چکا تھا، بلین نے ان کو بھی نیچا دکھایا، ناصر الدین بلین کا داماد تھا۔ بہ
 مرگ پر بلین کو بلایا، اور کہا کہ اپنے بعد میں اپنا جانشین تجھے نامزد کرتا ہوں،
 بلین کے عہد کے آغاز میں باغیوں نے ہر طرف سے سر اٹھایا، لیکن بلین
 وقت تک چین سے نہ بیٹھا جب تک ان کو ہر واقعہ سزا نہ دی، شاید ہی کوئی

موت کے منہ سے بچا ہوا، اس نے حلاج بن یوسف کا نام زندہ کر دیا، لیکن اس کے
سوا چارہ کار نہ تھا، مہیوتی سخت شورہ پشت تھے، ان کی وہ خبر لی کہ ساٹھ سال
تک منہ نہ اٹھا سکے۔

وہی اس وقت میں سلاطین کی پناہ گاہ تھی جو مغلوں کی چیرہ دستی سے اپنے ملک
سے بھاگ کر آئے تھے، بلین نے ان کا واجب احترام اور سرکاری خزانہ سے امداد بھی
کرتا رہا، ان کی تعداد پندرہ بیان کی جاتی ہے۔

بلین اسی سال کی عمر میں ۱۲۸۶ء میں فوت ہوا، اس کا بیٹا محمد ولایت ملتان کا والی
تھا، مغلوں کے مقابلہ میں لڑا ہوا مارا گیا، اسی کی ملازمت میں مشہور شاعر امیر خسرو
بھی تھا، وہ بھی اسپر ہوا، بلین کو بیٹے کی موت کا صدمہ اس ضعیف العمری میں ایسا
ہوا کہ جانبر نہ ہو سکا، اس کا دوسرا بیٹا بخر احوال ولایت بنگالہ کا حاکم تھا، اس کی
نسبت بلین کی رائے اچھی نہ تھی، محمد شہید کے بیٹے کے خسرو کو اپنا جانشین نامزد کیا
۱۲۰۲ء سے ۱۲۹۰ء چودہویں سال تک خاندان غلامان حکمران رہا۔

شجر نسب خانہ خان غلامان

شمس الدین آتش (۱۳۱۱ھ)

قطب الدین ایبک دستوفی (۱۲۱۰ھ)

۲۶

نیرام (۱۳۲۰ھ)

رضیہ سلطانہ (۱۳۳۵ھ)

رکن الدین (۱۳۳۵ھ)

ارام (۱۳۱۱ھ)

ناصر الدین محمود (۱۳۲۷ھ تا ۱۳۲۷ھ)

غیاث الدین بلبن (۱۳۷۷ھ تا ۱۳۷۷ھ)

بناضل

محمد کے خاندان

(۲) کے قبائل (۱۲۸۷ھ تا ۱۲۸۷ھ)

دس شاہان غلاماں میں سے تین بادشاہ قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش اور
غیاث الدین بلبن، الوالعزم تھے، اور یہی تین اپنی طبعی موت مرے، باقی سات قتل ہوئے،
ان تین نے اسلامی سلطنت کو دریائے سندھ سے برہم پتر تک وسعت دی، اور ان ہی
کے عہد میں، شاعت اسلام بھی خاطر خواہ ہوئی، آخری تاجدار کی قبضہ ۱۲۹۰ء میں خلجی
سرداروں کی سازش کا شکار ہوا، اب سلطنت ترکیوں سے ہاتھ سے نکل کر افغانوں کے ہاتھ
میں آگئی،

ہم بیان کرتے ہیں کہ قطب الدین ایبک کا نائب السلطنت بنگالہ میں محمد بختیار
خلجی تھا، اور اسی نے بہار اور بنگال فتح کیا تھا، پانچ سلطنت گورنمنٹ کا بختیار کے
بعد اسی قبیلہ کے سردار کے بعد دیگرے حکمران رہے، لیکن عموماً شاہان دہلی کے
نائب السلطنت ہی تھے، دہلی میں بھی ان کے قبیلہ کے سردار طبقہ امراء میں تھے اور
شاہانہ خدمات پر مامور تھے، رفتہ رفتہ اتنا زور پکڑ گئے، کہ "قبلاؤ" کو جو آرام طلب
شخص تھا، قتل کیا اور سلطنت پر قابض ہو گئے، اس وقت ان کا سردار ستر سال کا بڑھا
فیروز شاہ فوج کا بخشی تھا، اسی کو تخت پر بٹھا دیا، ترکی امراء کے ہاتھ سے اقتدار
نکلا تو دوبارہ ہاتھ پاؤں مائے بلبن کا برابر زادہ کستور خان جو ملک چھوٹے کے نام سے
مشہور ہے، دہلی پر چڑھ دیا، مگر "بدایوں" کے قریب شکست کھا کر اسیر ہوا۔
جلال الدین نے تصور معاف کر دیا، اور کہا کہ میں اب اللہ کے حضور میں پیش ہونے والا
ہوں، اپنے ہاتھ ایک مسلمان کے غلے سے زنجین نہ کر دوں گا،

لحاظ تقدیر و اخلاق عالیہ ہر ایک شخص انفرادی زندگی میں قابل تعریف ہے، لیکن
جب اس کا اثر اجتماعی زندگی پر بالخصوص نظام حکومت پر مخالفانہ پڑتا ہو، تو نتیجہ یہی
ہوتا ہے، جو جلال الدین کے رحم و کرم نے سلطنت میں پیدا کر دیا، جو دہلی اور راجستھان کے
مملکت کے طول و عرض میں اور دھم مچا دیا، خاص شہر دہلی میں ایک ہزار ٹھک ہو جوتھے،
دہلی میں ایک شخص سپہ سالار بلبن کے عہد میں تھا، مشہور صوفی بزرگ بادا فرید الدین
مسعود شکر گنج کا مرید تھا، سید درویش تھا، لیکن نگر خانہ ہر ایک شاہ گدا کے لئے

دن رات کھلا رہتا، اور یہاں شب و روز خلقت کا ہجوم آمد ان کی ارادت نے حکومت کو چوکٹ کر دیا، عموماً ترک یہاں جمع ہوتے۔ ان کی کرامت کا شہرہ دودھ دودھ تک ہوا۔ تم کوں نے حقیقہ یہ منصوبہ گمان تھا کہ ناصر الدین محمود کی ایک دختر کا نکاح سید سے کیا جائے، اور اس کی آڑ میں پھر سے تخت و تاج پر قبضہ جالیں، پیراڈ فاش ہوگی اور جلال الدین کے حکم سے سید مولا قتل ہوا،

یہ قدر تو فرو ہو گیا، مگر ان ہی ایام میں مغلوں نے ہلاکو خان کے تحت ہندوستان پر عہد اہول دیا، اور حسب عادت قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، اگرچہ شاہی فوج نے فکرت فاش دی، مگر سلطان رحم و کرم نے اسیران جنگ کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے دہلی کے قریب ہی بسایا۔ اس کو "مغل پورہ" کہتے ہیں، جہاں ان کی کستی تھی اور بعد میں سازش اور شورش کا مرکز بن گئی، جس نے حکومت دہلی کو کبھی صحن نہ لینے دیا، یہ مغل اگرچہ سب مسلمان ہو گئے تھے مگر اپنے اقتدار کے زمانہ میں جو عہد تعلق سے شروع ہوا، ان کی یہ حالت تھی کہ ہر ایک امیر و غریب کے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا تھا جو مسجد کا کام دیتا، ان کی بغیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی ہم چشم کی مسجد میں نماز بھی پڑھیں اس لئے "ٹوپیٹھ اینٹ کی مسجد" ضرب المثل ہو گئی،

اگر جلال الدین کا برادر زادہ علاء الدین امور سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں نہ لیتا تو خلیج ختم ہو جاتے، اس نے سلطان کی اجازت سے ملک دکن کی تسخیر کا ارادہ کیا، صرف آٹھ ہزار سوار اس کے ہمراہ تھے، سپاہیانہ چال یہ چلا کہ سلطان سے ناراضی کی وجہ سے "ملنگانہ" کے راجہ کی ملازمت میں جانا چاہتا تھا، اس مفروضہ واقعہ کو اتنی شہرت دی کہ سات سو میل کا سفر بندھیا چل کے جنگلوں اور پہاڑیوں میں برار اور خاندیس سے ہوتا ہوا طے کر گیا اور کسی راجہ نے مزاحمت نہ کی،

غالباً وہ اس خیال میں محو تھے کہ اس کے ذریعہ پھر سے ہندو مروج قائم کر لیں۔ ایک نعت وہ دیوگرھی "دولت آباد" کے سامنے تموار ہوا، یہاں کا راجہ نام چندر کر شر جہاراج کے قبیلہ "یادو" کی نسل سے راج کرتا تھا، علاء الدین نے اسے غفلت میں آلیہ

مقابلہ تو کیا مگر شکست کھائی، راجہ کا بیٹا شنکر دیو اس وقت باہر تھا۔ جلااح
 ہوئی۔ تو اُدھر اُدھر سے جمعیت فراہم کی، لیکن شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اسیر ہوا
 تو زرد جو اہرات دے کر گلو خلاصی کر ڈالی، مگر علاء الدین نے کچھ علاقہ ہتھیایا۔ جو بعد
 میں ایچ پور کے نام سے مشہور ہوا۔

اب مسلمانوں کا قدم دکن میں بھی جم گیا، محمد غوری کے بعد ایک سو سال کا
 عرصہ گزرا کہ ۱۲۹۴ء میں شمالی ہند کے بعد جنوبی ہند کی باری آئی،

مالِ غنیمت جو علاء الدین کے ہاتھ لگا، اس نے اپنے ہی قبضہ میں رکھا، سلطان
 جلال الدین نے لکھا کہ مجھے آکر ملو، یہ مالتا ہی رہا، آخر سلطان خود ملنے کے لئے
 آیا، دریا لنگائیں کشتی پر سوار تھا، اُمرانے بہت سمجھایا کہ علاء الدین کی نیت خراب ہے
 مگر بوجہ محبت یقین نہ کیا، علاء الدین سلطان کا داماد بھی تھا، فرشتہ لکھتا ہے
 کہ ایک مجذوب فقیر گنگا کے کنارے "اکورا" میں جہاں علاء الدین ڈیرہ ڈالے پڑا تھا، جب
 علاء الدین نے سنا، سلطان خود ملاقات کے لئے آ رہا ہے، ول میں چوہ تو تھا ہی مجذوب
 کے پاس گیا، اس نے کہا کہ

بہر کہ با تو کنسد جنگ سرور کشتی تن در گنگا

اُدھر سے سلطان اور اُدھر سے علاء الدین کشتیوں میں سوار ہوئے، علاء الدین
 کے اشارہ پر اس کے محافظوں نے سلطان کا سر قلم کر دیا، جو دریا میں گرا اور تن بے سر
 کشتی میں تڑپ تڑپ کر سرد ہو گیا، جلال الدین شہید کے بیٹے رکن الدین ابراہیم نے
 دہلی کے قریب مقابلہ کیا، مگر وہ اور اس کا بھائی "ادفلی" اسیر ہوئے، آنکھیں بگلو، مٹی
 گئیں۔ علاء الدین کی دارو دہش نے بدگوئیوں کا منہ بھی بند کر دیا، خلجی خاندان میں یہی
 الواخرم بادشاہ ہوا ہے،


جلال الدین نے ۱۲۹۰ء سے ۱۲۹۶ء تک حکومت کی، علاء الدین نے ۱۲۹۶ء
 سے ۱۳۱۶ء اور اس کے بیٹے شہاب الدین عمر نے صرف ایک ماہ اور قطب الدین مبارک
 دوسرے بیٹے نے ۱۳۱۶ء سے ۱۳۱۸ء تک حکومت کی، اس پر خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا

شہاب الدین محمد غوری اور اس کے نائب قطب الدین ایبک نے شمالی ہندوستان میں غلام الدین نے جنوبی ہند فتح کیا۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مغلوں یا ترکوں اور افغانوں میں خلوص اور محبت کا کوئی رشتہ نہ تھا، جب غلام الدین کے لشکر نے قلعہ "دہلی" کا محاصرہ کیا تو رانا ہمایوں کی فوج میں ترک ہی تھے، جنہوں نے ایک سال تک مقابلہ کیا، اور اگر اس کا وزیر راجہ مل غدری نہ کرتا اور خلیجوں کی راستہ سائی قلعہ کے اندر نہ کرتا تو اس کا سر ہونا بہت مشکل تھا،

سنہ ۱۲۰۶ء میں غلام الدین نے چتوڑ کا محاصرہ کیا، حملہ کا ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان رانا کی زوجہ رانی پدمنی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر فریفتہ ہو گیا۔ "نہ تہا عشق از دیدار خیزد بسا کہیں دولت از گفتار خیزد"

یہ واقعہ صرف فسانہ نگار مؤرخ ابو القاسم فرشتہ ہی بیان کرتا ہے، جس نے اپنی تاریخ سلہویں صدی عیسوی میں لکھی "معصر مورخین" اس کی نسبت خاموش ہو کر حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صرف افسانہ ہے تاریخی واقعہ نہیں ہے، البتہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ سنہ ۱۲۰۶ء میں غلام الدین کے لشکر نے گجرات مسخر کیا تو راجہ راکے کرن تو بھاگ گیا رانی کملادوی اسیران جنگ کے ساتھ دہلی میں آئی، غلام الدین نے اس سے عقد نکاح کر لیا۔ اسی کے بطن سے شہاب الدین عمر تھا، جو غلام الدین کے بعد تخت دہلی پر بیٹھا۔ غالباً غلام الدین یہ چاہتا تھا کہ ہندو راجاؤں سے رشتہ قائم کرے جس پر عمل بعد ازاں بکرتے کہ مشہور مؤرخ ضیاء الدین برہنی نے غلام الدین کے عہد کے واقعات مفصل لکھے ہیں۔ امیر خسرو اور نظام الدین اولیا، اسی کے عہد میں موجود تھے، "ملک کافور" یوں تو محمد بن تھا۔ مگر دکن کی فتوحات اسی کی مردانہ کوشش کا نتیجہ ہیں، آخری تابعدار مبارک شاہ کا منظور نظر ایک بیچ ذات کا ہندو تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر سلطان کو قتل کر کے خود مالک تخت و تاج ہو گیا، اپنی ذات پات کے ہندوؤں کو اپنے گرو جمع کر لیا اور تمام مناصب اور عہدے ان میں تقسیم کر دیے، مسلمان امراء نے متحد ہو کر غازی ملک کو جو پنجاب میں حاکم تھا دعوت تخت و تاج دی، اس نے ملک خسرو کو قتل کیا، اور تغلق خاندان کی بنا ڈالی،

ملک تترسلق



خاندان تغلق میں دو بادشاہ محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق قابل ذکر ہیں، ضیاء الدین برنی
 کا خاندان غلجی دور دورہ میں اچھے اچھے عہدوں پر مامور تھا، برنی اگرچہ محمد تغلق کا درباری
 تھا۔ مگر اس کی طرف سلطان کی توجہ کم تھی، اس لئے وہ سلطان سے کبیدہ خاطر رہا۔
 اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس نے محمد تغلق کے حالات اس پیرایہ میں لکھے ہیں، کہ معلوم
 ہوتا ہے کہ سلطان کو خلل و مانع کا عارضہ تھا، اس میں کچھ شک نہیں کہ محمد تغلق بلا کا وہ نہیں
 تھا جو کچھ اس کے مانع میں کوئی مفید تصور آتا اسے عمل میں لانے کی کوشش کرتا۔ مگر
 یہ نہ سمجھ سکا، کہ آیا زمانہ کے ذہنی اور خارجی حالات کے مناسبت بھی ہیں، جو
 شخص ان حالات کے تقاضہ کو نہیں سمجھ نہیں سکتا، خواہ اس کا
 تصور کتنا ہی بلند پایہ ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا،

آنحضرتؐ اور خلفاء راشدین کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ارتقاء انسانی کا
 ممکن عالی مقام قرآن میں پیش کرتے ہوئے اصلاح اسی حد تک کی جس کی اجازت ان
 کے اپنے زمانہ کے ذہنی اور خارجی حالات دی بقول ہربرٹ اسپنسر (Herbert
 Spencer) جو مصلحان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں اصلاح کی تکمیل
 ہو وہ ایک معاشری اصلاح کی جگہ سو معاشری بنیادیں پیدا کر دیتے ہیں، اصلاح بتدریج
 اور اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے،

محمد تغلق نے کاغذی سکہ چلانا چاہا۔ جو آج ہمارے زمانہ میں جاری ہے۔ اور معاشرت
 کے کارویار میں سہولیت پیدا کر دی ہے، مگر کامیاب نہ ہوا، جب اس وسیع سلطنت پر
 نظر کی جو پشاور سے رہ اس کماری تک پھیلی ہوئی تھی، تو ہندوستان کے وسط میں دار الحکومت
 کی تلاش کی، دیوگرھی جس کا نام دولت آباد رکھا وہی اچھا کر آباد نہ ہو سکی، ملک کے طول
 و عرض میں بغلات نے نظام سلطنت درہم بہرہم کر دیا، ہر ایک صوبہ خود مختار تھا، وکن
 میں سلطنت ہمنیہ کی بنیاد پڑ گئی، فرشتہ نے لکھا ہے، کہ تبت اور چین کی تسخیر کا ارادہ
 رکھتا تھا، اصل واقعہ یہ ہے کہ اس پہاڑی سلسلہ میں جو کوہ ہمالیہ ہی کا ہے اور پنجاب
 اور ہندوستان کے شمال اور شمال غرب میں واقع ہے، بہت پہاڑی راجے تھے، انہیں مطیع

رنے کے لئے شکر روانہ کیا، کانگریس مسخ تو ہوا، مگر فوج واپسی پر تباہ ہو گئی، ضیاء الدین
نی اور ابن بطوطہ سیلج جو محمد تغلق کے عہد میں آیا تھا، لکھتے ہیں کہ دہلی سے دس
میل پر ایک پہاڑی راجے کے خلاف مہم بھیجی گئی تھی،

محمد تغلق سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوت کی آگ بجھانے میں مصروف
وہ ملک ساہوستان کا حاکم بودھی تھا، علم بغاوت بلند کیا جب سنا کہ سلطان اس
کی سرکوبی کے لئے آ رہا ہے تو بھاگ کر سندھ میں پناہ لی، سلطان بھی تعاقب میں تھا،
۱۳۵۲ء میں فوت ہو گیا، بدایونی اپنی منتخب التواریخ
میں لکھتا ہے کہ

”خلق خدا نے اس سے اور خلق سے اس نے چھٹکارا پایا، بدایونی اکبر کا معاصر تھا۔“
سلطان غیاث الدین کا چھوٹا بھائی سپہ سالار رجب اس وقت مدینے مندر
خرج کے ساتھ پڑا تھا، جب محمد تغلق کی وفات کی خبر سنی، اپنے صخر سن بیٹے فیروز شاہ
پر جانشین نامزد کیا، فیروز شاہ کی ماں راجپوت عورت ”دن مل“ بھٹ حاکم ابو نصر کی لڑکی
تھی، غیاث الدین تغلق کی والدہ بھی مہندو تھی، اس وقت فیروز شاہ کی عمر چھ سال
تھی۔ ۱۳۵۹ء سال حکومت اس سے کی، جنوبی ہند کے ممالک اتھ سے نکل چکے تھے۔
ہندو کی البتہ شمالی ہند پر قبضہ بحال رکھا، اس نے مسجد لیا تھا کہ اتنے بڑے ملک پر
بے برصغیر شخص حکومت اس کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی، اس کی زیادہ تر توجہ رعایا
کی خوشحالی اور تعمیری کاموں پر صرف ہوئی، پنجاب میں فیروز پور اور حصار فیروزہ جو مخفف
ہو کر حصار رہ گیا، اسی کی یادگار ہے، دہلی کے قریب فیروز آباد بسایا، بنارس کے شمال
مغرب میں ”جون پور“ محمد تغلق کا نام زندہ رکھنے کے لئے آباد کیا،

برقی لکھتا ہے کہ چچاں بند دریاؤں پر باندھے تاکہ زراعت کے لئے آبپاشی کے
وسائل کی کمی نہ رہے، امیس ندر سے اور ان کے ملحق مساجد تعمیر کیں، سوکار دہلی سرکے
اور دو سو قصبات، سو ہسپتال، پانچ عجائب خانے اور سو حمام اور ایک سو چاس پل
بنائے غرض وہ کام کیا کہ شاہجہان کو بھی نصیب نہ ہوا، ابھی تک اس کی یادگار وہ ہر

جو ہانسی اور حصار تک خشک اور اٹنی کو سیراب کرتی ہے، دھلی کو اس نے باغ رونق دی، پارہ ہزار باغات دھلی کے قرب و جوار میں تھے، اس نے "توزک" بھی لکھی جس کا نام "فتوحات فیروز شاہی" ہے، اس کی خاص توجہ اشاعتِ اسلام کی طرف بھی تھی، سنسکرت سے بعض کتابوں کا ترجمہ بھی اسی کے عہد میں ہوا، جو ان کا کانگریہ سے ایک کتاب ہاتھ آئی، اس کا ترجمہ "دلائل فیروز شاہی" ہے، سبب السراج عظیم اور ضیاء ہرنی کی تاریخ اسی کے عہد میں لکھی گئی،


خان جہان ایک مہندو نو مسلم اس کا وزیر دست راست تھا، سنہ ۱۳۷۶ء میں ہوا، تو فیروز شاہ کو سخت صدمہ ہوا، تین سال بعد اس کا بڑا لڑکا فتح خان بھی فوت ہوا، جہان خان کے بیٹے کو وزارت دی، وہ بھی ایک سازش کا شکار ہوا، فیروز شاہ دل دنیا سے سر ہو چکا تھا، عمر بھی تہتر سال تھی، اپنے بیٹے ناصر الدین محمد کے حق و نکت و ناز سے دست بردار ہو کر گوشہ عبادت میں بیٹھ گیا، شہزادہ بالاق نام ہوا۔ پھر خلوت خانہ سے باہر آنا پڑا، اپنے پوتے کو مدارالمہام مقرر کیا اور نوے کی عمر میں یہ نیک بہادر بادشاہ رحلت کر گیا، جانشین ایسے ہوئے کہ تعلق خاندان کو خراب کر کے رہے۔

امیر تیمورنگ جس کے حالات ہم لکھ چکے ہیں، اپنی "توزک" میں لکھتا ہے: "مجھے مہندوستان پر حملہ کی خبرات اس لئے ہوئی کہ تعلق حکومت دہلی والی تھی" ایک لاکھ بیس ہزار سوار و پیادہ کی جمیعت کے ساتھ دھلی پر بڑھا، ہراول اس کے پیر محمد کے تحت داوری سندھ میں لوٹ گھسٹ کے بعد دیار کو عبور کر کے ٹٹھ اور ملتان میں آیا۔ تیمور بھی اس سے بانوسے ہزار سواروں کے ساتھ آگیا، اور دھلی تک قتل و غارت کا بازار گرم رکھا، جس کی وجہ سے غریب مریخین اسے "الوحش" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محمود تعلق اور اس کے وزیر اقبال خان نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر تیمور شہر میں داخل ہوا، اور پانچ روز قتل و غارت جاری رکھی، دو ہفتہ دھلی میں تیمور میرٹھ اور ہنوعار کی طرف گیا، کانگریہ اور جموں کے راستہ مہندوستان سے نکل گیا اور

پنے پیچھے بد نظمی، قحط، وبا، ویرانی کا منظر چھوڑ گیا، پانی بہت کے میدان پر شکست
 کھا کر محمود تعلق گجرات کی طرف بھاگ گیا، تیمور کے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور
 ۱۲۱۳ء میں فوت ہوا، اور تعلق خاندان ختم ہوا،
 سید خضر خان پنجاب میں تیمور کا نائب السلطنت تھا فوج
 لے کر دہلی میں داخل ہوا اور خاندان سادات کی نیادالی،

شجرہ نسب خاندان سادات

(۱) سید خضر خان (۱۲۱۲ء)



خاندان سادات کی حکومت ہر اے نام ہی تھی، خطیبہ اور سکہ تیمور کے نام جاری
 رکھا اور خود بطور نائب السلطنت دہلی اور اس کے قریب و جوار پر حکومت کرتے رہے
 کوئی قابل ذکر کام بھی نہ کیا، سید علاء الدین اپنی رضا و رغبت سے دستبردار ہو گیا
 اور بدایوں میں عمر کے لقب سے ایام امن سے بسر کرنے لگا۔

خاندان لودھی | بہلول خان اس وقت سرہند میں تیمور کا نائب السلطنت تھا
 وعلی پر قابض ہو گیا۔ بہلول لودھی کے آباؤ اجداد تجارت پیشہ
 تھے۔ ان میں سے بعض سلاطین وعلی کی ملازمت میں بھی رہے،

۱۱، سلطان بہلول خان (۱۷۵۰ء)

(۲) نظام خان سلطان سکندر غازی
 (۱۳۸۸ء)

(۳) ابراہیم لودھی
 (۱۵۱۷ء تا ۱۵۲۶ء)

بہلول اور اس کے جانشین صرف اتنا ہی کام کر سکے، کہ نظام سلطنت جو درہم برہم
 ہو چکا تھا، درست کیا، اور خود مختار صوبہ داروں کو پھر سے اطاعت پر مجبور کیا۔ آخری
 تاجدار ابراہیم لودھی پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر بادشاہ کے مقابل
 میں مارا گیا، اور سلطنت ہند بابر کی اولاد میں آ گئی،

سلاطین وکن | اس وقت ہندوستان کا نقشہ یہ تھا کہ ولایت سندھ اور بلتان
 اور جون پور اور بنگالہ اور گجرات اور مالوہ اور اڑیسہ میں خود مختار
 سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، فرشتہ اور دیگر مورخین نے ان ممالک کے سلاطین کے
 حالات مفصل لکھے ہیں، شاہان مغلیہ نے ان کو رفتہ رفتہ زیر کر لیا، ان میں سے قابل
 ذکر وکن کی بہمنی سلطنت اور وہ حکومتیں ہیں جو اس کی حریف ہیں،

اس خاندان کا دار السلطنت ابتدا میں "گلی برگہ" تھا، سلطان احمد شاہ نے
 "بیدر" مقرر کیا، خاندان بہمنیہ کے سلاطین کی لڑائیاں اکثر "وجیانگر" کے
 راجوں سے رہیں، ان کا مورث اعلیٰ "ہری ہر" دیوگری کے راجوں کے خاندان سے تھا

خاندان بہمنی کے زوال پر پانچ سلطنتیں دکن میں قائم ہوئیں۔

(۱) عادل شاہیہ۔ اس کی بنیاد عادل شاہ نے ۱۴۸۹ء میں ڈالی، پایہ تخت بیجاپور تھا۔

(۲) نظام شاہیہ، بانی ملک احمد ہے، پایہ تخت احمد نگر تھا،

(۳) قطب شاہیہ، قطب الملک نے ۱۵۱۲ء میں بنیاد رکھی، دارالسلطنت گولکنہ

(۴) عماد شاہیہ، "برار کے صوبہ میں قائم ہوئی، ۱۵۶۷ء میں نظام شاہیہ

مدغم ہو گئی۔

(۵) برید شاہیہ، دارالسلطنت "بیر" تھا،

ان خاندانوں میں اکثر خانہ جنگی رہتی۔ وجیانگر کے راجہ "رام رائے" کو مدد طلب کیا

ملتا رہا۔ بلکہ یہ بے غیرت اس کو خود ہی امداد کے لئے بلاتے رہے، ۱۵۴۲ء میں رام رائے

اور شاہان احمد نگر اور گولکنہ کی متحدہ فوجوں نے بیجاپور پر حملہ کر دیا، پندرہ سال

بعد ڈالی بیجاپور نے اس کے ساتھ ساز باز کی، اور احمد نگر پر حملہ کر دیا، نظام شاہیہ

سلطنت میں وہ تباہی مچائی کہ فرشتہ لکھتا ہے کہ

"وجیانگر کے کفار کی بن آئی، وہ ظلم و ستم ڈھایا کہ مسلمان عورتوں کو بے حرمت

کیا، مسجدیں ڈھا دیں، اور سران مجید کو پاؤں تلے روندلا"

اس واقعہ نے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا دی، اس سب خیال کیا کہ خانگی جنگ

کو چھوڑ کر متحد ہوں، شاہان بیجاپور اور گولکنہ اور احمد نگر اور بیر کی متحد

افواج لسر کر دی، شاہ بیجاپور ۱۵۶۵ء میں "تلی کوٹ" پر جمع ہوئیں، یہ ایک چھوٹا سا

دیہ "کشنا" کے شمال اور برید شاہیہ کی حدود میں واقع تھا، راجہ بھی لاؤشکر کے

ساتھ مقابلہ کے لئے آگیا، فریقین کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس

ایک فریق کی مکمل تباہی لازمی ہے، رام رائے نے نہر طرف سے فوج جمع کی، غالباً کہ

مہندڑ راجہ اتنی بڑی جمعیت کسی میدان میں اب تک نہ لایا تھا، مسلمان تعداد میں بہت

کم تھے، پہلے ہی حملہ میں اسلامی فوج کا ایک بازو ٹوٹ گیا، حسین نظام شاہ توپ خانہ

کے ساتھ قلب لشکر میں تھا، توپوں میں تانبے کے پیسے گولیوں کا کام دے رہے تھے،

وہ آگ برساتی کہ نہ صرف حریف کی پیش قدمی رُک گئی بلکہ اکثر مارے گئے اور
میں اتھری پھیل گئی، بیجا پور کے فوجی افسر کشور خاں نے وجیانگریوں کے دائیں اور
میں حملہ کر دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، آرام رائے مارا گیا، اندازہ مقتولین ایک
لکھ ہے،

”تلی کوٹ“ کا معرکہ تاریخ ہند میں ایسا ہی مشہور ہے جیسے تھانیسر اور پانی پت
لڑائیاں، ریاست وجیانگر تو فتح مند شاہان دکن نے آپس میں تقسیم کر لی، لیکن اب
ب کہ کوئی مقابل نہ رہا، انسانی طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔

”در عالم اضداد چہ اندیشہ صلح است با خود نتوان ساخت اگر جنگ نکرے
تاریخ اس واقعہ کو ہمیشہ دھرتی رہتی ہے، جسے امن و سکون کہتے ہیں وہ اس دنیا
میں یہ مقام جد و جہد ہے، اور ہر ایک آرام طلب سکون پسند شخص ہو یا قوم دیر سویر
ٹ جاتی ہے، زندگی ”جہاد“ ہے،

”اگر خواہی حیات اندر خطر نہی حیات جاوداں اندر ستیر است“
انسان کی بہت بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ہم جنس کے ورپے آزار دہن ہے
س کے دشمن بہت ہیں، اگر اس کا علم ہو تو کائنات مسخر کرے، آخر وہ اپنی ارتقا اور ایک دن یہ
حقیقت واضح کر دے گا،

ریاست وجیانگر تو ختم ہو گئی لیکن ہندوؤں نے ”نچور“، ”لور“ اور ”ندورا“ اور دیگر
مقامات پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں، یہ وہ دراصل جاگیر دار ہی تھے، لیکن نیم خود مختاری
کی وجہ سے راجہ اور رائے کہلاتے، وجیانگر کے راجوں کی اولاد میں سے ایک راجہ نے
انگریزوں کو وہ قطعہ زمین دیا جہاں اب شہر مدرہس آباد ہے،

دکن کی ریاستوں اور گجرات وغیرہ کا تذکرہ ہم مغلیہ شہنشاہیت کے ضمن میں
بیان کریں گے،

شیخ لاکھ صاحب خانان مغلیہ

تیمور

محمد میرال شاہ

سلطان ابوسعید

میرزا عمر شیخ

میرزا ظہیر الدین بابر شاہ ۳۳۹ھ

میرزا گل خان

میرزا محمد بیگم

میرزا عسکری

میرزا ابن ندال

۳۹۹ھ

۳۳۹ھ

۱۱۱۴ھ

۱۰۳۳ھ

مردوخش شاه شجاع شاه شجاع محمد امین اورنگ زیب سلطان محمد اول شکره

کام بخش

محمد سلطان

محمد سلطان

محمد سلطان

محمد سلطان

محمد سلطان

محمد سلطان

محمد امین

محمد امین

محمد امین

محمد امین

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

محمد شاه

مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر بادشاہ ہے۔ اپنے آبائی ملک میں تو اسے حسین نہ ملا، ہندوستان میں طوائف الملوکی تھی، مستقل مزاج اور بلند ہمت اور دلیر سپاہی تھا، قسمت نے جب "فرغانہ" میں بادی نے نہ کی، تو ہندوستان میں باور ہوئی، دہلی کے تخت پر سلطان ابراہیم حسین سکندر لودھی تھا، ایک لاکھ کی جمعیت سے پانی پت کے میدان میں مقابلہ کیا مگر شکست کھائی، اگرچہ بابر کے ساتھ قلیل فوج تھی، مگر توپ خانے نے جس سے ہندوستانی بادشاہ اور راجے ابھی تک نادانف تھے، اور ہندو قول نے ابراہیم کے قیل اور گھوڑوں کو خوف زدہ کر دیا اور لشکر میں سرسہمگی پیدا ہو گئی،

پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر دہلی اور آگرہ پر قابض ہو گیا، ہندو راجپوت راجے یہ سمجھتے تھے کہ بابر تیمورہی کا بیٹا ہے، جس طرح وہ آندھی آئی اور مطلع صاف ہو گیا، بابر بھی کچھ لوٹ گھسوٹ کے بعد چلتا بنے گا، مگر بابر نو گھر سے نکلا ہوا تھا جب دیکھا کہ وہ قدم جما کر بیٹھ گیا ہے، تو اس کے مکانے کی تدابیر کرنے لگے، جو وہ پور کا راجہ سنگرام سنگھ جو رانا سانگا کے نام سے مشہور ہے، بہادر سپاہی تھا اس کی تمام عمر لڑتے بھرتے ہی گزری،

کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر اسی لڑھکوں کے نشان تھے، ایک آنکھ بھی جاتی رہی۔ اور ایک ٹانگ بھی بے کار تھی، اس نے راجپوتوں کو ہر طرف سے اکٹھا کیا، اور یہ ٹڈی دل آگرہ کی طرف تیزی سے بڑھا، آگرہ سے تیس میل کے فاصلہ پر بابر اپنی قلیل فوج کے ساتھ "کنواہ" پر استقبال کے لئے سٹنے آیا، راجپوتوں کا لادشکر دیکھ کر سرداروں نے بابر کو یہ مشورہ دیا کہ مناسب ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں، اور اگلے سال مناسب تیاری کے بعد جنگ کریں،

بابر اپنی توڑک میں لکھتا ہے کہ

"میں نے امیروں کو سمجھایا کہ بادشاہت اس طرح کم ہمتی سے نہیں ملتی۔ اور اتنا تو سوچو کہ اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹے تو دشمن کب جہلت دے گا کہ ہم قابل نکتہ نہیں، جو کالے کوسوں دور ہے اگر یہ معرکہ جیت لیا تو ہندوستان

ہمارا، ورنہ میدان جنگ میں مرکز شہادت کا درجہ ملے گا۔

بابر نے شراب نوشی سے توبہ کی، اور فریش خاک پر سجدہ کرتے ہوئے دعا مستح
و نصرت مانگی۔ راجپوت جی توڑ کر لڑے، لیکن یہاں بھی توپوں اور بندوقوں کی شکست
سے ہاتھی اور گھوڑے بدم کے اور اپنے ہی لشکر کو روند ڈالا، اس پر بھی بہادر رانا سانگھا
ترتار ہا۔ جب دیکھا کہ سپاہ دل ہار چکی ہے، اور پوری طرح بھاگ رہی ہے تو چند پاپیوں
کے ساتھ میدان حریف کے ہاتھ میں دے کر جان بچائی لاکھوں پائے،

بابر نے پھر ایک دفعہ فرشل لالہ زار پر سجدہ تشکر ادا کیا، اور کہا کہ اے خالق ارض و سما
اگر تو حافظ و ناصر ہوتا، تو یہ عظیم الشان فتح نصیب نہ ہوتی، اکتواہمہ کا نام فتح پور سیکری
دکھا، اس کے بعد چندیری اور چیمپانیر کے مضبوط قلعے بھی سر کر کے، اور بہادر پرائیڈوں
کو شکست دے کر بنگالہ پر بھی تسلط حاصل کیا، بابر نے وارا سلطنت کا بل ہی رکھا، ۱۵۱۹ء
میں وفات پائی، نیشن ہندوستان سے کابل میں لے گئے اور وہاں دفن ہوا،
ہمالیوں بابر کا سب سے بڑا بیٹا دارث تخت ہند ہوا۔ باب کی وصیت کے مطابق ہمالیوں
کو مختلف علاقوں کی حکومت دے دی، کامران کو کابل اور قندھار اور پنجاب اور عسکری کو
میدات اور ہندال سنہیل جسے روہیل کھنڈ بھی کہتے ہیں ملا، وہ کابل کا پرانا نام ہے روہیل
کھنڈ میں پٹھان آباد ہوئے تو آبائی وطن کی یاد میں اس نام سے یاد کیا، یہ سب برادران یوسف
ثابت ہوئے،

بابر کی وفات کے بعد پھر عام بغاوت نے ہمالیوں کو اوجھڑا کر دیا، امیر ہیم لودھی
کی شکست کے بعد لودھی سردار گجرات اور مالوہ میں پناہ گزین ہوئے، یہاں بہادر شاہ حکمران
نفا، اس نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، اور مسلسل کو ہندوستان سے نکالنے کے لئے
ایک لشکر جہاز تیار کیا،

گجرات کی ولایت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ
سلاطین گجرات
یہاں کی زمین سرسبز اور آب و ہوا معتدل ہے کئی بندرگاہیں ہیں
جن میں مدیو اور بومسج اور کبے اور چول مشہور ہیں، اس لئے گجرات کا تجارتی تعلق

ایران اور عرب اور مصر سے ہمیشہ رہا ہے، ایسی متمول ولایت پر شاہانِ دہلی کی نظر تعلقا ہمیشہ رہی، اس کے شمال میں اردلی گھاٹی سلسلہ بندھیا چل سے جانتا ہے۔ ہر کے شمالی جانب سے یہ محفوظ مقام ہے، علاء الدین خلجی نے اسے پہلی دفعہ سلطنتِ دہلی میں شامل کیا، اس کے بعد یہ دہلی کے بادشاہوں کے تحت ہی رہا، اور دہلی ہی سے تاریخی سلطنت مقرر ہوئے، آخرا ایک نو مسلم راجپوت ظفر خان نے یہاں خود مختار حکومت قائم کی جو مظفر شاہ اول کے لقب سے مشہور ہوئی،

سلاطین گجرات

۱) ظفر خان مظفر شاہ (۶۱۲۰۱ھ - ۶۱۲۰۴ھ)

تاجدار خان

(۲) احمد شاہ (۶۱۲۱۱ھ - ۶۱۲۱۳ھ)

(۳) قطب الدین (۶۱۲۵۵ھ - ۶۱۲۵۷ھ)

(۳) محمد (۶۱۲۴۶ھ - ۶۱۲۴۸ھ)

(۵) سلطان محمود بیکہ

(۶۱۲۴۳ھ - ۶۱۲۵۹ھ)

(۴) احمد مظفر شاہ ثانی

(۶۱۲۵۱ھ - ۶۱۲۵۳ھ)

(۶) بہادر شاہ

(۸) محمود شاہ ثانی

اس خاندان میں احمد شاہ اور اس کا پوتا سلطان محمود بیگ تھے بہت نامور بادشاہ گنتے میں۔ احمد شاہ نے ہندو راجوں سے کاٹھیاواڑ لے لیا، ان کے مشہور اور مضبوط قلعے جو ناگہرہ اور گرنار، اور ناگورہ قبضہ کے بعد تمام جزیرہ ہنس کو سلطنت گجرات میں شامل کر لیا۔ اسی نے احمد آباد بسایا، جو گجرات کا دارالسلطنت ہو گیا، سلطان محمود شاہ کو راجپوت راجوں سے رٹنا پڑا، اور گرنار اور چمپانیر اور دیگر حصے فتح کر کے مستقل سلطنت گجرات میں شامل کر لے۔ اس ٹٹے دو "بنی گڑھ" کے لقب سے مشہور ہے، یعنی دو قلعوں والا، اس کی شہرت و نیاد اسلام میں بھی پھیل گئی، شاہ اسماعیل صفوی جو اس وقت ایران کلج کلاہ تھا اس نے اپنا ایلچی تحائف کے ساتھ بھیجا، ترکی سلطان سلیم نے پہنچنے والے کے خلاف ہندو کی دروغت کی، ان کے تجارتی اور ذراقی جہاز بحیرہ روم اور بحیرہ عرب میں پھرتے تھے، قلعہ "دیو" پر ان کا قبضہ ہو گیا، تو یہاں شاہ اسماعیل نے سلطان محمود کے آخری پیام میں ایک "فیکری" یعنی تجارتی کوٹھی قائم کر لی،

محمود کے بعد اس کا بیٹا مظفر شاہ ثانی تخت نشین ہوا، رانا سنگا میواڑ کے راجہ نے مالوہ کے راجہ کو شکست دی، اور دارالسلطنت "منڈو" پر قبضہ کر لیا اس کے بعد گجرات کا رخ کیا، رانا راجپوتانہ کی متحدہ فوج کا سردار تھا، مظفر شاہ کب تک لڑتا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، تاہم غیبی سے رانا سنگا کی توجہ باہر کی طرف لگ گئی،

شیخ پیر پور مظفر شاہ کا بیٹا بہادر شاہ گجرات پر حکومت کرتا تھا، ہمایوں نے اس پر فوج کشی کی، تو پرخانہ اس کے فوجی افسر "دومی خان" کے تحت تھا، وہ ہمایوں سے ملی گیا، بہادر شاہ نے بھاگ کر جان بچائی، ہمایوں نے حسب عادت معمولی قتل و غارت سے احمد آباد کی اہٹ سے اہٹ بجاوی، مال غنیمت میں اسیران جنگ میں مشہور ماہر فن موسیقی شیخ "پیر پور" بھی تھا، اور ایک "طوطا" جو شاہی غسل میں تھا، ہمایوں کو ملا، ہندو راجوں نے بھی مدد دی تھی، ایک راجہ اور دہلی سے گزر رہا تھا، شیخ پیر پور کو پہچان لیا اور غسل پیا ہی سے سڑا لیا، کیا کہ ایسے چھوڑ دو۔ اس پر تنازعہ ہوا تو مولدہ ہمایوں کے گوش گزار ہوا، راجہ نے کہا کہ حضور اس شخص کا جواب آج تمام ہندوستان میں نہیں۔

ہمایلوں کی فرمائش پر شیخ بیجو نے امیر خسرو اور خواجہ حسن دہلوی کی غزلیں سنائیں تو
ہمایلوں بھی مجبور ہو گیا، شیخ سے دریافت پر یہ انعام منظور کیا، کہ اس کے بھائی بند
سپاہیوں کی قید میں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے،

ہمایلوں نے حکم دیا کہ شیخ جسے چاہے آزاد کر سکتا ہے،

شیخ صاحب نے لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ جو اسیر ملت
اس کے اشارہ پر چھوڑ دیا جاتا، ہمایلوں کے پاس شکایت ہوئی تو کہا کہ شیخ بیجو کی خاطر
سب کو رہا کر دو۔

ہمایلوں شیخ سے جدا ہونا نہ چاہتا تھا، مگر شیخ اس کی صحبت سے گھبراتا، شیر شاہ
افغان کی شورش کی وجہ سے ہمایلوں کو اور ضرر متوجہ ہونا پڑا، تو اسے موقع مل گیا۔ چیکے
سے کھسک گیا، اور اپنے آقا ولی نعمت سے آگیا، بہادر شاہ کہا کرتا کہ مجھے شیخ بیجو مل گیا
سلطنت جانے کا غم نہیں،

طیطا بھی عجیب مخلوق تھا، ہمایلوں کی مجلس میں امرا کے ساتھ رومی خان بھی بیٹھا
ہوا تھا۔ کہ ایک لڑکتی طیطا بولا، ”پھٹے منہ رومی خان“ رومی خان زمین میں گر گیا، ہمایلوں
نے کہا کہ بے شعور جانور ہے، غالباً محل میں اس نے یہ فقرہ سن لیا، اگر کوئی آدمی یہ کہتا
تو اس کی زبان کھینچ لیتا،

اکبر نے سلاطین ہجرات کا خاتمہ کر دیا،

شجرہ نسب خاندان سوری

اہل سہم خاں
جمال خاں

(۱) فرید خان المقلب بشیر شاہ
۹۲۸ھ

(۲) سلیم شاہ
۹۵۳ھ

(۳) فیروز شاہ
۹۷۱ھ

اس خاندان میں صرف ایک شیر شاہ قابل ذکر ہے اس کا دادا ہندوستان آیا۔ اور امراء کی خدمت میں رہا، باپ حاکم جون پور کے لشکر میں فسر تھا، چند گاؤں سہرام اور خواص پور جاگیر میں ملے، جو شیر شاہ کو وراثت میں ملے بابر نے بھی جاگیر میں کچھ ضافہ کیا، یہاں الوالعزم اپنی طاقت بڑھا گیا، اور رفتہ رفتہ بہار اور بنگال پر متصرف ہو گیا، ہمایوں جس وقت کجرات میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رہا تھا، شیر شاہ نے چنار اور بنارس پر حملہ کر دیا، ہمایوں نے منکر چنار پر یلغار کرتا ہوا آ رہا تھا، شیر شاہ میں مقابلہ کی تاب نہ لکھی، بھاگ کر بنگال کے میدانوں میں پہنچ گیا، ہمایوں بھی تعاقب میں تھا، بنگال میں برسات کثرت سے ہوتی ہے اس لئے موسمی بجا رہی عام ہے شاہی لشکر اس میں مبتلا ہو گیا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر فوراً حملہ کر دیا، بکسر کے قریب چولستان کے میدان میں خونریز جنگ ہوئی، شاہی فوج نے راہ فرار اختیار کی، پٹھان تعاقب میں تھے،

ہالیوں نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، گھوڑا ران کے نیچے سے نکل گیا، نظام سفقہ مشک دیا
تیرنا آ رہا تھا، اس نے تمام کرکنا لے لگایا،

مگرہ میں خوار دستہ پہنچا، بھائی کامران اور عسکری اور ہندال موجود تھے اور
وقت کام نہ آئے، خود مختاری کے منصوبے باندھ رہے تھے، شاید دست و گریبان ہوئے
مگر بیگمات نے بیچ بچاؤ کرنے کے صلح کرادی یہاں ہالیوں نے ایک لاکھ فوج جمع کی، فوج کے
قریب شیرشاہ سے مقابلہ ہوا۔ مگر شکست فاش کھائی، ہالیوں بھاگا، راجپوتانہ کی خاک
ہوا امرکوٹ پہنچا، یہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جو بعد میں اکبر اعظم ہوا، آخر ایران کی حدود میں داخل
ہو گیا، اس وقت ظہما سپ صفوی شاہ ایران تھا، احترام سے پیش آیا، اس کی مدد سے دوبار
ہندوستان پر قبضہ کیا، شیرشاہ فوت ہو چکا تھا، اس کے جانشین میں تاب مقاومت نہ
شیرشاہ نے صرف چھ سال حکومت کی، لیکن اس قلیل عرصہ میں رفاہ عام کے بہت کام
کئے، احمد عایا کی خوشحالی کا اسے بہت خیال تھا، اس کا نیک سلوک جہاں مسلمانوں سے تھا
مہندوں سے بھی ویسا ہی تھا، اسی کا مشیر مال ٹوڈرل تھا، جو بعد میں دیار اکبری کا ایک
ڈن ہوا، شکرپس اور سر میں ملک کے طول و عرض میں تعمیر کیں، ان میں وہ شکر جو اب تک
موجود ہے اس کے دارالحکومت "گور" واقع بنگال سے پشاور تک آئی ہے، افسوس ہے
کہ اس کا جانشین اس کے دل و دماغ کا نہ تھا، اس کے بیٹے سلیم شاہ کی وفات کے بعد اس
کے برادرزادہ ابراہیم نے تخت سنبھال لیا، یہ "اندھلی" کے نام سے مشہور ہے خوشامیوں
نے "عدلی" بنا دیا، اس کی فوج کا سپہ سالار سمیوں بقال تھا، اور سیاہ و سفید کا مالک تھا۔
سودی خاندان کے سردار ہر ایک تخت دھلی کا دعوتے وار تھا، اور اس میں لڑ رہے تھے
اور جہاں جو ملک یا اس کا حصہ آتا خود مختار ملک بن جاتا، ہالیوں نے انکو آسانی سے شکست
دے کر پنجاب اور دھلی اور مگرہ پر قبضہ کر لیا، ابھی فتح مکمل نہ ہوئی تھی کہ "ازبام افغان
اور مگرہ

ہالیوں کے لشکر میں اکثر ایرانی شیعہ تھے، ایک دن ایک سنی عالم نے خلوت میں
کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف ہی نظر آتے ہیں، اور ان کا اثر یہ ہے کہ اب سنی بھی اپنی اولاد

کا نام علی اور حسن و حسین رکھتے ہیں، بہایوں سخت برافروختہ ہوئے اور کہا کہ میرے
دادا کا نام "عمر" تھا، بہایوں کی شکست کا موجب اس کے اپنے بھائی تھے۔ ایک دن
شاہ بہاسپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، شاہ کا بھائی طشت لے ہاتھ دھلا
رہا تھا، شاہ نے بہایوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ

دیکھو بھائی اس طرح اور اس مقام پر رکھنے چاہئیں،

خاندان مغلیہ میں چار نامور بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت آگرہ پر بیٹھے، اکبر اعظم
ہی دراصل اس خاندان کی شہنشاہیت کا بانی ہے، عدلی شاہ بنگالہ میں تھا، ہیموں کو
شکر چرار کے ساتھ آگرہ کی طرف روانہ کیا، کبر کا لڑکھن تھا، اس کا وزیر اور سپہ سالار بیرم خان
تالیق تھا، کابل سے آگرہ کی طرف آ رہا تھا، کہ کلاںور میں بہایوں کی وفات کی خبر ملی، بیرم نے
اسی جگہ اکبر کی جانشینی کا اعلان کر دیا، ادھر آگرہ سے متل بھاگ کر کابل کی طرف جا رہے
تھے۔ بیرم نے ان کو دودکا اور آگرہ کی طرف بڑھا، ۱۵۵۲ء میں پانی پت کے میدان میں ہیموں
سے مقابلہ ہو گیا، شکست کھائی اور مارا گیا، اس فتح سے باہر کا تمام مفتوحہ علاقہ اکبر
کے قبضہ میں آ گیا،

اکبری عہد کے حالات مجلدات ابو الفضل کے علاوہ عبدالقادر بدایونی کی تاریخ "منتخب
التواریخ" میں مفصل بیان کئے گئے ہیں، ابو الفضل تو وزیر اعظم تھا، وہ اکبر کو بڑھا چڑھا کر
بیان کرتا ہے، اور عبدالقادر بدایونی اکبر کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی ہر
ایک حرکت پر سخت نکتہ چینی کرتا ہے، اور ابو الفضل اور اس کا بڑا بھائی فیضی شیخ مبارک
کے بیٹے تھے، شیخ مبارک خود غلام یا غلام زادہ تھا، لیکن اپنے زمانہ کے اکابر علماء کی صحبت
کا فیض یافتہ تھا، فطرۃً ذہین تھا، اس لئے اس کا شمار اس زمانہ کے علماء میں ہوتا ہے،
اسی کا شاگرد بدایونی ابو الفضل اور ابو الفیض فیضی کا ہم مکتب تھا، شیخ مبارک ذرا آزاد خیال
واقع ہوا تھا، اور اس پر یہ بھی الزام تھا کہ فرقہ ہمدویہ سے تعلق رکھتا ہے،

ہم نے ان اوراق میں کئی ہمدیوں کے حالات لکھے ہیں | **ہمدی محمد الہمدی جوئیوری**
جو عرب اور ایران اور مصر میں ہوئے ہمارے ہندوستان

کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اس لحاظ سے کسی سے پیچھے نہ رہے۔

اس وقت دہلی خاندان تغلق رو بہ زوال تھا، دکن میں بہمنیہ کا ستارہ اوج پر تھا
 گجرات پر سلطان محمود بیکر حکمران تھا، شمالی ہند میں طوائف الملوکی تھی، جون پور میں
 سید محمد کی ولادت ہوئی، ہونہار ہرداس کے چکنے چکنے پات، سات سال کی عمر میں قرآن
 حفظ کیا، بارہ سال کا تھا کہ درسیہ کتابیں بھی دیکھ لیں، بڑے پورے سے اس کی ذہانت پر
 حیران تھے، شیخ دانیال کے دستِ حق پرست پر سعیت کی اور خاندان چشتیہ سے دست
 اور مراتب سلوک ملے کرنے کے بعد خود صاحب ارشاد ہو گیا، جوانی کا عالم اور زہد و
 تقویٰ، بزرگی اور تقدس کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا، حلقہ ارادت روز بروز وسیع تر
 ہوتا گیا، سلطان حسین والی دانا پور ایک ہندو راجہ کی ریاست میں باجگزار تھا۔ سید
 کی خدمت میں بصد عقیدت حاضر ہوا، اور کچھ ایسا گردیدہ ہوا کہ عرض کی کہ یا تو مجھے اجازت
 دیں کہ کاروبار سلطنت چھوڑ کر خدمت میں رہوں یا آپ میرے پاس رہیں۔ سید نے آخر الذکر
 استدعا منظور کی، لیکن سید ایک جگہ جم کر نہ بیٹھا، قرب و چار کے شہروں میں وعظ کا سلسلہ
 شروع ہو گیا۔

یہ سمجھنا چاہیے کہ سید جہاں جانا وہاں مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی
 اور یہ سب کچھ دلہیپ رائے کی حدود سلطنت میں ہو رہا تھا، مگر رائے کو یہ امر ناگوار گزرا
 اور اسے خطرہ بھی محسوس ہوا، کہ اس کی ریاست کے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی پر دانہ وا
 سید کے گرو جمع ہوتے ہیں اور اکثر اسلام قبول کرتے ہیں، مگر اس لئے دم بخود تھا کہ اگر ذرا
 سختی کی تو ہمایہ مسلمان ریاستیں کہیں دھاوا نہ بول دیں، لیکن زیادہ دیر تک خاموش بھی
 نہ رہ سکتا تھا، وہ سخت متعصب ہندو تھا، اور جب سنتا کہ اس کی مہندور عایا میں سے
 آج فلاں خاندان مسلمان ہو گیا ہے تو سینہ پر سانپ لوٹ جاتا، مناسب خیال کیا کہ سلطان
 حسین کو سمجھا دے کہ ایسی حرکت نازیبا ہے جس کا نتیجہ کسی وقت ریاست میں شورش ہو
 دلہیپ رائے کو در زیادہ تر "نوج پیرا گیاں کا تھا، جو سید نے تیار کر رکھی تھی، یہ لوگ ہر وقت
 ہتھیار بند بھی رہتے، سلطان کی طلبی ہوئی تو وہ سید کی خدمت میں آیا، اس وقت

علقہ مریدان باصفائیں میں بیٹھا ہوا تھا، سلطان نے ولیمپ رائے کا پیغام سنا یا۔ تو سیر جلال میں آگیا اور کہا

”کم نجت آج روئے زمین پر تجھ سے زیادہ محروم شخص کوئی نہ ہوگا تو حق کو چھوڑ کر باطل کا پرستار بنے مسلمان ہوتے ہوئے ایک کافر کا باجگزار بنے سلطان لرز گیا، سید نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

”چھوڑو اس مردود کو میں آج کافر ولیمپ رائے کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں“

اعلان جہاد ہوا۔ تو فوج بیراگیاں کے علاوہ جس خوش عقیدہ نے سنا، حاضر ہو گیا۔ چند روز میں ہزاروں جمع ہو گئے، حسین کے پاس جو تھوڑی جمعیت تھی وہ بھی ملحق ہو گئی ولیمپ رائے غافل نہ تھا، جب اس کو پرچہ لگا تو نوسا ان دیوانوں کی شوریدہ سری کے علاج کے لئے اٹھا، اوہر سید ولیمپ رائے کی راج دھانی ”گور“ کی طرف بھاگا کرتا ہوا بڑھا بڑھا سلطان حسین کے ہمراہ تیس ہزار کی جمعیت تھی، مگر اکثر دغا کار ہی تھے، فوج بیراگیاں ایک ہزار عقب لشکر میں تھی، دونوں لشکروں کا تصادم ہوا۔ تو سلطانی فوج لپٹا ہونے لگی، سلطان حسین کے چہرہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں، سید کے قریب ہی سوار تھا، گھبرا کر سید کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، اس وقت سید جمال اور جلال کی دکش تصویر تھی سلطان سے آنکھیں دوچار ہوئیں، سلطان زبان حال سے کہہ رہا تھا، کہ ابھی وقت ہے، آؤ کسی طرف نکل چلیں سید نے جب سلطانی سپاہ کو لپٹا ہوتے دیکھا تو نعرہ تکبیر اور فوج بیراگیاں کے ساتھ ولیمپ رائے پر ٹوٹ پڑا، سلطانی فوج بھی سنبھل گئی، بیراگیاں کا حملہ اتنا پر زور تھا کہ قلب لشکر تک رائے کی فوج کی صفیں الٹ گئیں، خود سید ولیمپ رائے کے پہلو میں تھا، ولیمپ رائے تلوار کا وارہ کرنا چاہتا تھا، مگر کسی قوت سے ہوا میں ہاتھ تھام لیا سید نے شمشیر پراں کا وہ ہاتھ دبا کہ سسر پڑی تو سینہ تک کہیں دم نہ لیا بس فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب سید نے ولیمپ رائے کو خاک و خون میں غاطس دیکھا، تو

ولیب رائے کا دل باہر نکلا ہوا تھا، جس پر اس بیت کا نقش نمایاں تھا جس کی وہ پوچھا
 کیا کرتا، بات اصل میں یہ ہے کہ ولیب رائے کے سینہ پر اس بیت کا نقش تھا جب
 سید کی نظر اس پر پڑی تو ایک نعرہ مارا اور یہ ہوش ہو گیا، کم بتوں کے پرستاروں کو ایسے
 ٹھاکروں سے اتنا والہانہ عشق ہو، تو اللہ تعالیٰ کی خالص بلا شائبہ شرک عبادت کرنے
 والوں کو کیا کچھ نہ ہونا چاہیے،

کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سید عرصہ تک حالت جذب میں رہا، بارہ برس
 عرصہ اسی حالت میں گذر گیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ سلوک کی کن منازل کو طے کرنا چاہتا
 کس مقام عالی تک پہنچا، آخر اس نے عالم لاہوت سے ناموت کی طرف نزول کیا پھر وہی
 وعظ اور وہی سفر تھا۔

سلطان حسین تو ولیب رائے کی ریاست کا خود مختار شاہ اور سید کو شاعت اسلام
 کی دھن تھی، ہندوستان کے لوگ درویشوں کے بڑے گرویدہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ
 کلام نہیں کہ ان ہی درویشوں نے اس ملک میں اسلام پھیلایا، ان میں سے خاندان چشتیہ
 کے اکابر خواجہ معین الدین جمیری اور آپ کے خلفاء نے نمایاں کام کیا، خاندان چشتیہ میں
 سماع کا رواج ہے اور یہ بھی مزید کشش کا باعث تھا کیونکہ ہندوستانی راگ کے بہت
 دلدادہ ہیں،

ولیب رائے کے خاندان نے بھی اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک جس کا اسلامی
 نام میاں ولادر تھا، سید کا رفیق سفر و حضر میں آخر دم تک رہا۔

سید اپنے عیال و اطفال اور چند مریدوں کے ساتھ اسلامی ریاستوں میں وعظ کر
 رہا، یہ سید کا پہلا سفر ہے، اسی سفر میں اس پر سلسلہ الہامات شروع ہو گیا، اور اس
 اسی سفر میں دعوت ہندو بیت کیا، مریدوں نے بلاچوں و چراتسلیم کیا، ہائے ہندوستانی
 ہندی میں ایک خاص امتیازی خوبی ہے جو دیگر عیان ہندو بیت میں جو اس سے پیشتر گزرتی
 نہیں پائی جاتی، اگر اسے ہوس سلطنت ہوتی تو وہ ولیب رائے کی جگہ بادشاہ بسہولیت ہو سکتا
 تھا، لیکن مدت العمروہ و دلوش ہی رہا، سلاطین اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے،

شہر مندو دارالسلطنت مالوہ میں سید کو ہیڈ سے بڑھ کر کامیابی ہوئی سلطان
 یث الدین حلقہ اراوت میں داخل ہو گیا، امراء سلطانی میں سے ایک شخص مسیحی الہ داؤ
 سید کا مرید ہوا، یہ بہت بڑا عالم تھا، اور اس کی توجہ سے سید کو ہر ایک جگہ بہت کامیابی
 ملی، کہ جب اس پایہ کا عالم سید پر ایمان لائے تو عوام کو زیادہ سوچ بچار نہ کرنی چاہئے
 بھی سید کا رفیق ہمیشہ رہا، صاحب تصانیف بھی ہے۔ رسالہ "بار امانت" اور "ثبوت مہدویت"
 ہی کی تصنیف ہیں "صاحب دیوان" بھی ہے، سید نے اب گجرات کی طرف توجہ کی، سلطان
 موڈ بیکرہ "اگر علماء مانع نہ آتے تو سید کا مرید ہو چکا تھا، اس جگہ ایک نوجوان طالب علم
 یاں نظام الدین نامی مرید ہوا، ہر ایک سفر میں ہمراہ رہا، اس جگہ سید کی زوجہ کا
 انتقال ہو گیا، مہدی سے بی بی آمنہ کہتے، قلعہ کے قریب ہی مزار ہے، اب سید نے
 جلی مہصر اور مہسر و کنی حکومتوں کا دورہ کیا، پایہ تخت احمد نگر میں احمد نظام شاہ "بحری"
 حلقہ اراوت میں شامل ہوا، پھر پیدر پائیہ تخت برید شاہیہ میں آیا، خود بانی سلطنت
 ملک قائم برید بصد عقیدت مرید ہو گیا، عوام الناس کے علاوہ علماء اسلام بھی حلقہ اراوت
 میں داخل ہوئے، یہاں سید نے حج کے ارادے سے خاک سیاہ مہند کو خیر باد کہا، حرم میں
 داخل ہوا۔ تو حدیث بروایت ام سلمہ یاد آئی، کہ مہدی کے ہاتھ پتہ میں الرکن والمقام لوگ
 بیعت کریں گے، اگرچہ یہ حدیث عبداللہ بن زبیر کے حق میں سنہ ۴۰ میں پوری ہو چکی تھی،
 مگر پیش گوئی کا مصداق ہر ایک مدعی مہدویت ہو سکتا ہے۔ رکن اور مقام کے درمیان
 سید نے کہا کہ

"من اتبعنی فهو مومن" جو بھی میرا اتباع کرے کامومن ہے مریدوں نے بیعت کی
 حج سے فارغ ہوا۔ تو احمد آباد گجرات میں اترا، علماء اسلام نے مخالفت کی سلطان محمد
 نے خارج از بلد کیا، قصبہ "بیلی" میں بھرے جلسہ میں اپنے جسم کی جلد کو دو انگلیوں
 پکڑ کر کہا کہ

"جو شخص اس ذات کے دعوے مہدویت کا منکر ہے کافر ہے"

یہاں بھی علماء فرمان سلطانی بلا رونا گہانی کی طرح لائے، شہر مندو دارالسلطنت مندو

سے بھی نکلنا پڑا، خراسان کی طرف ہجرت کی، قندھار میں میرزا شاہ بیگ حاکم کے روپر و جامع مسجد میں علماء کا مناظرہ ہوا، علماء درشت کلامی سے پیش آئے، یہ عجز و انحصار سے گفتگو کرتا رہا۔ اس کا اثر حاکم پر خاطر خواہ ہوا۔ عزت و احترام سے رخصت کیا، "فراہ" میں آیا، امیر زید النون حاکم شہر نے کل حالات مزاحمین سلطان خراسان کی خدمت میں لکھے، جواب کا منتظر تھا، کہ سید کا انتقال ۹۱۱ھ تہتر ہجری کی عمر میں ہو گیا، اور یہیں مدفون ہوا۔ دکن میں محمد المہدی کا کلمہ اب بھی پڑھا جاتا ہے۔ سید کی وفات کے بعد میاں عبداللہ نبیازی جو شیخ سلیم حشتی کے خلفاء میں سے تھا حلقہ مہر دیت میں داخل ہو گیا، اسی کی وساطت سے شیخ علائی جو شیوخ بنگالہ سے تھا ایک جو شیلہ آدمی تھا، مہر دی ہوا، اس کے ذریعہ اس فرقہ کو بہت فروغ ہوا، سلیم شہر کے دربار میں شیخ علائی کا مناظرہ علماء اسلام سے ہوا، ملا جلال دانش مند نے وہ حدیث پڑھی جس میں امام مہدی کا حلیہ مذکور ہے، اور لفظ "اجلی" الجہتہ "بفتح جیم اولیٰ" تشدید لام جو جلال سے مشتق اور جلیل کی تفصیل ہے پڑھا۔

شیخ علائی نے کہا کہ تو نے لوگوں میں اپنے آپ کو علامہ مشہور کر رکھا ہے۔ عربی کے ایک فقرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کے نکات خاک سمجھے گا، یہ لفظ "اجلی الجہتہ" حلی کی تفصیل ہے، نہ کہ تیرے نام جلال کی "بے چارہ ملا تو اپنا سامنے لے کر رہ گیا" اسی مجلس میں ابو الفضل اور فیضی کا باپ شیخ مبارک بھی موجود تھا، شیخ علائی کی تقریر کا اثر تو ضرور ہوا، مگر یہ امر شبہ ہے کہ وہ مہر دی تھا کہ نہیں، مگر اس پر اکبر کے عہد میں علماء اسلام نے شبہ ضرور کیا،

اکبر کے دنوں کجاویں ابو الفضل اور فیضی سے انتظام مملکت میں بہت مدد مورخین کی یہ رائے کہ ابو الفضل نے اکبر کو گمراہ کیا تھا، قطعاً غلط ہے، ابو الفضل ایک ملا تھا، بساط سیاست پر وہ اکبر کا مہرہ تھا جس کو اکبر نے اپنے زمانہ کے ملاؤں سے مقابل کیا، اور بات دی، اکبر نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ خاندان سوری کے عہد میں یہ ملا اتنے خود سر ہو گئے تھے کہ اپنی دینی حکومت کی آڑ میں سلطنت اور سلاطین پر چھاپ

ہے، جب تک یہ حالت ہے، وہ برائے نام ہی بادشاہ رہے گا، ان دنوں شیخ عبدالنبی
مددالصدور آگرہ میں تھا، امام ابوحنیفہ کی اولاد سے تھا، اس لئے بھی اس کا احترام
رہتا تھا، اکبر بقول بدایونی اس کی جو تیاں سیدھی کرتا۔

اکبر پہلے سیاسی چال چلا، کہ ایک مجلس مناظرہ منعقد کی۔ اور مختلف العقیدہ
علماء کو دعوت دی، غرض یہ تھی کہ ہر ایک اختلافی مسئلہ پر علماء بحث و مباحثہ کے
بعد جب اتفاق کریں گے، تو وہی تمام مملکت میں بطور قانون شریعت نافذ کرویا جائے گا
بدایونی لکھتا ہے کہ علماء کرام کی یہ حالت تھی کہ ہر ایک اپنا علم و فضل جتانے کے
لئے اگر ایک کسی شے کو جنال کہتا تو دوسرا حرام قرار دیتا، اور تائید و آیات سے کرتا،
کتب خانہ شاہی سے کتابیں بھی منگوائی جہاں میں، اہم شے یہ حالت ہوئی، کہ بحث کی
گرمی میں لام دکاف انک نہایت پہنچ گئی۔ اور بادشاہ کی موجودگی کا کچھ پاس نہ رہا۔

ایک روز اکبر نے کہا کہ اگر خلاف آداب مجلس کسی نے کوئی ناملائم فقرہ استعمال کیا
تو نکال دیا جائے گا، بدایونی بھی تریب ہی بیٹھا تھا، بی زبان سے کہا کہ کچھ تو سب اسی
لاٹن ہیں، بادشاہ نے سن تو لیا، مگر تجاہل عارفانہ سے کہا کہ کیا کہتا ہے بدایونی
نے کہا حضور نے سچ فرمایا۔ اکبر نے بھی ان سنی بات کی، اس کا نتیجہ خاطر خواہ ہوا علماء
لوگوں کی نظروں سے ایسے گرے کہ ان کا وقار اور رنگ زیب کے عہد تک بھی وہ نہ تھا،
جو سوری خاندان کے دور دورہ میں رہا۔

اس وقت آگرہ میں شیخ عبدالنبی اور لاہور میں عبداللہ مخدوم الملک دینی حکومت
کے مالک تھے، دونوں کو بیک وقت حکم ملا کہ حج کے لئے مکہ جاؤ، زادراہ کے علاوہ کھوں
روپیہ اکبر نے وہاں کے مستحقین کے لئے بھی دیا، حکم یہ تھا کہ جب تک دوسرا حکم نہ ملے
واپس نہ آؤ۔ اکبر کی یہ دوسری سیاسی چال تھی، حج کا انکار کس طرح کرتے، بادل نخواستہ جانا
ہی پڑا، وہاں سنا کہ مرزا حکیم نے کابل میں علم بغاوت بلند کر دیا، ایک لحد بادشاہ کے خلاف
اس ویندار کی حمایت فریضہ مذہبی تھی، دونوں چل پڑے، بند گاہ سورت میں اترے تو
پہلی بدخبری سنی کہ میرزا حکیم کی بغاوت تو چند روز کے بعد فرو ہو گئی تھی، مخدوم الملک

تو کلیجہ پکڑ کر رہ گیا، اسپہال شروع ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکا۔

عبدالنبی ذرا سخت جان واقع ہوا تھا، آگرہ میں اکبر کی ملاقات کے لئے بے تکلف آیا، اکبر نے اس زور کا گھونٹہ منہ پر رسید کیا، کہ پاؤں اکھڑ گئے، لڑکھڑاتا ہوا گرا، اکبر نے ٹوڈر مل کے حوالے کر دیا کہ اس سے حساب ان روپوں کا لو جو مستحقین کے لئے دیا گیا تھا اور انہوں نے قلعہ میں نظر بند رکھا، شیخ نے بھی تیر و نبوی اور سعادت آخری اسی میں دیکھی کہ عاقبت میں حساب کتاب سہل تھے، چند روز کے بعد فوت ہو گیا۔

اب اکبر کے لئے میدان خالی تھا۔ مگر ایک جماعت اور باقی تھی۔ یہ خانقاہوں کے شیخان جاہل اور پیران گمراہ تھے، ان کی مزاج پر سی ہوئی تو خانقاہیں چھوڑ کر بھاگے۔ اکبر کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو کچھ کشف و کرامات کا کر ستمہ دکھاؤ یا چلتے پھرتے نظر آؤ۔ ان میں سے بعض کی طلبی ہوئی تو کسی نے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کہ اونچا سنتا ہے اور کسی نے پیٹ کی طرف، کہ بڑا ظالم ہے۔ بعض اکڑے تو قید و بند نے حواس خراب کر دیے۔ اکبر کو حضرت معین الدین چشتی سے انتہائی عقیدت تھی، جب کبھی زیارت کو آتا تو دو میل کے فاصلہ پر پاپیادہ ہو جاتا، اس خانقاہ کے بوڑھے متولی کو قلعہ گوالیار میں نظر بند رکھا، اس نے حرم کی وساطت سے درخشن مخلصی بھی کی مگر اکبر یہی کہتا کہ رہا ہو کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، بیچارہ وہیں دھل جتا ہوا،

بدایونی لکھتا ہے کہ "یہ تالاق فرقہ اسی تالاق تھا"

اب اکبر نے اطمینان کا سانس لیا، اس نے "دین الہی" کا سیاسی ڈھونگ ضرور کھڑا کیا، جس پر "شیری" مشہور شاعر نے ایک قطعہ لکھا جو زبان زد خلاق ہو گیا۔ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ

"شاہ من امروز دعوی نبوت کردہ است سال دیگر خدا خواهد خدا خواهد شدن

اس معصرا اور وظیفہ خوار شاعر نے دعوی نبوت کی طرف جو اشارہ کیا ہے، صحیح نہیں

البتہ "خواہ شدن" کا جلوہ دین الہی میں ضرور نظر آتا ہے، اکبر نے سمجھ لیا تھا کہ اہل ہند کی پست ذہنیت اس عقیدہ سے پہلے ہی واقف ہے، کہ راجہ "نہ کلنک" بے عیب شخصیت

پرم ایشر سروپ اور اوتار ہوتا ہے، مہندقل نے تو بلا چوں و چر تسلیم کر لیا، بلکہ ٹہسے
 بڑے پنڈتوں نے شاستروں سے کلنکی، دتار کی پیش گوئی بھی اکبر پر چسپاں کر دی مسلمان
 کب ماننے والے تھے، انہیں زید کرنے کے لئے پیری مریدی کا سلسلہ جاری کر دیا، چنانچہ جو
 مقرب بارگاہ تھے، پیچھے کہلائے، مرید اور مرید خاص اور مرید خاص الخاص مدارج تھے
 جو ان چیلوں کو طے کرنے پڑتے، یہ سلسلہ پیری مریدی اور نگ زیب کے زمانہ تک جاری رہا
 شاہجہان کا ایک وزیر عبدالحکیم پنجابی تھا جس کی ذمہ داری کی یادگار شہر وزیر آباد ہے
 جو اب گوجرانوالہ اور گجرات کے درمیان ریلوے جنکشن بھی ہے، اسی کی تعمیر کردہ مسجد
 واصلی دروازہ لاہور کے اندر مسجد وزیر خاں سے موسوم ہے، اس کے خوبصورت دروازہ
 کی داہنی دیوار پر علی حروف میں کاشی کے نقش و نگار میں وزیر خاں اپنے آپ کو "میرید خاص" میں
 کہتا ہے،

عبدالقادر بدایونی سات اماموں میں سے ایک تھا جن کے پیچھے اکبر دروازہ نماز ادا کرنا
 فتح بنگالہ پر مان سنگھ پسر راجہ بھگوان واس امور تھا، اس نے شہر کے بعد شہر لئے، فتح
 بنگالہ کا سہرا اسی کے سر ہے، اگرچہ عام علماء اسے "جہاد" سے تعبیر نہیں کرتے تھے، مگر
 بدایونی لکھتا ہے کہ مجھے اس کی پروا نہ تھی کہ امیر شکر ایک مہندو ہے، بادشاہ تو مسلمان ہے
 اس لئے بغرض ثواب میں نے بھی شمولیت کی درخواست کی، اکبر سے رخصت ہونے کے لئے
 آیا۔ پیر پڑھتا ہوا تھا، میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، تنگڑی دیر مراقبہ میں گیا، وہ پھر
 سراٹھا کر کہا، کہ

.. انشاء اللہ تم ہی سب سے پہلے فتح کی خوشخبری مجھے سناؤ گے۔"

پھر مٹھی بھر شرفیاں مجھے زاو راہ دیں، میں مان سنگھ کے تحت چند ماہ لڑتا رہا،
 بنگالہ قریب قریب مسخر ہو چکا تھا، میں نے مان سنگھ سے رخصت چاہی مسکرا کر کہا، واہ
 ما صاحب مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ میدان جنگ میں شکر کی امامت کا فرض ادا کریں گے،
 مجھے رخصت کیا اور سفید ہاتھی اور زرد جواہر میرے ساتھ کر دیا، اکبر کی خدمت میں حاضر
 ہوا تو کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ہی فتح کی خوشخبری لاؤ گے!"

اس میں کچھ شک نہیں کہ اکبر علماء دین اور خاتقاہوں کے حجرہ نشین ریاکاروں سے سخت متنفر تھا، اور حق بجانب بھی تھا، عبداللہ مخدوم الملک کے مرنے کے بعد جب لاہور میں اس کی خانہ تلاشی ہوئی تو کسی نے چڑوی کہ صحن خانہ میں چند قبریں ہیں انہیں بھی کھولا جائے، ان کے اندر سے سونے اور چاندی کی اینٹیں نکلیں۔

اکبر سیاسی بھروپیہ تھا مسلمانوں میں پکا مسلمان اور ہندوؤں میں کٹر ہندو۔ اس نے ایک حجرہ کہ درشن بھی بنایا، ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے کہ صبح غسل کرتے ہیں پھر ٹھا کر دل کی پوجا کرتے ہیں، اکبر اب ان کا ہوا و پوٹھا، اشنان کے بعد حجرہ کہ درشن کے نیچے گزرتے بادشاہ سلامت کے درشن کے بعد روٹی کھاتے، جب عالمگیر نے یہ حجرہ کہ بند کرو یا تو کئی روز ان لوگوں نے واویلا کیا، کہ بادشاہ درشن نہیں دیتے، عالمگیر اکبر کو "جداکفر" کہتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ بلحاظ مذہب خواہ کچھ ہو، کامیاب اور ایسا کامیاب بادشاہ تھا کہ ہندوستان کے تخت پر اس کے بعد کوئی نہ ہوا۔

مورخین نے اکبر کے بارے میں ایک اور غلطی یہ کی ہے کہ سمجھتا ہے کہ اکبر جاہل تھا لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا، ان لوگوں نے اکبر کے معاصر مورخین کے خلاف یہ رائے قائم کی ہے بدلیہ لکھتا ہے کہ لڑکپن میں اکبر شیخ عبدالنبی سے پڑھتا رہا، اور علم حدیث بھی سیکھا، بہاولپور میں بھاگ کر ایران گیا تو وہاں عبداللطیف فردوسی سے ملاقات ہوئی، اس کا علم تاریخ و سیر میں جواب نہ تھا، بہاولپور نے ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی، شاہ طہاسپ سے اختلاف عقائد کی وجہ سے نہ بنی تو ہندوستان آیا، بہاولپور کا انتقال ہو چکا تھا، اکبر نہایت ہترم سے پیش آیا، دیوان حافظ فردوسی ہی سے پڑھا، پڑھنا تو وہ جانتا ہی تھا، اس کے مطالب ایک اہل زبان سے سیکھے، اس کا بیٹا اکبر کا مصاحب خاص تھا، اور سایہ کی طرح اکبر کے ساتھ رہتا، اکبر کو تواریخ و سیر سے اسی نے واقف کیا، بدلیہ کی تائید جہانگیر "توزک" میں بھی کرتا ہے۔

اکبر کو معلوم تھا کہ خلفاء اور اس کے اجداد بھی خطبہ پڑھا کرتے ایک دفعہ جرات کر کے منبر پر چڑھ گیا، مگر خطابت ایک فن ہے فیضی کے چند اشعار جو حمد میں اس نے کہے

تھے پڑھ کر اتر آیا، بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے دربار میں اس زمانہ کے وہ منتخب شخص تھے جو یگانہ روزگار تھے، ان کے سامنے علم و حکمت کا اظہار محض لاف زنی تھا، اکبر کی سیاست کا یہ تقاضہ تھا کہ اس میدان میں اس نے قدم نہ رکھا، جس کے سامنے ابو الفضل کے مجاہد پڑھے جلتے، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ان ہی وقتوں کو پڑھ کر لوگ فاضل بن جاتے ہیں۔

مغلوں نے سلطنت پٹھانوں سے چھینی تھی، ان پر اعتبار نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اس نے ان کے مقابل میں ہندو راہبوں کو کھڑا کر دیا، یہ سیاسیات کا ناگزیر تقاضہ تھا، غلطیاً عباسیہ نے عربوں سے بھی یہی سلوک کیا، طبری لکھتا ہے کہ خلیفہ منصور کو جب ایک غلام کی نسبت معلوم ہوا کہ عرب نثر ادب سے موقوف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا، تم نہایت اچھے کارکن ہو، مگر میرے حرم میں کوئی عرب ملازم نہیں رہ سکتا،

اکبر نے راہبوں سے رشتہ بھی جوڑا، بچے پود کے راجہ بہاری مل کی لڑکی سے شادی کی، اس کا بھائی راجہ بھگوان داس اور اس کے بیٹے مان سنگھ نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، راجہ کی لڑکی کے بطن سے جہانگیر پیدا ہوا، جس کا عقد نکاح جو دھ پود کے راجہ کی لڑکی جو دھ بانی سے ہوا۔ ہندو رسم و رواج اور تینوں بڑی شان سے مناسبتاً، اور ہندو مناصب اعلیٰ پر بھی ممتاز تھے، جن کا تذکرہ اکبر نامہ میں مفصل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو دور پکڑ گئے، اور اس کا خمیازہ اونگ زیب اور اس کے خانشینوں کو بھگتنا پڑا، انھیں سلطنت کے نوال کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔

اکبر کے بعد نور الدین جہانگیر ۱۵۵۰ء میں تخت نشین ہوا، ۱۵۵۶ء تک بہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس نے لڑک لکھی ہے اور اپنی خامیاں بھی آپ ہی بیان کرتا ہے، اس کے عہد کا مشہور واقعہ نور جہاں کا عقد نکاح ہے جس کا ولادہ جہانگیر شاہی کے ایام میں بھی تھا، دوسرا واقعہ احمد نگر کی فتح کا ہے، احمد نگر اکبر کے زمانہ ہی میں فتح ہو چکا تھا، نابالغ سلطان کی سرپرست اس کی پو پھی چاند بی بی تھی جو ہندوستان میں رھیبہ سلطانہ کے بعد کم مشہور نہیں، اکبر کے عہد میں شہزادہ مراد نے ہزار کے علاقہ پر ہی کتفا

کی، جہانگیر نے اسے مکمل سلطنت منگلیہ میں شامل کر لیا،

تیسرا واقعہ جو نتیجہ کے لحاظ سے مدد دے رہا ہے کہ شاہ انگلستان جیمز اول (James I) نے اپنا سفیر "سیر تھامس رو" جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ اس کی کوشش سے انگریزوں کو سورت اور کھمبایت اور گوا اور احمد آباد میں تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت ملی گئی، اس سیاسی فطلی نے انگریزوں کو آخر مہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔

شہاب الدین شاہ جہاں ۱۶۳۳ء سے ۱۶۵۸ء تک کا عہد نہایت امن و سکون سے گزرا، تعمیری کام کی طرف خاص توجہ رہی، آگرہ اور دہلی اور لاہور اور کشمیر میں شاہ جہاں کی عمارات آج بھی موجود ہیں، اس نے آگرہ سے دہلی میں پائیہ تخت منتقل کیا اور دہلی کا نام جہاں آباد رکھا، مگر زبان رو دہلی ہی رہا۔ جامع مسجد اور مال قلعہ جہاں کے کنائے پر عالیشان عمارت ہیں۔

شاہ جہاں اکثر و بیشتر آگرہ ہی میں رہا، اس کی بیوی ممتاز محل کا روضہ "تاج" عجائب عالم میں شمار ہوتا ہے، لاہور میں شاہد رہ میں اس کے والد جہانگیر کا مقبرہ ہے، جب سفیر ایران فاتحہ خوانی کے لئے آیا تو پہلے لاہور میں جہانگیر کی قبر پر گیا، اس وقت خام تھی انوس کرتے ہوئے کہا، کہ شہنشاہ کی قبر اس حالت میں نہ ہونی چاہیے، پرچہ نوایوں نے شاہ جہاں کے گوش گزار یہ بات کر دی، سفیر آگرہ میں آیا تو چھ ماہ جہاں شاہی رہا، واپسی پر پھر مقبرہ پر آیا تو ایک طلسمی کارخانہ دیکھ کر حیرت ہو گیا، شیر پنجاب رنجیت سنگھ نے امرت سرور بار صاحب میں سنگ نمبر کا پتھر یہیں سے اکھڑا کر لگایا، "فسر ہر کس بقدر بہت اوست" ظالماہ باغ بھی قابل دید ہے، جو کشمیر کے باغ کے نمونہ پر بنایا گیا ہے۔ نود پودے سے ایک ہر اسے سیراب کرنے کے لئے لائی گئی، جو اراضیات لاہور کو بھی سیراب کرتی ہے۔ تخت طاؤس نے تخت سلیمان کو بھی مات کر دیا، نادر شاہ اہرنی اپنے ساتھ لے گیا،

شاہ جہاں ابھی زندہ ہی تھا کہ چاروں بیٹوں میں تخت و تاج کے لئے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اورنگ زیب سب سے چھوٹا غالب آیا، پڑاوار اشکوہ مارا گیا، شاہ شجاع برہما کی طرف بھاگ گیا، وہیں مارا گیا، مراد قبیلہ دہند میں ختم ہو گیا، شاہ جہاں بھی بقیہ عمر

قلعہ آگرہ میں نظر بند رہا، اگر اورنگ زیب بھائیوں سے یہ سلوک نہ کرتا، تو وہ اس کے ساتھ ہی کچھ کرتے،

محمی الدین اورنگ زیب عالمگیر ۱۷۵۸ء تا ۱۷۰۷ء کے عہد میں مغلیہ سلطنت منتہا عروج پر تھی، لیکن اکبر اعظم کا بویا ہوا بیج اب بارود ہو رہا تھا، راجپوت راجے باغی ہو رہے تھے، سیوا جی نے مرہٹہ سلطنت قائم کر لی، جس کو شاہان و کن بھی دوسے رہے تھے، اورنگ زیب نے سب کو نیچا دکھایا، پنجاب میں سکھوں نے بھی سر اٹھایا، اگر عالمگیر کا جانشین بھی باپ کے دل و دماغ اور عزم کا آدمی ہوتا، تو حالات بدل جاتے مگر یہ تاریخ کا اہم واقعہ ہے جس کا اعادہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کہ ان تمام اولاد الخرم بادشاہوں کے جانشین ناخلف ہی ثابت ہوئے۔ جن کے نام کے ساتھ "اعظم" کا لقب ہے، اورنگ زیب کے تعصب مذہبی کو انگریز مورخین نے اپنی سیاسی اغراض کی تکمیل کے لئے نمایاں کیا ہے، اور اس کا مقابلہ اکبر سے کرتے ہوئے اکبر کو بہت اونچا اور اورنگ زیب کو نیچا کرتے ہیں، اورنگ زیب کے عہد میں ملک کے طول و عرض میں ہندو راجپوت راجوں اور مرہٹوں اور سکھوں اور جاٹوں نے سر اٹھایا، اس شورش کا سبب مورخین غلط فہمی سے اورنگ زیب کا مذہبی تعصب بیان کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہندو وہ چاہتے تھے کہ شاہ جہاں کا جانشین دارا شکوہ ہو۔ جس پر ویدانت کا فلسفہ اتنا اثر کر چکا تھا کہ شہزادگی کے عالم میں بھی اس کی صحبت ہندو جوگیوں سے رہتی، اپنشد کی نسبت اس کا عقیدہ یہ تھا کہ "کتاب مکنون" یہی ہے اور آیت "انہ القرآن کریم فی کتاب مکنون" (۱۶:۱۰۱) کی تفسیر یہ کرتا کہ قرآن اپنشدوں سے ہی ماخوذ ہے۔ اسے نہ تو قرآن کا ہم تھا اور نہ اپنشد کے معنی سے واقف تھا، "اپنشد" مرکب ہے "آپا۔ نی۔ شد" الفاط سے، اس کا ترجمہ اردو میں بیٹھنا، نیچے، نزدیک ہے۔ یعنی گورو یا معلم کی صحبت میں بیٹھ کر علم معرفت حاصل کرنا، اور کتاب مکنون کا ترجمہ ہے پوشیدہ امکانات، کتاب رنظرت، چونکہ صوفی ہمیشہ راز دارانہ خلوت ہی میں زندگی کی تلقین کرتے جیسا کہ ہم ان اوراق میں واضح کر چکے ہیں اور پنڈت ویدوں کے اسرار دوسری ذات والوں کو اس لئے نہ بتاتے کہ ان کی سیاہوت اور قیادت ان کے ہاتھ سے نکل کر دوسری نیچ ذاتوں

میں نہ چلی جائے۔ اس لئے داراشکوہ نے پوشیدگی کو بہت اہمیت دی، اور فرقہ
 "باطنیہ" کا ہم نوا ہو گیا،

راوہا کرشنن اپنی کتاب ہندوستانی فلسفہ (Indian Philosophy) میں لکھتا ہے کہ رفتہ رفتہ اُپنیشد کا مفہوم پوشیدہ عقائد ہو گیا، اور یہی مفہوم داراشکوہ کے دماغ میں بھی ٹھونسایا گیا، اس نے ان کا ترجمہ فارسی زبان میں بھی کیا، اکبر کی سیاسی حکمت عملی نے راجپوت راجاؤں کو اتنی تقویت دی کہ وہ عملاً خود مختار ریاستوں کے ایسے ہی ملک تھے جیسے خلفاء عباسیہ کے عہد میں غیر عرب، جب اورنگ زیب نے عنان حکومت سنبھالی تو اس کا سیاسی تدبیر اس خود ساری کی اجازت نہیں دے سکتا تھا جو ملک کے طول و عرض میں وہ شہزادگی کے دنوں میں دیکھ چکا تھا، اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ وہی حالات جاری رہیں جو اکبر کی سیاسی حکمت عملی نے پیدا کر رکھے تھے، اور وہ رفتہ رفتہ اتنی تقویت حاصل کر لیں کہ سلطنتِ مہاراجاؤں نے اپنی صورت مہاراجاؤں سے زیادہ اسے پیش از وقت ختم کر دیں اور حالات کی رفتار یہی کچھ تھی، یہی وجہ تھی کہ خود شاہجہان بھی یہی چاہتا تھا کہ داراشکوہ اس کا جانشین ہو، داراشکوہ بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کے وزیر اعظم سورد اللہ خاں نے شاہجہان کو بروقت متنبہ کر دیا تھا کہ اگر سلطنت قائم رہی تو اورنگ زیب کی تخت نشینی سے ہی رہ سکتی ہے، لیکن شاہجہان نے وزیر بادشاہ کے مشورے پر عمل نہ کیا، اورنگ زیب کو دکن کی ولایت پر مامور کیا، جو مملکت کا ایسا حصہ تھا، جہاں بد نظمی زیادہ تر تھی، ایک طرف مرہٹے اور دوسری طرف گولکنڈہ اور بیجا پور کے بادشاہ باہمی ساز باز سے مغلیہ سلطنت کی بیخ کنی کے درپے تھے، شاہان دکن کو تو یہ خوف بجا تھا کہ شہنشاہان مغلیہ ان کی ریاستوں کو ہٹا کر جابن گے۔ مرہٹے رام راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں اورنگ زیب کے لئے وہی چارہ کار رہ گیا تھا جو تاجپتی واقعات ہیں، اگر وہ ذرا غفلت برتتا اور داراشکوہ تخت نشین ہوتا، تو مغلیہ شہنشاہیت ختم ہو جاتی،

اورنگ زیب پر تو صوبہ کا الزام بھی بے جا ہے، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اس رنگ کو بروقت متنبہ نہیں کر سکتا تھا جو سر اسر ہندوانہ تھا، جس کو ہندو رانیوں سے عقد نکاح

نے اتنا گہرا کر دیا تھا کہ صبغتہ اللہ مدحہم پڑ گیا،

رقعات عالمگیری میں وہ اپنے بیٹوں کو جو کچھ ہدایات دیتا ہے ان کے مطالعہ سے اس کا منشا صاف نظر آجاتا ہے، شہزادہ معظم کو ایک حظ میں لکھتا ہے کہ پرچہ نویسی کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ فرزند ارجمند نے مہندوانہ تہوار منایا، اور بکریا جیتی رسم کو زندہ کیا۔ عمر عزیزت چہل و شمش نازم بر این ریش و نش،

دوسرے بیٹے کو لکھتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ فلاں درویش گدوم نما جو فروش کے گرویدہ ہوئے ہیں، پر خور و اہل اللہ کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے، پھر نیا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں شاہ عبداللطیف کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی کہ چند گاؤں خانقاہ کے نام پر لکھ دوں کہ طالب علموں اور درویشوں کے مصارف کے مستعمل ہوں، شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا

”شاہ مارا ویہہ و ہد منت نہد رادق ما رادق بے منت و حد“

اورنگ زیب کی حکمت عملی رو عمل اکبر کی حکمت عملی کا تھا، اکبر کی حکمت عملی کو تقویت دینے والے اس کے دو جانشین جہانگیر اور شاہ جہان تھے، مگر اورنگ زیب کے بعد کوئی جانشین اس کے دل و دماغ کا نہ ہوا، اس لئے جس فتنہ کو اس نے و با دیا تھا، اس کی وفات کے بعد پھر بھرتیا، اور وہی واقعات ظہور میں آئے جن کی تاریخ ہمیشہ اعادہ کرتی رہتی ہے۔ بیٹوں میں تخت نشینی کے لئے جنگ، امراء و باریکا ہوس اقتدار، فرخ سیر کے عہد میں دو امراء جو بھائی ہی تھے سید عبداللہ اور سید حسین ایسے ہی بادشاہ گر تھے جیسے خلافت عباسیہ میں سلاطین خلیفہ گر، صوبہ دار اپنے اپنے صوبوں کے خود مختار بادشاہ طوائف و ملوک کی وجہ سے مرکزی حکومت کی کمزوری، بیرونی حلوں اور اندرونی خرفشوں کی وجہ سے مغلیہ شاہوں کی بے قدری، نظام الملک نے دکن میں علی دہروی خان نے بنگال میں سعادت علی خاں نے اور وہ میں ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں صوبہ داروں نے قائم کر لیں۔ مرہٹے زور پکڑ گئے، نادر شاہ بے روک ٹوک دھلی میں آیا، قتل و غارت نے دھلی کی تباہی کی پھرانی روایات کو زندہ کر دیا، احمد شاہ ابدالی شاہ افغانستان نے پنجاب اور سندھ کو اپنی سلطنت

میں شامل کر لیا، اور اگر نہ کرتا تو صوبہ واپس ہی خود مختار تھے، اور ان میں خانہ جنگی بھی
 تھی، ان میں سے کوئی مالک بن بیٹھا، آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر ملک شعر کا بادشاہ
 رہ گیا تھا، چار دیوانہ یاوگا چھوڑ گیا، ابرہیم ذوق اور اسد اللہ خاں غالب کو بادشاہ کی
 اتاری کا خریکے بعد ویکے حاصل رہا، ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے اسے رنگون میں نظر بند
 کر دیا۔ جہاں وہ فوت ہوا، انگریزوں نے ویسٹ ملک کے مالک ہو گئے، جو باہر سے لے کر انگریز
 ملک شاہان مغلیہ نے حاصل کی تھی،

غالباً خلافت اسلامیہ کے مطالعہ کے بعد جس کے واقعات ہم نے اس حد تک بیان
 کئے ہیں، یہ سوال ہر ایک طالب علم کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا، کہ اس دور کے بعد اسلام
 نے کیا فائدہ اٹھایا، اس فائدہ سے تو انکار نہیں ہو سکتا، کہ آج بھی ہندوستان میں دس کروڑ
 مسلمان ہیں، لیکن اس کا سہرا مغلیہ شہنشاہیت کے سر پر نہیں، اشاعت اسلام پٹان
 بادشاہوں کے عہد میں ہوئی۔ پنجاب شروع سے افغان سلطنت کا ایک صوبہ تھا، اور بنگال
 میں عرصہ تک ہی حکمران رہے اور یہ دو صوبے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہی۔ اگرہ اور
 دہلی اور ملحقہ صوبہ جات میں ہندوؤں کی اکثریت بجا رہی، اور اگرہ اور دہلی میں مغلیہ
 شہنشاہوں کے پایہ تخت تھے، اگر مغلوں کی جگہ پٹان شہنشاہ ہوتے تو اس میں کچھ
 شک نہیں کہ بنو امیہ کی طرح اشاعت اسلام میں انتہائی کوشش کرتے۔ اور افغانستان
 اور بلوچستان کی طرح یہاں بھی مخالف مسلم آبادی ہوتی، بنو امیہ سلطنت نے جو کچھ اسلام اور مسلمانوں
 کو نقصان پہنچایا، اس کی تلافی ادنگ زیب کی انفرادی کوشش سے خاطر خواہ نہ ہوئی، لیکن
 اتنا ضرور ہوا، کہ مسلمان ہندوؤں میں جذب ہوتے ہوئے جمع گئے، ان سے پیشتر کئی تو میں ہندوؤں
 میں فاتحانہ داخل ہوئیں، اور ان کی امتیازی ہستی محو ہو کر رہ گئی۔ ذات پات کے امتیاز نے ان
 کی بھی ایک ذات کا نشان قائم رکھا جس سے ان کی اصل کا پتہ ملتے، لیکن منجرت القوم
 وہ جذب ہو کر رہ گئیں

ہندوستان میں اوسط آبادی اب بھی چالیس کروڑ ہے اور چالیس سے زیادہ اقوام کا اختلاط
 مشاہد ہوتا ہے اور مختلف ایک سو پچاس بولیاں بولی جاتی ہیں، تیس مختلف رسم الخط بھی ہیں

مختلف قوموں میں مختلف قومیں یہاں آکر آباد ہوئیں، ایرانی اور یونانی اور سکاتھی (Seythians) اور ہن (Hans) کا وہ خسلہ تو کل کی بات ہے، مگر سب ایسے جو پوٹے کر اب اتیاز شکل ہے، مسلمان سب سے اخیر آئے اور خانخانہ انداز سے آئے، یہاں کی آبادی سے خٹکاط ل عرب کا ہندوستان کے مغربی ساحل پر پہنچا، اس کا نتیجہ وہ نسل ہے جو "موپلا" کہلاتی ہے، لیکن یہ مسلمان ہی رہے اور اپنی قومی روایات کو نہیں بھولے۔

اسلام چونکہ عالم گیر دین ہے، اس لئے اس میں ذاتوں کا امتیاز نہیں، لیکن جہاں تک تقسیم انسانی فطری ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا پٹھان پٹھان اور مثل مثل ہی رہے لیکن مسلمان ہیں۔ دوسری اقوام میں یہ کیفیت نہیں۔ وہ آپ بھی بگڑے اور ویدک مذہب کو بھی بگاڑا، اسلام نے جو کچھ اثر ہندوؤں کی ثقافت پر کیا وہ نمایاں ہے۔ یہ حال ہر ایک زمانہ میں ہندوستان کی اقوام میں رہتے ہوئے مسلمان الگ ہی نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان کا ظہور بھی ممکن ہو گیا۔

ہم ہم اپنے زمانہ کے قریب آگئے ہیں لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اپنے زمانہ کے تاریخی واقعات قلم بند کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ کی اسلامی سلطنتوں کے ابتدائی حالات بیان کریں۔

افغانستان بنو امیہ کے عہدِ خلافت میں اسلام افغانستان میں شائع ہوا تھا۔ ہر ایک جو ہندوستان میں داخل ہوئی افغانستان کے ہی سے آئی۔ اس لئے اسے "باب الہند" کہنا چاہیے، افغانستان بھی اسی قوم کے قبضہ رہا۔ جو ہندوستان پر حکومت کرتی رہی، افغانستان کی اپنی تاریخ کا آغاز احمد شاہ سے ہوتا ہے۔

محمد زمان خاں سدوزئی

احمد شاہ ابدالی

تیمور شاہ

سلیمان مرزا

ہمایوں محمود زمان شاہ شاہ شہجاری

قبیلہ ابدالی کی دو شاخیں "پوہلی زئی" اور "بارک زئی" مشہور ہیں، ان میں سے "اور محمد" دو نامور "سدوزئی" اور "محمد زئی" کے مورث اعلیٰ ہیں، احمد شاہ سدوزئی تقاضی جمال خاں محمد زئی کی اولاد احمد شاہ کی اولاد کے بعد آج تک افغانستان پر حکمران ہے، لیکن تمام امیروں اور بادشاہوں میں صرف ایک احمد شاہ کو مشاہیر اسلام کی صف میں جیگہ یہ شخص غازی صلاح الدین ایوبی کی طرح دشمنان دین کے حملوں کی تمام عمر مدافعت کرتا رہا اگر چاہتا تو پھر سے شیر شاہ سوری کی طرح افغانی حکومت قائم کر سکتا تھا۔ کاش کہنا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنحضرتؐ کے اس ارشاد پر کہ "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان ہن میں ہیں" ہمیشہ کاربند رہا، اس کا دستِ حق پرست جب بھی مسلمانوں کی حمایت میں اٹھا

کبھی اور جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے امن میں غیر مسلم خنہ انداز ہوئے ہیں
 وہاں پہنچا، اور زبان سیف سے دشمنان دین کی دندان شکنی کی۔

پنجاب غزنوی اور خاندان غوری کی سلطنت کا شروع سے ایک حصہ تھا منیہ
 شاہوں نے جب ہندوستان پر تسلط جالیا، تو پنجاب بلکہ افغانستان اس کے قبضہ میں
 آیا۔ بانی شہنشاہیت بابر کا پایہ تخت تو کابل ہی تھا، اور وہ اسی جگہ مدفون ہوا، احمد شاہ
 ابدالی کے زمانہ میں سلطنت مغلیہ سرعت سے پستی کی طرف جا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے
 لوائف الملوکی قائم ہو چکی تھی ہر ایک صوبہ دار اپنی اپنی جگہ خود مختار تھا، اس حالت میں
 لوئی نے سر اٹھایا۔ اورنگ زیب کے عہد میں سیوا جی کی شورش دہی رہی۔ مگر شہنشاہ کی
 ت کے بعد اس میں پھر جان پڑ گئی، اور شمالی ہند پر چھا گئے، پنجاب میں بھی طوائف الملوکی
 اور یہاں صوبہ داروں میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، سکھوں نے ان کا بھی ناطقہ بند کر
 لیا تھا، اور وہاں تک قتل و غارت کا بانا گرم کر رکھا، ان واقعات کو ہم کچھ تفصیل سے
 تب بیان کرتے ہیں،

نادر شاہ کی فوج میں دوسرے دار کریم خاں اور احمد نامی تھے، نادر کو اپنے زنتہ داروں
 قتل کر دیا، کریم خاں نادر کا جانشین ہوا اور احمد افغانستان کا بادشاہ بن گیا، اور
 رانی خاندان کی بنا ڈالی، لوگ اسے "دور دراز" کہتے "ور" کے معنی موتی، مخفف ہو کر
 دورانی "ورہ" گیا،

بالا اور سرہٹوں کا پروہان نپڈت یعنی پیشوا تھا، انتظام مملکت شیوراؤ کجاؤ کے
 تھے میں تھا، جو تمام ہندوستان کی تسخیر کا مقصد ارادہ کر چکا تھا، ہر سال ایک مہم روانہ
 کرتا اور لوٹ گھسٹ کے بعد جو کچھ ہاتھ آتا، خزانہ میں داخل ہوتا، جسے خسراج کہتے سرہٹوں
 کی اصطلاح میں "چوتھ" اور سروریش کہتی ہے، صوبہ داروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آئے
 دن ان کا مطالبہ ہوتا،

اس وقت سرہٹ سپہ سالار رکھو تا کہ راؤ تھا، اس کے ماتحت بہار راؤ بکر اور
 جاکو جی سندھیا اور دوسرے سردار بھی تھے، پنجاب کی باری آئی، یہاں ابدالی کا نائب

اسلطنت خان جہاں مرہٹہ لشکر جبار کا مقابلہ نہ کر سکا، اور کابل کی طرف بھاگ گیا۔
 گھوٹا تھڑے لاہور میں ڈیرہ ڈال دیا، کچھ عرصہ یہاں رہ کر محبورا واپس ہونا پڑا، کیونکہ لشکر
 کے سپاہیوں کو چند ماہ کی تنخواہ نہ ملی تھی، اور ان میں بے حدی پائی جاتی تھی، جب حساب
 شیوراؤ بھاؤ کے سامنے پیش ہوا، تو معلوم ہوا کہ سپاہیوں کی تنخواہ بقدر اٹھاسی لاکھ روپے
 واجب الادا ہے، بھاؤ و جھلا اٹھا اور کہا کہ اسی عقل و ہمت پر ہندوستان کی تسخیر
 کا ذمہ اٹھایا تھا، گھوٹا تھڑے نے کہا کہ "آئندہ آپ ذرا عقل و ہمت سے کام لینا" بات بڑھ
 جاتی، مگر شیورانے پیچ بچاؤ کر کے دونوں کو ٹھنڈا کیا، مرہٹہ سرداروں کو بھاؤ کی نجات ایک لمحہ
 نہ بھاتی تھی مگر وہ سپاہ سپید کا مالک ہو چکا تھا اس لئے دم بخود ہو رہے۔

شیوراؤ کا بیٹا سبھو اس راؤ اس وقت پندرہ سالہ لڑکا تھا، مرہٹوں کے قدیم دستور کے
 مطابق اس کو سبھو سالار بنایا۔ مگر انتظام کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں تھی، پرچہ لگا کر
 احمد شاہ ابدالی اپنے آبائی ملک پنجاب کو واپس لینے کے لئے آ رہا ہے، بھاؤ نے مرہٹوں کی کل
 طاقت ایک جگہ جمع کر دی، گھوٹا تھڑاؤ کو پھر سپاہ کی قیادت کے لئے کہا، اس نے صاف ہنگامہ
 کر دیا، اس لئے محبوراؤ آپ ہی مرہٹہ فوج کو لئے وصلی کی طرف چل پڑا، ہندوستان کے تمام
 صوبہ داروں کے پاس اپنے وکیل روانہ کئے، اور اپنے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی
 ایک وکیل نواب وزیر شجاع الدولہ وائے اودھ کے پاس تحائف بیکرا یا، اور عرض کی کہ جب
 بھاؤ اودھ میں داخل ہوگا، تو "ناروشنکر" خدمت میں حاضر ہو کر قدم رنجہ فرمانے کی تکلیف
 دے گا، امید ہے کہ نواب مستطاب مرہٹہ لشکر میں شامل ہو کر ایک ایسے شخص کا مقابلہ کریں
 گے جو ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے،

نواب کو بھاؤ کے ارادہ کا علم تھا، وکیل کو چکنی چپڑی باتوں سے ٹال دیا، اور وہی زبان
 سے یہ بھی کہا کہ ایک عرصہ سے وکن کے بہن ہندوستان پر چھٹے ہوئے ہیں، انہ کسی کو چین
 لینے دیتے ہیں اور نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صوبہ داروں نے تنگ آ کر احمد شاہ
 کو دعوت دی ہے، ناروشنکر مشہور ادیب میر غلام علی آزاد بلگرامی کا شاگرد تھا،
 احمد شاہ نے اودھ و اودھ سے فوج جمع کی، اس عرصہ میں نجیب الدولہ نواب رومیل کھنڈ

بھی پہنچ گیا، اور مرہٹوں کے حالات سے آگاہ کیا، احمد شاہ نے نجیب الدولہ کو نواب شاہ شجاع کے پاس بھیجا کہ جس طرح ہو، نواب وزیر کو اپنے ساتھ لاد، یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی فوج ہا سے روانے کر دے بلکہ اس کی ذاتی شہریت ضروری ہے، نجیب الدولہ نواب وزیر کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ سوچ رہا تھا کہ کس کا ساتھ دے، مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی خائف تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا، کہ اگر مرہٹے غالب آئے تو وہ بھی کہیں کا نہ رہا، نجیب الدولہ پر یہ نواب تھا، آخر اس کے سہانے سے نواب نے وعدہ کر لیا کہ اگر کسی کا ساتھ دیا تو احمد شاہ کا ہوں گا۔

۱۷۴۰ء میں احمد شاہ نے کابل سے ہندوستان کا رخ کیا، سب سے پہلے اس کا مقابلہ دیتا جی سندھیہ سے ہوا، دیتا جی نے راہ فرار اختیار کی، مگر دیتا جی سے نجیب الدولہ سے ملٹھ بھیر موگئی، نجیب الدولہ تمام روہیلہ سولہوں اور فرخ آباد کے پٹھانوں کو لے احمد شاہ سے اٹھان کے لئے آ رہا تھا کہ بدلی پر دیتا جی سے آنا سامنا ہو گیا، دیتا جی مارا گیا، اس کا بھائی جانکو جی سندھیہ بھاؤ کے ہمراہ تھا، بھائی کے قتل کی خبر سنی تو روانت پیس کر رہ گیا، نجیب الدولہ نواح النوت شہر میں لنگا کے کنٹ احمد شاہ سے آگاہ، اس جگہ ابدالی شکر خیمہ زن تھا، بھاؤ گروہ کے قریب پہنچا تو سوچ مل جاٹ راجہ بھرت پور نے حاضر ہو کر نذرانہ پیش کیا اور مشورہ دیا کہ عاوت کے خلاف مرہٹے ایک جگہ جم کر شاید مقابلہ نہ کر سکیں، اور یہ نذرانے لوٹیرے جو ساتھ ہیں مناسب ہے کہ رسد کا سامان ہی اکٹھا کرتے رہیں۔ بھرت پور اور دیگر کے قلعوں میں سے جو پسند خاطر ہوں وہاں غیر ضروری سامان حرب جمع کر دیں، یہ قلعہ بھی پشت پناہ رہیں گے، اور آپ بھی سبکدوش ہو کر اس بہم مہم کا خاطر خولہ، انجام دے سکیں گے، بھاؤ نے اس مشورہ پر عمل نہ کیا، سوچ مل باہل نحوستہ ہمراہ ہو گیا، مگر دونوں کی نیت بخیر نہ تھی، بھاؤ نے ایک دستہ فوج سوچ مل کے بازو پر متعین کر دیا،

بھاؤ نے دھلی کو محاصرہ میں لے لیا، قلعہ احمد شاہ کے وزیر عظیم شاہ علی خاں کے برادر زادہ یعقوب علی خاں کی حفاظت میں تھا، مقابلہ بے فائدہ تھا، چند فرائض پر قلعہ حوالہ کر دیا، بھاؤ نے تمام شاہی املاک پربندہ جمایا، دیوان خاص کی روپلی چھت جس کو صنعت کے نقش و نگار سے

آرہتہ کر رکھا تھا۔ اکھروادی، ہالیت ستراکھ روپیہ تھی، ایسی ہی اور بھی دست درازی کی
بھادوکارا وہ ہوا کہ سب اس راؤ کو دھلی کے تخت پر بٹھا کر مرہٹہ شہنشاہیت کا اعلان کر دے
مہیب دشمن قریب ہی پہنچ چکا تھا، مناسب خیال کیا کہ پہلے اس سے ٹیٹ لوں، پھر مہندرون
ہمارا ہی تو ہے۔ نواب دذیر کو بھی بھادو کی خیرہ دستی اور ارادہ کی طسلاخ ہوئی، تو عجب
میں پر گیا، اسے یقین تھا کہ مرہٹے غالب آئیں گے، یکا یک نجیب الدولہ دو ہزار سواروں
ساتھ پھر آدھمکا، اور وہ قرآن شریف سامنے رکھا، جس پر ابدالی اند اس کے ذمیر اعظم شاہ
کی مہرین ثبت تھیں، یہ عہد و اثن تھا کہ نواب کے مرتبہ میں کوئی فرق نہ آئے گا، نواب تھوڑے
جمیعت کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے آگیا۔ خوب آؤ بھگت ہوئی، احمد شاہ نے کہا کہ میں
کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجھتا ہوں، آپ کا انتظار تھا اب دیکھنا میں مرہٹوں کی کیا گت بناتا
اس کے بعد شکر میں اعلان کر دیا کہ نواب جہان عزیز ہے، اگر کسی ودانی سپاہی نے کچھ بے
کی تو سخت مرادی جائے گی۔

نواب شجاع الدولہ کے ہمراہ اس کا مینسٹی پنڈت کاشی راج تھا، اس نے اس دور کے
چشم دید حالات لکھے ہیں جن کو رائل ایشیاک سوسائٹی بنگال نے شائع کیا، اب ہم اس
کی کہانی پنڈت جی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔

برسات زور پر تھی، احمد شاہ ابدالی کوچ کرتا ہوا جمنائے کنائے شاہدرہ پر آکھڑا،
دھلی کے مقابل واقع ہے، دوسرے کنائے پر مرہٹوں کے خیمے اور چراگاہ نظر آئے تھے، وہاں
پر تھا، اس حالت میں عبور کرنا خطرناک تھا۔

اب ذرا بھادو کے بھی اس ٹھکانے آنے لگے، پنڈت بھوانی مشنکر بھادو کا مشیر تھا، نواب
شجاع الدولہ کے پاس ہی کو پیغام دے کر بھجوا، کہ مرہٹوں اور نواب کے خاندان میں ہر
مرہم دوستانہ ہیں، جب نواب کے والد نواب صفدر جنگ کی رٹائی احمد شاہ سے ہوئی تو مرہٹوں
نے نواب کی مدد کی تھی، زیبا نہیں کہ نواب اب دشمن کا ساتھ دے، اگر خود ہائے ساتھ ملحق
نہیں چاہتا تو کم از کم احمد شاہ سے علیحدگی اختیار کر لے،

بھوانی مشنکر اورنگ آباد روکن، کارہنہ والا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ پنڈت کاشی

دکنی ہے تو ان سے بلا نواب شجاع الدولہ کی ملازمت میں راجہ دیوی دت و صلوئی ایک
 مددنی امیر تھا، محمد شاہ رنگیلہ کا مددگار تھا، سادات بارہ عبداللہ اور حسین علی بادشاہ گڑ کے
 دورہ میں اس کا باپ مہتمم حزرانہ شاہی تھا، کاشی راج لکھنؤ ہے کہ نواب نے ہم دونوں کو ہندو
 وانی شکر کے ہمراہ بھاؤ کے پاس روانہ کیا، بھاؤ نے ایک خط دکھنی زبان میں مجھے بھی لکھا
 تھا، مگر خط کا عنوان مناسب القاب و خطاب سے موخر تھا، اس لئے میں نے اسے تیز کو کچھ
 ب نہ دیا، جب بھاؤ نے جوانی شکر سے وجہ دریافت کی تو منسٹی پر ہنس پڑا، راجہ دیوی دت
 محمد شاہ کا دربار دیکھا ہوا تھا، وہ بھاؤ کو کب خاطر میں لاتا تھا، دونوں جیسے گئے ویسے لوٹ
 گئے۔ نجیب الدولہ کو سرے سے منظور ہی نہ تھا، کہ صلح ہو، اس نے ہر ایک امر میں مشکلات پیدا
 دیں، شجاع الدولہ صلح کے نامہ و پیام میں نجیب الدولہ سے مشورہ کرتا، اور نجیب الدولہ ابدالی سے
 کچھ ابدالی کہتا نجیب الدولہ شجاع الدولہ کو مشورہ دیتا،

سورج مل جاٹ اور ملہار راؤ ہلکر کی بھی خفیہ خط و کتابت نواب سے ہو رہی تھی، اور وہ
 ایک مشورہ کے طالب تھے، نواب نے کہا بھجیا کہ علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ خیر نہیں، سورج مل نے
 کہا بھجیا کہ مناسب وقت کا منتظر ہوں، میری کڑی نگرانی ہو رہی ہے، نواب نے بھاؤ کو کہا
 بھجیا کہ غنیمت سمجھو کہ احمد شاہ کے لشکر میں ہوں، صلح کا مدارہ کہا ہے، میری رسالت سے
 عزت شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہو تو میری خدایات حاضر ہیں۔
 احمد شاہ اور وزیر اعظم شاہ ولی خان بھی وعدہ کر چکے ہیں کہ گفتگو صلح مہندوستانی نوابوں
 سے تعلق رکھتی ہیں تو میں ان کی دعوت پر آیا ہوں اگر وہ صلح پر رضامند ہوں تو مجھے بھی اٹکا نہیں
 لیکن جنگ ہوئی تو اس کا انتظام میرے ہاتھ میں رہے گا،

بھاؤ نے نواب شجاع الدولہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی صائب رائے پر
 حق المقدور عمل کروں گا، احمد شاہ سے ہماری کوئی عداوت نہیں، اپنے ملک کو واپس چلا جائے،
 ایک کے اس طرف ملک اس کا ہے، اور دوسرے کا ملک مہندوستانی سرداروں کا ہے، وہ جس طرح
 چاہیں آپس میں تقسیم کر لیں، اگر شاہ کو یہ منظور نہ ہو تو لاہور اس کی سلطنت کی حد ہے، اگر اس سے
 بھی تسلی نہ ہو تو سرحد تک ملک دینے کو تیار ہوں، ہم کبھی مداخلت نہ کریں گے۔

راجہ سوہج تل دھلی سے چھ کوس کے فاصلہ پر پڑا تھا، ادھر کاغذی گھوڑے و طرے تھے۔ ادھر وہ اپنی فوج کے ساتھ چپکے سے کھسک گیا، بھاؤ کو خبر اس وقت ہوئی، جب وہ ایک دن دور اتوں میں پچاس کوس کا فاصلہ طے کر کے قلعہ میں صبح انجیر پہنچ گیا،

برسات ختم ہونے کو تھی، بھاؤ نے ارادہ کیا کہ "کنج پورہ" پر جو دھلی سے پچاس کوس کے فاصلہ پر چنبا کے کنارے واقع ہے، قبضہ کر کے دیا کو اسی جگہ سے عبور کیا جائے اس جگہ روہیلے قابض تھے، اگرچہ سخت مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی، ان کا سردار دلیل خاں اسپہ ہو گیا، مرہٹوں نے خون سے خوب ہاتھ رنگے، احمد شاہ کو طسلاخ ہوئی تو ارادہ کیا کہ کنج پورہ سے مرہٹوں کو مار کر ہٹا دوں۔ مگر دیر یا ابھی تک پڑھا پڑھا تھا۔

برسات ختم ہو گئی، احمد شاہ نے اپنی فوج کا جائزہ لیا، دانی سپاہ شاہ ولی خان ملتان جہاں کے ماتحت چوبیس رشتے تھے، ہر ایک دستہ میں پانچ سو سوار تھے۔ فوجی سردار شاہ پسند خان، نصیر خان بلوچ، امیر نور دار خاں، مایر اللہ خاں قزلباش اور سردار خاں ایرانی ملتان بھی تھے۔ کل چالیس توپیں بھی تھیں، ان کے علاوہ دو ہزار اونٹ، ہر ایک اونٹ پر دو بندہ ڈھبورکٹے سوار تھے۔

نواب شجاع الدولہ کے ہمراہ دو ہزار سوار اور دو ہزار پیدل اور بیس چھوٹی بڑی توپیں تھیں۔ نجیب اللہ کے ساتھ چھ ہزار سوار اور بیس ہزار پیدل روہیلہ سپاہی تھے، دھوندے خاں اور حافظ رحمت اللہ کے ہمراہ چار ہزار سوار پسند رہ ہزار روہیلہ پیدل اور کچھ توپیں تھیں۔

احمد خاں بنگال کے ماتحت ایک ہزار سوار اور ایک ہزار پیدل اور کچھ توپیں تھیں۔ کل تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو سوار اور اڑتیس ہزار پیدل اور ستراسی کے لگ بھگ توپیں تھیں، یہ تو قواعداں فوج تھی، ان کے علاوہ رفس کار بھی تھے، جن کو ابراہیم عقب لشکر پر رکھا ہوا تھا۔

فوج کا جائزہ لینے کے بعد احمد شاہ نے دو دن کی تیاری کے بعد کوچ کا حکم دیا اور طرف حریف بھی اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی فوج کا شمار حسب ذیل ہے :-

۱۰) ایدہ ہیم خان گروہی ... دو ہزار سوار نو ہزار پیدل	۱۰) راجہ قبول شیو دیو ... تیس ہزار سوار
۱۱) خاص پگاہ	۱۱) چھ ہزار سوار
۱۲) ملہار راد ہکر	۱۲) پانچ ہزار سوار
۱۳) جانیو جی سندھیا	۱۳) پندرہ ہزار سوار
۱۴) تاجی گائیگوارٹ	۱۴) تین ہزار سوار
۱۵) حبونت راتھ پور	۱۵) دو ہزار سوار
۱۶) شمشیر بہادر	۱۶) تین ہزار سوار
۱۷) بالاجی جادول	۱۷) تین ہزار سوار

دوسو توپیں اور دیگر آتشیں سامان حرب مرہٹوں کے ہمراہ تھا، اس فہرست میں دو نام ایماہیم گروہی اور شمشیر بہادر ہیں، دونوں مسلمان تھے، کسی قوم میں غدار شکل سے ملیں گے مگر مسلمانوں میں ان کی کثرت ہے،

یہ ۱۷ اکتوبر ۱۷۶۰ء کو احمد شاہ تمام رات کوچ کرتا ہوا دوسرے روز وہلی سے اٹھا رہ کوس کے خاصہ پر ٹھہرا، احمد شاہ ایسے مقام کی تلاش میں تھا، جہاں سے جتنا عبور کر سکے اگرچہ برسات ختم ہو چکی تھی مگر پانی ابھی تک چڑھاؤ پر تھا، شاہ نے دو روز روزہ رکھا، اور نماز ذرا لٹھ اور ٹوائفل میں اسیر کے اتیسرے روز ایک مقام جس کی جستجو تھی دریافت ہوا، مگر اس قدر تنگ تھا کہ یہاں سے عبور کرنا خطرہ سے خالی نہ تھا، پانی عمیق تھا، مگر اس سے بہتر کوئی اور مقام بھی نہ تھا،

۱۷ اکتوبر ۱۷۶۰ء کو شاہ نے گھوڑا "اسیم" لٹھ مجربیا دمر سہا "کوکھ" پانی میں ڈال دیا، اور پیریت دوسرے کنارے پر آگیا، دونوں میں کل فوج جتنا عبور کر گئی، بھاڑنے پانی پت میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس میں شہر بھی شامل تھا، احمد شاہ دریا عبور کرنے کے فوراً بعد دشمن کی طرف بڑھا، ۱۷ اکتوبر بوقت دوپہر دونوں فوجوں کے ہر اول ٹکرائے، مرہٹے پسپا ہوئے۔ طرفین کا نقصان جان تین ہزار تک ہوا، احمد شاہ دلیرانہ پرتہا گیا، کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں جس میں نقصان ناقابل ذکر خفیف ہی ہوا مگر احمد شاہ

ہزار ہر مشوں کو دیتا ہوا چلا گیا۔ اب پانی پت کے میدان میں بھاؤ اور احمد شاہ کے لشکر
 میں فاصلہ صرف چار کوس کا رہ گیا، احمد شاہ نے یہاں قیام کیا،

بھاؤ نے گوہنڈ پنڈت کو بارہ ہزار سوار کے ساتھ ابدالی فوج کی رسد و سامانی
 کا سلسلہ منقطع کرنے کے لئے روانہ کیا، پنڈت درانی لشکر کے عقب میں میرٹھ تک بڑھ
 گیا اور کامیابی کے ساتھ سلسلہ توڑ دیا، ابدالی لشکر میں اضطراب پیدا ہو گیا، مہولی آٹھ پوے
 کا دو سیر بکنے لگا، احمد شاہ نے وزیر اعظم کے برادر زادے عطاء علی خان کو دو ہزار چیدہ
 سواروں کے ساتھ علاوہ آٹھ ہزار رضا کاروں کے پنڈت کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا،
 عطاء علی خان بلغار کرتا ہوا ایک رات میں چالیس کوس تک گیا، اور صبح دم غافل پنڈت
 پر بلائے ناگہانی کی طرح بلغار کرتا ہوا نازل ہوا، مرٹھوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے پنڈت
 نے راہ فرار اختیار کی مگر شہرہ تری گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گرا اور درانیوں نے سر
 کاٹ لیا، جو احمد شاہ کے حضور عطاء علی خان نے پیش کیا۔ اس کے بعد نہ بھاؤ کو دوبارہ جرات
 ہوئی مادونہ ابدالی سپاہ کو رسد کی کمی محسوس ہوئی۔

سپاہ کو تنخواہ تقسیم کرنی تھی، بھاؤ نے دو ہزار سوار وھلی روانہ کئے کہ روپیہ لائیں،
 خزانہ یہاں محفوظ تھا۔ حکم یہ تھا کہ چمکے رات کے وقت کوچ کریں۔ اور ایسا رہتہ اختیار
 کریں جو علم گندگاہ نہ ہو۔ بد قسمتی سے رات کے وقت واپسی پر ایک سوار دو ہزار کی بھٹی
 سے آ رہا تھا سیدھا درانی کے لشکر کے قریب پہنچ گیا، مرٹھی زبان میں آوازیں دیں
 درانی سپاہیوں نے سمجھا کہ دشمن شب خن مارنے آیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا،
 گم کردہ واہ مرٹھوں میں سے ایک بھی نہ بچا، تمام روپیہ درانیوں کے ہاتھ لگا،

احمد شاہ نے ایک سرخ خیمہ اپنے لشکر کے سامنے ایک کوس کے فاصلہ پر نصب
 کیا ہوا تھا، صبح کی نماز اسی جگہ ادا کرتا، نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے اور محافظ سواروں
 کے ساتھ گرواری اور دشمن کی فوج کی دیکھ بھال کرتا، دوپہر کے بعد اپنے خیمہ میں جو مرکز
 میں تھا لوٹتا، روزانہ اس کا یہی معمول تھا۔

روزانہ دونوں فوجیں صرف آرا مہوتیں، مرٹھوں کو شکست بھی ہوتی۔ بعض اوقات

سواروں میں مٹھہ بھڑی ہو جاتی، میر شام اپنے قیام گاہ کو لوٹ آتیں۔ تین ماہ تک یہ کیفیت رہی، تین دفعہ اچھی خاصی جھڑپیں ہوئیں، مگر فریقین پر اس کا اثر نہ ہوا، ہندوستانی نواب احمد شاہ سے کہتے کہ یہ جنگ زرگری کب تک رہے گی، احمد شاہ کہتا کہ
 "حرب ایک فن ہے، دیگر امور جس طرح چاہو، طے کر لیا کرو، لیکن لڑائی
 کے معاملہ میں دخل نہ دو!"

ایک رات قریباً بیس ہزار آدمی جو مرہٹوں کے خیمہ دھڑ گاہ کی باہر سرداری پر متعین تھے، جنگل میں لشکر سے دور سوختنی لکڑی کی تلاش میں نکلے، درانی طلبا بہ شاہ سپہ سالار کے تحت لشکر کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ سب کی گھبرے میں لے لیا، صبح ہونے سے پہلے سب کا خاتمہ کر دیا، احمد شاہ کو اطلاع ہوئی تو موقعہ واردات کا معائنہ کیا، لاشوں کے ٹوڑے لگے ہوئے تھے اس واقعہ نے مرہٹوں کے دل ہلائیے، اور بھاد کے چہرہ پر بھی وہ ضبط کے آثار نہ رہے جو اس وقت تک بہ تکلف ظاہر کرتا رہا۔

نواب شجاع الدولہ کے لشکر میں بھاد کا ایک پرچہ نہیں بھی تھا، مگر اس لئے کہ کوئی سردار نہ تھا، حفاظت کا بہت کاشی راج کی معرفت ہی ہوتی، بھاد نے ایک مرصع بگڑی نواب کے پاس بھیجی، یہ پیمانہ دستور بگڑی بدلے کا تھا، غرض یہ بھتی کہ نواب بھی بگڑی بدلے گا، اور بہادرانہ تعلق قائم ہو جائے گا، اس کا اثر نواب پر خاطر خواہ ہوا، وزیر عظیم کو صلح پر آمادہ کر لیا، احمد شاہ نے کہا صلح اچھی چیز ہے، مگر اس میں نجیب الدولہ کی منظوری بھی ضروری ہے۔ نواب نے کاشی راج کو نجیب الدولہ کے پاس بھیجا۔ کاشی راج نے تمام حالات گوش گزار کئے اور کہا کہ تمام ہندوستانی سرداروں کی خواہش یہی ہے کہ صلح ہو جائے،

نجیب الدولہ نے کہا کہ نواب کا رتبہ مجھ سے برتر ہے، مگر جو ان ہے ابھی تک بات کی تہ کو نہیں پہنچی، یہ سب سیاسی چال دغا اور فریب ہے، دشمن جب لاچار ہو۔ تو ہر ایک شرط پر صلح کا خواہشکار ہوتا ہے۔ لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ آئندہ صلح بدنامی مٹانے اور اپنی رفتار کی بجائی کے لئے وہ کچھ نہ کرے گا، تم نواب کی خدمت میں میری

طرف سے عرض کر دینا کہ میں خود خدمت میں حاضر ہو کر شیب و نواز سمجھا دوں گا۔

دوسرے روز نجیب الدولہ احمد شاہ ابدالی سے ملا اور نچتہ وعدہ لے لیا کہ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہ کر دوں گا، اس کے بعد نواب شجاع الدولہ سے ملا۔ وہ بتا کہ گفتگو ہوتی رہی مگر بے نتیجہ رہی۔ اور حضرت صلح و صفائی کی باتیں ہو رہی تھیں اور حضرت سہیل شاہ شکر میں غلط پڑا ہوا تھا۔ سرداران فوج بھاؤ کے پاس آئے اور کہا کہ اکثر سپاہیوں کے بھوکے ہیں مناسب ہے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں مارا جائے۔

بھارت نے کاشی راج کی معرفت نواب کو لکھ بھیجا، کہ اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں اگر صلح ہو سکے تو خیر ورنہ صاف جواب دو۔ یہ خط نواب کو صبح میں ملا۔ قاصد ادکاشی راج کو لے کر احمد شاہ کے پاس آیا، احمد شاہ نے پندت سے مزید حالات دریافت کئے اس نے بتایا کہ علی الصباح مرہٹے حملہ کریں گے، احمد شاہ گھوڑے پر سوار ہوا جو بہ وقت کسا ہوا خیمہ کے باہر کھڑا رہتا، اور نصف کوں کا چکر لگایا، سرداران لشکر کو صفوں کی درستگی کا حکم دیتا جاتا تھا۔ کہ اتنے میں کچھ درانی سوار مال غنیمت لے سائے سے گزرے سوادل سے پوچھا گیا کہ یہ مال کیسا ہے، انہوں نے حال بتایا کہ مرہٹے بھاگ رہے ہیں، احمد شاہ نے نواب کی طرف اور نواب نے کاشی راج کی طرف دیکھا، کاشی راج نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی تصدیق صبح کے وقت ہو جائے گی، ان سواروں نے بھی یہی کہا تھا، سورج مل جاٹے کے بعد ہمارا اوہلکر بھی فرار کے لئے بے قرار ہو رہا تھا، مرقہ غنیمت دیکھ کر کھسک گیا، سوادل نے انہیں بھاگتے دیکھا اور جو کچھ وہ چھوڑ گئے مال غنیمت یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مرہٹے ٹوڑھ کوں کے قریب میدان جنگ میں آگے بڑھے اور ایک دفعہ توپوں کی گرج سے میدان گونج اٹھا، احمد شاہ اس وقت بحالت سواری کلیں کے کش لگا رہا تھا، نواب کو کہا کہ تمہارا پندت سچ کہتا تھا، وزیر اعظم کو طلب کیا، تمام سبھی جمع ہو گئے سب کو نہایت اطمینان سے ہدایات دیں۔ اور ایک دفعہ پھر اپنی صفوں کے سامنے سے گزر گیا۔

سپیدہ صبح نمودار ہو رہا تھا مدرسوں کا رخ جانب مشرق اور درانیوں کا منہ

کی طرف تھا، مرہٹوں کی توپیں بڑی اور بھاری تھیں، اور مدافنی لشکر سے بھی ان کا جواب نہ دیا گیا۔ البتہ وزیر عظیم کی طرف سے شلک ہوتی رہی، بہر حال ان کا اثر کچھ نہ ہوا، ابراہیم گروی گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاؤ کے سامنے آیا، اندک کہا کہ آپ مجھ سے اس لئے ناراض ہیں کہ سپاہ کی تنخواہ کا مطالبہ کرتا تھا، مگر اب ہو تو شکایت کا نہیں جاٹبازی کا ہے، ادب سے سلام کیا اور اپنی فوج کے سامنے آ کر حکم دیا کہ توپوں کا منہ بند کر دو۔ سنگینیں چڑھائیں اولہ دیلوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ آٹھ ہزار روپیے کھیت ہے، ان میں ایسی اتنی پھیلی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی،

حافظ رحمت اللہ بہار پاکلی میں سوار تھا، پاکلی پر واروں کو کہا کہ مجھے دھونڈے خاں کے پاس لے چلو، ادھر دھونڈے خاں حافظ کی تلاش میں تھا، ابراہیم گروی نے اگرچہ واہ شجاعت دی مگر اس کے سات دستوں کا صفایا ہو چکا تھا، حافظ اور دھونڈے خاں کی فوج نے اس کو زرخہ میں لے لیا تھا، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا، اور گرفتار ہو گیا،

بھاؤ اور بسوس راؤ کا سامنا وزیر عظیم سے ہوا، مدافنی لشکر کی صفوں کو دیکھتے دیکھتے الٹ دیا، وزیر عظیم کا برابر زاوہ عطائی خاں جس نے پنڈت گو بند کے مقابلہ میں نسیاں کامیابی حاصل کی تھی کام آیا، وزیر عظیم کی فوج سپاہور ہی تھی، وزیر عظیم خیر لہے میں غرق چلا رہا تھا کہ کہاں جاتے ہو، کابل و دہلی مگر نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ ایک بازو کے عقب میں شاہ شجاع اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا، مرہٹے صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے لشکر کے قریب آ گئے تھے، بھاؤ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ میدان مار لیا، لیکن اس وقت میدان جنگ نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا،

امد شاہ ایک بلند مقام پر میدان جنگ کے حالات دیکھ رہا تھا، ہر کاسے بھی برابر خبریں پہنچا رہے تھے، اس وقت روپیہ سردار دھونڈے خاں اور وزیر عظیم مرہٹوں کے زور میں تھے اپنی محافظ فوج کے پانچ سو سواروں کو حکم دیا کہ منت شرفوج کو جمع کرو اور جو جہلگے قتل

کرد، قریباً آٹھ ہزار سپاہی بھاگتے ہوئے پلٹے، نجیب الدولہ اور شاہ پسند خاں کو حکم ملا کہ وزیر اعظم کے ہمینہ اور میسرہ پر قائم ہو کر حریف پر حملہ کرو۔

نجیب الدولہ کا سامنا جانکوچی سندھیا سے ہوا، دونوں میں خانہ دانی خصوصیت تھی، شاہ پسند خاں نے چکر کاٹ کر سندھیا کے عقب پر حملہ کیا، ایک گولی سندھیا کے بازو پر لگی گھوڑے سے لڑکھڑا کر گرنے کو تھا کہ ایک نیزہ شانہ میں پیوست ہو گیا، شاہ پسند کے اہلیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سندھیا کی فوج کا صفایا ہو گیا،

اس وقت آفتاب نصف النہار طے کر چکا تھا، وزیر اعظم کے ساتھ آٹھ ہزار سوار جو احمد شاہ نے بطور کمک بھیجے تھے، بلخ ہو گئے، ایک گھنٹہ تک لڑائی دست بدست جاری رہی، اللہ اکبر اور ہر ہر ہا دیو کے نعروں سے میدان جنگ گونج رہا تھا، بسواس راؤ کی آنکھ کے اوپر ایک تیرنگا، زخم خفیف تھا مگر گھبرا کر ہاتھی سے اتر آیا، گھوڑے پر سوار ہوا، بھاؤ نے اپنا ہاتھی سواری کے لئے بھیج دیا، نجیب الدولہ اور شاہ پسند خاں نے اس سرعت سے حملے کئے کہ مرہٹے بدستوں ہو گئے، درانی لشکر نے تین طرف سے گھیرے میں لے لیا، وہ ہاتھی جس پر بسواس راؤ سوار تھا، نرغہ میں آ گیا، ایک سپاہی نے عماری پر چڑھ کر بسواس راؤ پر ولایتی ہاتھ ایسا دیا کہ تلوار رگ گردن کاٹتی ہوئی لڑکی، مگر بسواس راؤ کا دم بڑھا ہو چکا تھا، بھاؤ بھی کس میرسی کی حالت میں مارا گیا، ساٹھ ہزار مرہٹے میدان جنگ میں کام آئے، جو بھاگے ان کو راستہ میں بھی پناہ نہ ملی، جاٹوں نے لوٹا،

جانکوچی سندھیا شاہ پسند کی قید میں تھا، سات لاکھ نذرانیہ پر رہائی کا وعدہ ہوا، روپیہ کہاں سے دستیاب ہونا، شاہ شجاع کو لکھا کہ اگر دیکھو تو تمام عمر احسان نہ بھیجیوں گا، نواب نذرانیہ دینے کے لئے تیار ہو گیا، مگر شاہ پسند ڈر گیا، کیونکہ احمد شاہ کو بھی اس کی اطلاع ہو چکی تھی، چپکے سے سندھیا کا چراغ حیات گل کر دیا، ابراہیم احمد شاہ کے حضور پیش ہوا، تو پوچھا۔

”کہو خان صاحب اس جگہ کیسے آنا ہوا“

عرض کی کہ جاننا زسپا ہی ہوں حضور نوکر رکھ لیں تو سر فروشی کے لئے حاضر ہوں“
کہا کہ میں ایمان فروش سے کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا“

اشارہ ہوتے ہی گری کو صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دیا گیا،

بسو اس رٹو کی لاش ہاتھی پر اور بھاؤ کا تن میدان جنگ میں اور سر ایک ودانی پیا ہی
کے خیمہ میں تھا تلاش ہوئی تو لوہا بھجلا اور دولتہ کی سفارش پر دیوان موتی لال کے خولے کی گئیں
اور نذر آتش ہوئیں،

دوسرے روز احمد شاہ پانی پت میں داخل ہوا، حضرت بوعلی خاندان کے نزار پر فاطمہ خوانی
کے بعد وصلی کی طرف کوچ کیا، اور شاہ لالہ باغ میں آکر شاہ عالم کو تخت وصلی پر بٹھایا تو اب شہزادہ
وزیر ممالک ہند اور نجیب الدولہ امیر الامراء مقرر ہوئے، اس نظام کے بعد کابل کی طرف لوہا امرتھوں کی کڑوٹ
چکی تھی اور کھنڈ ہندوستان پر ام راج کا جو جواب دیکھ لے تھے پریشان ہو کر رہ گیا، احمد شاہ نے
انگریزوں کے لئے رستہ صاف کر دیا، سکھوں نے پنجاب میں اور دھم مچا رکھا تھا، اگرچہ احمد شاہ ان کی
سرکوبی خاطر خواہ کرتا رہا مگر اس کی وفات کے بعد اس کے پوتے زمان شاہ نے ریخت سنگھ کو اپنا
نائب السلطنت لاہور میں مقرر کیا۔ ریخت سنگھ سکھوں کا اول اور خراجہ ہوا۔ اس کے بعد
انگریزوں نے پنجاب کو بھی اپنے تسلط میں لے لیا،

ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کے چھتیس^(۳۴) لڑکے لڑکیاں تھے ان میں سے بیس صرف لڑکے تھے،
امارت تو احمد شاہ کے خاندان سدوزی میں رہی، اور وزارت حاجی جہاں خاں محمدزی کے خاندان میں
آئی آخر اس کی اولاد نے امارت اور وزارت دونوں پر قبضہ کر لیا، امان اللہ امیر سے شاہ بنا انگریزوں
سے نہ بنی، انہوں نے بچہ سقہ کو شہ وے کر کابل کے تخت پر بٹھا دیا، امان اللہ خاں ”سوزدیند“
میں اب زندگی کے دن کاٹ رہا ہے، اس کے بعد نادر شاہ بادشاہ ہوا، مارا گیا تو اس کا بیٹا
ظاہر شاہ اب شاہ افغانستان ہے،

پیر عبد الرحمن شاہ

نصرت اللہ

امیر حبیب اللہ شاہ ۱۹۰۱ء

شاہ سلطان اللہ شاہ ۱۹۱۹ء
عزیزت اللہ امیر زادہ
سید اللہ خاں نائب وزیر اعظم ۱۹۲۸ء

نور شاہ ۱۹۲۹ء

شاہ محمد خورشید

شاہ ولی

محمد عزیز خاں

محمد ہاشم خاں

ظاہر شاہ

وزیر اعظم ۱۹۴۸ء

۱۹۴۳ء میں برلن میں
ماگیا

وزیر اعظم ۱۹۴۹ء

ظاہر شاہ ۱۹۳۳ء

نصیر شاہ

داؤد شاہ

امیر عبدالرحمن کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ عہدہ ۱۸۹۵ء میں "کافرستان" مستحکم کیا اور یہاں کے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، امان اللہ عبدالرحمن کے پوتے سے سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ تریا بیگم کو ساتھ لے کر یوڈپ کی سیر کے لئے روانہ ہو گیا، حالانکہ شاہی حاصل کے تھوڑے عرصہ ہی گزران تھا، انگریزوں نے اس کے بے پردہ فوٹو افغانستان کے طبل و عرض میں اس کی عدم موجودگی میں نشر کئے، ملا شور بارہ نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو سمجھایا، جب شاہی واپس آیا تو انگریزوں نے بچہ ستھ کو مدد سے گرفتار کر لیا، امان اللہ نے بھاگ کر سوئٹزر لینڈ میں پناہ لی، ہم نے تو اسی وقت جب وہ سفر یورپ پر روانہ ہوا تھا کہہ دیا تھا کہ ترسم نہ رسی یہ کعبہ اسے اعرابی کیں راہ کہ تو میری بہ بنگستان بہت اگر چہ ملاؤں کے ساتھ جہت اللہ کرتا تو عقیدت بھی لوگوں میں پیدا ہو جاتی اور یہ روز بد نہ دیکھتا، اب زبان حال سے مسلم ارباب حکومت کو کہہ رہے کہ "من نہ کروم شمشاد بکنید"

ناریخی واقعات میں ایک سبق ہے "فرخندہ بخت آنکہ سمیع رضا شنید"

سیر دست اب ہم ہندوستان کی حدود سے باہر پھر سے ایران و شام و عرب و افریقہ کی طرف جاتے ہیں، ہندوستان اور افغانستان کے قریب تر ایران ہے۔

خلفاء بنو امیہ کے دور دورہ میں ایران حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا، عباسیہ

ایران کے دور خلافت میں ممالک راشد کے بعد اکثر والیان ولایات ایران خود مختار ہو گئے، اور طوائف اہلو کی شروع ہو گئی، ان کے حالات ہم نے آل ظہر کے تذکرہ میں لکھے ہیں، چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں نے پنے پانچ بیٹوں میں مملکت ایران تقسیم کر دی، تیمور نے ایران پر تسلط جایا، تو اس کے بیٹے یہاں حکمران رہے، آخری تاجدار سلطان ابوسعید ہے یہ دور حکومت تیموریہ ایران میں ختم ہوا تو صفوی بادشاہوں کی باری آئی

سہ کافرستان کو اب نورستان اور جدید اسلام بھی کہتے ہیں۔

خاندان صفویہ

شاه صفی الدین

شاه صدر الدین

شاه اعلیٰ

شاه جنید

سلطان جنید

۱۱) شاه اسماعیل اول (۹۰۸ھ)

۱۲) شاه طہماسپ اول (۹۲۲ھ)

۱۳) شاه اسماعیل ثانی (۹۸۳ھ)

۱۴) شاه محمود خدا بندہ (۹۸۵ھ)

۱۵) شاه عباس اول (۹۹۴ھ)

صفی مرزا

۱۶) شاه صفی ثانی (۱۰۲۹ھ)

۱۷) شاه عباس ثانی (۱۰۵۲ھ)

۱۸) شاه سلیمان (۱۰۴۴ھ)

۱۹) شاه صفی ثالث

(۱۱۰۴ھ)

صفوی خاندان کے مورث اعلیٰ شاہ صفی الدین کا پوتا شاہ علی اردبیل واقع آذربائیجان میں تھا، حلقہ ارادت وسیع تھا، امیر تمور لپ کا بہت معتد تھا، جب بائیریا یلدرم کی شکست دے کر اردبیل میں آیا تو شاہ علی کی خدمت میں حاضر ہو کر زور و جواہر مال غنیمت میں سے کچھ بطور نذرانہ پیش کئے، شاہ صاحب نے قبول نہ فرمائے، اور فرمایا کہ اگر دیتے ہو تو سدا میراں جنگ جو شام ادرابلدرم کی شکست کے بعد تمہارے پاس میں میرے حوالے کرو، امیر نے دے دیئے، اب شاہ صاحب نے ان کو آزاد کر دیا، اور وطن جانے کی اجازت دی، مگر وہ کچھ ایسے گرویدہ ہوئے کہ جدا ہونا پسند نہ کیا، اور سب مریدان باصفا کے ذمہ میں شامل ہو گئے، یہ ادرود سرے مرید آخر میں "قرلباش" کہلائے۔ جب شامیل آباؤ سندا ارشاد پڑھیٹھے تو ان ہی لوگوں نے کشور شانی کی ترغیب دی، ایران طوائف الملوک تھی بسہولت مستخر ہو گیا۔

خاندان صفوی کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کو ایران کے طوائف میں رائج کیا، اس مذہب کی شاعت بہت عرصہ پہلے ہو رہی تھی، اور ایران ہی اس کی ترویج کے لئے مناسب سرزمین ہے، حضرت علی نے جب مدینہ سے کونہ میں دارالخلافت منتقل کیا تو مجوسی طوائف کی ذہنیت میں فرق نہ آیا، ان میں سے ہر ایک فرقہ کے عقائد کا اگر جائزہ جائے تو یہ امر مشترک سب میں ہے، کہ خلافت کا حق بنوفاطمہ کا ہے، اور جن بزرگوں نے اس خاندان کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا اور کافر یا فاسق نہیں تو قابل ملامت اور بعض کے نزدیک قابل لعنت ہیں،

شیعوں کے بہت فرقے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر غالی ہے یہ غلو خاندان صفوی نے خاطر خواہ پیدا کیا، وہ اور ان کے مرید علانیہ اصحاب کبار کو سب دشتم سے یاد کرتے ہیں، تیرا ان کے مذہب کا جزو اعظم ہے، ظاہر ہے کہ حق خلافت پر کسی مذہب کی بنیاد نہیں ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب کسی شخصیت کی ذات میں دنیوی اور دینی حکومت امامت

ہوں تو سیاسی عقاید کو دینی عقاید سے علیحدہ کرنا مشکل ہے بہر حال حضرات شیعہ شخصی
 حکومت دینی اور دنیوی کے قائل ہیں، اور اس حکومت کو صرف بنو فاطمہ میں محدود رکھتے ہیں،
 شاہ اسماعیل کے عہد میں ایران میں سنی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، شاہ نے پہلے ہی
 اعلان کر دیا تھا کہ تمام سنی مسلمان اس کی مملکت سے نکل جائیں، اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان
 کو مذہب اثنا عشریہ تسلیم کرنا پڑے گا، مجتہدین کا ایک وفد شاہ کی خدمت میں حاضر
 ہوا اور کہا کہ یہ فرمان مذہب کے خلاف ہے، اور ویسے بھی سیاسی تدبیر کا تقاضا ہے۔ کہ
 کسی کے مذہب میں مداخلت نہ کی جائے، "لا اکراہ فی الدین" اگر ایران میں لاکھوں سنی ہیں
 تو سلطان روم و شام کی عملداری میں بھی لاکھوں شیعہ ان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر
 وہاں رو عمل شروع ہوا، تو نقصان جان و مال یکساں ہیں، علاوہ ازیں اختلاف ایک فرعی
 عقیدہ کا ہے، سنی حضرت علیؑ کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں، جیسے دیگر خلفاء کا، البتہ خارجی
 حضرت علیؑ کی خلافت کے قائل نہیں ہیں، اور ہماری مملکت میں کوئی خارجی نہیں،
 صفی شاہ اسماعیل انیسویں کے سیاستھے، مجتہدین نے بہت سمجھایا ایک نہ سنی،
 شاہ اسماعیل نے کہا، کہ میرے بار و پادرو حافظ و ناصر دوازہ امام ہیں، مجھے سلطان روم کی
 عسکری قوت کی ذرا بھی پروا نہیں، سنیوں کا اور قتل عام شروع ہوا تو شام میں سنی شتمل
 ہوئے وہاں شیعوں کا ہوا، سلطان نے یہ آتش فتنہ جلدی کھجادی مگر اس بدعت کے
 مرغز شاہ اسماعیل پر فوج کشی کی چونکہ شاہ میں مقابلہ کی تاب نہ تھی، ترکہ سپاہ کے راستے
 پر حدود کے قریب چند دیہات ویران کر دیئے، اس لئے ترکوں کو چارہ وغیرہ کی سخت تکلیف
 ہوئی، شاہ اسماعیل بھاگ رہا تھا، اور سلطانی لشکر تعاقب میں تھا، سلیم نے زمانہ لباس اور
 ایک زمانہ لباس اور ایک ڈبیا میں انیسویں بھیجی، یہ طعن کارگر ہوا، اور دونوں لشکروں میں مکرگرائی
 ہوئی، ترکوں کی توپ خانہ کا جواب نہ تھا، شاہ زخم خوردہ تبریک کی طرف بھاگا، سلیم نے سمجھانہ چھوڑا
 ناچار شاہ نے کچھ تحائف اور ہدیہ دے کر صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ صلح ہو گئی،
 پنجہ دانا کتہہ کند ناداں لا یک بعد از ہزار رسوائی لا
 شاہ عباس اور سلیم کے جانشین سلیمان سلطان روم میں بھی لڑائی ہوئی، اس میں بھی

صفوی شاہ کو نیچا دیکھنا پڑا، مزید حالات سلاطین روم و شام کے تحت لکھے جائیں گے۔
شاہ طہماسپ کے عہد میں ہالیوں بشیر شاہ سوڈی سے شکست کھا کر ایران میں آیا ایک
قطعہ لاکھ کر شاہ کے حضور میں پیش کیا، جس کے آخری دو شعر یہ ہیں،۔

و ششم شیر است و عمری پشت بر من کردہ است چائے از کین و عدوت ز پامن کردہ است
اتماس از شاہ اول دادم کہ پامن آن کند پہنچہ باسماں علی در وقت از دن کردہ است

ان اشعار میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے، کہ حضرت علیؑ نے سلمان کو وراثتِ اذن

میں ایک شیر کے پنجہ سے چھڑایا تھا، ہالیوں کا دشمن بھی شیر شاہ تھا، اس لئے شاہ سے یہ
توقع تھی کہ اسے بھی حضرت علیؑ کی طرح شیر کے پنجہ سے چھڑائے گا، گویا ہالیوں سلمان فارسی
اور شاہ حضرت علیؑ کی جگہ ہیں، شاہ نے بددوی اور ہالیوں پھر سے ہندوستان پر قابض ہو گیا،

صفوی خاندان کی توجہ زیادہ تر عراق اور ہرات اور قندھار کی طرف مبذول رہی،

عراق میں وہ تاریخی مقدس مقامات ہیں جن سے شیعہ مذہب کی روایات وابستہ ہیں نجف

جہاں سب روایات حضرت علیؑ مدفون ہیں، کربلا جہاں حضرت امام حسینؑ شہید ہوئے اور

کامپین واقع بغداد، اس لئے ان مقامات کو اپنے قبضہ تصرف میں لانے کے لئے ان کو سلاطین

روم و شام سے الجھنا پڑا، دوسری طرف ہرات و قندھار پر تسلط محض ہوس ملک گیری

تھی اور یہاں ترکیوں بالخصوص ازبکوں اور افغانوں سے لڑنا پڑا، اس خانہ جنگی نے صفوی

حکومت کی بنیاد کھوکھلی کر دی،

عراق و عجم میں شیعہ آبادی کی اکثریت پہلے بھی تھی، صفوی خاندان کے دور دورہ

میں اس کو اور بھی تقویت ملی، اور سنی بڑے شہروں میں ہی رہ گئے، اس مذہبی مناقشات کا

فائدہ برطانیہ نے خوب اٹھایا، اور عراق اور ایران پر اپنا اقتدار چالایا،

ہرات اور قندھار ہمیشہ سے شاہان ایران اور ترکوں اور افغانوں میں نزاع کا موجب

رہے ہیں جب مغلیہ سلطنت ہندوستان میں قائم ہو گئی، تو بامبر سے لے کر ادناگ زیب

عالمگیر تک خاندان صفویہ سے ان ولایات پر کبھی ایرانیوں اور کبھی مغلوں کا قبضہ رہا۔ اور

کبھی مغل اور کبھی ایرانی لڑائیوں میں غلبہ حاصل کرتے رہے، جب احمد شاہ ابدالی نے افغانان

حکومت قائم کل پھر سرات اور قندھار اور بلوچہ علاقہ سمرقند اور بخارا اور بدخشاں دونوں حریف سلطنتوں کے لئے کشمکش کا باعث بنا رہا، اس کا فائدہ بھی گورنمنٹ برطانیہ نے خاطر خواہ اٹھایا جب کبھی افغانوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹانا منظور ہوتا، ایرانیوں کو اکٹھے اور جب ایرانیوں پر اپنا اقتدار ڈھیلا پڑنا دیکھتے تو اقوامیوں کو ایرانیوں سے لڑا دیتے، ہندوستان پر اپنی گرفت محکم رکھنے کے لئے یہ ناگزیر امر تھا، کہ برطانیہ ایران اور افغانستان پر اپنا اقتدار قائم رکھے، ہرات روسی سرحد سے قریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہے اور روسی حد کے لئے راستہ کھلا ہے، ہاں اپنے زمانہ کے تواریخی واقعات کا تقاضا ہے کہ یہہ واقعات اچھی طرح ذہن نشین ہوں۔ جو شاہان ایران اور سلاطین روم اور ایران ہندستان کی باہمی حقیقت کے باعث ظہور میں آئے، ان واقعات کو ہم مناسب مقام پر بیان کریں گے۔ سردست ہمیں ایران کی ابتدائی تاریخ جو صفوی خاندان اور اس کے جانشین خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے بیان کرنا ہے،

غلزئی اور خین کا اس پر اتفاق ہے کہ غلزئی اصلی پٹھان ہیں، محمد بن نجیب بکران اپنی تاریخ جہاں نامہ میں جو اس نے سنہ ۱۰۰۰ میں لکھی، قبیلہ غلزئی کو ہندوستان پر حکمران رہا، ترک لکھتا ہے، جو "خلج" سے زابلستان میں آکر آباد ہوا۔ لیکن دیگر مورخین علجیوں کو غلزئی ہی کہتے ہیں، جو اصل باشندگان "ہتر سلیمان" کے سلسلہ کوہ میں قدیم ملام سے رہائش رکھتے ہیں، اور یہی مقام پشتون یا پختون یا پٹھان کی جنم بھومی ہے، طبقات ناصر کی جو ضیاء الدین برنی نے لکھی اس کی معقول تشریح کی گئی ہے، عرب جغرافیہ دان "اصطخری" چونکہ پٹھانوں کو بھی ترک ہی سمجھتا رہا، اس لئے اس نے بھی قبیلہ غلزئی کو ترک ہی خیال کیا، اور اسی کی تحریر سے غلطی نہیں محمد بن نجیب کو بھی ہوئی، بہر حال غلزئی پٹھان خانہ بدوشی کی حالت میں اپنے بھیڑ بکری کے ریوڑ کے ساتھ پنج اور ترکستان وغیرہ مالک تک نکل جاتے مگر ان کا وطن مالوف غور کی پہاڑیاں تھیں جہاں وہ پھر پھر آجاتے، جہاں "بری رود" ہے، ہاں موضوع کا تعلق اس بحث سے نہیں کہ یہ ترک ہیں یا پٹھان، اور یہ کہ دونوں اصل میں ایک ہیں، یا علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ہمیں صرف یہ جاننا کافی ہے کہ یہ پٹھان ہیں،

اندیشہ تو بولتے ہیں،

شاہ عباس صفوی کے عہد میں قندھار اور ہرات ایرانی سلطنت میں شامل تھے
قندھار میں پٹھان اکثر شورش برپا رکھتے، اس لئے ان میں سے اکثر کو ہرات میں جلا وطن
کیا۔ یہ ابدالی پٹھان تھے قندھار کے قریب میں غلزی رہتے تھے۔ ان کی بنیادی اس وقت
شاہ عالم مغلیہ شہزادہ جو بعد میں بہادر شاہ کے لقب سے بادشاہ ہوا۔ کابل کا والی
تھا، اس سے ساز باز کی، یا اس نے ان سے سازش کی مغلیہ شہزادہ تو کامیاب نہ ہوا
غلزی تقویت پکڑنے لگے، اور قندھار پر قابض ہو گئے۔

اس وقت صفوی خاندان لہستان کی طرف سرعت سے جا رہا تھا، ۱۶۱۸ء میں غلزی
سردار محمود نے اصفہان پر لشکر کشی کی اور اصفہان کی لشکر کے بعد صفوی تخت پر
متمکن ہو گیا، چار سال بعد محمود مارا گیا اور اس کا چچا بھائی جانشین ہوا، اور طہران میں
قابض ہو گیا، اس وقت شاہ طہارپ ثانی ابائی ملک واپس لینے کے لئے بعد و جہد کر رہا تھا
ایک نوجوان نادر قلی بیگ نے اس اٹے وقت میں بگڑا اور اکام سنوار دیا۔ ہرات پر
ابدالی قابض تھے، ان کو نیچا دکھایا، اور ان میں سے اکثر کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اسی
افغان دستہ کا نادر احمد شاہ ابدالی تھا، اس نے غلزی سے اصفہان اور طہران لے لیا
اس کے بعد نادر نے طہارپ ثانی کے بیٹے شاہ عباس ثالث کو ہر طرف کر کے خود تلج و
تخت سنبھال لیا، نادر "قرقلو" تھا، جو قبیلہ انشار کی ایک شاخ ہے، اور اس کی اصل ترک
ہے، آخری دور حکومت میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مذہب کے نام پر جو مناقشات اور
شراکتیں فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس لئے کوشش کی کہ
سنی اور شیعہ کا جھگڑا ختم کیا جائے۔

اس نے سنی علماء اور شیعہ مجتہدین کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ہدایت کی ختلافی مسائل
کے تصفیہ کے بعد دونوں ایک ہو جائیں، دونوں میں گفتگو کا نتیجہ خوشگوار رہا۔ مگر سرسید
طبقہ نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا، نادر کے بیٹے کو دگادی کہ نادر سنی مذہب قبول کر چکا ہے
اور نادر کو بھڑکایا کہ نیرا بیباکوت پر آمادہ ہے، اب بیٹے میں بگاڑ پیدا ہوا تو بیٹے کی

لکھیں نکلوا دیں، نادر کو جب اصل حالات کا علم ہوا تو قزلباشوں کی شامت آگئی، بڑے بڑے سرغنے قتل ہوئے، موزمین نے غلط فہمی سے یہ رائے قائم کی ہے کہ نادر آخر عمر میں دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قزلباش نادر اور نادر شاہی کا خاتمہ کرنے کے لئے تھے ہوئے تھے، لیکن نادر کے لشکر میں ہزاروں افغان تھے ان کی موجودگی میں علاقہ حرات نہ ہوئی تو رات کے وقت جب وہ سویا ہوا تھا کام تمام کر دیا، افغان محافظ فوج کا افسر احمد شاہ تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ نادر مارا گیا تو اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ قزلباش محافظ دستہ سے لڑ بھر کر اپنا راستہ صاف کرے اس طرح بخیریت قندھار پہنچ گیا،

خاندان قاجار | شاہ عباس ثانی نے بحیرہ خضر (Caspian Sea) کے جنوب مغربی میدانوں میں ایک ترکی قبیلہ "قاجار" بسایا، جو رفتہ رفتہ اتنی طاقت پکڑ گیا کہ ایران پر قابض ہو گیا،

نادر کے بعد کریم خاں زند ۱۷۰۵ء سے ۱۷۲۲ء تک حکمران رہا۔ زند ایک قبیلہ فارسی کے جنوب میں آباد ہے، اس کا پایہ تخت خیراز تھا۔ اس کے عہد میں شیراز نے ہر لحاظ سے بہت ترقی کی، اور کریم خاں کا عہد سلطنت کی برکات کی یاد اہل ایران کے دلوں میں ابھی تک تازہ ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وفات کے بعد مختلف قبائل میں تخت فوج کے لئے کش مکش جاری رہی، اور ان پسند لوگوں کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا، آغا محمد خاں نے قبیلہ قاجار کو متحد کیا، ۱۷۲۲ء میں ایران پر قابض ہو گیا، اگرچہ مختصراً مگر جس بربریت اور سفاکی سے کام کیا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ شاید ہی سلاطین میں سے کوئی شخص فرعون کے بعد ایسا گزرا ہے کہ جس کے نام پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔

لڑکپن میں آغا ایک ایسے دشمن قبیلہ کے ہاتھ پڑا، اس نے اسے مختصراً بنا دیا، غالباً اسی کا انتقام تھا جو اس نے اہل ایران سے لیا، اہل ایران نے اطمینان کا سانس لیا جب ایک ہی سال بعد کسی دل جلے نے اسے قتل کر دیا۔

اس کا بڑا ناہانہ فتح علی جانشین ہوا، تو ملک کی اندرونی بد نظمی کا فائدہ اٹھانے لیا یہ

اٹھایا کہ جارجیا (Georgia) کا علاقہ دریائے فرانس اور انگریزوں میں یورپ اور ہندوستان میں اقتدار کے لئے رستہ کشی ہو رہی تھی، اور دونوں ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، فتح علی نے فرانس کی مدد کی درخواست کی۔ شاہنشاہ نیپولین (Napoléon Bonaparte) ایک برس کے بعد ایران کو یہ دوستانہ اور مختلف مشورہ دیتا ہے کہ ایک ایسی قوم سے جو تجارت پیشہ ہے اور اپنے ہی مفاد کی خاطر ہندوستان کے تحت و تاج کو بھی تجارتی مال کی طرح مبادلہ اشیاء سے زیادہ وقعت نہیں دیتی، شاہ کو ان سے کوئی تعلق و دستاورد نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ۱۸۰۱ء میں فرانس اور ایران میں ایک معاہدہ ہوا، فرانس نے مدد تو دی مگر کامیابی نہ ہوئی۔

روس کے وائٹ واصل ہندوستان پر تھے۔ محمد شاہ قاجار کے عہد میں ۱۸۰۶ء دونوں حریف طاقتیں بساط سیاست پر ایران اور افغانستان کو اپنے ہرے سمجھتے تھے۔ ”دو عاقل را بنا شد کس و پیکار“ یہ شاعر نے پرودہ تھے، اور ان کی انگلیوں کے اشارے ایران اور افغانستان ناچتے تھے، انگریز فائدہ میں رہے وہ چاہتے تھے کہ مہا یہ ملک افغانستان ایران سے الگ ہے، اور ہندوستان سے اس کی توجہ بالکل ہٹ جائے۔ کی کامیابی کاراز اس میں تھا کہ روس میں شخصی حکومت تھی، اور ملک کے طول و عرض میں بغاوت کا جال پھیلا ہوا تھا، اور زاروں جو بھی تخت نشین ہوتا اپنی جان سے پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ حکومت روس اندرونی فرخشوں کو مٹانے میں زیادہ مصروف رہتی، انگریزوں میں بھی اگرچہ شخصی حکومت تھی، مگر بادشاہ پرانے نام ہی تھا، اور اب بھی اس کی حیثیت ایک ”پست“ سے زیادہ نہیں۔ یہاں دستوری (Parliamentary) حکومت ہے اور تمام اختیار عوام کے نامزدہ صدر اعظم (Premier) اور اس کی کابینہ (Cabinet) کو حاصل ہے، ان لوگوں نے اقتدار کاراز معلوم کر لیا تھا اور یہ وہی کچھ ہے جو ایک عرصہ قبل فلسطینی (Phoenicians) نے صد ہا سال پیشتر معلوم کیا تھا۔

”یہ تجارت میں ہے“

یہ راز ان سے پیشتر اہل ہالینڈ نے معلوم کیا، اور ان کی تقلید انگریزوں بھی کی

ناسب مقام پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔

ہرات اور قندھار کے لئے ایران اور افغانستان میں لڑائی جاری رہی، ایران اب
 ہرجی ممالک کے سیاسی جال میں پھنس چکا تھا۔ اور اس سے مخلصی کی اب کوئی راہ نہ تھی۔ اگر
 ہندوستان کی طرح یہاں بھی لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے تو ایران کا شہر بھی
 ہندوستان کی طرح ہوتا، لیکن صفوی خاندان کے سیاسی تدبیر نے ایرانیوں کو ایک قوم
 بنا دیا، ایک زبان پارسسی اور ایک مذہب اثنا عشری نے ان کو متحد کر دیا، لیکن ان کے مذہبی
 عقاید میں ایک خامی ایسی رہ گئی کہ زمانہ کے ذہنی ارتقاء کے نامناسب تھی، یہ عقیدہ شخصی
 حکومت کا حامی رہا۔ اس لئے ایک قبیلہ کے بعد دوسرا قبیلہ جس کو ذرا طاقت حاصل
 تھی۔ ایران کا مالک بن بیٹھا، چند سال "کوس من الملک" بجایا اور "رقت منزل بدیگے
 واخت"۔

انگریزوں اور روسیوں کے لئے یہ سہل سی بات تھی کسی قبیلہ کو شہ و سے کرکھڑا کر دیا
 لئے زبان اور مذہب کی یک رنگی بھی کام نہ آئی، علاوہ ازیں ایران ہر ایک ضروری امر
 میں اختیار کا محتاج تھا، نتیجہ علی کو سلجوق کی ضرورت تھی، تو دولِ یورپ کے آگے دست سوال
 راز کیا۔ اب دولِ یورپ کے مشن کی آمد و رفت شروع ہو گئی، محمد شاہ تاجرانے دیکھا
 کہ یورپ کی منظم فوج کا مقابلہ ایرانی نہیں کر سکتے، دولِ یورپ سے لڑائی مول لینے کی ضرورت
 تو نہ تھی، بس یہ ممالک افغانستان اور ترکوں کو نیچا دکھانا منظور تھا۔ اس لئے فرانس
 سے معلم آئے۔ انگریزوں اور فرانس میں اقتدار کے لئے پہلے ہی کف کف جاری تھی۔
 ایران میں نہ تو روس اور نہ فرانس کا اقتدار پسند کر سکتے تھے، ناصر الدین شاہ تاجرانے سخت
 نشین ہوا، ۱۸۲۸ء، تو افغانستان سے لڑائی چھڑ گئی، ۱۸۵۴ء میں ہرات تو لے لیا
 مگر انگریز آدھکے، بلکہ ایران کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا، افغانوں کی مدد کی۔ اور
 ناصر الدین کو ہرات چھوڑنا پڑا،

ایران خزانہ لیا تھا، انگریزوں اور فرانسسیوں اور آسٹریا اور اٹلی کے فوجی اور تجارتی
 مشن کے بعد دیگرے آئے شروع ہوئے۔ روس نے بھی اپنی خدمات پیش کیں ایرانی

کامسکا (Casmack) کی تسلیم و ترمیم روسی وضع پر روسی جرمنیوں کے تحت ہونے لگی،

برطانیہ ایران میں بالخصوص ساحلی علاقہ پر قدم استقلال کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ ایران بھی چاہتا تھا کہ یورپ کی ترقی یافتہ اقوام کے ساتھ قدم بدم چلے لیکن سیاسی نقطہ نظر سے اس نے غلط روش اختیار کی اور بہت میں اٹلی کی پائی مری سے داخل ہونا چاہتا تھا، اگر وہ جاپان کی تقلید کرتا، اور جو مانا ایران کے یورپ کے مختلف ممالک میں علوم و فنون کی تسلیم کے لئے بھیجتا رہتا تو اس کی تاریخ کا کبھی نیا باب کھلتا، تاریخی کا سلسلہ برطانیہ نے ایران میں قائم کیا۔ ریوٹر (Reuter) نے قومی بینک کھولا، جو بعد میں شاہی بینک سے موسوم ہوا، برطانیہ "حیات قرون" میں جہاز رانی کا دواحد اجارہ بھی حاصل کیا،

ابج تک شاہان ایران ہمیں سے کسی نے بھی اپنے ملک سے باہر سیر و سیاحت کے قدم نہیں رکھا تھا، یا تو بحیثیت فاتح یا بحالت جلاوطنی ہی مجبوراً باہر جانا پڑا، ناصر قاچار نے یورپ بالخصوص انگلستان کا سفر ۱۸۴۳ء میں کیا، اس سفر کے حالات نے آپ ہی لکھے ہیں، شاید سفر کی غرض یہ تھی کہ وہ یورپ کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم کرے کہ وہ کیا سبب ہیں کہ وہ کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں یہ حقیقت اس کے ذہن نشین ہو گئی یا کی گئی کہ مغربی طرز حکومت اور علوم جدیدہ میں ان کی ترقی راز ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ ارتقار و ترقی اور خارجی حالات کے مناسبت ہی ہوتا ہے اسی حد تک ممکن ہے، جس حد تک وہ اجازت دیں، اور یہ کہ محض نقالی "قرۃ العارین" طرح کچھ مفید نہیں، حکومت کی خواہ کوئی صورت ہو، وہ بہر حال ایک صورت ہے اور ایک اس میں روح حیات کا فرمانہ ہو، وہ محض ایک بے جان پتھر کی صورت ہے۔ جس کی کوشش تو بہت کی مگر ماندہ و در ماندہ ہو کر کہنا پڑا کہ "ہسلاح ایران کے حسب حال نہیں!"

جب دول یورپ کو علم ہوا کہ کجلاہ اصلاح کا ارادہ عملاً چاہتا ہے اور یہ توانائی

ت تھی کہ مسلح کے "گر" بھی لوگ جانتے ہیں، اس کے ان حضرات نے اپنی خدمات
 پیش کیں، لیکن ایک شرط مراعات "بھی تھی، ان کی باہمی رقابت اور سیاسی چالوں اور
 دمی تخت نے ان کا کھیل بگاڑ دیا، ایرانیوں کا اعتقاد یورپ والوں پر نہ رہا اور شاہ
 نے بھی تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی یورپین سرزمین ایران پر نہ رہے۔
 ورنہ آئندہ یہ قدم نامبارک و مسعودیہاں آئے، لیکن حالات اب ایسے پیدا
 ہو چکے ہیں کہ

"باہیں مروماں بساید ساخت چہ تیاں کو مروماں این اند ک
 محمد علی باب | شخص محمد علی المقلب بہ "باب" نے دعوت مہدویت کیا یہ
 شخص سید تھا، اور توقع تھی کہ سادات پرست اسے کم از کم اپنا امام تسلیم کر لیں
 گے، مگر خلافت تو تسلیم شدہ عقیدہ ہے، لیکن شاہ قاجار کو اس طرح تخت و
 تاج سے محروم ہونا پڑتا۔

محمد علی کا یہ دعوت تھا کہ اس کی ذات میں دو اوصاف جمع ہیں ایک تو وہ بدیہیہ علم
 محمد ہے، اور دوسرے "باب علم" علی ہے۔ اب زیر بحث "علم" تھا، مجتہدین عصر نے اس
 کا جائزہ لیا تو وہ کورا نکلا، اس کی تقریر و تحریر میں جو صرف و کھو کی غلطیاں اس پر
 واضح کی گئیں، تو کہا کہ میں ان قواعد کا پابند نہیں ہوں۔ بلکہ تو قواعد صرف و کھو میرے
 پابند ہیں، اس کے داعیوں میں سے ایک نوجوان حسین عورت "طاہرہ" نامی تھی۔ شعر بھی
 اچھے کہتی تھی اس نے بے پردہ ایران میں دعوت محمد علی شروع کر دی، اس کی دالہانہ عقیدت
 اور حسن و جمال نے وہ اثر کیا جو دعوت "علم" بھی نہ کر سکا،

اب حکومت کے کان کھڑے ہوئے، محمد علی اور اس کے داعیان اور بیہ داعیہ
 بھی گرفتار ہوئے اور آخر مائے گئے۔ لیکن شاہ کو عقیدت مندوں نے چھین نہ لیں دیا
 یہ بھی ۱۸۹۷ء میں ان ہی کے ہاتھوں سے مارا گیا،

ہماؤ اللہ | محمد علی باب اور اس کے چالیس ہزار مرید تہ تیغ بیدریغ ہوئے تو ایک

مرید مرزا یحییٰ نے قیادت سنبھال کی اور ایران میں خیر نہ دیکھی تو "اڈریانوئل" میں ترکیب کے زیرِ عاطفت فرقہ بابی کی سرگرمی جاری رکھی، لیکن اس فرقہ میں تفرقہ پید ہو گیا،

مرزا یحییٰ صبح ازل کا سونٹلا بھائی میرزا حسین مقابلہ میں کھڑا ہو گیا، دس سال پہلے اللہ کا لقب اختیار کیا، ۱۹۱۲ء میں صبح ازل کا آفتاب حیات شام ابد میں ہو گیا تو بہائی فرقہ چمک اٹھا، اس کا دعویٰ ہے کہ تمام اقوام کے مذہب ایک عظیم اور شخصیت کے منتظر ہیں، یہود و نصاریٰ مسیح کی، اہل اسلام مہدی کی آمد ثانی کی، کلنگی اوتار کی اور علی ہذا القیاس یہ شخصیت میری ذات ہے، تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور میں ایک نئی شریعت لایا ہوں،

پہلے اللہ کے دعویٰ رسالت بلکہ "الوہیت" کے بعد اس کے داعی تمام مہذب دنیا میں پھیل گئے، تبلیغ کا مرکزی مقام "عکہ" واقع ارض فلسطین قائم کیا گیا جہاں پہلے مدفون ہے، اس کا بیٹا اور جانشین عباس آفندی بہائی تحریک کا قائد ہوا۔ امریکہ میں ہے کہ بہائی مذہب کو نمایاں کامیابی ہوئی ہے، اس کے معبد "ولمٹ" (Temple) اور "ایلی نوس" (Allenos) اور تھران میں ہے،

اس کتاب خلافت اسلامیہ کے مؤلف کو ایک بہائی داعی حکیم میرزا محمود زر قانی دودھ امرت سرحد پنجاب) میں ملنے کا اتفاق ہوا، یہ ایرانی نثر ادیب بھی تھا۔ اردو میں مافی الضمیر اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا کہ آپ فارسی میں گفتگو کریں۔ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں گفتگو کر دوں، کیونکہ ہندوستان کی اکثریت یہی زبان ہی ہے اور ایسے تعلیم یافتہ لوگ جو فارسی زبان جانتے ہیں مجھے اردو میں بہت کچھ مدد سے کہیں میں نے کہا کہ اردو سیکھنے کے لئے آپ کو بہت وقت مل جائے گا، سر دست میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان میں گفتگو کریں، تاکہ مجھ پر آپ کا مافی الضمیر بخوبی واضح ہو۔ پہلے اپنے قرآن کی چند آیات دربارہ یوم قیامت اور حشر و نشر پڑھ کر کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یوم قیامت ایک خاص دن ہے کہ جب قبور سے مردے اٹھیں گے یہ عقیدہ

تھیں، بلکہ اس سے مراد وہ دن ہے، جب ایک رسول کا دور رسالت ختم ہوتا ہے، اور نئے
دن کی بعثت پر نیا دور جس کی مدت ایک ہزار سال ہے۔ شروع ہوتا ہے، اس کی تائید میں
نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا،

يا سماء اللہ ایک امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا
الارض ثم يعرج اليه ہے، پھر وہ امر ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری
یوم کان مقداراً الف گنتی کے مطابق ایک ہزار سال ہے اللہ کی طرف
تہ ما تعدون (۲۱/۱۱) رجوع کرتا ہے

اس پر اس نے یہ استدلال کیا، کہ آنحضرت کا امر رسالت ایک ہزار سال کے بعد ختم ہو گیا،
امر ہزار اللہ کا دور دورہ ہے،

میں نے جواب دیا کہ ایک امر کا انتہائی ارتقاء عروج اس آیت کی رو سے بلاشبہ ایک ہزار
سال ہی ثابت ہوتا ہے، اس امر کی تکمیل کے بعد دوسرے امر کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن اس ایک
کا اطلاق ان رسولوں پر ہوتا ہے، جو آنحضرت سے پیشتر گزرے ہیں، ان کی شریعت کا منشاء
بہزار سال میں پورا ہوا، لیکن قرآن کے بارہ میں ارشاد ہے کہ

نا انزلنا فی لیلۃ القدر ما وما ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور
درک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر
فیہا من الف شہرا، تنزل الملائکۃ ایک ہزار ماہ سے بہتر ہے اس میں ملائکہ اپنے
والروح فیہا باذن ربہم پر دروگاہ کے اذن سے "کل امر کے ساتھ نازل
من کل امر۔ (۲۲/۱۷) ہوتے ہیں،

اب سوال یہ ہے کہ "من کل امر" کا انتہائی عروج یا تکمیل کتنے عرصہ میں ہوگی۔
اس کے بارہ میں ارشاد ہے کہ

من اللہ ذی المعارج اللہ کی طرف سے جو ہر ایک امر کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے
تسربح الملائکۃ والروح دن کل امر کے نزل کے بعد انتہائی عروج ملائکہ کے ساتھ
الیہ فی یوم کان مقداراً الروح کا اللہ کی طرف ایک یوم میں ہوتا ہے جس کی

خمسین الف سنہ (۲۹) مقدار پچاس ہزار سال ہے،

میں نے داعی امر ہائی کو آیات قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ کیا، کہ جو آیت اس سے
پنے دعوئے کی تائید میں پیش کی ہے اس میں نزول دعوت "الملکہ الروح" مذکور نہیں ہے
جو آیات میں نے پیش کی ہیں ان میں خصوصیات کے ساتھ مذکور ہے۔ اور یہ کہ داعی کی پیش
کردہ آیت میں ایک خاص امر کا ذکر ہے، مگر آیات سورہ یس لیلہ القدر میں "من کل امر
کا ہے یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت کی بعثت سے پیشتر ایک ایک خاص امر ہزار ہزار سال
میں تکمیل پا چکا تھا، لیکن قرآن "من کل امر" کا حال ہے، اور اس کی تکمیل بتدریج
پچاس ہزار سال میں ہوگی، اس لئے آنحضرت کا دور رسالت پچاس ہزار سال تک رہے گا
داعی کی بحث کا موضوع دراصل خلافت اسلامیہ تھا، اور یہ ایک تاریخی واقعہ
ہے کہ خلافت کے خاتمہ کا اعلان ترکوں نے ہمارے زمانہ میں کر دیا، اور اس اعلان کے بعد
اجباً خلافت اس کے اصطلاحی معنوں میں مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا، داعی مذکور
آیہ استخلاف ثلاثت کرنے کے بعد کہا کہ "ختم نبوت" کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کا عام
عقیدہ ہے، صحیح نہیں، آنحضرت کی بعثت سے پیشتر ہی ایک رسول کے بعد نبیاء مسلمہ
پے درپے مبعوث ہوتے رہے، لیکن آنحضرت کا مقام چونکہ سابقہ رسل سے اعلیٰ و ارفع ہے
اس لئے آنحضرت کے جانشین خلفاء ہونے اپنی رائے ہوئے، یہ خلافت اب ختم ہو گئی،
لئے آنحضرت کا دور رسالت بھی ختم ہو گیا۔

میں نے کہا کہ آپ ایک مخالف میں اُلجھے ہوئے ہیں، آپ نے آنحضرت کے نشانہ
تو صرف خلافت میں محدود کر دیا ہے، حالانکہ خلافت صرف ذریعہ تمکین دین کا تھا، مقصد
حقیقی تو "دین" ہے، جب اس کو خلافت کے ذریعہ تمکین حاصل ہو گئی جو ایک ثابت شدہ
امر بالعبادیت ہے تو ذریعہ منقطع ہو گئے، یہہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ دین بھی ذریعہ کے
ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ دین کے راستہ میں جو امور سدا رہتے تھے ان کو خلافت
نے ختم کر دیا۔

اب دین کا راستہ صاف ہے یہ دین جس کے ساتھ آنحضرت مبعوث ہوئے پچاس ہزار سال

ہزار سال میں اپنا منشا پورا کرے گا، یہ کہنا چاہئے کہ جس امن کا وعدہ آیہ اختلاف میں کیا گیا ہے جہاں تک اس کا تعلق دین سے ہے اس کا دور تو اب شروع ہوا ہے، اور قیامت کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا ہے کہ ہر ایک دور رسالت کے اختتام اور نئے دور پر قائم ہو جاتی ہے، ایک تاویل آیات قرآن کی ہے، اور یہی تاویل علماء اسلام بھی کرتے ہیں، کہ آنحضرت کے دور رسالت کے خاتمہ کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی،

اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگرچہ قرآن میں اس کا مفصل تذکرہ ہے مگر سروسٹ زیر بحث نہیں، آپ پچاس ہزار سال تک منتظر رہیں، انسان خلیفہ فی الارض ہے اس کی خلافت ختم نہیں ہوئی، اسلام انسانیت کا دین ہے،

واعی نے بحث کا موضوع بدل کر کہا، کہ امید ہے کہ آپ بوقت فرصت ملتے رہیں گے۔ پہلے میل ملاقات بھی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، دوران گفتگو میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بحث میں وہی روش اختیار کرتے ہیں جہاں سے پیشتر واعیان فرقہ باطنیہ اختیار کر چکے تھے، پہلے مخاطب کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں، اور شبہات پیدا کرتے ہیں

”سہنہائی کہہ نہ کہ باواں کند
اول آن بنیاد را ویراں کند“

جب ایک دفعہ شبہات پیدا ہو گئے اور ایمان متزلزل ہو گیا، تو پھر جو چاہیں منوا سکتے ہیں کیونکہ یہ علم نفسیات کا ایک اہم مسئلہ ہے،

انسانی طبیعت اپنی تشکین کے لئے کسی عقیدہ کا مہار انکلاش کرتی ہے خواہ غلط ہی ہو۔ داعی صاحب نے یہی حسرت مجھ پر بھی استعمال کیا، جب یہ بکار گرنے لگا تو اب میری بادی تھی کہ دار کرتا مگر مجھ ان کے عقائد کا علم نہ تھا، اس لئے میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنی شریعت سے آگاہ کریں، تاکہ میں بھی عوز کروں کہ مسلمانوں کی شریعت سے کس حد تک بہتر ہے، اور یہ کہ جناب بہار اللہ صاحب کی اپنی کتاب کا حوالہ دیں،

داعی صاحب یہ کہہ کر ٹال گئے کہ ”کتاب اقدس“ میرے پاس نہیں، اس بحث کے بعد میں نے اس فرقہ کی کتب اور عقائد کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جس ماحول میں جناب بہار اللہ نے پرورش پائی اور مغربی تہذیب و تمدن کا اثر آپ کے دل و دماغ پر گہرا تھا، اس لئے

اپنی قوم کی اصلاح کے لئے کوشش کی، اس کوشش کا نتیجہ اتنا ضرور ہوا کہ زرتشتی مذہب کے پیروجن کی تعداد چند ہزار نفوس ایران میں تھی، اس فرقہ میں شامل ہو گئے فرقہ بہائیبہ کو کسی مذہب سے پر خاش نہیں، ان کے پیشوا کا ارشاد ہے کہ سب سے شیر و شکر کی طرح رہو خواہ وہ کافر اور ملحد ہی کیوں نہ ہو، بہائی "جناب بہار اللہ کو اپنی طرح منظر الوہیت یقین کرتے ہیں جس طرح مسیحی حضرت مسیح کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اب کوئی شخص دعوت نبوت و رسالت کرے گا تو ضرور ہے کہ وہ یہ بھی کہے کہ "امت بنزلہ اولادی" یا "امت اولادی" اور یہ کہ اپنے معتقدین کو "اپنا بندہ" ہی کہے گا۔ جو سراسر توحید کے منافی ہے۔ بہائی مذہب باطنیہ کی ایک صورت ہے،

ناصر الدین کے بعد مظفر الدین در ۱۸۹۴ء سے ۱۹۰۶ء تک کے عہد میں روس کا اثر انتہائی عروج پر تھا، اصلاحات کے لئے سارے رٹا بلین قرضہ پارچہ فی صدی شرح سود پر لیا، لیکن ان کو بھی سیر و سیاحت کی سوجھی، اور یہ روپیہ اسی کا رخیر اور دیگر مسرفانہ مصارف پر خرچ ہو گیا، رعایا بد حال تھی، لیکن خارجی سیاسیات کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ ان کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور بیداری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے عوام شہری حقیق کا مطالبہ کر رہے تھے، اس لئے مجبوراً شاہ نے ۱۹۰۴ء میں پہلی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا۔ ایران کی سیاسی حالت یہ تھی کہ پندرہ دول خارجہ نے اپنے نظریوں کے تنازعات کے فیصلہ کا حق بلا دخلت حکومت ایران اپنے لئے بذریعہ معاہدات محفوظ کر لیا، روس کے پہلے قرضہ میں سے چھ لاکھ "روبل" روسی بقایا تھے، کہ روس نے فوراً ایک کروڑ روبل اور قرضہ دے دیئے، اور شاہ کو پھر سیاحت یورپ کی سوجھی، روس نے اپنی درآمد پر محصول میں بہت کچھ کمی کی رعایت بھی حاصل کر لی اور دیگر ممالک کی درآمد پر محصول بڑھایا گیا،

۱۹۰۷ء میں مظفر الدین فوت ہو گیا، اس کا بیٹا محمد علی شاہ جانشین ہوا، پارلیمنٹ تو قائم ہو چکی تھی، اس میں نمائندگی کے لئے رقابت اور رقابت کے ساتھ بد مزگی بھی ناگزیر امر تھا، شاہ نے پارلیمنٹ توڑنے کی کوشش کی، سعدی نے سچ کہا کہ

”وہ عاقسل رہا تھا کیونکہ ”پیکار“ انگریزوں اور روس میں سمجھوتہ ستمبر ۱۹۰۷ء میں ہو گیا۔ روس جاپان کے مقابلہ میں شکست کھا چکا تھا، برطانیہ پارلیمنٹ کا حامی تھا۔ جس کا مطالبہ یہ تھا کہ روس سے قطع تعلق کیا جائے، لیکن برطانیہ کو اس کا بھی احساس تھا۔ کہ جرمن مشرقِ قریب میں خلیج فارس تک ریلوے لٹریک تعمیر کرنے کا منصوبہ باندھ چکا ہے۔ اس کا خطرہ روس اور برطانیہ کو یکساں تھا، اس لئے دونوں میں سمجھوتہ ہو گیا اور سمجھوتہ میں ایران اور افغانستان اور تبت میں اقتدار کا سوال تھا، ایران میں دونوں نے اپنا اپنا حلقہ اثر تقسیم کر لیا۔

شاہ کو تو پارلیمنٹ کا ٹوٹنا بد نظر تھا، جون ۱۹۰۸ء میں روسی کرنل لیخوف (Likhov) نے پارلیمنٹ کی عمارت پر گولہ باری کی، اور شاہ نے پارلیمنٹ کے خاتمہ کا اعلان کر دیا، عوام نے علم بغاوت بلند کیا، ”رشت“ اور ”اصفہان“ میں قوم پرست مقابلہ کے لئے اٹھے محمد علی شاہ روس میں بھاگ کر پناہ گزین ہوا، قوم پرستوں نے اس کے گیارہ سالہ بیٹے احمد شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، اگر یہ لوگ چاہتے تو شخصی حکومت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیتے مگر ان کے مذہبی عقائد مانع تھے۔

ایران کی مالی حالت خراب تھی، قوم پرستوں کی بھی آپس میں نہ بنی، امریکہ سے ایک شخص ”شوستر“ (Shuster) نامی بحیثیت اعلیٰ مہتمم خزانہ بلا یا گیا، اس نے کچھ اصلاحی کام شروع ہی کیا تھا، کہ روس نے دخل در معقولات دیا اور ۱۹۱۱ء میں دھکی دی کہ اگر شوستر برطرف نہ ہوا تو اعلانِ جنگ کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی رہی سپاہِ قزوین تک بڑھ آئی، اور جو بھی قوم پرست ہاتھ لگا، ٹھکانے لگا دیا، امام رضا کے روضہ پر گولہ باری کی، اور آئرش ریفورم کو بھی پھانسی دی، شوستر کو ایران سے نکلنا پڑا۔ اس نے اپنی کتاب ”The Strangling of Persia“ لکھی اور دہلی یورپ بالخصوص روس کی سیاسی چالوں کو بے نقاب کیا،

اگر یہی حالات ہی رفتار سے رہتے تو روس اور برطانیہ ایران کو آپس میں بانٹ لیتے لیکن ”تذیر کنندہ“ تفریحی ”جنگِ عظیم“ ۱۹۱۴ء نے دہلی یورپ کو

اپنی لپیٹ میں لے لیا، جرمن نے شکست کھائی، برطانیہ فتح کے نشہ میں سرشار ایک طرف
ایران اور دوسری طرف عراق پر مستقل قبضہ کے منصوبے باندھنے لگا، عراق پر تو
فوجی قبضہ ہو چکا تھا، ایران کے ساتھ ہمدردانہ معاہدہ کی یہ شرائط پیش کیں، کہ
مالی اور عسکری حالت درست کرنے کے لئے اپنے مشیر عارضیاً دے گا، اور رٹس کس اور ریلوے
رٹس کس خود اپنی نگرانی میں تیار کرے گا، تمام اخراجات کا ایرانی خزانہ مستعمل ہوگا مگر قرض
برطانیہ دے گا، شاہ تو ادھار کھائے بیٹھا تھا، اس معاہدہ پر دستخط کے لئے تیار ہو گیا
مگر عوام میں ہیجان پیدا ہو گیا، اور ساتھ ہی امریکہ نے سخت مخالفت کی،

ایران کے طول و عرض میں اب بد نظمی کا دور دورہ تھا، خوش قسمتی سے سوویت
سائنس دان روس نے خاندان زار کی شاہی کا تختہ الٹ دیا، بچہ خرد کے نواح میں
انگریزی سپاہ اور سوویت کی فوج میں جھڑپیں ہوئیں، انگریزوں نے منہ کی کھائی
۱۹۲۱ء میں ایران اور سوویت روس میں ایک معاہدہ ماسکو میں ہوا، اور دونوں ملکوں
دوستانہ تعلقات پختہ ہو گئے، اس معاہدہ کو ماسکو میں پختہ ہونے کو ابھی پانچ روز باقی
تھے کہ کرنل رضاخان ایرانی سپاہ کے ساتھ قزوین سے تہران آیا۔ ۱۹۲۲ء تک وزیر جنگ
کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ احمد شاہ ایران سے یورپ کی طرف نہضت فرما ہوا اور پھر
لوٹا، قاجار خاندان کا خاتمہ ہو گیا،

اب ہم اپنے زمانہ کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم اس کتاب کے تیسرے
حصہ میں لکھیں گے۔

ہم سلطنت سلجوقیہ کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ
 اس کی ایک شاخ ایشیا کو چک میں حکمران تھی جس کا
 یہ تخت "تونیہ" تھا، اس وقت سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی حکومت تھی اور کچھو شجرہ نسب
 جب چنگیز خان نے سلطنت خوارزم شاہیہ کا خاتمہ کر دیا، اور ساتھ ہی طوائف الملوک بھی
 ختم ہو گئی، تو سلیمان شاہ خاندان ترکمان کے پاس ہزار سواروں کے ساتھ ارض روم میں
 آیا۔ دریا فرات کو عبور کر رہا تھا، کہ غرق ہو گیا، ترکمان چاروں طرف سے پر اگندہ ہوئے
 ان میں سے ایک سردار "آرطغرل" نے ایشیا کو چک میں سلطان علاؤ الدین کے پاس آیا،
 اس کا بھائی "ڈنڈا" بھی ساتھ تھا، سلطان نے دونوں کو قردغصار اور میکال کے درمیان
 بسایا، طغرل ۵۷۰ھ میں فوت ہوا، تو اس کا بیٹا "عثمان" جو بڑی سپاہی تھا، سلطانی
 لشکر کا رفتہ رفتہ پہ سالار ہو گیا، ۶۹۹ھ میں تاتاریوں نے سلطان کو شکرت دی،
 تھوڑے ہی عرصہ بعد سلطان لاؤد قوت ہوا، عثمان نے چونکہ لغاری کے مقابلہ میں
 نمایاں فتوحات میں نام پیدا کیا ہوا تھا، اسے "غازی" بھی کہتے، بہت ہردلعزیز تھا،
 سرداران لشکر نے اسی کو تخت پر بٹھا دیا، غازی نے مرحوم سلطان کی لڑکی سے نکاح کیا
 تو بنیاد سلطنت اور مستحکم ہو گئی۔
 (شجرہ نسب اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

شجرہ نسب سلاطین روم و شام

(۱) غازی عثمان خان (۴۹۹ھ)

(۲) آر خان اول (۴۷۴ھ)

(۳) مراد خان اول (۴۷۱ھ)

(۴) غازی سلطان بایزید اول (۴۹۱ھ)

(۵) محمد خان اول (۸۲۸ھ)

(۶) مراد خان ثانی

(۷) غازی محمد خان ثانی (فتح قسطنطینہ)

۸۵۵ھ
۶۱۲۵۰

(۸) بایزید ثانی

۸۸۴ھ
۶۱۲۸۱

(۹) سلیم خان (۹۱۸ھ)

(۱۰) عظیم الشان سلیمان خان اول

۹۲۶ھ

(۱۱) سلیم خان ثانی (۹۷۴ھ)


(۱۲) مراد خان ثالث (۹۸۲ھ)

(۱۳) محمد خان ثالث (۱۰۰۳ھ)

(۱۴) احمد خان اول (۱۰۲۷ھ)

(۱۵) مسطوف اول (۱۰۲۷ھ)

(باقی اگلے صفحہ پر)



سلاطین عثمانیہ کا مقابلہ عموماً دول یورپ سے رہا اس وقت تک مسلمانوں کی حکومت
ایشیا کو چک کے ایک حصہ پر تھی سلاطین عثمانیہ کے تحت اب ان کا قدم یورپ کی طرف بڑھ
اگر تاتاریوں یا مخصوص تیمور کے سر پر وحشت سوار نہ ہوتی تو تمام یورپ پر چھا جاتے، خلا
امویہ اور ان کے جانشین مرابطین اور موہابین کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں، کہ شمالی افریقہ
بعد انھوں نے ہسپانیہ اور پرتگال کو بھی لے لیا۔ اور بحیرہ شام (روم) کے جزائر بھی ان
قبضہ میں تھے لیکن وہ اس سے آگے نہ بڑھے سلاطین عثمانیہ نے یورپ کی تسخیر کا ارادہ
سے کرنا چاہا جو ہنوا میثہ اختیار کر چکے تھے۔ ابتداً باسفورس کو عبور کیا تو اب دول یورپ کے
ابھی کی مملکت کے حدود کے اندر شروع ہو گیا۔ حروب صلیبیہ کے تحت ہم لکھ چکے ہیں کہ
یورپ متفقہ قوت سے اسلامی ممالک واقع شمالی افریقہ اور شام پر لشکر کشی کرتے رہے۔
مسلمانوں کا نقصان جان و مال زیادہ تر ہوتا رہا۔ اب ہلال مطلع یورپ پر طلوع ہوا، تو
تک اہل یورپ کو ایشیا اور افریقہ میں قائم رکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔

غازی عثمان خان اور اس کے ابتدائی جانشین اور خان اول اور مراد خان اول بائزید
وغیرہ کی کوشش بھی رہی کہ قسطنطنیہ لاتھ آئے جو یورپ کی کلید ہے اگرچہ قسطنطنیہ کے قیصر نے
کہلاتے ہیں۔ اور وہ میوں نے اسے ابتداً میں فتح کیا تھا، لیکن جب رومی سلطنت دو حصوں
میں منقسم ہو گئی۔ تو شرقی حصہ کا دارالسلطنت روما ہی رہا اور مغربی سلطنت کا پایہ تخت
قسطنطنیہ یہاں، یونانی الاصل قیصر حکمران ہوئے لیکن وہ اپنے آپ کو رومی ہی کہتے اور مسلمان
موجودین نے بھی انکو قیصر روم ہی کہا۔ سلاطین عثمانیہ بھی سلاطین روم ہی کہلائے۔

غازی عثمان خان اور اسکے جانشین سلاطین نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کہ قسطنطنیہ کا
دفعہ ایسا ہے کہ جب تک اسکے قرب و حوار کا علاقہ فتح نہ ہو، اس کی تسخیر سخت مشکل ہے۔
اس لئے سب سے پہلے ان کی توجہ یونان کے شمالی علاقہ اور ریاست لائے بلقان کی طرف ہوئی تھی
ان کا پایہ تخت بروصہ تھا، تیسرے سلطان مراد خان اول نے ادینہ (Edirne) کو
مقرر کیا۔ مراد خان اول نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو عیسائی اسلام قبول کرتا اس کی اولاد
مدارسہ حرمیہ میں داخل کرتا، اس طرح نو مسلموں کی ایک نئی فوج تیار ہوتی گئی، انکو نیک چر

کہتے تھے، ترکی میں اس کے معنی "فوج جدید" ہیں۔ سلطان مراد خان اول نے "سرویہ" فتح کیا، میدان جنگ میں فنیہ کی لاشوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ ایک نیم جان نے خنجر سلطان کے پیٹ میں گھونپ دیا، سلطان جاںبر نہ ہو سکا، اس کا بیٹا بایزید ایلدرم تخت نشین ہوا، ایلدرم ترکی زبان میں "بچی" کو کہتے ہیں، قسطنطنیہ کے فوج میں تمام سچی بلا د میں ایک سر سے سے دوسرے سر تک کوئلہ گیا، اور قسطنطنیہ کو محاصرہ میں لے لیا۔ قیصر نے تیمور سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان اپنی مملکت میں طوائف الملوکی کو ختم کر چکا تھا، یہ لوگ بھی بھاگ کر تیمور کی پناہ میں آئے۔ تیمور دمشق کی تسخیر کے بعد ایلدرم کے مقابلہ کے لئے بڑھا، ایلدرم نے ناچار محاصرہ اٹھا دیا۔ انقرہ پر مقابلہ ہوا، تو ایلدرم امیر ہو کر تیمور کے سامنے لایا گیا۔ چند روز حراست میں رہا۔ اسی صدمہ سے مر گیا۔ تیمور نے لاش ایلدرم کے بیٹے موسیٰ کے حوالہ کر دی، بروصہ میں اپنے آبا و اجداد کے پہلو میں مدفون ہوا۔

مَنْ اذ بیکان لنگان ہرگز نہ نامم کہ با من ہرچہ کہ درکن آشنا کرد
خلافت اسلامیہ کی تاریخ میں یہ واقعہ نمایاں نظر آئیگا، کہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان
اپنوں ہی کے ہاتھ سے ہوا، اگر تیمور سدر راہ نہ ہوتا، تو ایلدرم اور اس کے جانشین یورپ
میں ہلائی علم کاڑھ دیتے۔

اب تیمور کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ارادہ کر لیا، کہ سلطنت عثمانیہ کے مفتوحہ و مقبوضہ
ممالک پر خود قبضہ ہو کر قسطنطنیہ فتح کرے۔ مسلمانوں میں ایک حدیث مشہور تھی کہ قسطنطنیہ
کافلح کوئی فانی مرد اہل جنت سے ہوگا۔ ایسی روایات و سئلہ افزائی کے لئے ختراع ہوا ہی
کہتی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ کلام نہیں کہ ہر ایک اوالعزم فاتح کی خواہش تھی کہ یہ شرف اسے
ماصل ہو، چنانچہ تیمور نے بھی یہی ارادہ کیا۔ لیکن ایک طرف ایلدرم کی اولاد اور دوسری طرف
خود قیصر مقابلہ کیلئے آمادہ ہو گیا، اسلئے تیمور نے خیر اسی میں دیکھی کہ وطن باوت کی طرف رجعت کی
تیمور واپس ہوا تو ایلدرم کی اولاد میں تخت و تاج کے لئے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان
مخاں اقل غالب آیا یہ پہلا سلطان ہے جو جنگی جہاز اور بحری سپاہ اور نوپ خانہ کام میں لایا،
جس سے اہل یورپ ناواقف تھے، اس نے بحیرہ اسود کے اکثر علاقہ کو فتح کیا۔

محمد خاں کا جانشین اس کا بیٹا مراد خان ثانی ہوا ایک لاکھ کی جمعیت سے قسطنطنیہ کو محاصرہ میں لیا۔ اگرچہ شہر فتح نہ ہوا، مگر قیصر نے ایسی شرائط پر صلح کی جو اس کے حق میں دولت آمیز تھیں۔ مراد خاں ثانی نے کئی دفعہ بلغراد پر فوج کشی کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے محمد خاں ثانی کو اپنا جانشین نامزد کیا، اور خود گوشتہ نشین ہو گیا، محمد خاں کم عمر تھا۔ اس لئے شاہ بلغیریا اور دوسری ریاستوں نے موقعہ غنیمت سمجھ کر حملہ کر دیا۔ سلطان مراد کو پھر گوشتہ رضوت سے نکلنا پڑا، شاہ بلغیریا سے مقابلہ ہوا، تو سلطان سپاہ بڑی طرح لپسا ہونے لگی۔ خود شاہ قلب لشکر تک پہنچ گیا، اور سلطان پر حملہ آور ہوا، سلطان فن تیراندازی میں یگانہ روزگار تھا، ایک تیر شاہ بلغیریا کے سینہ پر مارا، کہ ہرہ پشت کو توڑ کر نکل گیا۔ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کا سر میزہ پر بلند کیا گیا۔ بلغیری بے سرفوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔

باب کی وفات کے بعد سلطان محمد خاں ۸۵۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ ۱۲۲۹ء میں پیدا ہوا، اس وقت سلطان کی عمر اکیس برس کے

سلطان محمد ثانی

لگ بھگ تھی۔ اس لئے پھر ایک دفعہ قیصر قسطنطنیہ اور شاہانِ ریاست بلقان نے سر اٹھایا۔ اس دفعہ قیصر نے نہایت دوراندیشی سے کام لیا۔ ریاستہائے بلقان کے علاوہ تمام سلاطین یورپ اور پوپ سے بھی امداد کی درخواست کی، اور ہر ایک نے حتیٰ المقدور مدد کی، پھر سے "حروب الصلیبیہ" کا نام زندہ ہو گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کے لڑائی سر زمین یورپ پر ہوئی۔ ۱۲۵۳ء میں سلطان بھی مقابلہ کے لئے بڑھا۔ قسطنطنیہ کے قریب قیصری لشکر سے

علی قسطنطنیہ کا اول محاصرہ ۳۲ھ خلیفہ حضرت عثمان کے عہد میں ہوا۔ امیر معاویہ نے سپہ سالار اس وقت والی بنا دیا تھا، خشکی اور تری دونوں طرف حملہ کیا گیا، دوسری ہم میں سپہ سالار عبدالرحمن ابن خالدیں ولید تھا، اس نے بھی بھری ہوئی۔ بھری افسر عمر بن عرقہ تھا، یہ بحیرہ ماسور تک بڑھتا چلا گیا۔ خشکی پر اناطولیہ تک مسلمان آئے۔ موسم سرما کی شدت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تیسری ہم کا سالار فضلہ ابن عبید انصاری تھا۔ اس نے اناطولیہ فتح کر لیا۔ دوسرے سال ۳۹ھ میں سفیان بن عوف العنسی سپہ سالار تھا، اس کے ماتحت یزید بن معاویہ جب اللہ عباسی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری اور کئی صحابہ کرام بھی تھے۔ بھری بیٹھ افسر ابن عرقہ ہی تھا۔ چوتھی ہم سلیمان بن عبدالملک نے سلمہ بن اودعلیفہ کے تحت خشکی کے راستہ اور بھری بیٹھ ابھی سلیمان بن مغیرہ کے تحت روانہ کی۔ ان تمام ہزمت میں اگرچہ قسطنطنیہ محفوظ رہا، مگر مسلمانوں کا قدم پیچھے ہٹا، شمالی افریقہ کے راستہ سے یورپ میں داخل ہو گئے۔

ٹھ بھیر ہوئی، تو حریف پسا ہو کر شہر کی مضبوط اور محفوظ دیواروں کے اندر چلا گیا، سلطان لشکر نے بڑھ کر شہر کو محاصرہ میں لے لیا۔ محاصرہ پچاس شبانہ روز رہا۔ سلطان نے ایک پیش گوئی سنی ہوئی تھی، کہ قسطنطنیہ اس وقت تک فتح نہ ہوگا، جب تک خشکی پر بھری کشتیاں نہ چلیں گی۔ پیش گوئی تھی یا خود ہی سلطان یا اس کے وزیر اعظم اور سپہ سالار مصطفیٰ پاشاہ کے دل میں آیا کہ شہر پر بھری جانب سے جب تک حملہ نہ ہوگا۔ شہر فتح نہ ہوگا، اس لئے بحر کی طرف سے قیصر کو براہ کمال اور سامان رسد پہنچا دیا تھا۔ سلطان لشکر نے اس بظاہر ناممکن امر کو ممکن کر دیکھا یا۔ بکڑی کشتیاں پر کشتیاں خشکی پر چلائیں۔ اور بحر مار مور میں ڈالیں۔ محصورین یہ نصیرت انگیز کارنامہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل اندر ہی اندر بیٹھ گئے۔

اس معرکہ میں ایک صوفی بزرگ شمس الدین کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ بغرض جہاد اپنے مریدوں کے ساتھ بخارا سے آکر شامل ہوئے۔ مصطفیٰ پاشاہ کا بیان ہے، کہ محاصرہ طویل پکڑا ہوا تھا۔ اور نوجوان سلطان محمد بقرار تھا، مجھے بار بار طلب کرتا، اور دریافت کرتا، کہ ابھی ہماری فوج شہر میں داخل ہوئی کہ نہیں۔ میں حالات بتاتا، کہ ہماری توپوں کے گولوں سے دیوار شہر میں رخنے پڑ چکے ہیں، اور بحر کی طرف سے ہماری کشتیوں نے قیصری رسل و رسائل کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے، کہ کوئی دن جاتا ہے اور شہر ہمارے قبضہ تصرف میں ہوگا۔ اگرچہ میں روز کوئی نہ کوئی حوصلہ افزا بات بتاتا، مگر سلطان کی بقراری بڑھتی گئی، اور اس کا اثر مجھ پر بھی ہوا، ایک روز سلطان نے حسب معمول مجھے طلب کیا۔ خیمہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ مگر دلی بقراری کا یہ حال تھا، کہ تکیہ کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹ بدل دیتا تھا۔ مجھ سے یہی سوال کیا۔ میں نے پھر تشفی آمیز باتیں کیں، اس وقت مجھے معانی خیال آیا، کہ حضرت شمس الدین کی خدمت میں چل کر استعا کر نی چاہیے۔ میں سلطان سے نصیحت ہو کر آپ کے خیمہ کی طرف گیا۔ دروازہ پر مریدوں کا پہرہ تھا، مجھے جانتے پہچانتے تھے، مگر اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی، میں نے خیمہ کے پچھلے کرا ایک چوٹ کھاڑی۔ مصمم ارادہ کر چکا تھا، کہ شاہ صاحب سے ملے بغیر نہ ٹلونگا، جب میں نے باہر ہی سے جھانک کر اندر دیکھا، تو شاہ صاحب سربسجود تھے۔ اب میں حیران تھا، کہ کیوں تو کیا کیوں اتنے میں شاہ صاحب نے سر اٹھایا اور زور سے

تکبیر کہی۔ اس کا جواب مریدیل نے بھی دیا۔ میں نے شہر کی طرف نظر کی، تو دیکھا کہ ہماری فوج داخل ہو رہی ہے۔ میں بھاگا بھاگا سلطان کی خدمت میں آیا اور فتح کا مشورہ سنایا۔ سلطان خود دیکھ لایا تھا، تکبیر کے نعروں نے اسے خیمہ کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔

شہر میں سلطان سپاہ داخل ہوئی، تو کوچہ و بازار میں سخت مقابلہ ہوا، بھر کی طرف مکمل ناکہ بندی ہو چکی تھی اس لئے قیصر اُدھر سے بچ کر نکل رہا تھا، شمشیر بکھڑا ہوا اور فتح کا سہرا جس کا شہرت امیر معاویہ سے لیکر اب تک تاجدارانِ اسلام حاصل کرنا چاہتے تھے، نوجوان سلطان محمد ثانی کے سر باندھا گیا۔ اور وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی، کہ فتح قسطنطنیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمنام ہوگا۔

سلطان نے حضرت شمس الدین کو شیخ الاسلام کے خطاب کے ساتھ قاضی القضاہ منصب دیا۔ فتح کے بعد سلطان حضرت ابو ب انصاری کی قبر پر آیا۔ فاتح جوانی کے بعد اسلام نے سلطان کی کمر میں اسی جگہ تلوار باندھی۔ سائڈہ تخت نشینی کی رسم بھی اسی جا ایوبی میں ہوتی رہی۔ اور فتح مبین کی یادگار اسی طرح قائم رہی کہ شیخ الاسلام ہر ایک سلطان کی کمر میں یہاں تلوار باندھنا۔

غازی نوجوان سلطان نے اب ارادہ کیا، کہ جو کام اسکے جد امجد بایزید ایلدرم شروع کیا تھا، اسکی تکمیل کرے۔ اہل یورپ کا جو صلہ فتح قسطنطنیہ کے بعد پست ہو چکا یونان کی تسخیر کے بعد سرویہ وغیرہ بلاد کو فتح کرتا ہوا، اطالیہ کی طرف بڑھا، سلطان کو معلوم کہ مالک رومنہ البکری کی تسخیر فتح قسطنطنیہ اور شہر روم پر محصور ہے، چھوڑنا صقلیہ کے لیے بعد دیکرے مسخ ہو رہے تھے، کہ سلطان کا آخری وقت آگیا۔ ۸۸۶ھ میں فوت ہوا۔ سلطان کے دو بیٹے بایزید ثانی اور جمشید تھے، بایزید تخت نشین ہوا، محمد پاشا بھی چاہتا تھا، کہ جمشید کو تخت پر بٹھائے، مگر سپاہ "نیک چری" نے وزیر کو قتل کیا اور بایزید کو تخت پر بٹھایا۔ جمشید نے علم بغاوت بلند کیا۔ سلطان فوج کا مقابلہ نہ کر سکا۔ مصر میں بھاگ کر حج سے فالغ ہو کر سامانِ حرب و ضرب فراہم کیا، بایزید نے لکھا کہ بھائی اللہ نے یہ ملک مجھے عطا فرمایا ہے۔ مناسب ہے کہ تم بھی راضی برضا الہی ہو۔ جمشید مقابلہ میں آیا اور شکست کھ

طرف بھاگ گیا، پوپ نے پناہ دی، مگر یہاں کس مہر سی کی حالت میں مر گیا۔
 بایزید ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیم تخت نشین ہوا، اسکے عہد
 میں خاندان صفوی کا پہلا بادشاہ شاہ اسماعیل تخت ایران پر جلوہ فرما ہوا
 ان صفویہ کے حالات میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ایک فروعی مذہبی عقیدہ کی بنا پر دونوں میں محاربت
 ہوئی، شاہ اسماعیل نے شکست کے بعد صلح کی درخواست کی۔ صلح تو ہو گئی۔ مگر دونوں سے
 رت نہ گئی۔

سلیم کے ارادہ کیا کہ شام اور مصر میں طوائف المسلمون کی ختم کر کے اپنا خطبہ اور سکہ رائج کرنے
 میں اس نے حلب اور حمص اور دمشق کی تسخیر کے بعد مصر پر قبضہ کر لیا۔ دولت چرکسیہ مملکت یہ
 خدیو تاجدار ملک اشرف طربون مارا گیا۔ سلیم نے یہاں اپنا نائب السلطنت بٹھا دیا۔ یہ
 ۹۲۳ھ کا ہے۔ اسی سال سلیم نے ارض حجاز کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، مگر منظر
 دینہ منورہ پر قبضہ اس دعویٰ کے مترادف تھا، کہ سلیم خلیفۃ المسلمین ہے۔ چنانچہ مامون
 ان تمام دنیا اسلام نے سلیم کا دعویٰ تسلیم کر لیا، اس کے بعد سلاطین ترکیہ کا خطبہ خود
 پر ہمارے زمانہ تک پڑھا گیا۔ اور ہر امیر ان میں خاندان صفویہ کو بھی یہی ہوس تھی کہ انہیں
 الخلیفۃ المسلمین تسلیم کیا جائے۔ لیکن یہ ہوس اقتدار صرف اس حد تک لاری ہوئی
 عراق کے قبضہ میں تھا، اور یہاں نجف اور کربلا اور کاظمین وغیرہ مقامات مقدسہ میں
 اس لئے جو شخص بھی ان کی زیارات سے مشرف ہوتا اسے حاجی کہتے رہا، اسے زمانہ میں بھی
 شریعہ حضرات حاجی کہلاتے ہیں بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ خاندان صفویہ نے
 ایک سیاسی ڈھونگ کھڑا کیا تھا، لیکن نل سے قائل نہ تھے۔ ان کا مدعا صرف اتنا تھا کہ اہل
 ملت و الجماعت کو جو عقیدت اولاد علیؑ اور بالخصوص ہوزدہ اماموں سے ہے اس کا فائدہ
 اٹھانے ہوئے کل دنیا اسلام پر چھا جائیں اس کے بعد اس ڈھونگ کو ختم کیا جائے
 لیکن ہمیں اس نظریہ سے اتفاق نہیں اور اگر یہ صحیح بھی ہو تو نفسیات اور تاریخ کا فتویٰ یہ ہے
 کہ جب ایک عقیدہ بچتہ ہو جاتا ہے تو قوموں میں وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور طبائع
 اس سے اتنی مانوس ہوتی ہیں کہ جان پر کھیل جاتی ہیں۔ مگر اسے ترک نہیں کرتیں۔ خاندان صفویہ

جو عقیدہ راج کر دیا وہ تا حال اپنی پوری شان سے اعمال میں نمایاں ہے، حالانکہ یہ خاندان مٹ گیا۔ بنو فاطمہ نے مصر میں ایسے ہی عقیدہ کی طرح ڈالی۔ مورخین اسے بھی سیاسی ٹھونگ سمجھتے ہیں۔ ہم خلافت بنو فاطمہ کے تحت بیان کیے ہیں کہ اسمعیل المنصور تیسرے خلیفہ فاطمیہ نے اکثر داعیوں (Propagandists) کو قتل یا جلاوطن کیا، اس لئے کہ یہ بنو فاطمہ کے نام پر عقائد کفر و الحاد شائع کر رہے تھے اور اعلان کر دیا کہ جو بھی ان عقائد باطلہ کا حامی ہو جیسے کہ فریسی تھے، وہاں پاؤ قتل کر دو۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی منصور کا سیاسی ٹھونگ ہی تھا، اصل میں وہ دنیا کے اسلام میں ہرزہ لعزیز ہونا چاہتا تھا، بہر حال یہ عقیدہ تھا، عوام کے دل میں نقش ہو چکا تھا، صحیح ہو یا غلط، عوام کا لاف نام تمیز نہیں کرتے۔ ان کو کیا معلوم کہ ان کے پیشوا کس غرض کی تکمیل کے لئے ایسی باتیں بناتے ہیں۔ فرقہ باطنیہ کی بنیاد پڑ چکی تھی اور وہ باصفا بالخصوص میں خاندان صفویہ کے حلقہ ارادت میں ان عقائد کی تلقین ابتدا میں رازدارانہ اور پورے میں جب تخت و تاج کے مالک ہو گئے، تلوانہ ہوتی رہی۔ اب اگر فاطمی خلیفہ منصور کی طرح ان کا یہ بھی ہوتا، کہ عوام سے ترک کر دیں، تو یہ ان کے بس کی بات نہ تھی، نادار شاہ نے بھی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا، اس کو دیوانہ مشہور کیا گیا اور قتل کر دیا۔ ان تاریخی واقعات میں ہمارے زمانہ کے اہل علم کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آیا وہ بحیثیت مسلم جس کی تعریف قرآن حکیم میں کی گئی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے۔

زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ان عبرت آموز تواریخی واقعات پر غور کریں گے، جو اس دور میں گونا گونا گورہے ہیں۔ اور جس سے ہم گذر رہے ہیں تواریخی نتیجہ پہنچیں گے، کہ اگر یہی لیل و نہار ہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ کہ ہماری بے بسی اور ذہنی جمود میں کچھ کلام نہیں، اگر ہم فروعی باتوں کو اصول کی اہمیت سے کر ڈالتے جھگڑتے ہیں، واقعات ہم اس کتاب کے تیسرے حصہ میں قلمبند کریں گے۔

سلطان سلیم کے عہد کا ایک اور کارنامہ یہ ہے، کہ اس نے ایک فرمان شائع کیا، کہ یہودیوں، نصاریٰ یا تو اسلام قبول کریں، یا میری مملکت سے نکل جائیں۔ اس فرمان سے یہودیوں و نصاریٰ میں کھل بلی نہ مچنی ہی تھی، علماء اسلام بھی مضطرب ہو گئے، شیخ الاسلام علماء کا ایک وفد لیکر سلطان

کے پاس آئے اور کہا کہ یہ فرمان احکام اسلامی کے خلاف ہے، لا اکرہ فی الدین، سلطان نے کہا کہ خود رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ العرب سے خارج کر دو۔ شیخ الاسلام سے کہا کہ وہ برسریکا رہتے تھے۔ اگر آپ کی رعایا یہود و نصاریٰ بغاوت کے مرتکب ہوں تو آپ بھی سنت رسول پر عمل کریں۔ علاوہ ازیں جسری ایمان عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں معاشری زندگی میں ہمارے ساتھ یہود و نصاریٰ کا اختلاط غلط فہمی اور تعصب کو دور کر دینا اگر وہ دور دور ہی رہیں تو نفرت بڑھتی جائیگی۔ اور وہ اسلام سے ریگانہ ہی رہیں گے ایک جو من مؤرخ لکھتا ہے کہ بنی فائدہ کے لئے سلطان نے یہ فرمان جاری کیا تھا انہوں نے مخالفت کی اور سلطان کو فرمان منسوخ کرنا پڑا لیکن یہی مؤرخ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اسلام عالمگیرین سے ہمہ کھتے ہیں کہ ہسپانیہ میں ہسپانیوں نے مسلمانوں سے کیا سلوک کیا؟ اور ہمیشہ کیا سلوک کرتے رہے؟ اگر سلیم قصاب کے جذبہ کے تحت یہی سلوک کرتا، تو حق بجانب تھا۔ لیکن اس نے ایران کی امیر اسلام کی شاندار فتح ہے جو بھی مسیحیت کو نصیب نہیں ہوئی۔ عرب الصلیبیہ میں حرم شہر قدس میں بہتے مسلمان نرس و مرد اور بچوں کا خون پانی کی طرح بہا یا گیا۔ جب غازی سلطان صلاح الدین کے قصاب کا موقع ملا، تو ایک علیساٹی عورت کی درخواست رحم و کرم پر معاف کر دیا۔ یہی حقیقت تھی، جو مجتہدین نے شاہ اسماعیل صفوی پر واضح کی، مگر اس نے نہ مافی اوردہ سستیوں کے قتل عام کا حکم دیدیا جو اسکے خاطر خواہ ہوا، اگر وہ موعظتہ حسنہ اور حکمت سے کام لیتا، تو کشت خون کی نوبت نہ آتی، نہ وہ خرداورد نہ مذہب بدنام ہوتا۔

شنیدم کہ مرداں راہ خدا
دل دشمنان ہم نہ کردند تنگ
ترا کے میسر شود این مقام
کہ با دوستانت خلاف است و خنگ

سلطان سلیمان اول

یہ سلطان اسم باسنی تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کو چار چاند لگا دیئے، اس لئے اس کے جاہ و شہم *Manifest* کہتے ہیں اس کے

کے لحاظ سے یورپ کے مؤرخین اسے

اسٹریا اور پولینڈ تک تمام ممالک یورپ کے سلاطین کو بیجا دکھایا۔ ارادہ تھا، کہ تمام یورپ پر اپنا تسلط جمائے کہ ایران میں شاہ عباس نے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ اور وہی تیمور اول

بایزید ایلدرم کے واقعات کو تاریخ نے پھر دہرایا۔ ایک انگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ اس وقت تک ترکیہ منتہائے غرور پر تھی، اور اس کے توپ خانہ کا جواب تھا شاہ عباس کیا مقابلہ کر سکتا البتہ یورپ نے اطمینان کا سانس لیا، اس نے ایران کو ایک سر سے دوسرے تک زندہ لایا۔ اس کے عہد میں بحری جنگی بیڑہ خیر الدین پاشا کے تحت بحیرہ شام کے جزائر مالٹا وغیرہ قابض ہو گیا۔ اور شمالی افریقہ کا ساحلی علاقہ بھی سلطنتِ ترکیہ میں شامل ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو بھی وہ مملکت اور جاہ و شہرت نصیب ہوئی، جو غلامانِ محمد کے حصہ میں آئی۔ اور فلسطین تو سلطان سلیمان کی سلطنت کا ایک کونہ تھا۔

سلطان سلیمان کے بعد سلاطینِ ترکیہ کی لڑائیاں ایک طرف تاجدارانِ یورپ اور دوسری طرف شاہانِ کجکلاہ ایران سے جاری رہیں۔ ان لڑائیوں اور خانہ جنگی کا تذکرہ بیفاہم ہے۔ چند مشہور واقعات البتہ قابل ذکر ہیں۔

سلطان محمد خاں لہج کے عہد میں ایک یہودی نے بیت المقدس میں دعویٰ مسیحیت کی اور یسوع کا بیان ہے بلکہ بہت باتوں اور وجہ اور شعبہ باز تھا۔ یہودی تو گمراہ ہوئے تھے۔ لاکھوں عیسائی بھی گمراہ ہو گئے۔ والی بیت المقدس نے اس کی گرفتاری کا حکم صادر کیا تو بھاگ کر قسطنطنیہ آیا، یہاں صدر اعظم احمد پاشا نے قید کر دیا۔ ہزاروں عیسائی اس کی زیارت کیے قید خانہ میں۔ وہ پیہر سے کراتے۔ اس کی اطلاع سلطان کو بھی ہوئی، اور بہ نفس نفیس ملاقات سے لے آیا۔ مدعی مسیحیت نے تقریر شروع کی تھی کہ سلطان نے کہا کہ میں آیات و روایات نہیں جاننا۔ سپاہی ہوں، چند تیراندازوں کو حکم دیتا ہوں کہ تجھے پر تیر برسائیں، اگر تیرے بدن پر اثر نہ ہو تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پھر یہ سب سلطنت تیری ہے۔

مسیح کا ذب سلطان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ مجھ میں آپ کے امتحان کی طاقت نہیں۔ اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سلطان بھی ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ یہود اور عیسائیوں نے اپنے پیر و مرشد کی تقلید کی اور بے شمار مسلمان ہو گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس مسیح کا ذب کو کامیابی اس لئے ہوئی تھی کہ سلطان کے عہد میں مشنریوں میں متواتر لڑائیوں اور طاعون نے لوگوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اور یہ ایک

تھا، کہ قیامت نزدیک ہے، یہ عجیب بات ہے کہ سید محمد جو چوہدری کے دعویٰ ہدایت کے
 بھی یہی واقعات زلزلہ و طاعون اور نما ہونے فرشتہ سلطان سکندر لودھی کے حالات کے
 لکھتا ہے کہ ۹۷ھ میں اس قیامت کا زلزلہ آیا، کہ پہاڑ لرز گئے۔ زندوں نے قیامت
 زلزلوں نے حشر دیکھ لیا۔

ورنہ صدی واعدی عشر از زلزلہا گردید سوا و اگرہ مرسلہا
 باں کہ نباش سے عالی بود از زلزلہ شد عالیہا سانہا
 یون تو سید محمد کی زندگی ہی میں پھوٹ چکا تھا، اور باد جو اس امر کے کہ رسل و رسائل کے
 نفع عام نہ تھے۔ کوئی شہر اس موذی مرض کی تباہی سے نہ بچا۔ ۹۷ھ میں ہی سید محمد کا انتقال
 خراہ واقع خراسان میں ہوا۔

۱۰۶ھ میں سلطان مصطفیٰ خان ثانی تخت نشین ہوا، تو اعلان کیا کہ مسلمانوں نے
 جہاد فراموش کر دیا ہے۔ نہایت نامناسب۔ اگر گھروں میں آرام سے بیٹھیں، مسیحی سلطان
 نے متحدہ قوت سے مسلمانوں کے ملک پر هجوم کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہمیشہ علیساہیل
 کے پر پیکار رہے، میرا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی دعوت بہاد دیتا ہوں،
 نیک انحضرت کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان جہاد ترک کر دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے اور ہم ذلیل
 رہے ہیں۔ اس اعلان نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور خواب غفلت سے بیدار کر دیا، سلطان نے
 درپے کر سبوں کو شکست دی۔ آسٹریا کی فوج کو ہزیمت دیکر جرمن کی طرف متوجہ ہوا،
 ن شام، لندن اور ہالینڈ کے سفیر درمیان میں آدھکے اور ۱۰۱۱ھ میں صلح و صفائی ہو گئی۔
 ن لشکر سلطانی نے اس صلح پر ناراضی کا اظہار کیا۔ اور سلطان کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ جہاں
 نے انتقال کیا۔ یہ سلطان نہایت نیک نہاد تھا۔ جب فوج نے بغاوت کی تو دروازے
 نورہ دیا، کہ اپنے بھائی سلطان احمد کو قتل کر دو، کیونکہ فوج اس کے حق میں ہے۔ سلطان
 کے کہا کہ میں تخت و تاج سے دست بردار ہونا بدرجہا بہتر سمجھتا ہوں، بہ نسبت اس کے کہ اپنے
 مائی کے خون سے ہاتھ رنگوں اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کروں۔

اب سپاہ اتنی خود سر ہو گئی تھی، کہ جس کو چاہتے معزول کرتے اور جس کو چاہتے تخت پر

بٹھادیتے۔ چنانچہ سلطان مصطفیٰ خان ثانی کو معزول کر کے احمد خان ثالث کو تخت پر بٹھا
 معزول کر کے سلطان محمود اول کو بٹھا دیا۔ ان حالات میں مسیحی تاجداران یورپ اور ایران
 بڑھ گیا۔ فوج نے جو نیک چری سے موسوم تھی، ایک آفت برپا کر رکھی تھی، کیسی یا شاہ
 ہزاروں سپاہی خانہ جنگی میں ملے گئے۔ نادوقی نے یہاں سب ثانی کو جو سلطان
 تھا، تخت سے اتار کر برائے نام عباس ثانی کو بٹھا دیا۔ اور سلطان کو لکھا کہ ملک
 جو تمھارے قبضہ میں ہے، واپس کر دو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اور ساتھ
 عبور کر کے بغداد کو محاصرہ میں لے لیا پہلی مرتبہ شکست کھائی۔ لیکن دوسری
 بغداد اور عراق کے اکثر شہر مسخر کر لئے۔

سلطان عبدالحمید کے عہد میں متواتر خانہ جنگی سے سلطنت کمزور ہو گئی
 روس اور جرمن کی متحدہ فوج نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ منہ کی کھائی، مگر حوصلہ سیت
 کے جانشین کریم خان زند شاہ ایران نے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔

سلیم خان ثالث کے عہد میں پھر روس اور جرمن کی متحدہ فوج سے تقا
 نے معاہدہ صلح کو مسترد کر دیا۔ اپنے شوہر پطرس ثالث

کی راہ دکھائی۔ قلعہ سمعیلیہ پر لشکر کشی کی۔ یہاں تیس ہزار سلطانی فوج تھی۔ تین
 میدان کارزار گرم رہا، عورتوں اور بچوں نے بھی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر تیس
 ایک آدمی بچا، اگرچہ روسی لشکر کا نقصان جان بہت زیادہ ہوا، مگر وہ قلعہ پر تو
 جب قسطنطنیہ میں اطلاع ہوئی، تو ہوش اور غیظ و غضب کی اتہانہ رہی اور سلطان
 بھائیوں کا بدلہ لینے کیلئے تیار ہی تھا، کہ انگلستان آدھمکا اور بیچ بچاؤ کر کے صلح
 چال جو انگلستان ہمیشہ چلتا رہا، اس کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ دو طرف
 کرتا رہا اور خود ثالث بالآخر کے فرائض انجام دیتا رہا۔

انگریزوں اور فرانسیسیوں میں لڑائی پھڑک گئی۔ تو سلطان نے فرانس کی
 چاہتے تھے کہ سلطان فرانس کی دوستی ترک کر دے۔ مگر سلطان نے سفیر انگلستان
 انگریزوں نے سلطان کو معزول کرنے کے لئے سکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ مگر محمد

یا اب انگریزوں نے پھر ثالث کے فرائض انجام دیئے اور روس اور سلطان میں صلح کرادی
 ایک اٹھی اور سلطان کو معزول کر کے مصطفیٰ خان رابع پسر سلطان عبدالحمنی کو تخت پر بٹھایا
 کے بعد اس کا بھائی سلطان محمود ثانی جانشین ہوا، تو ارادہ کر لیا، کہ سپاہ نیک چری کی شویہ
 خاطر خواہ علاج کرے۔ "نیک چری" عرصہ سے سلطان گر بنے ہوئے تھے، اکابر سلطنت
 غیہ مجلس میں انکے استیصال کا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ ۱۲۴۱ھ میں انکی رہائش گاہ پر غفلت میں
 سپاہ نے حملہ کیا، شہزادہ نیک چری ایک ہی دن میں ہالے گئے، اگرچہ ملک میں شورش کا
 ب ہو گیا۔ مگر سلطان کی عسکری قوت کمزور ہو گئی۔ ۱۲۴۲ھ میں روس سے مقابلہ ہوا تو شکست
 تاواہن جنگ بھی ادا کرنا پڑا، محمد علی پاشا والی مصر نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، حلب و حجاز
 میں ہو گیا اور حلیفہ مصر کا لقب اختیار کیا سلطان کے بیٹے عبدالمجید کے عہد میں محمد علی کی برہمنی
 طاقت سے انگریز بھی نمائند ہو گئے۔ ہندوستان کو جہاں ان کا قبضہ تھا۔ راستہ مصر ہی سے
 اس لئے محمد علی کو مزید ب کرنے کے لئے سلطان کا ساتھ دیا۔ اور پھر ثالث بالخیر کے
 انجام دیئے۔ یہ قرار پایا، کہ محمد علی کی حکومت صرف مصر پر ہے سلطنت عثمانیہ کا نائب
 ہوگا مگر حکومت موروثی ہوگی اس طرح حرمین پھر سلطان کی حفاظت میں آ گئے۔
 سلطان عبدالمجید خان کے عہد کا بڑا واقعہ ۱۸۵۲ھ میں روس اور ترکیہ کا جنگ کے لئے روس نے
 سلطان کو یہ پیام دیا، کہ تمام عیسائی جو مملکت ترکیہ میں آباد ہیں، بلحاظ مذہب کو سی رعایا، اور
 کے معاہدہ روسی اطلاق متصور ہوں، اور انکے تنازعات بھی روسی عدالت ہی فیصلہ کرنے کا
 کہتی ہے۔ اور ساتھ ہی مال دیو یا اور ایشیا جو روسی سرحد سے ملحق تھے دہلے لٹے انگریزوں
 دیکھا، کہ اگر روس کا قبضہ قسطنطنیہ پر ہو گیا، تو ان کا راستہ بحیرہ شام میں منقطع کر دیا۔ چونکہ
 ہندوستان کے شمال میں نزدیک تر سلطنت ہے، ہندوستان پر بھی قابض ہو جائیگا فرانس اور
 مٹریا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس لئے کہ ان کو بھی روسی اقتدار کا خطرہ محسوس ہونے لگا، انگریزوں
 سیاسی تدبیر ہمیشہ اس امر کا تقاضہ کرتا رہا، کہ جو بھی سیاسی مقصد مد نظر ہوتا، اسکی تکمیل کے لئے
 دوسری طاقتوں کو اپنا آلہ کار بنالیتے۔ انگریزوں کا مقصد صرف اتنا تھا، کہ روس کا اقتدار بحیرہ
 منور پر نہ رہے۔ اور اس طرح اس کا یہاں سے بحیرہ مارمورا کے راستہ بحیرہ روم میں داخل ہند

کر دیا جائے۔ یہ لڑائی، جنگِ کریمیا سے موسوم ہے۔ یہ بے بڑی لڑائی سپاٹیبول پر ہوئی۔
کو بے شمار نقصان جان و مال کے بعد شکست ہوئی، پیرس میں ۱۸۵۶ء میں تمام دول
وکلار جمع ہوئے اور عہد نامہ صلح لکھا گیا۔

سلطان عبدالعزیز نے بہت کچھ ملکی اور مالی امور میں اصلاحیں کیں، اس وقت ایران اور
خاندانِ تاجدار حکمران تھا۔ اس سے بھی اتحاد ہوا، لیکن عبدالعزیز اصلاحات کی وجہ سے ہرگز
رہا۔ اراکین سلطنت نے اسے معزول کر کے مراد خامس کو تخت پر بٹھا دیا۔ پھر اس کو بھی معزول کر
۱۸۷۶ء میں سلطان عبدالحمید خان کو بٹھا دیا۔ اگرچہ یہ سلطان بیدار مغز اور سیاسیات سے خوا
واقف تھا، مگر عوام کی ذہنیت پست تھی۔ ان پر ذہنی جمود اتنا چھایا ہوا تھا، کہ ہر ایک
کی مخالفت کرتے۔ ایک دفعہ پھر روس سے مقابلہ ہوا، اس لڑائی میں "پوننا" کا معرکہ مشہور
ہے۔ غازی عثمان پاشا نے دو برس مہارفت کی۔ آخر پھر سلاطین یورپ نے میان میں
انگریزوں کے لئے بلند آہنگ تھے۔ صلح ہوئی، "مانچی ٹکرو" اور "سروویہ" اور "رومانیہ" سلطنت
ترکیہ سے آزاد ہو گئے۔ صوبہ "بوسنیہ" اور "ہرزگووینہ" سلطنتِ آسٹریا میں شامل ہو گئے۔
روم میں "جزیرہ قبرس" انگریزوں نے ہتیا لیا۔ اور شمالی افریقہ میں "ٹونس" فرانس کے
آیا، سلطنتِ ترکیہ تو کمزور ہو گئی، مگر روس کا خواب اقتدار بھی پریشان ہو کر رہ گیا۔ اب
بلکہ بحیرہ روم کے درمیان چند اور سلطنتیں حائل ہو گئیں۔ اور انگریز مہمٹن ہو گئے۔
اب ہم اپنے زمانہ میں آگے ہیں۔

اتحاد پریس بل راولپور میں باہتمام شیخ امین الدین پرنٹر چھپی

ظِلَاقَاتِ الْاِسْلَامِيَّةِ

(حصہ سوم)

خواجہ عباد اللہ اختر
(رفیق ادارہ ثقافت اسلامیہ)



مطبوعات ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

(پاکستان)

۱۹۵۱ء

(اتحاد پریس بل روڈ لاہور میں باہتمام شیخ امین الدین پرنٹری چھپی)

واقعاتِ حاضرہ

اس کتاب کے پہلے اور دوسرے حصے میں ہم نے خلافت راشدہ سے لپنے
 زمانہ تک وہ حالات بیان کئے ہیں جو اس وقت تک رونما ہو چکے ہیں یہ سلسلہ واقعات
 جاری ہے اور دنیا نے اسلام جس دور سے گزر رہی ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے۔
 شکست خوردہ ذہنیت اسے دورِ انحطاط سے تعبیر کرتی ہے لیکن محقق مورخ قوموں
 کے عروج و نزول کی دل خراش داستان بیان کرتے ہوئے ان قوموں کو نہیں دیکھتا
 وہ واقعات اور ان کی رفتار کو دیکھتا ہے کہ حضرت انسان کو کہاں سے کہاں لے
 جا رہی ہے۔ اور کس مقصدِ اعلیٰ کے قریب اور قریب تر لا رہی ہے؟ اگر ہم واقعات
 کا اسی زاویہ نگاہ سے مشاہدہ کریں جس نظر سے اہل تحقیق دیکھتے ہیں تو واقعات حالیہ کے
 اسبابِ ماضی میں اور مستقبل کے اسبابِ حال میں صاف صاف میز دکھائی دیں گے۔

تا دریں محفل نامل بر بساطِ حال ریخت

ساغر ماضی بگردش رنگ استقبال ریخت (بیدل)

ہم سلسلہ واقعات اور اس سلسلہ کی ہر ایک کڑی کو جو ایک دوسری سے مضبوط
 مربوط ہے، دیکھتے ہیں لیکن تاریخ کا فتویٰ یہ ہے کہ تمام کائنات ایک واقعہ واحد ہے۔
 ہمیں ڈر ہے کہ تاریخی واقعات بیان کرتے ہوئے فلسفہ تاریخ کی بھول بھلیوں میں نہ کھو
 جائیں۔ اس لئے بھی اشارات فہم و تفہیم کے لئے کافی ہیں جو ہم واقعات کے ضمن میں بیان
 کر چکے ہیں اور بیان کریں گے۔

تاریخ اسلام میں یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دو قومیں عرب اور ترک ہی ہیں
 جنہوں نے آج تک نمایاں حصہ خلافت اور سلطنتِ اسلامیہ میں لیا۔ ان اوراق کے

مطالعہ سے واضح ہو گیا ہو گا کہ تمکین دین کے لئے دونوں نے کیا خدمت کی، واقعہ حاضر پیشگوئی کر رہے ہیں کہ یہ خدمت ابھی کسی اور قوم کے سپرد ہوگی۔

انسانی زندگی مسلسل جدوجہد ہے۔ قوموں کے عروج میں بھی جدوجہد مشاہد ہوتی ہے اور جب تک روح جہاد کا ذریعہ ہوتی ہے وہ ترقی کرتی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کرچکے ہیں کہ ہر ایک انسان کی انفرادی اور جماعتی زندگی مختلف دوروں سے گزرتی ہے۔ "اجل مسمیٰ" کے کنارہ پر آگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس لئے یہ فطری تو ناگزیر امر ہے۔ قومیں بنتی اور بگڑتی رہیں اور یقیناً کچھ عرصہ اور بنتی اور بگڑتی رہیں گی۔ انسانیت مسلسل ارتقائی مرحلے طے کرتی آرہی ہے۔ اور وہ وقت آئے گا کہ پندرہ بیسویں صدی، وندہ قریباً (۱۹۰۰ء) لاکھ دو لاکھ سال کا عرصہ کائنات بلکہ انسانی زندگی کا لمح البصر ہے اور اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھیں اور اسی طرح گزشتہ انسانیت کی زندگی پر نظر کریں تو

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا!

انسانی زندگی "حال" ہے۔ "ماضی" اور "مستقبل" کا تصور "حال" ہی کے وجود میں۔ اور ہمارا "تذکرہ" کنارہ ماضی اور "تفکر" کنارہ مستقبل پر کھڑا ہو کر "حال" کو دیکھتا ہے۔ ماضی معدوم، اور مستقبل مبہوم اور حال معلوم، کتنا حیرت انگیز یہ نظام کائنات ہے۔ حال یہ امر یقینی ہے اور تاریخی واقعات کی شہادت قطعی ہے کہ "قومیت" کا تصور و قیام قریب ہے کہ ذہن انسانی سے محو ہو جائے گا۔ "ولکل امة اجل" (پہ) اور یہ واقعہ رونما ہو گا وہ دن اسلام کی شاندار فتح کا ہو گا۔ نامسلمان اس کوشش میں لگے ہیں کہ یہ وقت اجل نہ آئے اور خود مسلمانوں کے ذہن سے یہ تصور محو ہو جائے۔ ان سچی بے حاصل اور اعمال باطل ہو کر رہ جائیں گے۔

قرآن عظیم نے مسلمانوں پر "جہاد" فرض قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی ظاہری تکبیر کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسے فراموش کر چکے ہیں۔ جیت روس نے ۱۹۱۱ء میں رضا کے روضہ پر گولہ باری کی اور مجتہدین کو پھانسی دی تو ایک شکست خوردہ ذہن

نے "جہاد" کو جو مسلمانوں پر ذہنی فریضہ ہے باطل تصور قرار دیا اور اسی کی تائید ہمارے
 جناب کے ایک مدعی نبوت نے بھی کی ہے اور جہاد کو اللہ کی دشمنی سے تعبیر کیا۔
 "فکر ہر کس بقدر ہمت اوست"

جو واقعہ بغداد پر ہلاکو خان کے ہاتھ سے گزرا۔ اسے اس زمانہ کے مسلمان "قیامت"
 اس کے آثار سے موسوم کرتے ہیں۔ ہلاکو خان ہلاک ہو گیا۔ اس کی اولاد حلقہ بگوش
 سلام ہوئی۔ عباسیوں نے بے شک شکست کھائی لیکن اسلام منظر و منصور اس
 وقت بھی تھا۔ اور اب بھی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ انسانی زندگی مسلسل
 جدوجہد کا نام ہے۔ اور شکست خوردہ مایوس انسان زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا! انسانی
 زندگی کا اور ہر ایک قومی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی زندگی کا واحد
 مقصد "اسلام" ہے ہمیں اسی کے ساتھ جہاد زندگی جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ایک فرض
 ہے جو ہمیں بلا لحاظ فتح و شکست ادا کرنا چاہیے۔

"ولا تهنوا ولا تحزنوا وادانتم الاعلون ان كنتم مومنین وتلك الايام
 ندادلہا بین الناس" (۱۶)

"اور سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ تم ہی غالب آؤ گے بشرطیکہ تم ایمان والے ہو
 اور یہ فتح و شکست کے دن ہم لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں۔ ان کا اثر تمہارے ایمان
 کی بخشگی پر نہ ہونا چاہیے۔ کہ

کہ: "آئین جہاں گاہے چنیں گاہے چنان باشد"

اگر ہمیں دعویٰ مسلمانانی ہے: "فلا تموتن الا وادانتم مسلمون" (۱۶) ہمیں اسلام
 کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے اور اسی کے نام پر مرنا ہے۔ جب ہم یقین کرتے ہیں کہ اسلام
 واحد دین الحق، دین الفطرت اور دین اللہ ہے۔ تو ہم مسلمان اللہ والے ہیں۔ جو
 حی القیوم ہے۔ اور ہم سے وعدہ ہو چکا ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اور تمام
 برکات "جنت تجری من تحتها الا نہار" ہماری ہیں۔ کیا یہ وعدہ ہمارے اسلاف
 کے حق میں پورا نہیں ہوا۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے حق میں بھی پورا نہ ہو۔ بشرطیکہ

ہم صحیح معنی میں مومن مسلمان ہوں۔ اور انتہائی ممکن جدوجہد بحیثیت مومن مسلمان کے
 اگر ہم ہمت ہار کر بیٹھے ہیں تو دین اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں ہم ہی خسارہ میں رہیں گے
 سنت اللہیہ ہے کہ اللہ ایک اور قوم کو ہماری جگہ لے آئے گا جو ہماری جیسی نہ ہوگی
 کیا عرب کے بعد ترک نہیں آئے؟ اور کیا یہی اقوام یورپ اور امریکہ جو اس وقت
 ہلا کوئی سنت پر عمل کر رہی ہیں کچھ بعید امر ہے کہ حلقہ بگوش اسلام ہوں؟ ان لوگوں
 ترقی بحیثیت مسیحی نہیں کی۔ ہم نے ہسپانیہ اور انہی کے ممالک میں ان کو اسلام سے
 روشناس کیا۔

جب ہمارا قدم یورپ میں آیا۔ اور اقوام یورپ اسلام کے زیر اثر آگئیں
 تاجداران یورپ اور امراتے پوپ سے شکایت کی کہ ہماری رعایا (SERFS) سے
 مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دیکھ چکی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا فاتحانہ قدم گیا وہاں
 لوگ جو ملوک اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سہہ چکے تھے آزاد اور خوش حال ہو گئے
 میں یہی ایک کشش عوام الناس کے لئے ہے اور وہ اسلام خوشی سے اس لئے قبول
 رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا جو آپنی گردنوں سے اتار پھینکیں۔ اسلام کی فاتحانہ پیش قدمی
 ایک خطرہ ہمارے لئے اور دین مسیحی کے لئے بھی ہے۔ مسلمان صرف اپنے دین کی خاطر
 ہیں اور ان کا دینی جوش ایک طوفان ہے جو ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لئے
 رہا ہے۔ اور اگر یہی لسیل و نہار رہے تو مسلمان نہ صرف تمام یورپ پر قابض ہو جائیں
 بلکہ یورپ اسلام قبول کر لے گا۔ اسلام ایک عجیب دین ہے۔ اس میں ریاست (STATE)
 کا تصور تو ہے مگر دینی حکومت (CHURCH) کا نہیں۔ اس کی ریاست میں حکومت
 تصور بھی عجیب ہی ہے کہ تمام حکومت ایک اللہ ہی کی ہے اور تمام کائنات جس
 عالم انسانی بھی شامل ہے اسی اللہ کی مخلوق اور بندہ ہے۔ اس لئے مسلمانوں میں
 اور اخوت اور مساوات کے جذبات کارفرما ہیں۔ بہر حال پست اور پس ماندہ لوگوں
 لئے اس میں ایک کشش ہے اور وہ ان کو جذب کر رہا ہے۔
 حروب صلیبیہ تو پوپ کی طرف سے ایک تحریک تھی جس کا مقصد صرف ان کا

پوپ کی دینی حکومت قائم رہے لیکن جب تاجداران یورپ نے دیکھا کہ پوپ کی
 دینی حکومت ان کو بھی اپنا غلام بنا رہی ہے تو اصلاح (REFORMATION) کی تحریک
 نے ذریعے ایک گونہ آزادی حاصل کر لی۔ جرمن اور فرانس میں رفتہ رفتہ "چرچ" کا خاتمہ
 دیا۔ انگلستان نے اپنی سیاسی اغراض کی تکمیل کے لئے اسے قائم رکھا مگر پوپ سے
 بے تعلق ہو کر۔ آج ہم چرچ آف انگلینڈ اور امریکن چرچ کا نام سنتے ہیں۔ ان میں انگلینڈ
 کی پیش پیش ہے۔ مسیحی کلیسا کی تاریخ ایک مستقل موضوع ہے اس کا مطالعہ فرانسیسی
 ضل ربیان (RENAN) کی کتاب میں کرنا چاہیے۔

نام نہاد مسیحی اقوام نے بہت کچھ مسلمانوں سے سیکھا۔

کس نیا مومن علم تیرا ز من کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرد

لیکن یہ دور بھی گزر رہا ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اقوام یورپ اور امریکہ میں
 مسلسل جنگ مختلف صورتوں میں اسی وقت سے ہو رہی ہے جب ان کا تصادم مسلمانوں
 نے خلافت کے تحت ہوا۔ پہلے "سیٹ" اور "چرچ" میں جنگ تھی۔ "سیٹ" نے
 "چرچ" کو نپچا دکھایا۔ پھر "سرمایہ داری" (LISIM) اور اشتراکیت،
 (SOCIALISM) میں ہوا۔ سوشلزم کی ترقی یافتہ صورت "کمیونزم" (COMMUNISM) ہے
 اب ان دونوں میں زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر مسلمانوں میں کچھ سیاسی تدبیر ہوتا
 تو وہ اس جنگ کا تماشہ دیکھتے اور لطف اندوز ہوتے اور اس میں عملاً حصہ نہ لیتے۔ ان
 کو ان کا آلہ کار نہ بننا چاہیے ورنہ وہ انہی کے ساتھ تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ قرآن حکیم
 نے اس واقعہ کی خبر پیش از وقت دے کر مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ یہ ہولناک جنگ ضرور
 ہو کر رہے گی اور جو اس سے کنارہ کش رہیں گے وہی ناکدہ میں رہیں گے۔

"ان الذین سبقنا للحسن، اولئک عنہا مبعدون، لا
 یسمعون حسیسہا، وھم فی ما اشتمت انفسہم خلدون، لا یحزنہم
 الفزع الاکبر" (بخاری)

"تحقیق جن لوگوں سے ہمارا نیک وعدہ پہلے ہو چکا وہ اس (حرب عظیم) سے دور

ہی رکھے گئے ہیں۔ اس کو اس کی (ہلاکت آفرینی کی) بھٹک بھی نہ پہنچے گی اور وہ اس میں اپنی حسب خواہش ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ اس کی (جزع و فرزع سن کر غم زدہ ہوں گے جو بہت بڑی ہوگی۔

ہمارے زمانہ کے تاریخی واقعات جہاں تک ان کا تعلق خلافت اسلام سے ہے اقوام یورپ اور امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اقتدار سے وابستہ ہیں۔ کسی ملک کی خوش حالی اور فاسخ البالی اس کی تجارت پر منحصر ہے۔ تاریخ "DARK AGES" اور "قرون وسطیٰ" (MEDIEVAL AGES) میں قوم کے عروج کا اندازہ اس کی فتوحات ملتی ہے۔ ان فتوحات ان فتوحات کے ذریعہ ہمسایہ کمزور اقوام کے جان و مال پر بھروسہ قبضہ جانا اور فاتح قوم لوٹ کھسوٹ کے بعد لوٹ جاتی اور کچھ وقفہ کے بعد قتل و غارت کا بازار گرم رکھتی۔ جب تک کسی قوم میں جارحانہ حملوں کی قوت ہے۔ وہ یہی کچھ کرتی اور اس کو بہت بڑا تاریخی کارنامہ تصور کیا جاتا۔ ان ایام جاہلیت کو "زمانہ شجاعت" بھی کہتے ہیں۔ کہ ہر ایک قوم کی قوت کا امتحان ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں ملک گیری کا خیال پیدا ہوا۔ اور یونانیوں اور ایرانیوں وغیرہم نے عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ صدیوں تک لوگوں نے کوس "من الملک" بجایا۔

آنحضرتؐ کی بعثت پر ایک نیا دور شروع ہوا۔

"زمانہ دیگرگوں آئین نہاد"

عرب میں حجاز کا وہ حصہ جسے وادی "مکہ" قدیم زمانہ میں اور اب اس کے خاص حصہ کو "مکہ" کہتے ہیں۔ "غیر ذی زرع" ہے۔ ان لوگوں کی ضروریات زندگی ان ہمسایہ ممالک ہی سے مہیا ہو سکتی تھیں جو سبز سیر حاصل ہیں۔ اس کا ذریعہ ایک تو ایام جاہلیت کی لوٹ کھسوٹ تھا یا تجارت۔ ان لوگوں نے "تجارت کو ترہ دی۔ اس لیے کہ اس میں ہر ایک قوم کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کے

ساتھ ان کا لین دین رہا۔ ان کی آؤ بھگت ہر ایک جگہ ہوتی۔ ان کے تجارتی قافلے ہر ایک موسم میں یمن اور شام اور مصر کے راستوں میں آمد و رفت رکھتے۔ اس لئے لوگ بہ نسبت دیگر اقوام امن کی زندگی بسر کرتے رہے اور خوشحال بھی تھے۔ مکہ یا مکہ کے عرب کا نہ صرف تجارتی بلکہ مذہبی مرکز بھی تھا۔ اور یہاں سالانہ دور و نزدیک سے لوگ بغرض حج اکٹھے ہوتے۔ ان ایام میں بہت بڑی تجارتی منڈی بھی لگتی جسے "عکاظ" سے موسوم کرتے ہیں۔

اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے۔

"لایلف قریش، الفہم رحلة الشتاء والصفیٰ فلیعبد والاب هذا

البت، الذی اطعمہم من جوع، وامنہم من خوف" (۳۱)

"قریش کو تجارت کی چاٹ، جاڑے اور گرمی میں سفر سے الفت (اور مکہ کی وجہ سے ان کا احترام ایسے امور میں کہ) مناسب یہ ہے کہ وہ اس گھر (مکہ) کے پروردگار کی بندگی کریں جو ان کو بھوکے ہوں کھانے کو دیتا ہے اور خوف (جان و مال سے) امن میں رکھتا ہے۔"

اہل حجاز تجارت پیشہ تھے۔ ہم نے اہل فنیقہ کا اس کتاب کے پہلے حصہ میں ذکر ہے۔ یہ بھی اہل حجاز تھے۔ انہوں نے تجارتی مرکز سواحل شام اور افریقہ پر قائم کئے اور پہلی دفعہ جزائر برطانیہ کو متمدن دنیا سے روشناس کیا۔ اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ جس کو اب بحیرہ شام یا بحیرہ روم کہتے ہیں۔ فنیقی جہیل سے موسوم تھی اس لئے ان کے مقبوضات نے اس کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا۔ اسلامی دور دورہ میں عرب جزائر بحر الکاہل اور چین اور بحر ہند کے ساحلی علاقہ مالا بار وغیرہ میں تجارت کی غرض سے وارد ہوئے اور یہاں مستقل رہائش اختیار کی۔ جنوبی ہندوستان میں "موپلا" اور "انڈونیشیا" اور جاوا اور سماٹرا اور دیگر جزائر میں بھی عرب تاجر آباد ہوئے اور چھا گئے۔

تجارت کو فروغ امن کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس لئے جب کسی قوم کی تجارت

کو خطرہ جان و مال ہو تو ایسی قوت بھی پشت پناہ ہونی چاہیے جو امن کی ضمانت ہو۔ جب "دبیل" واقع سندھ پر عربوں کا ایک تجارتی جہاز راجہ داہر والے سندھ کے لوگوں نے لوٹ لیا۔ تو حجاج بن یوسف نے جو اس وقت خلافت امویہ کی طرف سے والے عراق تھا۔ راجہ سے نقصان جان و مال کا معاوضہ طلب کیا۔ انکار پر محمد بن قاسم بن جو ان سپہ سالار نے وادی سندھ پر حملہ کیا اور مسخر کر لی۔ راجہ کو بار بار صلح و آشتی کی دعوت دی گئی مگر راجہ چوتی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ مطلبہ سے ادا کرے۔

ہر ایک قوم کا حق ہے کہ کسی غیر قوم سے تجارتی وغیرہ تعلق قائم نہ رکھے۔ لیکن اردو حالات میں دو ہمسایہ اقوام امن سے نہیں رہ سکتیں۔ اور نہ وہ ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن یا امن زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ بالخصوص ان حالات میں جبکہ اقوام عالم باہمی رشتہ اقتصادی و سیاسی وغیرہ نے مضبوط کر دیا ہے۔ کوئی قوم ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتی۔ ایام جاہلیت میں ایک قوم کا دوسری قوم سے تعلق معاندانہ ہی تھا۔ مگر اس کا اثر دیگر اقوام پر نہ پڑتا۔ اب اقوام عالم ایک رشتہ میں جکڑی ہوئی ہیں کہ اس سے گلو خلاصی نہ صرف ناممکن ہے بلکہ منشاء فطرت ہی ہے کہ عالم انسانی رفتہ رفتہ شرافت انسانی سے روشناس ہو کر امت واحدہ بنے۔ اور یہ ممکن نہیں جب تک اقوام میں رشتہ انسانیت قائم نہ ہو۔

"آنچه قسمت است بهم می رسد"

"ورنہ ستانی بہ ستم می رسد"

خلافت بنو امیہ کے مد نظر صرف تجارتی مفاد نہ تھا بلکہ اس پیغام امن کی تبلیغ بھی تھی جو آنحضرت نے بذریعہ قرآن مجید عرب کو دیا تھا۔

"و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس"

ويكون الرسول عليكم شهيدا" (۲)

اور ہم نے تم کو اعتدال پسند امت بنایا ہے تاکہ تم اور لوگوں کے نگہبان بنو۔

اور رسول تم پر نگران ہو۔

”کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون

عن المنکر وتؤمنون باللہ“ (۱۱۲)

”تم بہترین امت اقوام عالم میں ہو اس لئے کہ لوگوں کو نیکی کا امر اور بدی سے

منع کرتے ہو اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے“

چونکہ قوموں میں عالمگیر رشتہ اتحاد قائم ہونے والا تھا اس لئے ان کو عالمگیر امن

اور حریت اور مساوات کے پیغام حق کی بھی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ رشتہ خوش

اسلوبی سے نبھ نہیں سکتا۔ اور اگر قومیں ایک مرکز وحدت پر متحد ہو جائیں تو ان

میں ”اخوت“ کے پاکیزہ جذبات بھی لامحالہ کار فرما ہوں گے۔ اور یہی مقصد اعلیٰ

”اسلام“ کا ہے۔

خلافت دنیوی حکومت کی ایک پسندیدہ صورت ہے اور ان ایام میں جن

کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ مقدم ضرورت تمکین دین کی تھی۔ یہ خلافت نے ممکن

پسندیدہ طریقہ سے پوری کی۔ یہ حکومت بہر حال قومی تھی۔ اگرچہ اسلام نے قومیت

کا مفہوم جو ایام جاہلیت میں نسلی امتیاز اور لسان اور الوان کی یگانگت پر مبنی تھا

بالکل بدل دیا۔ اور یہ غیر فطری امتیاز غیریت مٹا کر عالم انسانی کو ایک نقطہ

وحدت پر بلحاظ انسان متحد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ابھی تک ہمارے اپنے زمانہ

میں بھی قوموں نے اپنی قومیت کو ترک نہیں کیا۔ اس لئے شرانگیز تفرقہ بھردہ ہیں

موجود ہے۔

لیکن یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اقوام عالم اب ایک ایسے رشتہ میں

جکڑی جا چکی ہیں خواہ یہ کیسا ہی کسی اور وجہ سے ناخوشگوار ہو کہ اس سے گلو فدا کی

کی کوشش بے حاصل ہے۔ ایک جنگ کرہ ارض کے کسی حصہ میں ہونو ناممکن ہے

کہ دیگر اقوام عالم اس سے متاثر نہ ہوں۔ اس لئے ایام جاہلیت اور قرون وسطیٰ

میں جو لڑائیاں محدود رقبہ میں ہوتی رہی ہیں اب عالمگیر صورت اختیار کر چکی ہیں۔

ہمارے زمانہ میں دو ایسی ہی عالمگیر جنگ کا سابقہ اقوام عالم کو پڑا۔ اور کئی مہینہ جو
جنگ ہوگی اسی وسیع بلکہ وسیع تر پیمانہ پر ہوگی۔

ان واقعات میں ایک تاریخی سبق ہے کہ اقوام عالم نے ایک دوسرے
دالستہ ہو کر زندہ رہنا ہے اور یہ کہ زندگی پسندیدہ ہی ہو تو لطف زندگی ہے اور جو کچھ
کافش ہے اس کی تکمیل بھی اسی طرح ہو سکتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انسانی منش
پورا ہو کر رہے گا۔ اور اگر قومیں برضا و رغبت تسلیم نہ کریں تو "بعد از ہزار سواتی" سے
کرنا پڑے گا۔ یہ جنگ و جدل اور قتل و غارت اور اس کے نتائج فطرت کی طرف
سے "انتباہ" عذاب کی صورت میں ہے جس میں قومیں مبتلا ہیں۔ جوں جوں اس
احساس انسان کو ہوگا اور وہ مجبوراً یا ضرورہً اپنی قوت فکریہ سے کام لے گا تو خود بخود
راست پرا جائے گا۔

"کس ندیم کہ گم شد از رہ راست"

جب ایسا اتحاد مستحکم ہو جائے گا۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی اس پر
ہو جائے گا۔

"سخر لکم مافی السموت و مافی الارض جمیعاً منہ، ان فی ذلک لآیۃ
لقوم یتفکرون"

"جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے اپنی رحمت کاملہ سے
کچھ تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔ اس میں آیات اہل فکر کے لئے ہیں۔"
اور یہ کہ اس ادنیٰ زندگی کے محدود اور فانی مفاد کے لئے کیا لڑتے جھگڑتے
مرتے ہو۔

"سئلوا الی مغفرة من ربکم و جنۃ عرضہما السموت و الارض
اعدت للاتقین" (پہ)

"سہرعت سے بڑھ کر لو اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کو جس کا عرض
آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو راستبازوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔"

آیہ استخلاف سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایسی ہی خلافت ملی جیسی کہ ان سے پہلی قوموں کو مل چکی تھی۔ اس لئے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دوسری قوموں کی خلافت کا مقصد مسلمانوں کی خلافت کے منشاء سے بالکل جدا ہے اور یہ امر قوموں کی خلافت کی تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے۔ جو کچھ مسلمانوں کی خلافت کا مقصد ہے وہی ہماری بحث کا موضوع ہے اور جو کچھ غیر مسلم اقوام کی حکومت کا مقصد ہے وہ اب بھی ہے۔ ان قوموں کی حکومت واضح کر رہی ہے۔

کوئی مقصد پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ جب تک اس کے مناسب ذرائع قبضہ میں نہ ہوں اور ان ذرائع کا وسیلہ آج تک خلافت ہی رہی ہے۔ اگر مقصد نیک ہو تو اس کے ساتھ اخلاق حسنہ کا تقاضہ ہے کہ نیت میں بھی خلوص ہو۔ جب اس میں فتور آجائے تو مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے اور تاریخی سبق یہ ہے کہ وہ قوم خلافت بھی ہاتھ سے کھو بیٹھتی ہے۔

ہم نے اس مقالہ کے شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اقوام یورپ اور امریکہ کرہ ارض پر چھلے ہوئے ہیں۔ امریکہ تو ایک نئی دنیا ہے اس میں نوآبادی بھی انہی اقوام یورپ کی ہے۔ ان اقوام میں سے سب سے پہلے پرتگال اور ہسپانیہ والوں نے اور اس کے بعد ولندیزیوں نے اور پھر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اقتدار حاصل کیا۔ ان لوگوں کی اب بھی حکومت بعض بعض مقامات پر ان کے اپنے ممالک سے باہر ہے یا کم از کم ان کا سیاسی اقتدار قائم ہے۔

ان قوموں کے اقتدار کی تاریخ کا تعلق ہمارے موضوع سے اتنا ہی ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس طرح دنیا پر اسلام پر چھا گئے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ آنحضرت کی بعثت کے بعد نظریہ حکومت بدل چکا تھا۔ اب قوموں میں ہر ایک رشتہ تعلق تجارت نے قائم کر دیا اگر ان قوموں کی نیت میں خلوص ہوتا تو سیاسی اقتدار کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور وہ اس عالمگیر جنگ کی نوبت آتی جو ان کی باہمی رقابت نے پیدا کی اور کر رہی ہے۔ ابتدا

میں ان کی غرض صرف اتنی تھی کہ تجارت کے ذریعہ مال و دولت کمائیں۔ نفسِ انسانی کثرت پسند ہے۔ جب زراندوزی کی طمع غالب آئی تو زیادہ سے زیادہ کمائے کیسے ہر ایک نا جائز وسائل بھی استعمال کرتا ہے۔ اقوامِ یورپ میں اس زراندوزی کی نئے رقبہ بھی پیدا کر دی۔ ہر ایک قوم یہی چاہتی تھی کہ وہی تجارتی مفاد کی واحد اجارہ دار ہے۔ جب یہ مقصد جائز وسائل سے حاصل نہ ہوا تو نا جائز وسائل کی کھجور تھی۔ ان کا جنگ و جدل تمام کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی وہ تھے شروع ہو گیا۔ ان اقوام نے اپنی اپنی حکومت کی سرپرستی میں تجارتی "کمپنیاں" بنائیں۔ مختلف ممالک میں تجارتی کوٹھیاں بھی تعمیر کیں۔ ان ممالک کے حکمرانوں سے اجارہ کی مراعات بھی حاصل کر لیں۔ رفتہ رفتہ جہاں ان کے قائم نامبارک جے وہاں تو ان کی طرح بھی ڈالی۔ پھر قدم ایسے نکالے کہ اس ملک کے سیاہ و سپید کے مالک گئے۔ ان کی غرض محض وہ حکومت نہ تھی جو ایام جاہلیت میں ایک قوم کی دوسری پر تھی۔ لیکن اس حکومت کی آڑ میں وہی جاہلی جذبہ کار فرما تھا بلکہ کچھ بڑھ کر کہ اس ملک کے تمام وسائل زندگی پر قبضہ کیا جائے۔ اس ملک کی خام پیداوار اسی ملک کے باشندے ان کے ہاتھوں سستے داموں فروخت کریں اور پختہ پیداوار اپنے کارخانہ جات (FACTORIES) میں یہ تیار کریں اور انہی ممالک کے ہاں مہنگے داموں پر فروخت کریں۔

اس تجارتی مفاد کے لئے جو کچھ ظلم و ستم ان لوگوں نے ان ممالک باشندوں کو رکھے وہ دل ہلا دینے والے تاریخی واقعات ہیں۔ مال تجارت صرف ضروریات زندگی نہ تھا بلکہ غلاموں کی تجارت پر تھوڑے سرمایہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منافع تو ان کو اپنی نوآبادیات کے فروغ کے لئے مزدوروں کی ضرورت تھی مگر مزدور تو اپنی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے۔ غلام ایسے مزدور ہیں جن کو بلا معاوضہ کام پر لگایا جاسکتا ہے۔ مویشیوں کی جوع البقر بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ان کو روکھی سوکھی پر بھی زندہ رکھا جاتا ہے۔

یہ حق غلاموں کو جس بخل سے دیا جاتا۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کام تو ان سے مویشیوں کا لیا جاتا ہے اور خوراک پیٹ بھر کبھی نہ دی جاتی، اکثر زندہ انسانی بچرقتے اور ان میں اموات کی کثرت تھی۔ ولیم ہونٹ (WILLIAM HAWITT) اپنی

کتاب نوآبادیات اور مسیحیت (COLONIZATION AND CHIEFSTEACTY) میں

مسی غیر انسانی سلوک کا جس کو وہ غیر مسیحی قرار دیتا ہے، رونا روتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

”نام نہاد مسیحی اقوام کرۂ ارض کے ہر ایک حصہ میں ان ممالک کے باشندوں

پر جہاں ان کا قبضہ ہے اس بربریت اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ

آج تک کسی قوم کی تاریخ میں کسی زمانہ میں کسی نے روانہ رکھا خواہ یہ قوم

وحشی یا نیم وحشی اور کتنی ہی خونخوار اور ناشائستہ اور غیر مہذب تھی۔“

لینڈوالوں کو دلندیز کہتے ہیں۔ اس تجارت میں وہ پیش پیش تھے۔ انگریز بڑا رحمدل واقع

ہوا ہے۔ اس کی رحم دلی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ۱۸۶۶ء میں اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی

(EAST INDIA COMPANY) نے صوبہ اڑیسہ میں تمام فصل استادہ خرید لی،

جب ان کے قبضہ میں آگئی تو مہنگے داموں پر فروخت شروع کی قیمت روز بروز بڑھتی

گئی خریدار صرف متمول لوگ ہی تھے۔ صوبہ میں سخت قحط پڑ گیا اور دس لاکھ آدمی ناقہ

کش سسک سسک کر مر گئے۔ لیکن کمپنی کو توقع سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ غلامی

کی تجارت میں اس رحمدل قوم کا یہ حال تھا کہ امریکہ مقبوضہ ہسپانیہ میں غلام مہیا کرنے

کے واحد اجارہ دار بھی تھے۔ صرف ایک لورپول (LIVERPOOL) کے جہاز جو غلام

مہیا کرتے ۱۶۳۰ء میں پنڈرہ اور ۱۶۵۱ء میں تریسٹین اور ۱۶۶۰ء میں چوہتر اور ۱۶۹۲ء

میں ایک سو تیس اسی تجارت پر لگے ہوئے تھے ۱۶۹۰ء میں مغرب الہند کے جزیرہ مقبوضہ

برطانیہ میں ہر ایک انگریز کے پاس دس دس غلام تھے اور ہر ایک فرانسیسی کے پاس

چودہ اور ہر ایک ڈچ کے پاس تیس۔ ہنری براؤمین (HENRY BROUGHAWMAN)

نے اپنی کتاب ”دول یورپ کی سلکت عملی دربارہ نوآبادیات کے حوالیہ“ (AN INQUIRY

INTO-

THE COLONIAL POLICY OF THE EUROPEAN POWERS. 1855-VOL: II)

میں مفصل حالات لکھے ہیں۔

اقوام یورپ آپس میں دست و گریبان بھی ہوئیں۔ لیکن یہ قومیں تجارت پیشہ امن پسند عقل مند ہیں۔ ان کے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ یورپ میں تو توازن قوت (BALANCE OF POWER) جیسی کہ ہے قائم رہے۔ یورپ سے باہر دوسرے براعظموں میں اپنا اپنا حلقہ اثر تقسیم کر لیا۔ اس حلقہ میں وہ ممالک بھی تھے۔ جیسے ہندوستان جہاں ان کی حکومت بلا شرکت غیر تھی۔ ان کے علاوہ وہ ممالک جہاں ان کا اثر دوسرے زیادہ تھا۔ افریقہ میں تو ان کی نوآبادیات تھیں اور اس کی تقسیم بھی کی گئی۔ ایشیا میں نیز تر ممالک اسلامی میں یا مشرق میں چین اور جاپان اور کوریا، بحر الکاہل کے اکثر جزائر بھی اسی تقسیم عالمی کے ذریعہ ہر ایک کے حصہ میں بقدر جتنے آئے۔ شیر انگلستان جس کی بحری طاقت کا اس وقت جواب نہ تھا اور جو "ملکہ بحر" کے نام سے مشہور تھا۔ خدا کا سب کچھ پہلے ہی موجود تھا۔ اور وہ ممالک تھے جو نسبتاً زیادہ زرخیز تھے وہ تو صرف آریہ ہی چاہتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے وہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھے۔ اس کے جزائر برطانیہ سے جو راستہ ہندوستان کو آتا ہے اس پر اس کا قبضہ ہو چنانچہ انبانے جبل الطارق اور جزیرہ مالٹا پر اس کا قبضہ تھا۔ مصر اس کے زیر اثر گیا۔ نہر سویز سے اس کے جہاز "عدن" پر ٹھہرتے اور تمام ساحلی علاقہ کے شیوخ اس کے زیر اثر تھے۔ افریقہ کے مغربی ساحل پر بھی بعض اہم مقامات پر اس کا قبضہ تھا اور منہائے جنوب کیپ ٹاؤن (CAPE TOWN) وغیرہ اس کی نوآبادی ہے۔ اس طرف سے ہندوستان کی ناکہ بندی مکمل ہو گئی دوسری طرف بحر الکاہل میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جزائر اور یورپ کے حصہ میں بھی ہے مگر ساحلی علاقہ شمالی انگریزوں کی نوآبادی ہے۔ نیچے سا جزیرہ "ہانگ کانگ" عدن کی طرح ان کے قبضہ میں ہے۔ نیچے سنگاپور اور آریہ کی بندرگاہ بہ تعلق ہندوستان اہم مقام ہے۔ برما پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ عرض مشرق اور مغرب کی جانب ناکہ بندی خاطر خواہ ہو گئی۔ بحری راستوں کی حفاظت اس طرف کی گئی۔ لیکن ہندوستان کا پرانا راستہ جانب شمال افغانستان کے دروں سے

گذرتا ہے۔ ان دروں پر بھی افغانستان سے لڑھگڑ کر قبضہ جمالیا۔

معاہدہ (BALANCE OF POWER) وغیرہ سے کچھ غرضہ کام خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ اور اس وقت تک چلتا رہا جب تک دول یورپ برطانیہ کی بحری طاقت سے قائل رہے۔ ہوائی جہازوں کی اختراع نے اس کی اہمیت کم کر دی۔ علاوہ ازیں دیگر دول یورپ للچائی ہوئی نظروں سے اس خوان نغا کو دیکھ رہے تھے جس پر قبضہ برطانیہ کا تھا۔ انگریزوں میں ایجاد و اختراع کی ذہنی قوت اتنی نہیں جتنی کہ فرانس، بیوں اور جرمنوں میں ہے۔ البتہ وہ ہمیشہ اس تاک میں رہتے کہ ایجاد خواہ کوئی قوم کرے اس کو اپنا لیتے۔ ہوائی جہاز کے علاوہ اور بھی ہلاکت آفرین ایجادات یورپ میں ہو رہی تھیں جرمنی اپنی عسکری قوت بڑھا رہا تھا۔ اور انگریزوں کے نقطہ نظر سے تمام یورپ کے لئے ایک خطرہ عظیم تھا۔ جرمن اب تمام دنیا پر چھا جانا چاہتا تھا۔ اس موضوع پر ایک کتاب "وان بیلو" (VAN BELLOW) نے بھی لکھی۔ انگریزوں کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ تنہا اس نے کبھی کسی حریف کا مقابلہ نہیں کیا۔ دوسری طاقتوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور عموماً وہی آتش حرب کا ایندھن بنتی رہیں۔ فتح کے بعد انگریز زیادہ فائدہ میں رہتے اور اتحادی منہ دیکھتے رہ جاتے۔ پہلی جنگ عظیم میں دول یورپ کے یہ ذہن نشین کیا کہ اگر خطرہ ہے اور یقیناً ہے تو فرانس اور روس اور اطالی اور آسٹریا کو جو جرمنی کے ہمسایہ ہیں۔ برطانیہ ایک جزیرہ ہے اور فرانس کی تسخیر کے بعد ہی جرمن اس پر حملہ کر سکتا ہے لیکن برطانیہ کی بحری طاقت کا مقابلہ جرمن نہیں کر سکتا۔ اس لئے دول یورپ کی طاقت میں توازن اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ سب متحد ہوئے۔ اس کا مقابلہ کریں۔ برطانیہ ان کو ممکن پوری مدد دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ برطانیہ ہی کو تھا۔ جرمن اپنا حلیف ٹرکی کو بنا چکا تھا۔ اور بغداد ریلوے لائن کا نقشہ بھی مرتب ہو چکا تھا۔ غرض یہ تھی کہ خلیج فارس پر اس کا قبضہ ہو جائے تو ایران میں قدم جما کر انگریزوں کو ہندوستان سے بیخ ل کر دے۔ ۱۹۱۴ء

سے ۱۹۱۸ء تک یہ عالمگیر جنگ جاری رہی۔ برطانیہ نے امریکہ کو بھی اپنے گانٹھ لیا تھا۔ غالباً جرمن کامیاب ہو جاتے مگر امریکہ کی بروقت امداد نے اس کو فتح مند کر دیا۔

ان ایام میں ہندوستان آزادی کے لئے جدوجہد آئینی طریق پر کر رہا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ دوران جنگ میں ہندوستانی انڈین نیشنل کانگریس (INDIAN NATIONAL CONGRESS) کے زیرِ تحت علمِ بغاوت بلند کر دیں گے۔ ہندوستان نے قریباً پندرہ لاکھ سپاہی دئے اور ہندوستانی ریاستوں میں سب کچھ انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عراق اور مصر اور گیلی پولی اور ہندوستانی سپاہ ہی ترکوں کے خلاف لڑتی رہی۔ بیت المقدس میں جو داخل ہوئی وہ "لوآنہ لانسر" تھی یہ لوگ تملع شاہ پور پنجاب کے مسلمان ہیں اور زیادہ تر فوجی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ بغداد میں ملتانى رحمت اللہ علیہ کے مقدس شہر میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کو قید کر کے پورٹ بلیر (کالاباغ) لایا گیا۔ اس کتاب کا موقوفہ وہاں بحیثیت ہتھم خزانہ موجود تھا۔ میں نے اسے منظرِ کتب کو مشورہ دیا کہ مناسب یہ تھا کہ ان کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جاتا اور ان کو فرانس یا یورپ کے کسی اور شہر میں بھیجا جاتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ وہاں دوسرے محاذ پر لڑنے کے لئے تیار ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں وہاں سے چلا آیا مگر میرے مشورہ پر عمل کیا گیا۔

ہم نے ان واقعات کا تذکرہ اس لئے کیا ہے کہ دنیا اسلام کی موجودہ حکومتوں کے حالات قارئین سمجھ سکیں۔ اب ہم ان اسلامی حکومتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو پہلے ہی خود مختار تھیں یا جن کو انگریزوں نے اپنی سیاسی اغراض کیلئے کھڑا کیا۔ اس کا آغاز ہم مملکت ایران سے کرتے ہیں۔

ایران

خاندان پہلوی | اس کتاب کے دوسرے حصہ میں ہم نے خاندان قاجار کے آخری تاجدار احمد شاہ کے حالات پر ایران

مذکورہ ختم کیا تھا۔ یہ حالات ہمارے اپنے زمانہ میں رونما ہوئے ہیں۔ لیکن سلسلہ ات جاری رکھنے کے لئے ہم نے انہیں دوسرے حصہ میں بیان کیا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ دول یورپ کی توجہ جب تجارت کے ذریعہ زرخیز ایشیائی ملک کی طرف ہوئی تو ان ممالک میں قدم جمانے کے لئے جگہ بھی مل گئی۔ ایران

تجارتی تعلقات یورپ والوں سے صفوی خاندان کے دور دورہ میں شروع ہو گئے۔ جزیرہ "ہرمز" میں پرتگیزیوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ شاہ عباس ان کو بے دخل کرنا

ہوتا تھا اور ولندیزیوں اور انگریزوں کی رقابت بھی اسی امر کی مقتضی تھی۔ چنانچہ ۱۶۱۲ء میں شاہ عباس نے انگریزی بحری بیڑہ کی مدد سے جو خلیج فارس میں تھا پرتگیزیوں

ہرمز سے نکال دیا۔ اور انگریزوں اور ڈچ (ولندیزی) سوداگروں کو اجازت دے دی کہ بندرگاہ عباس پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں اور ساتھ ہی سیاسی

شہ دول یورپ سے گانٹھ لیا تاکہ سلاطین عثمانیہ کے خلاف ان سے مدد مل سکے۔ ہم نے قاجار خاندان کے حالات میں بیان کیا ہے کہ برطانیہ اور فرانس اور امریکہ

اور روس نے کیا کچھ مراعات سرزمین ایران میں حاصل کر لی تھیں۔ یہ بالکل ممکن تھا کہ لوگ ایران کے حصے بخرے کر لیتے اور ایران بھی ان کی نوآبادیات میں تبدیل ہو

جاتے یا ان کی حکومتیں اس کے مختلف صوبوں میں قائم ہو جاتیں اور ایران بحیثیت اسلامی سلطنت ختم ہو جاتا۔ لیکن عالمگیر جنگ اول نے شاطران یورپ کی بساط سیا

الٹ دی روس میں خاندان زار ختم ہو گیا۔ اور اس کی جگہ سویٹ روس - VIET
(RUSSIA) نے لے لی۔

۱۹۲۱ء میں "سویٹ" نے ایک معاہدہ دوستی ماسکو میں
معاہدہ ۱۹۲۱ء سے کیا۔ غالباً یہ معاہدہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے صرف

ایران بلکہ تاریخ اقوام عالم میں پہلا اور شاید آخری ہے جس میں ایک قوم دوسری قوم
حقیقی رشتہ یار و ادھی قائم کرتی ہے۔ زار روس کے دور دورہ میں روس اور انگریز
ایران کو خون نسا سمجھتے تھے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنا اپنا حلقہ اثر
کر چکے تھے ("سویٹ" نے بیک جنبش قلم تمام معاہدات جو آج تک روس اور ایران
برطانیہ اور ایران میں ہو چکے تھے منسوخ قرار دئے۔ اور ایران کی آزادی اس حد تک

تسلیم کی کہ تمام غیر ملکی فوج کو جو اس وقت ایران کی سر زمین پر موجود تھی ایران خالی
پڑے گا۔ اور جو علاقہ بھی غیر ملکوں نے دبا یا ہوا ہے بلا توقف واکذار کرنا پڑے گا۔
پر عمل سویٹ نے کیا۔ اس عہد کی رو سے تمام بقایا قرضہ جو روس کو ایران کی طرف
واجب الادا تھا بے باقی سمجھا گیا اور تمام مراعات جو زار روس نے رکھی تھیں گارہ
قرار دیں۔ اور تمام املاک جو ایران میں زار روس کی تھیں حکومت ایران کے حوالہ
بلا معاوضہ کر دیں۔ ان میں "ڈسکاؤنٹ بینک آف پرشیا" - DISCOUNT

(BANK OF PERSIA) ریلوے سٹرک حیضہ سے تبریز تک اور بندر گاہ انزلی
(ENZELI) جس کو اب پہلوی کہتے ہیں اور دوسری سٹرکیں اور ٹیلیگراف لائن
(TELEGRAPH LINES) شامل تھیں۔ اس معاہدہ میں ایک شق یہ بھی تھی

"سویٹ روس" کو اس امر کا خطرہ ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقت ممکن بلکہ اغلب ہے کہ ایران
اور روس کے اندرونی معاملات میں یا امن میں رخنہ انداز ہو تو اس کا سدباب اس

کیا جائے کہ کسی ملکی یا غیر ملکی ادارہ یا طاقت کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ معاہدہ سلطنتوں
سی وغیرہ اغراض کے لئے کسی بیج کی کاروائی کرے جو معاہدہ سلطنتوں کے مفاد کے

ضرر ہو۔ اور یہ ایران اور روس کا فرض اولین ہوگا کہ کسی تیسری طاقت کو اپنے اپنے ملک

خبر نہ کھلائے

میں گھسنے نہ دیں جو دونوں ممالک کے لئے خطرہ ثابت ہو۔ لیکن اگر کوئی تیسری طاقت اس نوع کا خطرہ سر زمین ایران میں پیدا کرے اور اس امر کا ارتکاب کرے کہ ایران کو اپنا عسکری مستقر (MILITARY BASE) سویٹ روس کے خلاف بنائے اور خود ایران مدافعت کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بغرض دفاع یہ حق سویٹ اپنے حق میں محفوظ رکھتا ہے کہ اس کی فوج کا داخلہ ایران میں بلا مزاحمت منجانب حکومت ایران ہوگا۔ یہ شق اہم ہے اور اس میں بھی سویٹ روس کی طرف سے دوستی اور خیر سگالی کا جذبہ کار فرما ہے۔ اس شق کی رو سے ایران اور سویٹ میں کسی تیسری طاقت کے خلاف متحدہ مدافعت کا اقرار صالح ہے اس کا فائدہ دونوں معاہدہ سلطنتوں کو یکساں پہنچتا ہے اور زیادہ تر ایران کا فائدہ ہے۔

اس عہد نامہ پر فوری عمل شروع ہو گیا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی باضابطہ تکمیل سے ایک ہفتہ پیشتر ہی ہوا۔ کرنل رضا خاں "قزوین" سے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ تہران دارالسلطنت پر پہنچا اور قابض ہو گیا۔

رضا خاں "بحرہ خزر" (CASPIAN SEA) کے قریب "سفیدکوه" میں جو صوبہ آذربائیجان میں واقع ہے ۱۶ مارچ ۱۸۶۵ء میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اور دادا ایرانی فوج میں افسر رہے تھے۔ یہ نوجوان بھی ایرانی کاسک بریگیڈ میں بھرتی ہو گیا اور خداداد قابلیت اور قوت سیرت کے بل پر ترقی کرتا رہا۔ قلباً، نطقاً و خال میں درشتی۔ انتظامی امور میں سخت اور سخت کوشش تھا۔ مروجہ درسی تعلیم سے محروم رہا۔ اس کی زندگی شروع سے سپاہیانہ تھی اور سپاہیانہ تجربہ بلکہ ایران سے باہر بیرونی دنیا کا علم بھی بہت کم تھا۔ لیکن طبیعت میں استقلال بلا کا تھا۔

تہران میں داخلہ کے وقت سید ضیاء الدین طباطبائی وزیر اعظم تھا۔ شاید رضا خاں اس کا مزاحم نہ ہوتا مگر وزیر نے رضا خاں کی اصلاحی تجاویز کو مسترد کر دیا تو ناچار رضا خاں نے اسے برطرف کر کے خود صدارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اس کے علاوہ وہ سپہ سالار بھی تھا یہ واقعہ ۱۹۲۳ء کا ہے۔ چند ماہ بعد شاہ عالی جاہ کجکلاہ سیاحت یورپ پر روانہ ہو گیا۔

دو سال تک رضا اور عاید اسی کا انتظار کرتی رہی۔ بار بار شاہ کو مراجعت وطن کی دعوت دی مگر آپ نہ آئے۔ تو ۱۹۲۵ء میں ایرانی مجلس نے احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے رضا خاں کو اپنا بادشاہ منتخب کیا۔ رضائے بہت کہا کہ اب شاہی زمانہ کے ذہنی حالات کے نامناسب ہے اس لئے مناسب ہے کہ تم بھی اپنی ذہنیت کو خارجی حالات کے مطابق بدلو۔ میرے لئے جمہوریت ایران کی صدارت ہی کافی ہے۔ لیکن مجتہدین نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارے مذہبی عقاید کے خلاف ہے۔ اس لئے چارو ناچار شاہی قبول کی۔

(رضا شاہ نے اپنے ہمساہ ملک ترکی کی طرح مغرب کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھان لی۔ بلاشبہ بہت کچھ اصلاح بھی کی۔ امور خارجہ کا جہان تک تعلق تھا۔ ایک تو قرضہ اٹھانے کی رسم جو شاہان قاجار نے غیر ملکی طاقتوں سے جاری کر رکھی تھی یک قلم موقوف کر دی۔ برطانیہ کی ایرانی خانگی امور میں مداخلت ناقابل برداشت تھی۔ یہ بھی بظاہر نہ رہی شاہی بینک برطانیہ کے قبضہ میں تھا اور اسی کا سکہ راج تھا اسے موقوف کیا۔ اینگلو ایرانی آئل کمپنی (ANGLO IRANIAN OIL COMPANY) کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا لیکن اس کی جگہ اسی کمپنی سے ایک نیا معاہدہ کیا جس کی شرائط سابقہ معاہدہ سے ایران کے حق بہتر تھیں۔ اگرچہ "کیوزم" کی تحریک کو دبا دیا گیا مگر سویت روس سے مراسم دوستی قائم رکھے۔ ۱۹۲۶ء اور ۱۹۳۵ء میں روس کے ساتھ پے درپے معاہدات مختلف امور کے متعلق ہوئے۔ اس کی زیادہ تر توجہ عسکری قوت بڑھانے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ عہد حاضر کے آلات حرب سے اس کو آراستہ کیا اور اس طرح ایران کے طول و عرض میں امن کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ جاگیر داری ختم کر دی اور امرار و شرفاء کے خطابات اور طاقت اور وقار بھی نہ رہے۔ لیکن جو اصلاحات اس کے ذہن میں تھیں ان کی عملی تشکیل میں مجتہدین سدراہ تھے۔)

ڈاکٹر "ہس" (WILLIAM S. HAAS) رضا شاہ کے بارہ میں اپنی کتاب "ایران"

ڈاکٹر "ہس" ارمنی ہے اور امریکہ کا باشندہ ہے۔ کئی سال ایران میں دانش گاہ تہران میں کام کرتا رہا اور ایرانیوں سے خوب واقف ہے۔

میں لکھتا ہے کہ رضاہ شاہ شیعہ مذہب کی نسبت یہ یقین کرتا تھا کہ ایران کی ترقی میں سدا رہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مسیحی کیتھولک مذہب یورپ کے ارتقا کا مانع رہا۔ اور بعض امور میں شیعہ مذہب اس سے ملتا جلتا ہے۔ جس مذہب میں ظاہری رسوم کی زیادہ تر نمائش ہو وہ نامعقول ہی ہوتی ہیں۔ اور ہر نامعقول بات بالخصوص جب اس کا تعلق مذہب سے ہو ظاہری رسم و رواج کی طالب ہوتی ہے۔ اگرچہ شاہ مذہب مٹا نہیں سکتا تھا مگر وہ اس نامعقولیت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایرلن کے طول و عرض میں درویش "سفید لباس میں ملبوس، زولیدہ مو، بلند کلاہ بر سر، جس پر کچھ کلمات لکھے ہوتے ہوتے، ہاتھ میں کشکول لئے بھیک مانگتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ابتدا میں ہی لوگ صحیح معنی میں درویش تھے۔ ان کی زندگی زہد بے ریا اور ریاضت اور فقر فاقہ میں بسر ہوتی اور ان کا اثر بھی عوام پر اس حد تک تھا کہ منہیات سے باز رہتے مگر اب تو محض دوکانداری رہ گئی۔ رضا شاہ نے یہ مظاہرہ درویشی کو چھ بازار میں یک قلم بند کر دیا۔ ایران سے ملحق عراق میں مقدس مقامات نجف اور کربلا وغیرہ کی زیارت کے لئے اکثر زائرین جاتے اس کا بھی سدباب کیا۔ لاؤں کو سیدھا کرنا ڈراٹیر بھی کھیر تھی۔ شاہ کو خوب سوچھی، زور دیا کہ لباس مغربی وضع کا پہنیں۔ رسم تعزیرہ بالکل موقوف کر دی۔ عاشورہ محرم پر واقعہ کربلا کی یاد تازہ کی جاتی۔ اور عوام جوش میں متوالے بازاروں میں جلوس کی صورت میں نکلتے۔ بعض پابجولاں اور بعض کے ہاتھوں میں پھری یا تلوار ہوتی۔ یا علی، یا حسن، یا حسین کے نعرے لگاتے اور اپنے جسم کو زخمی کرتے۔ بعض اوقات زخم گرے بھی ہوتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مجتہدین میں بھی ایسے ہیں۔ جو ان رسوم اور اس مظاہرہ کو ناپسند ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک پاکیزہ مذہب کی اس طرح سربازار رسوائی کسی طرح مناسب نہیں۔ لیکن عوام کے جذبات کو دباننا بھی خطرناک ہے۔ کم از کم شعلہ مذہب میں حرارت اور روشنی تو ہوتی ہے۔ شاہ نے پہلے تو چھریوں اور تلواروں کی ممانعت کر دی۔ پھر تعزیرہ کا جلوس بھی موقوف کر دیا اور ان ایام میں پوٹیس ہر ایک جگہ متعین ہوتی کہ شاہی حکم کی تعمیل خاطر خواہ ہو۔ ابتدا میں جوک میں مرثیہ خوانی سے

تعرض نہ کیا۔ آخر اس کی بھی ممانعت کر دی۔ اب صرف لوگوں کو اتنی اجازت تھی کہ گھروں میں اگر چائیں مجالس عزائم عقد کر لیا کریں اس طرح یہ رسم تعزیه داری بھی چند سال کے عرصہ میں جو لوگوں کے جذبات کو ابھارتی تھی موقوف ہو گئی۔

اس کے ساتھ ہی ملاؤں کا اثر و رسوخ جو عوام پر تھا کمزور پڑ گیا۔ شاہ نے اصلاحات سے نہ صرف تعصب اور غلو فی الدین کو مٹا دیا بلکہ دنیا برا سلام پر یہ واضح کر دیا کہ مذہب آخر ایک عقیدہ ہی ہے اور ذہنی اور مادی ارتقا پر سد راہ نہ ہونا چاہیے۔ ولی عہد (موجودہ محمد رضا شاہ) کا عقد خدیو مصر کی ہمیشہ سے ایک اور قدم اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہ نکاح دستور اساسی ایران کی

شق اول کی خلاف ورزی تھی جو پندرہ سال پیشتر خود منظور کر چکا تھا۔ اب حالات اتنے بدل چکے تھے کہ کسی نے اعتراض نہ کیا۔

یہ امر بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ اصلاحات اپنی نوعیت میں نئی نہیں تھیں۔ اس کے پیشرو صفوی شاہ عباس اعظم نے بانی صفوی خاندان شاہ اسمعیل کے غلو کو ترک کر دیا تھا اور نادیر شاہ نے بہت کوشش کی کہ سنی شیعہ میں شرائط تفریق ختم کر دی جائے۔ صفوی خاندان ہی نے اسے رواج دیا تھا۔ اب جب کہ مغربی اقوام سے ایران کا اختلاط شروع ہو گیا اور دلوں میں وسعت خیال اور آزادی فکر پیدا ہو گئی تو رضا شاہ کے لئے اصلاح کچھ مشکل نہ تھی۔

(ملاؤں کی دینی حکومت جو عوام کا لالعام کے دلوں پر تھی، ختم کرنے کے لئے اس نے "اوقاف" کی طرف توجہ کی۔ تمام دنیا برا سلام میں یہ کارِ ثواب یقین کیا جاتا ہے۔ پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا" تعمیر کی جاتیں۔ یہ عمارات رفاہ عام عموماً ان متولیوں کے قبضہ میں رہتی ہیں جو جامہ تقدس میں ملبوس ہوتے ہیں اور تسبیح اور سجادہ ان کے تقدس کا خاص امتیازی نشان ہے۔ مسجدوں اور خانقاہوں کے ساتھ ایسے اوقاف بھی ہوتے ہیں جو آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ غرض تو یہ ہے کہ ان کی آمدنی مسجدوں وغیرہ پر ہی صرف ہوتی رہے۔ ملحقہ مدرسوں کے ناچار طالب علموں

لو وظائف دیئے جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ متولیوں کی جیب میں جاتی ہے ایسے خیراتی ادارے ٹیکس سے بھی مستثنیٰ ہیں۔ نادر شاہ (۱۹۳۶ء) نے ان اوقاف کو حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ بات ملاؤں کو جو اوقاف کے متولی تھے سخت ناگوار گذری۔ نادر کی وفات کے بعد پھر سے ان کے قبضہ تصرف میں آگئے۔

”مشہد“ اور ”اماموں کے روضہ کے ساتھ اوقاف سے زر خطیر حاصل ہوتا تھا۔ رضا شاہ نے بیک جنٹس قسٹم ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور ان کی آمدنی کا معتد بہ حصہ تعلیمی مصارف پر لگا دیا گیا۔ مشہد میں امام رضا کے اوقاف کی آمدنی روضہ کی مرمت اور نو تعمیر شدہ ہسپتال پر صرف کی گئی اور اسی سے اور بھی رفاہ عامہ کے کام آب رسانی وغیرہ بھی سرانجام ہوئے۔ متولیوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں وہ اب حکومت کے وظیفہ خوار یا ملازم کی حیثیت میں آگئے۔ ملاؤں کی ویسی حکومت کا زور ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کی تفریق جو صفوی خاندان نے پیدا کر رکھی تھی۔ سردست رضا شاہ کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اتنا ہو کہ قانوناً تیرا ممنوع قرار دیا۔ راج دھرم ”اشنا عشریہ“ ہی رہا مگر اس میں غلو نہ رہا۔ احکام شریعت جن کو علماء مستقل قرار دیتے تھے تقویم پارینہ ہو گئے اور مجلس آئین ساز کو اختیار دیا گیا کہ خارجی حالات کے مناسب احکام اور امر و نواہی وضع کریں۔ اور ضرورتاً ان میں ترمیم و تنسیخ بھی کرتے رہیں اگرچہ رضا شاہ کے ذہن میں احکام شریعت اسلامیہ کی حقیقت واضح نہ تھی مگر اس کی جس مشترک نے بجا نہ لیا تھا کہ مرد و عورت آئین و قوانین جن کی حفاظت کے مدعی مجتہدین ہیں خارجی حالات کے تقاضہ کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان کو بدلنا چاہیے۔ سردست اس کے ہمسایہ ملک ترکی کی مثال تھی۔ انہی قوانین کو راج کر دیا۔ ۱۹۳۳ء تک کسی کلیدی مندرجہ اور عہدہ پر کوئی غیر ملکی نہ رہا۔ لیکن بطور ملازم ان کی خدمات کی ابھی تک ضرورت تھی۔ باذلہ اشیاء کے معاہدے جرمنی اور سوویت روس سے بھی باندھے۔ ہزاروں میل طویل سڑکیں اور

ایران ریلوے (TRANS-IRANIAN RAILWAY) کی تعمیر نے تجارت میں ترقی اور سفری سہولت پیدا کر دی۔

یہ سب قابل تحسین کام تو کیا۔ لیکن تاج شاہی کا بھی کچھ مطالبہ تھا۔ اکثر دیہات کی ملکیت ذاتی شاہ نے اپنے لئے محفوظ کر لی اور محاصل کی بڑی مقدار شاہی جیب خرچ تھی۔ پارلیمنٹ کو اس کے سوا اور کچھ کام نہ تھا کہ جو بات شاہ کے دماغ میں آئے اسے عملی جامہ پہنائے۔ سپاہ پر اس کو کلی اختیار تھا۔ اور اس کے ذریعہ کچھ نا واجب سختی بھی روار کھی۔ کسی شخص کا یا رانہ تھا کہ شاہ اور شاہ کے کسی عمل کے خلاف آواز بلند کرے۔ آزادی خیالات آزادی زبان کے بغیر بے معنی بات ہے۔ یہ بے معنی ہو کر رہ گئی۔ شاہ نے ایسے ادارے قائم کر دیے جو عوام کو شاہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں مصروف ہو گئے۔ شاہی اور جمہوریت میں ازلی بیر ہے۔ اس لئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ رضا شاہ کا زمانہ مطلق العنان شاہی کا تھا۔ بعض مفکرین کو اب شدت سے اس کا احساس ہو رہا تھا کہ رضا خاں پہلوی کرنل کی نصیحت اور مشورہ پر کیوں شروع سے عمل نہ کیا۔

عالمگیر جنگ دوم کا اعلان ہوا تو ایران نے اعلان کر دیا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا اور تمام محاربین سے اس کے مراسم دوستانہ بدستور قائم رہیں گے۔ شاہ ایک ناممکن بات کو ممکن بنانا چاہتا تھا۔ عالمگیر جنگ کے ہوتے عالمگیر مراسم دوستانہ کچھ وارڈ میرز کی مثل ہے۔ علاوہ ازیں ۱۹۳۸ء سے جرمنی کی تجارت ایران سے بہت بڑھ گئی تھی اور شاہ کو کمیونزم سے دلی نفرت تھی۔ شاہی کا تقاضہ بھی یہی کچھ تھا۔ ۱۹۲۱ء میں جرمنی نے سوویت روس اور برطانیہ عظمیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی براستہ کوہ قاف ایران میں داخل ہو کر سوویت روس اور برطانیہ کے مواصلات کو قطع کرنا چاہتا تھا اور برطانوی ردغنی زمین واقع ایران پر خود برطانیہ کے رسل و رسائل کا انحصار تھا۔ جرمنی کو ایران کی حیثیت کا صحیح اندازہ اچھی طرح معلوم تھا جو اس عالمگیر جنگ میں اس کو خود بخود حاصل ہو چکی تھی۔ جرمنی کے کارکن ایران

میں سرگرم عمل تھے۔ سوویت اور برطانیہ کی طرف سے یہ مطالبہ معقول تھا کہ غیر جانبداری کا تقاضہ ہے کہ حریف کو اجازت نہ دی جائے کہ ان کے خلاف مملکت ایران میں پیشہ دوانی کرے۔ رضا شاہ نے اس مطالبہ کی معقولیت اور سنجیدگی پر غور نہ کیا۔ اور اتحادیوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ رضا شاہ سے یہ توقع عبث ہے کہ اتحادیوں کا ساتھ دے گا جو ان کے مفاد کے لئے ضروری امر تھا۔ ۲۶ اگست ۱۹۴۱ء میں سوویت روس کی فوج شمال کی طرف سے اور برطانوی لشکر عراق کی جانب سے داخل ہو گیا۔ برطانیہ کے بحری بیڑہ نے اچانک ایرانی بحری فوج پر گولہ باری "خوزم شہر پر شروع کر دی اور اکثر ایرانی جہاز غرق ہو گئے۔ اتلاف جان بھی بے اندازہ ہوا۔ ایرانی سپاہ نے کچھ یونہی سا مقابلہ کیا۔ شاہ نے خود تین روزہ جھڑپوں کے بعد فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ لیکن شاہ اب برطانیہ کے پنجہ میں تھا۔ تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ پہلے جزیرہ موریشیس اور پھر جنوبی افریقہ میں نظر بند کیا گیا۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا سلوک ہوا۔ اسی قید و بند میں جان دیدی۔ اب ایران اتحادیوں کے قبضہ میں تھا۔ محمد رضا پسر رضا شاہ کو ایران کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وزیر اعظم جناب فروغی "ایک شاعر اور فلسفی مقرر ہوا۔ اس نے

۱۳۰۷ء میں طہران میں پیدا ہوا۔ فارس کی تو ماوری زبان تھی۔ عربی اور فرنگی پر بھی عبور تھا۔ تاریخ و جغرافیہ و علوم ادبی و سیاسی میں بھی مہارت تھی۔ اس کی تصنیفات شائع ہو چکی ہیں۔ ایک رباعی تیرکا درج کی جاتی ہے۔

خلقی است مرا بغیبت افتادہ بہ پوست
جمعی و گرم بحسطن مدحت گواست
صد شکر کہ آں نیم کہ می گوید خصم!
صد آہ کہ این نیم کہ می خواند دوست

اتحادیوں کے ہر ایک حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔ ۱۹۲۲ء میں روس، برطانیہ اور ایران میں معاہدہ اتحاد ثلاثہ پر (TREPARTILE TREATY OF ALLCANCE) تینوں حکومتوں کے نمائندگان نے دستخط کر دیے۔ اس معاہدہ کے ذریعہ اتحادیوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا موجودہ قبضہ فوجی قبضہ متصور نہ ہوگا۔ اور اختتام جنگ سے چھ ماہ کے بعد اتحادی افواج ایران خالی کر دیں گی۔

جرمنی کے حلیف اس جنگ میں اٹلی اور جاپان تھے۔ انکو محوری طاقت اور برطانیہ اور اس کے حلیف دول کو اتحادی کہتے ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں اٹلی اور جاپان سے اتحادیوں کے سیاسی تعلقات کے انقطاع کا اعلان کیا گیا۔ اور ایران سے اٹلی اور جاپان کی قومیت کے لوگ یا نکالے گئے یا نظر بند ہوئے (۱۹۴۳ء میں ایران نے بھی جرمنی کے خلاف اعلامیہ جنگ کر دیا اور اتحادی صف میں داخل ہو گیا۔)

ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اتحادی، شاہ اور ایران کے نام پر خود ہی کر رہے تھے۔
"خود کوزہ و خود کوزہ گرد خود گل کوزہ"

تہران کانفرنس (۱۹۴۳ء نومبر کے آخر میں صدر جمہوریہ امریکہ روز ویلٹ، (ROOSEVELT) اور صدر اعظم انگلستان چرچل (CHURCHILL)

اور کامریڈ سوویت روس سٹالین (STALIN) تہران میں وارد ہوئے اور تہران کانفرنس منعقد کی جہاں تک ایران کا تعلق ہے "نشست و گفت و برخاستند" البتہ ایران نے جو کچھ اتحادیوں کو دوران جنگ میں دی اسے شکریہ کے ساتھ تسلیم کیا گیا اور اتحادیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران کو اقتصادی مدد برابری ملے گی اور اختتام جنگ کے بعد تمام امور جو ایران سے تعلق رکھتے ہیں آئندہ کانفرنسوں میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ ایران کی آزادی اور شاہی اور ملکی حدود میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

غالباً اسی کانفرنس میں کچھ اور باتیں بھی ان شاطران سیاست میں ہوتی ہوں گی۔ ۱۹۴۴ء میں برطانوی اور امریکی "آئل کمپنیوں" (OIL COMPANIES) نے ایران کے جنوبی حصہ میں اور روس نے شمالی حصہ میں دوبارہ دوبارہ آئل کچھ مراعات کی درخواست

یہ واقعہ ماہ اکتوبر کا ہے اور ماہ دسمبر میں ایک بل پارلیمنٹ ایران نے پاس کرنا تھا۔
 اس کی رو سے تمام ایرانی افسران کو منع کیا گیا تھا کہ کسی غیر ملکی طاقت سے کوئی معاہدہ مراعات
 ایسی شے کے بارہ نہ کریں پارلیمنٹ نے دورانہ لیشی سے کام لیا اور درخواست مراعات
 اور بل کا فیصلہ اختتام جنگ کے بعد ملتوی کر دیا جبکہ چھ ماہ کے عرصہ میں تمام غیر ملکی فوج
 ایران خالی کر دے گی۔

پٹرول بہت بڑی مقدار میں یونائٹڈ سٹیٹ امریکہ،
 (PETROLEUM) (UNITED STATES) اور وینیزویلا (VENEZUELA)

اور سویت روس اور ایران میں دستیاب ہوتا ہے۔ قدیم زمانہ میں تیل ایران کی پہاڑیوں سے
 پھوٹ پھوٹ کر نکلتا اور جب کبھی بجلی یا اور کسی ذریعہ سے بھڑک اٹھتا تو لوگ حیرت زدہ
 یہ نظارہ دیکھتے اور مرعوب ہو کر سجدہ میں گر پڑتے۔ شاید آتش پرستی کی ابتدا یہی ہو مگر آگ
 بہت مفید شے ہے لیکن یہ حقیقت ثابت شدہ ہے کہ جب زرتشتی مذہب کو فروغ ہوا تو
 آتش کدے انہی چشموں کے قرب میں تعمیر ہوئے جہاں جو الالمکھی یا اگنی دیوتا کا نوری یا
 ناری چہرہ بے حجابانہ جلوہ نما رہتا۔ ان کے کھنڈروں میں اب بھی یہ حقیقت مشاہدہ ہو سکتی
 ہے۔ یہاں اب مسجد سلیمان ایسا وہ ہے جو انہی چشموں کے درمیان واقع ہے۔ دو سو
 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ یورپ سے ایک سیاح اس جگہ وارد ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ ایران کے
 اس طرف اس علاقہ کو نازندان کہتے ہیں۔ یہاں نطف (NAPHTA) پیدا ہوتا ہے
 یہ درو دیوار پر رنگ کا کام دیتا ہے اور لوگ اسے بدن پر بھی ملتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
 کہ جلدی بیماریوں اور رتخ کا بہترین علاج ہے اور ادنیٰ لمبقت کے لوگ اس سے تیل
 نکالتے ہیں جو جلانے کے کام آتا ہے۔

(انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں اہل یورپ کو تیل کی تلاش نے ایران کی طرف
 متوجہ کر دیا۔ ۱۹۰۸ء میں ایک برطانوی شہری ولیم ڈارسی (WILLIAM D. ARCY)
 کو حکومت ایران نے بہنوبی ایران میں تیل کی تلاش کی اجازت دے دی۔ اور تیل کی برآمد
 پر ساٹھ سال کا اجارہ بھی دے دیا۔ ۱۹۰۸ء میں خلیج فارس کے شمالی کونہ سے ایک سو پچیس

میل کے فاصلہ پر پہلا کنواں کھودا گیا اور دوسرے سال لندن میں اینگلو پرسیان آئل
(ANGLO PERSIAN OIL COMPANY) کی تشکیل ہوئی۔ اور جو مہاراجہ
”ڈارسی“ کو حاصل تھیں اس کمپنی نے خرید کر لیں۔ برطانوی گورنمنٹ نے ۱۹۱۳ء
اس کمپنی کو مالی امداد دینی شروع کی اور تیل کی پیداوار کا باؤنٹ فیصدی حصہ
محفوظ کر لیا۔ ۱۹۳۲ء تک حالات ہی ایسے ناسازگار تھے کہ ایرانی حکومت سب
ہوئے بھی خاموش تھی۔ اس سال اس نے پہلا معاہدہ اجارہ داری منسوخ کر دیا
میں نئے معاہدہ کی گفت و شنید ہوئی۔ نیا معاہدہ کمپنی اور ایرانی حکومت میں
اس کی اہم شقیں یہ ہیں:-

(۱) یہ معاہدہ ۱۹۹۳ء تک قابل عمل رہے گا۔

(۲) رعایت اجارہ صرف ایک لاکھ مربع میل کے رقبہ میں محدود رہے گی

(۳) خلیج فارس تک پائپ لائن (PIPE LINES) پر صرف کمپنی کی واحد اجارہ

نہ ہوگی۔

(۴) فی ٹن تیل پر خواہ ایران میں یا ایران سے باہر فروخت ہو کمپنی حکومت ایران

چار شلنگ ادا کرے گی۔

۱۹۲۵ء

(۵) ایک لاکھ اکرہ ہزار دو سو پچاس پاؤنڈ سٹرلنگ کے اوپر جو بھی منافع تقسیم ہوگا

اس کا بیس فیصدی سالانہ کمپنی حکومت ایران کی نذر کرے گی۔

(۶) اس تمام ادائیگی کی میزان کم از کم پچھتر لاکھ پاؤنڈ ہونی چاہیے۔

اس وقت خلیج فارس کے شمال میں پہاڑی علاقہ اور شمال مشرقی کونہ کے قریب

چھ مقامات پر تیل برآمد ہوتا ہے۔ یہاں سے کثیف تیل مختلف پائپ لائنوں کے ذریعہ

”آبادان“ میں آتا ہے۔ جو خلیج پر واقع ہے۔ اس جگہ مشینری، پائپ لائن اور ریفری

(REFINERY) جس سے تیل صاف ہو کر پٹرول کی صورت اختیار کرتا ہے۔ روزانہ لاکھ

بیرل سے زیادہ تیل کی مقدار مہیا کرتی ہے۔

اس کمپنی میں ملازمین ساٹھ ہزار سے زائد ایرانی اور برطانوی اور ہندی وغیرہ لوگ ہیں

ان کی وجہ سے ایک آباد شہر بن گیا ہے۔ ان کی صحت اور تعلیم وغیرہ کا مناسب
 کام بھی کمپنی ہی کرتی ہے۔ ۱۹۲۸ء میں کمپنی نے ۱۹۰۳-۱۹۰۵ (انیس کروڑ انایس
لاکھ پانچ ہزار) بیرل تیل نکالا۔ اور حکومت ایران کو رائلٹی (ROYALTY) اسی لاکھ پاؤنڈ سے
 وہ وصول ہوئی۔

آبادان کا تیسرا رمن کے مشرقی کرہ میں کمپنی تقسیم کرتی ہے۔ ۱۹۲۶ء میں دو
 کمپنیوں نے تیرہ کروڑ بتیس لاکھ ٹنٹیل (CAUDE) تیل بیس سال کے عرصہ خرید کا معاہدہ
 غرض تیل کی برآمد اور تقسیم کمپنی کے ہاتھ میں ہے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا ہے کہ ایران
 دوسرے حصوں میں تیل بکثرت موجود ہے۔ شمال مغربی حصہ میں نفت پائی گئی ہے۔
 بحیرہ خزر کے شمال مشرقی کناروں پر بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ ایران میں بھی تیل کے
 شے دریافت ہوئے ہیں۔ سوویت روس (USSR) اور برطانیہ اور امریکہ بھی ایرانی تیل
 طرف زیادہ دل چسپی لے رہے ہیں۔ روس شمالی صوبوں میں "ایرانی سوویت کمپنی"
 بنا چاہتا ہے اور برطانیہ اور امریکہ ملک کے جنوب مشرقی حصہ میں زیادہ سے زیادہ تیل
 برآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

اس روغنی مسئلہ نے جو صورت ہمارے زمانہ میں اختیار کی اس نے سردست ایران
 اور برطانیہ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ ایرانی عوام میں کافی سیاسی بیداری
 پیدا ہو چکی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وہ تمام معاہدات جو حکومت ایران سے برطانیہ نے
 کئے ایران کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ معاہدات اب ناقابل عمل ہیں۔ ایران
 ایرانیوں کا ہے اور اس کی پیداوار پر ایرانی قوم کا حق ہے اور تیل کے چشمے اور ہر ایک شے
 جان سے وابستہ ہے ایران کی قومی ملکیت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے یہ تجویز منظور کر لی۔
 اس وقت ڈاکٹر "مصدق" صدر پارلیمنٹ ہیں۔ اگرچہ سال خوردہ ہیں۔ مگر گرم و سرد
 زمانہ چشیدہ گرگ باران دیدہ ہیں۔ بہر حال انتظار ہے کہ اس گفت و شنید کا کیا نتیجہ
 نکلتا ہے جس میں امریکہ بھی حصے لے رہا ہے۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ اس روغنی
 مسئلہ نے کچھ ایسی سیاسی الجھنیں پیدا کر دی ہیں کہ شاید متوقع قیسر عالمگیر جنگ ہی سلجھا

کے -

اس سیاسی چپسیدگی کو سمجھنے کے لئے ان حالات اور واقعات کو بھی دیکھنا چاہیے جو ایران میں انہی چند سالوں میں رونما ہو چکے ہیں۔ ان پر تفصیلی بحث ہمارے موضوع خارج ہے۔ ان کا تعلق تو اریخ اقوام یورپ سے ہے جہاں تک دنیا اسلام کا تعلق ہے۔ ان واقعات میں سے قابل ذکر "کیونزیم" ہے۔ اس موضوع پر مخالف اور موافق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اثر دنیا اسلام پر کیا ہوا اور یہ بھی ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔

کیونزیم | سرزمین ایران کی اشاعت کے لئے نہایت مناسب واقع ہونی ان کے لئے یہ کوئی نیا نظریہ یا تحریک نہیں۔ اشاعت اسلامی سے پیشتر ایرانی شہنشاہ قباد کے عہد میں حکیم مزدک نے "حریت و مساوات" کا جو نظریہ پیش کیا اور قزوٹی کے عرصہ میں راج دھرم ہو گیا۔ بہت کچھ اصولاً کیونزیم سے ملتا جلتا ہے اس میں ضعیف کی آزادی پر بہت زور دیا گیا تھا۔ منطقی نتیجہ پر اس حد تک لایا گیا کہ یہ نظریہ ہندوستان کے "وام مارگ" کی صورت اختیار کر گیا۔ ہر ایک بے حیاتی علانیہ یہاں تک رواج پا گئی کہ اگر قباد کا جانشین نوشیروان حکیم بوزرجمہر کے مشورہ سے مزدک کو قتل نہ کرتا اور اس تحریک کو نہ دباتا تو ایرانی "شہنشاہیت" پیش از وقت تباہ ہو کر رہ جاتی لیکن یہ تحریک ایرانی اخلاق پر گہرا اثر کر چکی تھی اگر اسلام ایران پر نزدیک تر زمانہ میں قابض ہوتا تو ایران کے دوبارہ ابھرنے کی کوئی توقع نہ تھی۔

موجودہ "کیونزیم" اشتراکیت کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس کا اصل اصول بھی "حریت و مساوات" ہے۔ اس نظریہ کی اشاعت ایک یہودی "کارل مارکس" - (CARL MARKS)، آرمینی اور اس کے رفیق کار "انگلز" (ANGELS) سے منسوب ہے۔ اور معاشیات ہی اس کا موضوع ہے۔ "مارکس" نے "علم الاقتصاد" کے نظریوں پر بحث کرے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ "سرمایہ داری" (CAPITALISM) عالم انسانی کے ارتقا کی بدترین دشمن ہے۔ جب تک معاشیات کی تقسیم میں مساوات نہ ہوگی یہ حکومتیں

دوسرا یہ داری کے بل بوتے پر بعض سرمایہ دار "افراد" نے قائم کر رکھی ہیں ختم نہ ہوں گی اور یہ جنگ و جدل جو بحر و بر میں وسیع پیمانہ پر ہو رہا ہے ختم نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ایسی واضح ہے کہ معقولیت کے ساتھ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام اس کا زبردست حامی ہے۔ ہم نے اپنے مقالات میں اس پر جو ایک مستقل موضوع ہے کافی بحث کی ہے۔ اس لئے اس مقام پر اعادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن "کیونززم" کی موجودہ صورت میں کچھ خامیاں بھی ہیں اگر تلخ تجربہ کی بعد اس میں اصلاح کی کوشش نہ کی گئی تو "نمرو کی" مذہب ہو کر رہ جائے گا اور اگر اصلاح ہوتی رہی تو یہ اسلام کے قریب اور قریب تر آجائے گا۔

ہمارے زمانہ میں "کیونززم" سویٹ روس کا راج دھرم ہے۔ اس کے لائحہ عمل میں ہومن ملک گیری نہیں۔ اور اس کی نیک نیت کا اندازہ ان معاہدات سے بھی ہو سکتا ہے جو اس نے چین اور ایران سے باندھے۔ ایک معاہدہ ۱۹۲۱ء کا جو ایران سے ہوا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کارل مارکس نے "کیونستوں" کو پیش از وقت متنبہ کر دیا تھا۔ کہ اگر "کیونززم" نے عالمگیر مذہب کی صورت اختیار نہ کی تو "سربا یہ داری" اسے ختم کر دے گی۔ اس لئے سویٹ روس کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ اس تحریک کی اشاعت میں انتہائی کوشش کرے۔ اس میں اس کی اپنی زندگی بھی ہے۔

اس وقت چوٹی کی دوسرا یہ دار حکومتیں برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ یہ تحریک ان ممالک میں نہ پھیلے جو ان کے زیر اثر اقتدار ہیں۔ اور زیادہ تر یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت اور اکثریت ہے۔ جو کچھ اس وقت دنیا اسلام کی حالت زار ہے وہ سرمایہ دار حکومتوں کی پیدا کردہ ہے۔ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو سادہ لوح تاریخی واقعات سے بالکل بے خبر ہو۔ اس لئے ان کے چہرہ استبداد سے مخلصی کی ممکن صورت صرف یہی ہے کہ اصول حریت و مساوات و اخوت کو جس کی تشریح قرآن حکیم میں ہے، ہر ایک اسلامی

حکومت کی بنیاد یا دستور اساسی بنایا جائے۔

لینن (LENIN) اول صدر جمہوریہ روس اپنے ایک "لکچر" میں کہتا ہے کہ "اسلام اصولاً کمیونزم کے اقرب ہے مگر مسلمانوں میں 'خان' اور 'ملا' ہیں اور اس لئے وہ کئی سو سال ترقی یافتہ اقوام کے پیچھے رہ گئے۔" فاعتبروا یا اولی الابصار۔

ایک حقیقت جس کی طرف کارل مارکس نے "تجدد امثال" (DIALECTICS)

پر بحث کرتے ہوئے توجہ دلاتی ہے یہ ہے کہ "کمیونزم" کوئی مستقل تحریک نہیں۔ یہ ایک حربہ سرمایہ داری کا سرکھپنے کے لئے ہے۔ جب سرمایہ داری کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔

اس کے بعد اس کی کیا صورت ہوگی؟ کارل مارکس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اس نے اور اس کے رفیق کار نے جو اشارات بتائے ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اسلام ہوگا۔ ہر ایک انسانی حکومت ختم ہو جائے گی اور تمام عالم انسانی کا اتحاد ایک نقطہ وحدت پر ہوگا اور اس کی تمام تر توجہ تسخیر کائنات کی طرف لگ جائے گی۔ "ان فی ذلک لآیت لقوم یفکرون۔"

محمد رضا شاہ پہلوی | شاہ پور محمدیہ ۲ اکتوبر ۱۹۱۹ء میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم سوئٹزر لینڈ میں ہوئی۔ فرانسیسی اور انگریزی

زبان سے خوب واقف ہے۔ اور ورثی کھیلوں میں بھی ماہر ہے۔ ۱۹۳۹ء میں اس کا نکاح شاہ مصر فاروق اول کی ہمیشہ "قوزیہ" سے ہوا جس کے بطن سے ایک لڑکی شاہ ناز ۱۹۴۰ء میں پیدا ہوئی۔ لیکن میاں بیوی کے تعلقات زوجیت میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔

جب اس کا باپ رضا شاہ تخت و تاج سے محروم کیا گیا تو یہ ۱۹۴۱ء میں ہائین ہوا۔ اور آج بھی سی حکمران ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی سیاحت کر چکا ہے دونوں جگہ اس کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔

اس کا باپ رضا شاہ "کیونزوم" کے سخت خلاف تھا۔ شاہی اور کیونزوم میں فطری دشمنی ہے۔ اگر یہ جمہوریہ ایران کا صدر ہوتا تو شاید اتنا مخالفت نہ ہوتا کہ اپنے اور اپنی حکومت کے خلاف تاب سخن نہ تھی۔ لیکن کیونزوم ایران کے شمال میں جو پہلے ہی زار روس کا حلقہ اثر تھا مقبول ہو رہی تھی۔ ایران میں اور بھی سیاسی پارٹیاں تھیں لیکن ان میں "تودہ" (عوام) صوبہ آذربائیجان میں زور پر تھی۔ یہ پارٹی کیونزوم قبول کر چکی تھی۔ اس پارٹی نے علم بغاوت بلند کر دیا اور صوبہ آذربائیجان میں ایک خود مختار جمہوریہ قرار دیا۔ ۱۹۲۶ء میں ایران کی مرکزی حکومت نے آذربائیجان کی بغاوت فتر کرنے کے لئے فوج بھیجی۔ تودہ پارٹی کے بعض لیڈر روس میں بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ ۱۹۲۶ء میں پارلیمنٹ کا انتخاب شروع ہوا۔ تودہ پارٹی نے اس میں کچھ حصہ نہ لیا۔ پارلیمنٹ کی کچھ ایسی ہی حالت نازک تھی کہ ایک سال کے عرصہ میں "قوم" کے بعد براہیم حکیمی اور اس کے بعد عبدالحسین نے قلمدان وزارت سنبھالا اور کامیاب نہ ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ عوام کا مطالبہ کچھ اور تھا اور اقتدار کے بھوکوں کا مقصد کچھ اور تھا۔ عبدالحسین تو مارا گیا۔ مملکت میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ عبدالحسین کے بعد محمد سعید وزارت عظمیٰ پر فائز ہوا۔ یہ سب برطانوی امریکن اتحاد کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ تودہ پارٹی پھر زور پکڑ رہی تھی اور سویٹ روس بھی شاہ اور اس کی پارلیمنٹ کو متنبہ کر رہا تھا کہ امریکہ کو ایران میں فوجی مستقر بنانے کی اجازت دے رکھی ہے۔

۲۲ فروری ۱۹۲۹ء میں شاہ بہنا کامیاب قاتلانہ حملہ ہوا۔ الزام تودہ پارٹی پر لگایا گیا جو بھاگ کر جان بچا سکے وہ ایران کی حدود سے نکل گئے اور باقی قید ہوئے۔ آقاے جلال الدین ہمدانی متخلص بہ "سنا" استاد دانش گاہ نے قطعہ تاریخ لکھا چند اشعار حسب ذیل ہیں۔

سپاس بار خداے کریم مناں را	کہ از گزند نگہ داشت تحت سلطانی
ہزار شکر کہ از سوہ قصبہ الم ماند	سر شہنشاہ اندر پناہ یزدانی
ز سال واقعہ کردم سوال ہر کس ا	کہ بود در سر او دعوتے سخن دانی

نوشت کلک سنا از برائے تاریخش نمود دوست حق آن شاہ رانگھبانی
 اسی ۱۹۲۹ء میں شاہ نے پاکستان اور انگلستان اور امریکہ کا سفر کیا۔ ہر ایک
 جگہ خوب آؤ بھگت ہوئی۔ امریکہ کے سفر میں ایک بات خاص قابل ذکر ہے فیسکر
 کے ایک مدرسہ کا معائنہ کیا۔ اس میں ساٹھ خور سال لڑکے طالب علم تھے جن کی عمر
 بارہ سال سے متجاوز نہ تھی۔ شاہ نے کرہ ارض کے نقشہ کی طرف جو وہاں آویزاں تھا
 اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ "بتاؤ ایران کہاں ہے؟ کوئی بھی نہ بتا سکا۔
 مدیر دانش اپنے ماہنامہ (نومبر ۱۹۲۹ء) میں لکھتا ہے کہ:-

"اعلیٰ حضرت فرمودند امیدوارم روزی بایراں بیامید و باشاگردان
 ہمسال خود آشنا شوید و بہ بنید آن ہاراجج بامریکا چیز می دانند
 یاخیر"

بات تو معمولی ہے لیکن شاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ امریکہ کس حد تک ایران کے
 بارہ میں دلچسپی لیتا ہے اور یہ کہ ایرانی لڑکپن میں امریکہ کے حالات سے واقف
 ہوتے ہیں۔ یہ غرض مند ہیں اور وہ بے نیاز ہیں۔

آج کل ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ہے۔ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ اپنے
 ہم وطن غداروں کی طرف سے جو برطانوی رشوت خرید کر چکی ہے۔ روغنی مسئلہ
 کا حل خواہ کچھ ہی ہو۔ اور برطانیہ نے خلیج فارس میں جنگی گروزرس سے بھی دھمکی
 دی اور ہر ایک ممکن ناجائز وسیلہ مرعوب کرنے کے لئے استعمال کیا۔ لیکن یہ پیر
 سال خوردہ جو ان ہمت کچھ ایسا مستقل مزاج واقع ہوا ہے کہ اگر قوم نے اسی عزم بالجزم
 کے ساتھ اس کا ساتھ دیا جس کی ڈاکٹر مصدق نمائندگی کر رہا ہے تو ایران کی تاریخ کا
 ایک نیا باب کھلے گا۔

جو واقعات ایران میں آج کل رونما ہو رہے ہیں اور جس سرعت سے ظہور
 میں آرہے ہیں اگر ان کی رفتار کو دیکھا جائے تو قیاس غالب ہے کہ متوقع جنگ عظیم کا
 اگر ہمدردان بنی نوع انسان کے ٹالے سے نہ ٹلے بہت عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔

(ایران میں بظاہر روغنی مسئلہ مابہ النزاع ہے مگر پس منظر حقیقت کچھ اور ہے تیل کچھ ایسی شے نہیں کہ برطانیہ کو سستے یا مہنگے داموں پر نہ ملے اور صرف ایران ہی میں تیل محدود نہیں۔ بہت مقامات اور بھی ہیں۔ جہاں سے تیل ضرورت سے زیادہ برطانیہ کو مل سکتا ہے۔ یہ بھی تجارتی مال ہی ہے۔ یہ پس منظر سمجھنے کے لئے اس رقابت کو دیکھنا چاہئے جو دول یورپ اور امریکہ اور روس بالخصوص "اینگلو امریکن" (ANGLO-AMERICAN BLOCK) اور جمہوریہ روس میں کارفرما ہے۔ یہ بلاک اور جمہوریہ روس دو مختلف نظریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ سرمایہ داری (CAPITALISM) اور کمیونزم ہے۔)

سرمایہ داری اور کمیونزم ایک مستقل موضوع ہے۔ اور اس پر مخالف اور موافق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس وقت تقریباً تمام کرہ ارض پر سرمایہ داری کی حکومت ہے اور امریکہ اور برطانیہ چوٹی کے دو سرمایہ دار بلکہ سرمایہ داری کے اجارہ دار ہیں۔ اس لئے محکوم اقوام عالم بالخصوص ایشیائی اور افریقی کبھی "فلاح" کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک ان پر سرمایہ داری مسلط ہے۔ کمیونزم "سرمایہ داری کو تباہ کرنے پر تئی ہوئی ہے اس لئے جنگ ہے تو انہی دو نظریوں (IDEOLOGY) میں ہے، خواہ ان کی نمائندگی کوئی قوم کرے۔ سردست سرمایہ داری کی نمائندگی "اینگلو امریکن بلاک" اور کمیونزم کی جمہوریہ روس کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے کیا پتہ کی بات کہی ہے کہ برد ز قیامت ریاخواروں کی حالت ایسی ہوگی جیسے جنونی کی۔ "اینگلو امریکن بلاک" دراصل کمیونزم کو فنا کرنا چاہتا ہے مگر مقابلہ جمہوری روس کا کر رہا ہے۔ ان دیوالوں کو اتنی تمیز نہیں کہ کمیونزم روس سے بالکل بے نیاز ہے۔ اگر روس تباہ بھی ہو جائے کمیونزم تباہ نہیں ہوگا۔ اگر بغداد اور خلافت عباسیہ تباہ ہوئی تو کیا اسلام مٹ گیا؟ روس نے تو صرف کمیونزم کو اپنا یا ہے۔ اور ہر ایک قوم اپنا سکتی ہے۔ اور یہ کوئی نیا نظریہ بھی نہیں البتہ اسے نئی علمی صورت میں کارل مارکس اور اس کے رفیق انگلز نے ڈھالا اور خود کارل مارکس کہتا ہے کہ ہر ایک انسانی علم و فن تغیرات (DIALECTICS) کی زد سے باہر نہیں ہو سکتا اور قانون

ارتقا کا یہی تقاضا ہے۔ اس لئے کیونززم کوئی مستقل شے
اس لئے سرمایہ داری کو ضرور ختم کرنا ہے اور ساتھ ہی خود بھی ختم ہو جائے گی اور پھر کوئی اور
صورت ہوگی۔

اینگلو امریکن بلاک کے زعم ناقص ہیں اگر روس تباہ ہو جائے تو کیونززم بھی
ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج تک یہ نام نہاد مسیحی اور دجالی سرمایہ داری یہ
کہہ رہی کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اس لئے اگر مسلمان تباہ حاکم
تو اسلام بھی تباہ ہو جائے گا۔

میں تو سمجھنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ کیونززم "اللہ نے اسلام
ایک حیرت عطا فرمایا ہے جو سرمایہ داری کے ساتھ سرمایہ داروں کو بھی کچل کر رکھ دے
اس کے بعد اسلام "یکسر جہاں بگیر دے منت سپاہی"

ایران کے واقعات حاضرہ کو اینگلو امریکن بلاک اور جمہوریہ روس کا اعصابی
ہی سمجھنا چاہیے۔ اور ان واقعات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ
واقعات گزشتہ بیان کرتے ہیں۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ خاندان قاچار کے حاکم پر قلمدان وزارت عظمیٰ سید ضیاء الدین
طباطبائی کے ہاتھ میں تھا۔ اور اسی نے رضا خاں پہلوی کو دعوت سلطنت دی تھی۔ لیکن
رضا شاہ سے نہ بنی تو شاہ نے سید ضیاء کو معزول کر کے خود وزارت بھی سنبھال لی۔
اول جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور اتحادیوں نے ایران پر قبضہ کر لیا تو اختتام جنگ کے
برطانیہ اور زار روس کی حکومت نے سمجھوتہ کے ذریعہ ایران کو دو حلقہ ہائے اثر میں تقسیم
کر لیا۔ خوش قسمتی سے زار کی حکومت کا تختہ سویت روس نے الٹ دیا۔ اور معاہدہ
کے ذریعہ جمہوریہ روس اپنے تمام حقوق سے دست بردار ہو گئی۔ اگرچہ اتحادی اس امر
رضامند ہو گئے تھے کہ اختتام جنگ کے چھ ماہ بعد ان کی فوج ایران خالی کر دے گی اور
کر دیا مگر برطانیہ کی حیثیت ایران میں مختلف تھی۔ "اینگلو پرشین آئل کمپنی" کی آرٹ میں
پہلے اثر و اقتدار برطانیہ کا رہا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے لئے میدان خالی تھا۔ اور

بل کے بعد برطانوی اثر و اقتدار و تسلط اور مستحکم ہو گیا۔ اب سویت روس جو کمیونزم کی
 شدہ تھی اور برطانیہ جو سرمایہ داری کی نمائندہ حکومت تھی مقابلہ میں آگئیں۔ جمہوریہ
 روس اگرچہ اپنے تمام سیاسی حقوق سے معاہدہ ۱۹۲۱ء کی رو سے دست بردار ہو گیا مگر
 برطانیہ نے اپنے حقوق کے تحفظ کی گرفت اور مضبوط کر دی اس لئے جمہوریہ روس کو یہ
 خطرہ بجا تھا کہ متوقع جنگ میں اینگلو امریکن بلاک اس کی ناکہ بندی ایران میں خاطر خواہ کر
 سکتا ہے۔ عراق اور شام میں شریفی خاندان کی حکومت بھی برطانیہ کی قائم کردہ تھی
 اور ہے۔ اور موصل کے تیل کی اجارہ داری اینگلو پرشین کمپنی کی تھی اور ہے۔ ہندوستان
 تسلط برطانیہ کا تھا۔ افغانستان میں بادشاہ گری بھی تھی۔ غرض جمہوریہ روس کا ناطقہ
 ناکہ بندی ہر طرف سے خاطر خواہ ہو چکی تھی۔ اب جمہوریہ روس کو اس کے سوا چارہ نہ تھا
 اس ناکہ بندی کو توڑے۔ معاہدہ ۲۴ فروری ۱۹۲۱ء کی دفعہ چھ (ARTICLE 6) میں
 ہی خطرہ کے پیش نظر کافی سدباب کیا گیا تھا کہ کوئی تیسری طاقت غاصبانہ جدوجہد
 جی طاقت کے بل بوتے پر ایران میں کرے اور ایسی طاقت ایرانی سرزمین کو جمہوریہ
 روس کے خلاف استعمال کرنے کی خواہش کرے یا اگر کوئی خارجی طاقت یا اس کے حلیف
 جمہوریہ روس کی حدود کے لئے خطرہ کا موجب ہو اور ایرانی حکومت اس خطرہ کا سدباب
 کرنے کے ناقابل ہو جس کی طرف جمہوریہ روس اس کو ایک دفعہ متوجہ کرے گی تو جمہوریہ
 روس کا حق ہوگا کہ ایران میں بغرض مدافعت اپنی فوج داخل کرے۔ البتہ یہ ذمہ داری
 جمہوریہ روس پر ہے کہ جو نہی کہ یہ خطرہ بفع ہو جائے اپنی فوج ایران سے واپس بلا لے گا۔
 یہ کوئی پوشیدہ راز نہیں کہ ایران اور شام اور عراق اور لبنان میں تو مکمل ناکہ بندی
 ہو چکی تھی۔ یونان اور جمہوریہ ترکی بھی اوقیانوسی چارٹر (ATLANTIC CHARTER) میں
 شامل ہو گئی تو ایشیا میں اس طرف جمہوریہ روس کا ناکہ بند ہو جاتے گا۔ اب رہا
 افغانستان اور تبت اور چین اور ہندوستان یا منقسم بھارت اور پاکستان۔
 چین میں اینگلو امریکن منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ اور اسی کی تکمیل کے لئے اینگلو امریکن
 بلاک اور اس کے حلیف کوریا میں دولت مشترکہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ یورپ

میں جو ممالک فرانس وغیرہ "اٹلانٹک چارٹر" میں شامل ہو چکے ہیں وہ بھی اس
 ناکہ بندی کے منصوبہ میں شامل ہیں۔ بھارت بساط سیاست پر اپنی پرانی چال چل
 رہا ہے اور ہر ممکن کوشش اینگلو امریکن بلاک کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اس کو بھی
 اپنے ساتھ گانٹھا جائے اور ہر ایک منہ مانگی رعایت دے دی گئی۔ اور بھارت
 کی تشکیلات کے وقت برطانیہ کو یقین تھا کہ بھارت اس کا ساتھ متوقع جنگ میں
 دے گا۔ لیکن بھارت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور علاوہ روس سے
 تو نہیں مگر چین سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تاکہ اینگلو امریکن بلاک جو "یو این او"
 اور اس کے پھوٹوں کی ملی بھگت ہے خائف ہو کر اسے خوش کرنے کی طرف مائل ہو۔
 اس وقت جس طرح اسے خوش کیا گیا اتنا ہی "پاکستان" کو نقصان پہنچا۔ تنازعہ
 کشمیر کا تصفیہ ایک سیاسی ڈھونگ ہے۔ نیشنل کمیشن، ڈکسن اور گراہم کا دراصل
 مطلب کچھ اور تھا۔ ابھی تک یہ سیاسی منصوبہ راز ہی میں ہے۔ شاید ارباب حکومت
 پاکستان اس سے آگاہ ہوں۔ اہل پاکستان اور مجھ جیسا روزانہ پڑھتے تو اس بھی واقف
 نہیں۔ لیکن ہم اتنا بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ "یو این او" کا منشا ہرگز ہرگز تصفیہ تنازعہ
 کشمیر نہیں۔ البتہ وہ بھارت اور پاکستان کی طرف سے جمہوریہ روس کی ناکہ بندی
 کی فکر میں ہے۔ اتنی بات گراہم نے بھی دہی زبان سے کہدی کہ میں نے پنڈت نہرو
 کو مشورہ دیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر میں اسمبلی کی کارروائی سر دست ملتوی
 کر دے۔ یعنی جب حالات سازگار ہوں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ بھی قیاس
 غالب ہے کہ بھارت کو اینگلو امریکن بلاک نے دھمکی بھی دی ہو کہ اگر نہرو کا یہ رویہ رہا
 کہ وہ چین کی حمایت میں علی الرغم اینگلو امریکن بلاک کی کر رہا ہے تو ہم پاکستان کو
 کسی فوجی اقدام سے باز نہیں رکھ سکتے جو وہ اپنے دفاع کی خاطر کرے۔ بہر حال
 پنڈت نہرو اینگلو امریکن بلاک کی بے بسی سے واقف ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کہتا
 کہ یہ بلاک اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو کر رہ جائے۔ اس صورت میں بھی علاوہ
 اینگلو امریکن بلاک پاکستان کی نہیں کر سکتا۔ یہ اس بلاک اور جمہوریہ روس کا سیاسی

نذیر ہی ہے کہ علانیہ وہ ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے۔ چین کی طرف سے روس کی ناکہ بندی کا منصوبہ ٹوٹ چکا ہے۔ سردست ہم ایران کے حالات لکھ رہے ہیں۔ یہی ناکہ بندی ہے جو یہ بلاک چاہتا ہے اور اگر جنگ چھڑ گئی تو روس پر ایران اور عراق اور شام کی طرف سے بیک وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ان ممالک کی فوجی قوت بھی اس بلاک کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی یہ سب اس کے آلہ کار ہوں۔ مگر صوبہ آذربائیجان جو اس مثلث کا کونہ ہے۔ جہاں عراق و شام و ایران کے اضلاع ملتے ہیں۔ جمہوریہ روس کے زیر اثر ہے۔

(اس وقت ایران میں تین پارٹیاں سرگرم عمل ہیں۔ ایک جمہوریہ روس کی طرف مالک ہے۔ اس کو "تودہ" کہتے ہیں۔ اردو میں بھی لفظ "تودہ" استعمال ہوتا ہے۔ کسی شے کی اکثریت یا ڈھیر، انگریزی میں صحیح ترجمہ (MASS) ہے۔ اس سے مراد عوام ہیں دوسری پارٹی اینگلو امریکن بلاک کی حامی ہے۔ تیسری پارٹی محض یا تو ابن الوقت ہے یا وہ جو قوم و ملت کی بہبودی کے جذبے سے خالی نہیں۔ تودہ پارٹی سٹالینسٹ (COMMUNIST) پارٹی ہے اور بلوکیت اور کمیونزم میں ازلی بیر ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے عہد میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو یہ گوشہ گمنامی میں چھپ گئے۔ اور اکثر قید و بند کی سختی جھیلتے رہے۔ لیکن ۱۹۲۱ء میں جب روسی فوج ایران میں داخل ہوئی تو ان کو بھی امان ملی۔ جنوری ۱۹۲۲ء میں اس کی باضابطہ تشکیل ہوئی۔ اس کے بانیوں میں سے رضا رستہ (جو جیل سے رست گاری حاصل کر چکا تھا)، ابوالقاسم اسدی اور ایرج سکندری اور ڈاکٹر مرتضیٰ یزدی اور ڈاکٹر رضا اور جعفری پشاور سے پشاور پشاور آذربائیجان میں ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوا۔ ہوش سنبھالی تو پورا شوب زندگی کا آغاز ہوا۔ ایران میں اس پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو ۱۹۰۴ء میں باکو چلا گیا۔ ۱۹۱۸ء میں سرخ فوج کے ساتھ بنام سید جعفر ایران میں آیا۔ ۱۹۲۰ء میں انقلابی گیلان جمہوریت کا وزیر امور داخلہ مقرر ہوا۔ یہ ختم ہوئی تو روس چلا گیا اور یہاں سلطان زادہ کے لقب سے شہرت پائی۔ اور کمینٹرن (COMINTERN) کے داعی کی حیثیت

سے مشرق وسطیٰ اور ابی سینیا۔ (ABY SSINIA) تک گیا۔ جہاں گیبیاہ ظاہر
 رہا کہ سوویت کے ظلم و ستم سے پناہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ۱۹۳۶ء میں پیشاوری ایران میں
 ہوا۔ مگر کاشان میں نظر بند کیا گیا۔ ۱۹۴۱ء میں عام (AMNESTY) میں
 اسے بھی رہائی ملی۔ طہران میں آیا اور روزنامہ "اظہر" جاری کیا اور تودہ پارٹی کی تشکیل
 مدد دی۔

اس پارٹی کا آرگن (ORGAN) "رہبر" زیر اہدات ایرج سکندری شائع ہوا
 تھا۔ حکومت نے ضبط کیا تو روزنامہ "رزم" نے اس کی جگہ لے لی۔ ڈاکٹر کشاورز مدیر
 تھا۔ ان کے علاوہ "مردم" اور "رستی" اور "طہر" اور "داند" قابل ہاتھوں میں شائع
 ہو رہے تھے جو "تودہ" کے بانیوں میں سے ہیں۔ تودہ کی عملی سرگرمی کے مرکز تبریز،
 اردبیل، مراغہ، رضائیہ، کوہی، مشہد، شہمان، شاہرود، دامغان، قزوین
 شمالی ایران میں تھے۔ جہاں "سوویت" کا اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا۔ اینگلو ایرانی
 آئل کمپنی کے مزدوروں میں بھی کمیونزم کی اشاعت کی کوشش کی مگر برطانیہ نے کار
 نہ ہونے دی۔

برطانیہ کے حامی بھی ایران میں موجود ہیں۔ "ستارہ" اور "بخت" اور دوسرے
 روزنامے یا تو برطانیہ یا امریکہ کے زیر اثر شائع ہو رہے ہیں اور تودہ کی مخالفت میں
 مضامین آب و تاب سے شائع کرتے رہے۔ سید ضیاء الدین طباطبائی جلاوطن تھا
 ۱۹۴۳ء میں واپس ایران آیا۔ ایک شخص مظفر فیروز نے اپنی خدمات پیش کیں
 یہ ایک بااثر خاندان کا رکن تھا۔ سید ضیاء نے ایک روزنامہ "امروز" جاری کیا مگر
 فیروز ہی کے زیر اہتمام اس کا اجرا ہوا۔ مظفر فیروز کو روپیہ کالا لچ تھا۔ سید کی خدمت
 میں یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو تودہ پارٹی سے جلا۔ ۱۹۴۶ء میں بحیثیت سفیر ایران
 ماسکو میں متعین ہوا مگر معلوم نہیں کہ راستہ میں کیا اتفاق پڑی کہ ایسا عفا ہوا کہ آ
 تک اس کا سراغ نہ ملا۔

قوام الملک | قوام السلطنت شمالی ایران میں مہتمول شخص تھا۔ ۱۹۴۲ء میں

میرا عظیم ہوا یہ بھی "تودہ" کی دل دہی کرتا رہا۔ بعض مخالف تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد سویت حلقہ اثر میں بہت تھی۔ اس کے تحفظ کے لئے تودہ کی مدارات ضروری تھی۔ اگرچہ ملائیہ تودہ میں شامل نہ ہوا مگر مخالف فریق سے ایسے ہمدردوں کو کسی وجہ سے گانتھ لینا بھی تودہ کی فسخ ہی تھی۔ تودہ کا نصب العین مغربی استعمار کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کرنا تھا اور اس طرح بالواسطہ سویت روس کو تقویت ملتی رہی۔

اگر مجلس میں ان کی نمائندگی اقلیت میں تھی مگر یہ منظم جماعت تھی اور سب ایک بیان اور ہم خیال تھے۔ مخالف فریق اگرچہ اکثریت میں تھا مگر سب بھانت بھانت کی دلیاں بولتے۔ اس لئے اگر تودہ کا کوئی مطالبہ منظور نہ ہوتا تو وہ مخالف فریق کے مطالبات کو ناقابل عمل بنا دیتے۔ اگرچہ طبقہ امراتودہ کے خلاف تھا۔ مگر عوام کی حمایت سے ہمیشہ حاصل رہی۔ سویت روس کو بوجہ قرب اینگلو امریکن بلاک پر فوقیت حاصل تھی۔ صرف صوبہ آذربائیجان ہی اس کا مددگار تھا۔ حکومت باہر سے مشیر (ADVISERS) اکثر ہنگو اتی۔ تودہ اس روش کے خلاف تھا۔ خواہ یہ انگریزوں یا امریکی یا فرانسیسی سب ایک ہی قبیلے کے بٹے تھے۔ تودہ پریس سختی سے اینگلو ایرانی آئل کمپنی پر حملے کرتا رہا۔ روزنامہ "رہبر" پیش پیش تھا۔ "بحرین" کو بھی ایران کی سلطنت علی الرغم برطانیہ کہتا رہا۔ تودہ اخبار کا ہدف ملامت زیادہ تر سید ضیاء الدین طباطبائی تھا جو ملائیہ برطانیہ کی حمایت کر رہا تھا اس کو فدا کر دیا گیا۔ اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اسے غداری کی سزا دی جائے اور اگر حکومت قاصر رہے تو تودہ کے ہاتھ لے لیے ہیں۔ کرد اور اہل آذربائیجان تو کلام تودہ کے مددگار تھے۔ مگر تودہ نے کبھی غلامیہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ سویت روس کی آلہ کار ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۲ء میں روزنامہ "رہبر" نے اس الزام کی تردید کی اور لکھا کہ عام رائے یہ ہے کہ تودہ سویت کیونسٹ کا آرگن ہے۔ تودہ ایرانیوں کا ہے اور ایرانیوں کی بہبودی کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ایران کا دفاع اور ایران کی آزادی اس کا مقصد و حید ہے۔ تودہ امریکہ کی طرح ایران میں اصول جمہوریت رائج کرنا چاہتا ہے اگر ہمارے پارٹی سویت کے حق میں مقلے لکھتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ فیسٹ (FASCISTS) کے خلاف خوب لڑتے ہیں اور ہمیں یہ

بھی یقین ہے کہ سویٹ گورنمنٹ نہ تو ایران میں پولشویک گورنمنٹ قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے کسی حصہ پر قابض ہونا چاہتی ہے۔

لیکن ایران میں تو وہ کے مخالف عناصر بھی بہت ہے۔ اول تو شاہی، جمہوریت بالخصوص اشتراکیت نہ شاہی برداشت کر سکتی ہے اور نہ اشتراکیت شاہی۔ رضا شاہ کے عہد میں کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اس لئے جو بھی بغرض اصلاح اس نے چاہا کسی نے مخالفت نہ کی۔ اصلاح کے حالات ہم لکھ چکے ہیں۔ لیکن موجودہ شاہ کے زمانہ میں کمیونزم ایران کے طول و عرض میں شائع ہو چکی ہے اور شمالی ایران تو براہ راست اس کے زیر اثر ہے۔ رضا شاہ پہلے کے عہد میں اوقات سخت شاہ ضبط ہو چکے تھے اور مشائخ حکومت کے وظیفہ خوار ہو کر رہ گئے تھے۔ جب رضا شاہ جلاوطن ہوا تو حکومت کو تو نہ سوجھی، برطانیہ نے پھر سے مشائخ اور مجتہدین کا اقتدار قائم کر دیا۔ اس لئے کہ یہ کمیونزم کے سخت مخالف ہیں۔ کمیونزم کی حکومت کی بھی ایسی ہی دشمن ہے جیسی دنیوی کی۔ اس لئے شاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ ملازم اور ملکیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شاہی کا قیام اور استقلال "ملازم" کی حمایت سے ممکن ہے اور ملازم کو فروغ شاہی کی سرپرستی میں ممکن ہے۔ اس لئے دونوں پھڑے پھڑے مل گئے جو باتیں رضا شاہ نے ممنوع قرار دی تھیں پھر سر بازار روا ہو گئیں۔ اور وہی مجالس عوامی اور وہی مائتھی جلوس وغیرہ۔

شاہ کو مشورہ دیا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں دورہ کرتے ہوئے کہیں کہیں تقریر بھی کیا کرے اور جہاں کہیں شورش ہو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ شاہ نے اس مشورہ پر عمل کیا اور خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ سب سے بڑھ کر فوج شاہ سے وابستہ تھی اور وہ بھی اکثر افسروں اور فوجیوں سے ملتا مگر کمیونزم اور کمیونسٹوں کے خلاف پیشوایان دین کی حمایت سب سے بڑھ کر موثر ثابت ہوئی۔ رضا شاہ کے عہد میں مشہور مجتہد حاجی آغا حسین "قومی جلاوطن ہوئے" ۱۹۲۳ء میں ایران میں واپس آیا۔ مشائخ اور علماء اور ان کے زیر اثر عوام گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم علی سوملی خود اسے ملنے جاتا رہا اور اس کی شاہ سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اسی طرح دیگر علماء کو بھی باریابی کا موقعہ ملتا رہا۔ "نور دانش"

"اسلام" اور "وظائف" بھی شائع ہو رہے تھے۔ اور عوام کی توجہ زیادہ تر مذہبی امور کی طرف متعلق کی گئی۔ اور مذہب سیاسیات کا غلام ہو کر رہ گیا۔ سید ضیاء الدین نے ان کی قیادت سنبھالی۔ اس نے ایک سیاسی پارٹی "وطن کی بھی طرح ڈالی۔ اور "یندوئے اسے اسمبلی کے لئے اپنا نامزدہ منتخب کیا۔ ایک سال بعد وطن کی جگہ "ارادہ ملی" شائع ہوا۔ اور اب یہ تودہ کے مقابل پارٹی کھڑی کی گئی۔ اور دونوں میدان سیاست میں اتر آئیں۔ ادارہ ملی کی صدارت رضاقلی ہدایت نور الملک کو دی گئی۔ سید ضیاء الدین کلیدی منصب جنرل سیکرٹری پرفائزر ہا۔ سویٹ روس نے پٹرولیم کے لئے وہی مطالبہ شمالی ایران میں کیا جو برطانیہ کو جنوبی ایران میں حاصل تھا۔ تو سید ضیاء الدین نے سخت مخالفت کی۔ عوام نے ساتھ دیا۔ لوگ بھول گئے کہ سید برطانیہ کا پٹھو ہے۔ عوام کی ذہنیت ہی ایسی ہوتی ہے۔

ضیاء نے اپنے اخبار میں لکھا کہ۔

"ایران میں اس وقت دو امپریلزم برطانیہ اور سویٹ سزرگم عمل میں۔ برطانوی امپریلزم تو اسی پر قانع ہے جو اس کے پاس ہے اور زیادہ کی خواہش نہیں کرتی۔ مگر اس کے خلاف سوئٹ اپنا اقتدار وسیع تر کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہماری قوم ارادہ کرے کہ سویٹ کی مخالفت کی جائے تو برطانیہ ضرور اپنے معاہدوں کا پاس کرے گا اور ایران کی آزادی پر حملہ ہو تو مدافعت بھی کرے گا۔ اس کے خلاف سویٹ ضرور کچھ اپنے مفاد کے لئے اور بھی مطالبہ کرے گا۔ اگر شمالی صوبوں میں سویٹ کو اپنا اثر و اقتدار قائم رکھنے کی اجازت دی گئی تو برطانیہ جنوبی ایران میں بھی کچھ کرے گا۔ اور اس طرح ایران ان دونوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔"

سید ضیاء الدین نے حکومت کو بھی یہی مشورہ دیا کہ نہ صرف برطانیہ بلکہ امریکہ سے بھی فوجی امداد ضرور طلب کی جائے۔ اس میں کچھ سکی نہیں۔ فرانس، بلجیم، پولینڈ، ناروے نے بھی تو ان سے امداد طلب کی تھی اور اپنی آزادی بحال کر لی۔ حکومت ایران کی توجہ امریکہ کی طرف زیادہ تھی۔ شاید یہ کمتر برائی تھی۔ ایرانی طلباء تحصیل علم و فنون کے لئے امریکی یونیورسٹی

میں ہی جاتے رہے۔ اور واپسی پر امریکہ ہی کے گن گاتے رہے ۱۹۲۶ء میں امریکی سفیر جارج۔ وی۔ ایلن (GEORGE V. ALLEN) نے ایران میں قدم رکھتے ہی ارباب حکومت ایران کو گانٹھنا شروع کیا اور یہ ذہن نشین کیا کہ دودلی سے کام نہ چلے گا اور محض غیر جانبدارانہ پالیسی بھی مفید نہیں۔ اس وقت توام الملک وزیر اعظم تھا۔ امریکہ کی مدد سے آذربائیجان میں اپنی فوجیں بھی داخل کر دیں۔ آذربائیجان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر رکھا تھا۔ مگر ایران سے سے وابستگی بھی قائم رکھی رہی۔ پشاور کی صدر جمہوریہ آذربائیجان تھا۔ مگر بھاگتے ہی بن پٹری اور سویت روس میں پناہ لی۔ اور آخر موٹر کے حادثہ میں باکو کے قریب مر گیا۔ ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۶ء کو مجلس نے سویت روس کے مطالبات و مراعات و بارہ پروٹیم مسترد کر دیئے۔ اب ایران اور سویت میں کشیدگی بڑھ گئی۔

سویت روس ایرانی حکومت کو مطعون کر رہی تھی کہ معاہدہ ۱۹۲۱ء کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی فوج کی تربیت اس نظر سے کر رہا ہے تاکہ کسی وقت سویت روس کے خلاف بطور آہ کار استعمال کر سکے۔ ۳۱ جنوری اور پھر ۲۸ مارچ اور بعد ازاں ۸ اپریل ۱۹۲۸ء میں بار بار سویت نے ایرانی حکومت کو توجہ دلائی کہ دونوں مملکتوں میں دوستی اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے اگر تیسری طاقت کو ایران کے خانگی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دی جائے اگر ایرانی حکومت کی یہی قابل اعتراض روش جاری رہی تو سویت روس سیاسی تعلقات منقطع کر دے گا۔ سویت اخبار "پراوڈا" (PRAVDA) اور "ازوسٹیا" (IZESTIA) نے اپنی ۲ اپریل ۱۹۲۸ء کی شیوع میں یہاں تک لکھ دیا کہ امریکی فوجی مشیر اور امریکی اثر و رسوخ ایران میں "نازی سرگرمی" (NAZI ACTIVITIES) کا عملاً مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایرانی صحافت جو اینگلو ایرانی بلاک کی حامی تھی سویت کو ہدف ملامت بنا رہی تھی کہ معاہدہ ۱۹۲۱ء کی آڑ لے کر اپنی فوج ایران میں داخل کرنا چاہتا ہے جو فوج کی تقریب پر ممالک خارجہ کے سفیر حسب معمول شامل ہوتے مگر سفیر سویت غیر حاضر رہا۔

انہوں نے اب خاص موضوع بحث عوام کا تھیں۔ طہران میں اس خبر نے پریشانی پھیلا دی کہ آذربائیجان کے "فدائی" جو اب "تودہ" کے نام سے موسوم ہیں، کثرت سے آرہے ہیں۔ اور مسلح مہاجرین سویت علاقہ سے بھی ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایران کے اخباروں نے یہ فقرہ بھی چست کر دیا کہ انقلابی لہر گورجان سے شروع ہو کر مازندران اور آصفہان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے (دسمبر ۱۹۴۷ء کو قوام الملک کی جگہ ابراہیم حکیمی نے قلمدان وزارت سنبھال لیا۔ یہ بھی اینگلو امریکن بلاک کے ہاتھ میں کھیلنا زیادہ مازندران میں تین سو "تودہ" پارٹی کے آدمی گرفتار ہوئے۔ وزارت نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی ایرانی اور امریکی تعلقات دوستانہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ ۲۰ جون ۱۹۴۷ء میں ایران اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہوا جس کی تصدیق "مجلس" نے ۱۷ فروری ۱۹۴۸ء میں کی۔ اس معاہدہ کی رو سے امریکی اسلحہ کی درآمد ایران میں تیز تر ہو گئی۔ امریکی ملٹری مشن کا عملہ بڑھتا گیا۔ ۲۰ مارچ ۱۹۴۹ء تک اس میں کافی اضافہ ہو گیا جس میں اٹھارہ کمیشنڈ (COMMISSIONED) افسر تھے اس میں کچھ شک نہیں کہ ایرانی حکومت خواہ کتنے ہی عذر لنگ پیش کرتی رہی معاہدہ ۱۹۲۱ء کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اینگلو امریکن بلاک حکومت ایران پر چھا چکا تھا۔ ان کے ہاں گھی کے چراغ جل رہے تھے۔ تاکہ بندی کا منصوبہ خاطر خواہ مکمل ہو رہا تھا۔ سویت روس ان حالات سے غافل نہ تھا۔ اس کی بساط سیاست کا مہرہ حکومت نہ کبھی پہلے تھی اور نہ اب تھی۔ یہ مہرہ جسے وہ کامیابی سے ہر ایک جگہ بڑھاتا رہا "عوام" ہے جسے ایران میں تودہ پارٹی سے موسوم کیا جاتا ہے۔

سرمایہ دار حکومتوں کے آلہ کار ہمیشہ نواب اور نواب زادے اور جاگیر دار رہے ہیں۔ اور یہ حکومتیں ہمیشہ نواب اور جاگیر دار بلکہ بادشاہ گر رہی ہیں۔ لیکن یہ چند افراد ہی ہوتے ہیں۔ جب تک عوام میں سیاسی شعور پیدا نہیں ہوتا اس طرح کام خاطر خواہ ہوتا رہتا ہے اور یہ نواب وغیرہ عوام کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جب

اکثریت عوام میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آلات جو سرمایہ داری گھڑتی رہتی ہے
 بے کار ہو جاتے ہیں۔ (اینگلو امریکن بلاک حکومت ایران کو سویٹ روس کے مقابلے
 میں لاچکا تھا۔ ادھر سویٹ روس عوام کو حکومت کے خلاف ابھار رہا تھا اور بالو
 اینگلو امریکن بلاک کو شکست دینا چاہتا تھا۔ آخر چند چالوں کے بعد سویٹ روس
 کا حریف مات کھا گیا۔ اور بری طرح پٹ گیا۔ لیکن "دنیا بامید قائم" ابھی ہاتھ پائی
 مار رہا ہے اور ہر ایک تنکے کا سہارا لے رہا ہے۔)

ان تاریخی واقعات نے ثابت کر دیا کہ "ختم نبوت" کا مفہوم واضح تر ہو رہا
 ہے۔ ہر ایک حکومت خواہ دنیوی ہو یا دینی ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو کر رہے گی۔ حکومتوں
 جمہور عوام میں ہر ایک جگہ کش مکش جاری ہے۔ اور ہم ایک ایسے طوفانی دور
 سے گزر رہے ہیں۔ جس نے "جہاں" کو متزلزل کر دیا ہے اور پستی ابھر رہی ہے۔
 بلندی سے متصادم ہو رہی ہے۔ وقت کی آواز ہے کہ "فہل انتم مسلمون"

اس بساط زندگی پر کج روی اچھی نہیں

چال بیدھنگی اگر مہرہ چلے تو مات ہے

ایران سے انگریز نکل چکے ہیں۔ مگر گفت و شنید ابھی جاری ہے۔ اور امریکہ
 برطانیہ اور ایران میں ثالث کا کام سرانجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر مصدق آج کل امر
 میں ہیں اور کھری کھری باتیں بھی سناتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ ایک سیاسی غلطی
 کہ ڈاکٹر امریکہ گیا۔ ممکن ہے کہ ایران کی کمزوری پر محمول کیا جائے۔ اور یہ کہ ڈاکٹر کی
 موجودگی میں ایران میں برطانوی سیاست وہی چال چال سکتی ہے جو امیرامان
 کی عدم موجودگی میں افغانستان میں چلی گئی۔ افغانستان میں تو مذہب کی آڑ
 گئی ایران میں برطانوی ہوا خواہ غداران ملک و ملت موجود ہیں۔ اگر ان کو تقویہ
 مل گئی تو یہ امر کی سفر رنگ لائے گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا اسلام میں
 حکومت کو انگلیں ڈالے اور امریکہ میں کیا کشمکش نظر آتی ہے کہ ادھر ہی کھچے چلے جا
 ہیں۔ کاش یہ کعبہ کی طرف رخ کرتے۔

عرب

عراق عرب جو خلافت راشدہ اور امویہ اور عباسیہ کے تحت متحد تھا۔ ہمارے زمانہ میں یہاں طوائف الملوک کی ہے۔ ان میں سے اکثر ریاستیں تو برطانیہ کی پیداوار اور برطانوی سیاست کے زیر اثر ہیں اور بعض اگرچہ خود مختار ہیں مگر ہر ایک حیثیت سے پس ماندہ ہیں۔ یہ قبائلی ریاستیں اپنے اپنے "شیوخ" کے ماتحت اتنی بارت پر مطلق ہیں کہ آزاد ہیں۔ ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے خلاف دراز بھی رہتا ہے۔ لیکن یہ خانہ جنگی خاندانی عارضی تنازعات سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اتحاد عرب کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تمام قبائل عرب پھر سے متحد ہوں گے۔ اہل عرب کی سرشت میں جذبہ حریت ازلی ہے۔ اگرچہ ترکی عثمانیہ عرب میں قائم ہو چکی تھی۔ مگر یہ ان کی آزادی میں کبھی رخنہ انداز نہ ہوئی۔ علاوہ انہی ارض مجاز اور عراق میں مقامات مقدسہ ہیں جن کا احترام ترک بھی بحیثیت "مسلم" اتنا ہی ملحوظ رکھتے ہیں جتنا عوام کے دلوں میں ہے۔ اور ترکی حکومت نے کبھی عرب قبائل کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ ان کو انہی کے حال پر چھوڑے رکھا۔ عرب پر تسلط کسی دنیوی مفاد کے لئے ترکوں کا نہ تھا۔ بلکہ عربی قبائل کو اپنے ساتھ لانے اور بالخصوص مقامات مقدسہ پر اخراجات کا بوجھ ان کے خزانہ پر بہت بھاری تھا۔

راقم الحروف جب پہلے جنگ عظیم کے اختتام پر ۱۹۱۹ء میں عراق میں گیا اور یہاں کے شیوخ سے ملا تو وہ اب ترکوں کو یاد کرتے تھے۔ اس وقت عراق میں انگریزی فوجی تسلط تھا اور انگریزوں نے دوران جنگ کے عرصہ کا مالیہ بھی ان سے وصول کیا۔ شیوخ نے مجھے بتایا کہ عثمانی حکومت کبھی وصولی مالیہ کے لئے سختی نہ کرتی تھی۔ اور قبائل اس نئی

کی وجہ سے کچھ ایسے نادہند واقع ہوئے تھے کہ دو تین سال کا بقایا مالیہ ترکوں کو معاف ہی کرنا پڑتا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کا اثر راقم الحروف نے کچشم خود دیکھا کہ عراق جیسا زرخیز علاقہ بھی ان ترقیات سے محروم رہا جو برطانوی مقبوضات میں عام تھیں۔ جن کا فائدہ اگرچہ برطانوی گورنمنٹ کو زیادہ تھا مگر محکوم اقوام بھی اس سے بہرہ ور ہو رہی تھیں۔ ریلوے لائن اور سلسلہ تار برقی کا کیا مذکورہ سڑکیں بھی پختہ نہ تھیں۔ تعلیمی حالت اتنی پست تھی کہ میں جس سے ملا، پڑھنا لکھنا نہ جانتا تھا۔

ترکی حکومت اتنی غافل تھی کہ برطانوی حکومت کے اثر و رسوخ کے تحت عرب کے ساحلی قبائل آچکے تھے۔ یہ سب برطانیہ کے وطیفہ خوار تھے جب جنگ عظیم کے شروع میں انگریزی بحری بیڑہ خلیج فارس سے "شط العرب" میں آیا تو یہ سب شیوخ انگریزوں سے آملے۔ اور جو بھی ترک سپاہی ملا، مارا گیا اور اس کا مال متاع لوٹ لیا۔

لیکن اب جبکہ برطانوی پنجہ کی گرفت سخت سے سخت تر ہو رہی تھی تو ان کو اپنا انجام بھی نظر آ رہا تھا۔ اور ان میں بے چینی کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے۔

انگریزوں کا منشا تھا کہ عراق پر اسی طرح مستقل قبضہ ہو جائے جیسا کہ ہندوستان پر تھا اور ہندوستان پر قبضہ بلا مداخلت غیر اسی صورت میں ممکن تھا کہ عراق پر بھی ہو۔ لیکن یہاں ایک قوم آباد تھی۔ اور قوم جب تک غالب قوت سے فست نہ ہو کبھی مستحضر نہیں ہو سکتی جب حالات سازگار ہوں غیر قومی حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے۔ اہل عرب کو ترکوں سے آزاد کی کاسبر باغ دکھایا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ترک جو ان کے ہم مذہب بھی تھے نہ رہے تو ایک سیچی یورپی حکومت ان پر مسلط ہو رہی ہے۔ تو قومی غیرت نے جھجھوڑا۔

دوران جنگ میں صرف بین کی حکومت اٹامیہ نے ترکوں کا ساتھ دیا۔ باوجود اس امر کے کہ ترکوں اور عینیوں میں صد ہا سال سے دشمنی تھی۔ اہل بین فرقہ "زیدیہ" شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ترک سنی ہیں۔ لیکن اب جبکہ ترکوں کا مقابلہ مسیحی حکومتوں سے تھا۔ ان کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اسی طرح علم بغاوت بلند کریں جس طرح سنی شریف مکہ حسین نے کیا نہ صرف یہی بلکہ وہ انگریزوں سے لڑتے رہے اور سنیوں نے انگریزوں کی مددگاروں

کے خلاف کی۔

حکومت یمن ۱۹۳۸ء سے قائم ہے۔ اس حکومت کے حکمران "امام" سے موسوم ہیں۔ ہر ایک حکمران علم دین کا سب سے بڑا عالم اور مجتہد ہوتا ہے۔ اس لئے ان میں "امام" کا انتخاب حکمران امام کی وفات پر ہوتا رہا۔ لیکن اب حکومت وراثتاً منتقل ہو رہی ہے۔ پہلی عالمگیر جنگ میں امام سید یحییٰ حمید الدین نے جب خلافت عثمانیہ نے فسطویٰ "جہاد" صادر کیا "لیک" کہا۔ اس کی حکومت کا کچھ حصہ "عدن" تو پہلے ہی انگریزوں کے چکے تھے "لج" وغیرہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ یہاں انگریزوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قبائل کے شیوخ کے ماتحت قائم کر دیں۔ اور یہ سب انگریزوں کے وظیفہ خواہ ہیں۔

عراق میں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے۔ انہوں نے بھی امام یمن کی تقلید کی۔ یہاں سنی اور شیعہ اتحاد شروع ہو گیا۔ اور کسی مذہبی تقریب پر سنی شیعوں کی اور شیعہ سنیوں کی مساجد میں ایک دوسرے کی دعوت پر شریک ہوتے اور زیادہ تر سیاسی تقریریں نظم و نثر میں ان کے جذبات کو مشتعل کرتی رہیں۔ اور قوم اور ملت جس خطرہ میں مبتلا تھی اس کا احساس اب عوام میں بھی ہو رہا تھا۔ ایک جلسہ میں ایک نوجوان نے شرافتوں تقریر کی۔ انگریزوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ لوگ بھڑک اٹھے، بغداد کے کوچہ و بازار میں جمع ہو رہے تھے کہ انگریزی عسکری مظاہرہ نے ان کو پراگندہ کر دیا اور مارشل لا (MARTIAL LAW) جاری ہو گیا۔

۱۹۲۰ء بہار کا موسم تھا کہ انگریز افسروں کی ازواج بھی انگلینڈ سے عراق میں وارد ہوئیں ایک کیمپ تو بغداد کے قریب اور دوسرا ایران کی ملحقہ پہاڑیوں میں کھولا گیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دہلی اور شملہ ہے۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ انگریز عراق میں مستقل قدم جما نا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی سپاہ کثرت سے موجود تھی۔ ۱۹۲۰ء میں ساٹھ ہزار انگریزی سپاہ عراق میں موجود تھی جس میں صرف سات ہزار انگریز تھے۔ ان کے علاوہ ساٹھ ہزار اور بھی ہندوستانی تھے جو ملازمت کے سلسلہ میں آئے ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی بھی عربوں پر شاق گزر رہی تھی۔ انگریز عربی سیکور ہے تھے اور ہر ایک ہندوستانی کو بھی جو عربی میں روزمرہ بول

چال کا امتحان پاس کر لیتا۔ دس روپیہ علاوہ تنخواہ کے الاؤنس ملتا۔ چارج آف انگریزوں اور امریکن چارج نے مدرسے کھولے۔

اس وقت ہر ایک عرب کے پاس اپنی حفاظت کے لئے اسلحہ بھی تھی۔ اگرچہ انگریز فوجی جمعیت میں تیس ہزار کا اور اضافہ کر دیا گیا جس میں اکثریت ہندوستانیوں ہی کی تھی۔ ملک میں امن کی صورت ناممکن تھی۔ جب تک عرب رعایا ہتھیار بند تھی۔ دوران جنگ عربوں کے ہاتھ جب عام لوٹ گھسٹ کا بازار گرم تھا۔ بیشمار ہتھیار آئے۔ اب انگریزی حکومت نے ان کو ہتھیار کرنا شروع کیا۔ مارچ ۱۹۲۰ء تک قریباً بیس ہزار رائفیلوں اور بغداد اور بصرہ ہی میں جمع کی گئیں۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جس کسی کے پاس ہتھیار پائے گئے سخت سے سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ اب بغاوت عراق کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ لیکن اس میں ایک بڑی حامی یہ تھی کہ اس کا کوئی "قائد" نہ تھا۔ اور اس پر مستظلم نہ تھی۔

کوہِ خلافت اسلامیہ کے وقت بھی شورش کا مرکز رہا ہے۔ اس کے قرب میں انگریز فوج پر حملہ ہوا۔ مانچسٹر رجمنٹ کے اٹلی سپاہی عربوں نے قید کر لئے، لڑائی میں بیس ہزار گئے اور تین سو ساٹھ بری طرح زخمی ہوئے۔ اگست میں کرنل لیچ مین (COLONEL LEACH, MAN) مارا گیا۔ اس وقت کرنل اے۔ ٹی۔ ولسن (A. T. WILSON) بغداد میں ہائی کمشنر تھا۔ ۱۹۱۹ء میں جب وہ "قرنہ" میں ہوائی جہاز سے اترتا (مجھے بھی اس کا اتفاق ہوا) یہ شخص برطانوی حکومت تمام عراق میں قائم کرنا چاہتا تھا اور عربوں پر ذلت سستی بھی اس کے دور حکومت میں شروع ہو گئی تھی۔ سر پرسی کوکس (SIR PERCY COX) نے عنان حکومت سنبھال لی۔ یہ شخص متحمل مزاج اور اعلیٰ پایہ کا مدبر تھا۔ اس نے عربوں کو یہ کیا۔ ان واقعات کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

بغاوت کا آغاز اصل میں شام سے ہوا۔ اس میں "عرب مستنصرہ" یعنی مسیحی عربوں پر چڑھ کر حصہ لیا۔

۱۹۱۹ء میں جب میں "قرنہ" میں تھا۔ ایک عرب مسیحی نظر بند ہو کر آیا۔ وہ مجھے خود

آیا۔ اس کا نام "ادیب نارین" تھا اور اس کا سلسلہ نسب جبکہ غسانی سے ملتا ہے۔ اپنا حسب نسب اس نے مجھے خود بتایا۔ میں حیران ہوا کہ ایک عیسائی مسیحی حکومت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں عرب ہوں۔ ہم اس وقت سے مسیحی ہیں جب انگلستان کے نام سے بھی دنیا واقف نہ تھی۔ ہم انگلینڈ ہو یا فرانس یا کوئی اور غیر عرب طاقت ہو کسی کا اقتدار گوارا نہیں کر سکتے۔ اور اگر شریف حسین ذرا اپنے مطالبات پر اڑا رہا تو ان سب کو بورباہر باندھنا پڑے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ عربی زبان کی اشاعت شام میں سب عرب متصرف کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نوجوان عرب عیسائی چند روز ہی "قرنہ" میں رہا۔ اس کو کسی نامعلوم مقام میں پہنچا دیا گیا۔

"قرنہ" پر فرات اور دجلہ کا تران یا اتصال ہوتا ہے۔ دونوں دریا مل کر شط العرب بنتے ہیں جو خلیج فارس میں گرتا ہے۔

کرنل لارنس (LAWRENCE) نے جو شام میں امیر فیصل کا مشیر تھا، لندن ٹائمز (۳ جولائی ۱۹۲۰ء) میں ایک مقالہ شائع کیا۔ اس میں لکھا کہ ترکی حکومت عربوں کے حق میں بری نہ تھی۔ عربوں نے بغاوت محض آزادی کے لئے کی اور جنگ میں اٹلاف جان اس لئے گوارا نہ کیا کہ ایک حاکم کی جگہ دوسرے حاکم کی حکومت تسلیم کر لیں گے۔ یہ امر کچھ تعجب انگیز نہیں کہ اختتام جنگ سے دو سال کے عرصہ میں ان کا پیمانہ صبر بربری ہو گیا ہے جو حکومت ہم نے قائم کی ہے وہ ستراپا انگریزی ہے۔ چار سو پچاس انگریز امور انتظامیہ کے افسر ہیں اور ایک بھی عراقی نہیں۔ ترکی حکومت کے دود دودہ میں ستر فی صدی عراقی ہی افسر تھے۔ ہمارے ۸۰ ہزار لشکری اب پولیس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ سرحدوں پر متعین نہیں بلکہ لوگوں کے سر پر سوار ہیں۔ ترکوں کے زمانہ میں عراق میں دو آرمی کور (ARMY CORPS) میں ساٹھ فی صدی عراقی افسر تھے اور پچانوے عراقی سپاہی تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم عراقیوں کی خوش حالی کے لئے بہت کچھ کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن جب ترانو کے دوسرے پلڑے میں آزادی ہو تو اس خوش حالی کی کون پر واکرتا ہے۔ کرنل لارنس نے یہ بھی لکھا کہ عربی جگہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے لیکن دفتری زبان

عربی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم حکومت کا کام عربوں ہی سے لیں تو ہماری ایک کوٹ (CENT) بھی خرچ نہ ہوگی۔

ایک انگریز "میجر" نے "مانچسٹر گارڈین" ۲۴ جولائی ۱۹۲۰ء میں لکھا کہ لارنس کی تجویز کے مطابق حکومت کا کام نہیں چلے گا۔ عربوں کو زیادہ تر اپنی لہجہ کا فکر ہوتا ہے اب وہ تین گنا ٹیکس بہ نسبت ترکی ادا کر رہے ہیں۔ اس میں ہونی چاہیے۔

آخر تلخ تجربہ کے بعد انگریز اس فکر میں تھے کہ کس کٹھ پتلی کو عراق سپرد کی جائے جو عراقی تو نہ ہو مگر عراقی قبول کر لیں۔ قرعہ فال امیر فیصل پر پڑا۔ شریف حسین کا تیسرا بیٹا ہے اور یہ عراق کا پہلا بادشاہ ہے۔ لیکن فیصل معمولی ذہن کا آدمی نہ تھا۔ وہ تمام عرب قوم کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ اپنے لئے شام کو عراق ترجیح دیتا۔ لیکن شام پر ہنداب (MANDATE) فرانسیسیوں کا تھا۔ اور انگریزوں کے حلیف کو کب پسند کرتے۔ اگرچہ انگریزوں سے چاہتے تھے کہ فیصل ہی اور عراق کا بادشاہ ہو مگر وہ کچھ خفیہ معاہدات جو دول یورپ میں ہو چکے تھے مانع ان خفیہ معاہدات کے ذریعہ برطانیہ اور فرانس اور روس اور اٹلی نے ترکی مملکت کے حصے بخرے کر لئے تھے۔ روس کو قسطنطنیہ فرانس اور روس کے معاہدہ ۱۹۱۵ء (FRANCO-RUSSIAN AGREEMENT) کے روسے ملنا تھا۔ اور بحیرہ کا جنوبی علاقہ بھی مسترد تھا۔ جس کی حدود معاہدہ ۲۶ اپریل ۱۹۱۴ء (AZONOV PALEOLOGUE) نے معین کر دیں۔ معاہدہ لندن (TREATY OF LONDON) جو اسی تاریخ اٹلی کے ساتھ ہوا اس کے روسے اٹلی کو "عدلیہ" کا علاقہ مل گیا۔ ایک معاہدہ (SE JEAN DE MAURIEVNE) جس کی تکمیل اگست ۱۹۱۴ء میں ہوئی۔ اس کے متعلق تھا جو اٹلی کے حصہ میں آیا۔ وزیر اعظم انگلستان لائیڈ جارج (LOYOD GEORGE) اور صدر فرانس (CLEMENCEAU) میں جو معاہدہ ہوا اس کے لئے سے موصل برطانیہ کا ہوا۔ شریف حسین ان معاہدات سے بے خبر تھا اور اس کو وہ

مستنبہ کیا تو بہت سٹپٹا یا۔ مگر انگریزوں نے چکنی چپڑی باتوں سے رام کر لیا۔
یہ کل ممالک عرب معہ شام و فلسطین کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔

دوران جنگ میں انگریزوں کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح موصل پر قبضہ
جائے ان کا حلیف اور حریف روس بھی یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہنچوں۔ روس تو
بچ سکا مگر انگریز ابھی موصل سے چھ میل کے فاصلہ پر تھے کہ اعلان عارضی صلح،
(ARMISTIC) ہو گیا۔ مگر انگریزوں نے موصل پر قبضہ کر ہی لیا۔ موصل "پٹرولیم" کی
یداوار کی جگہ ہے۔

جنگ کے خاتمہ پر غالباً اتحادیوں میں پھوٹ پڑھ جاتی مگر امریکہ نے بیج بچاؤ کے
لہذا کیا۔ ۲۰ مارچ ۱۹۱۹ء میں پیرس میں "چارہ بڑوں" کی کانفرنس ہوئی۔ روس کا نائب
ہو نہ تھا۔ وہ خائنی خرنشوں میں الجھا ہوا تھا۔ جس کو "سویت" نے سلجھا دیا۔

شام کی حکومت کے لئے فیصل نے جدوجہد کی۔ پہلے لندن گیا۔ وہاں جواب ملا
برطانیہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فرانس کا معاملہ ہے۔ پیرس میں آیا۔ ادھر سے مایوس ہوا
امریکہ کی طرف رجوع کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ممالک متحدہ امریکہ کے تحت عرب
ممالک کی ایک "فیڈریشن" (CONFEDERATION) ہو اور اگر انتداب ہی منظور

ہے تو ایک طاقت کا ہو اور امریکہ کو ترجیح دی جب یہ بھی نہ ہوا تو قوم کی طرف متوجہ ہوا
۱۰ مارچ ۱۹۲۰ء میں شام اور فلسطین کے شرفا کی کونسل نے امیر فیصل کی

بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شریف حسین کے دوسرے بیٹے عبداللہ
کو عراق کا بادشاہ نامزد کیا۔ لیکن برطانیہ اور فرانس نے یہ اعلان اور نامزدگی تسلیم
نہ کی۔ اور صاف لفظوں میں فیصل کو بتا دیا کہ ایسے امور کا تصفیہ اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے

۲۰ اپریل ۱۹۲۰ء میں اتحادیوں نے انتداب فلسطین اور عراق برطانیہ کو شام
فرانس کے حوالے کر دیا۔ فیصل دوران جنگ عظیم میں شام جنرل "ایلن بی" (ALLENBY)
کی مدد سے فتح کر چکا تھا۔ اور اس کی رہائش دمشق ہی میں تھی۔ ممکن ہے کہ درپردہ

انگریزوں کی اخلاقی حمایت اسے حاصل ہو۔ اس نے شام پر فرانس کا انتداب تسلیم

نہ کیا۔ اور ادھر ادھر سے فوج جمع کر کے فرانسینی فوج کے مقابلہ کے لئے نکلا جو دمشق پر قبضہ کے لئے آرہی تھی۔ مگر شکست فاش کھائی۔ اور یہاں سے نکلنا پڑا۔

جنرل ایلن بی کی فوج میں اکثر سپاہی اور افسر عراقی تھے اور ان میں اکثر بغدادی تھے۔ عرب ممالک میں اتحاد عرب کی لہر دوڑ چکی تھی۔ جب شام میں یہ خواب پریشا ہو کر رہ گیا تو اس تحریک کا مرکز بغداد بن گیا۔

عراق اور شام میں بہت فرق ہے۔ فیصل اس لئے شام کو ترجیح دیتا تھا کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر مہذب اور متمدن اور تعلیمیافتہ ہیں اور جو منصوبہ وہ اتحاد عرب کا باندھ چکا تھا۔ اس کی تکمیل یہیں خوش اسلوبی سے ہو سکتی تھی۔ اتحاد عرب کا تصور اس کے ذہن میں اتنا ہی تھا کہ خاندان شریف کل ممالک پر جہاں عرب آباد ہیں حکمران بن جائیں اور اس طرح "خلافت" تمام دنیا سے اسلام پر اسی خاندان کی تسلیم کی جاتی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ایسی صورت ہوتی تو تمام دنیا اسلام اطمینان کا سانس لیتی۔ خاندان شریف صحیح النسب سید ہے۔ ذہباً سنی ہے۔ لیکن سادات پرست شیعہ تسلیم کر لیتے۔

فیصل اپنے باپ کی طرح انگریزوں کے وعدوں پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اور اسے یقین تھا کہ اختتام جنگ کے بعد یہ وعدے ضرور پورے کریں گے۔

دماغ بیہودہ پخت و خیال باطل بستی

بغداد میں ایک ادارہ ۱۹۱۳ء سے قائم تھا جو "احد العراقی" کے نام سے موسوم تھا اس کا مقصد وحدت عراق عرب تھا۔ اس ادارہ میں چند عرب ترکی فوج میں اختتام جنگ تک افسر رہ چکے تھے۔ ۱۹۱۴-۱۵ء میں جب فیصل شام میں برطانیہ امداد کے سائے لٹ رہا تھا۔ یہ ادارہ یا یہ عرب افسر عراق کی آزادی کے لئے سرگرم عمل تھے۔ اور ان کی غرض بھی یہی تھی کہ خاندان شریف کے تخت عراق کے تمام عربی قبائل کو لایا ہوتا متارکہ (ARMISTICE) کے بفرات کے کنارہ "ویرالزوز" ان کی سرگرمی کا مرکز تھا۔ شام میں بھی عراقی موجود تھے ان سے خط و کتابت ہو رہی تھی۔ اور شامی ہی

ان کو آگسار ہے تھے کہ شامیوں سے مل کر "پروپاگنڈا" (PROPAGANDA) کریں تاکہ عرب کو آزادی حاصل ہو۔

اس ادارہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ شام میں عرب نے بزور شمشیر اپنا حق آزادی فرانس سے حاصل کیا ہے اور اسی طرح توار سے ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ عراق کا حق آزادی تسلیم کر لے۔ لیکن جب شام میں فیصل کو شکست فاش ہوئی تو ان کی سرگرمی پر بھی اوس پڑ گئی۔

۳۱ مئی ۱۹۲۰ء میں برطانیہ عظمیٰ نے اعلان کر دیا کہ عراق پر استبداد اس نے قبول کر لیا ہے جس کی غرض یہ ہے کہ بتدریج عراق کو منزل آزادی پر برطانیہ کی رہنمائی پہنچا دے اس خبر گرم نے پھر سے عربوں میں ایک حرارت پیدا کر دی۔ اور اتحاد اسلامی کی برقی رو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔ مذہبی مناقشات اور شرانگیز تفرقہ جو فرقہ بندی نے پیدا کر رکھا تھا۔ "وحدت اسلامی کے تصور نے محو کر دیا۔ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ نجف اور کربلا اور کاظمین شیعہ مجتہدین کے مرکزی مقامات تھے۔ سب سے پہلے ہی وحدت اسلامی کا وعظ مجلسوں میں کرنے لگے۔ یہ برقی رو صرف عراق میں محدود نہ تھی ایران میں بھی برطانیہ کے خلاف ایک جوش پیدا ہو گیا۔ جس کا فائدہ رضا شاہ نے ایران کو پہنچایا۔ شیعہ مجتہدین اور سنی علماء نے فتویٰ "جہاد" اب دتاب کے ساتھ شائع کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا جس کا مذکور ہم کر چکے ہیں۔

جزائر برطانیہ میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ شامل ہیں۔ ان ممالک متحدہ کی متحدہ طاقت کا اگر جائزہ لیا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ تمام کرہ ارض پر انگلستان کی حکومت کا کیا راز ہے۔ یہ راز خود انگریزوں سے پوشیدہ نہیں۔ انہیں اپنی کمزوری کا بخوبی احساس ہے۔ انگلستان کا رقبہ اور آبادی ہندوستان کے ایک احاطہ بمبئی کے برابر ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایک احاطہ بمبئی تمام دنیا کیا تمام ہندوستان پر بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس کے امکان کی ایک ہی صورت ہے۔ یہ تاریخی صداقت ہے کہ اقلیت متحدہ ہی اکثریت متفرقہ پر غالب آتی ہے۔ ایک ملک میں خواہ ایک قوم آباد ہو جب اس میں لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہوں تو ان کی اکثریت اقلیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

”سید“ اپنی کتاب وسعت انگلستان (EXPANSION OF ENGLAND)

میں لکھتا ہے کہ۔

ہم نے ہندوستان کو اپنی ذاتی طاقت کے بل پر مستخر نہیں کیا۔ ہمیں اس برصغیر پر قبضہ جانے کا سہل گرا معلوم ہو گیا تھا۔ ہم نے ہندوستانی سپاہ اور ہندوستانی مال دولت کو ہندوستانیوں کے خلاف استعمال کیا۔ مرہٹوں کو نظام دکن کے خلاف اور دونوں کو ٹیپو سلطان کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا۔ شمالی ہند کے خود مختار نوابوں اور راجوں کو لڑایا اور اپنا الو سیدھا کیا۔

ظاہر ہے کہ جہاں یہ حالات ہوں، اور ایشیائی ممالک میں یہ حالات عام تھے۔ انگریزوں کی حکومت ممکن ہو گئی۔ روپیہ پیسہ جائز یا ناجائز تجارت سے وہ انہی لوگوں کی ور مشقت سے کم رہے تھے اور انہی پر اس کا کچھ حصہ حکومتی اور غلامی کی زنجیریں گھڑنے پر لگ کر رہے تھے۔ لیکن جب ایک دفعہ ان غلام قوموں میں سیاسی شعور پیدا ہو گیا تو اس سے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ پیٹ اور دیوی عزت کے بھوکوں کو روپیہ سے اپنا آلہ کار بنایا جائے اور اپنے وطن کو نظر بند کر دیا جائے۔ اور اگر یہ تحریک زور پکڑ جائے تو وہ احساس کمزوری جو انگریزوں کو لاحق ہے انہیں مجبور کرتا ہے کہ پیچھے ہٹیں اور دیکھیں کہ یہ اتحاد ایک فوری جوش کا ہے کہ دیر پا ہے۔ بسا اوقات یہ اتحاد افراد اور قوموں میں ذاتی اقتدار پر مبنی ہوتا ہے جو اپنے مقصد حاصل کر لیتی ہیں تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس آگ کو انگریز خود بھی اپنے مفاد کے لئے ہوا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اس خانہ جنگی میں کمزور فریق اعیانہ کی امداد کا ہوتا ہے۔ اسی وقت انگریز منتظر رہتا ہے۔ جب اسے مداخلت کا موقع مل جاتا ہے تو کمزور فریق کو ایک گورنر تقویت اس کے زعم ناقص میں حاصل ہو جاتی ہے وہ غالب آتا ہے۔ غالب فریق تو نیست و نابود ہو جاتا ہے لیکن وہ خود بھی انگریز کی گرفت میں آ جاتا ہے۔

انگریز کا سیاسی تدبیر اس کمزوری کو شدت سے ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہے اور جب اس کا احساس اس رو بہ مسکین کو ہے اس کی کامیابی یقینی ہے وہ کبھی تنہا کسی قوم سے جو اس کی چوٹ ہونے لگا ہمیشہ دو تین حلیف اس کے دست و بازو رہے اس کے سیاسی تدبیر

ادوینی چاہتے کہ ہمیشہ اپنے حلیف اقوام کے یہ ذہن نشین کرتا رہا کہ زیادہ تر انہی کے مفاد لئے دشمن سے لڑتا ہے۔ اس لئے وہی انگریزوں کی لڑائی میں پیش پیش رہے اور یہ پھر اپنا پہلو بچاتا رہا۔ اختتام جنگ کے بعد اس کے حلیف اور دشمن تو کمزور ہوتے جاتے ہیں لئے یہ ہر لحاظ سے فائدہ میں رہتا ہے۔ دشمن تو ختم ہو گیا۔ حلیف بھی کبھی سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

اول جنگ عظیم کے اسباب خود انگریزوں نے پیدا کئے۔ جرمنی ہر ایک لحاظ سے ترقی رہا تھا۔ برطانوی سیاسی تدبیر اس کو ایک طرف نیچا دکھانا چاہتا تھا اور دوسری طرف اقوامِ عرب بالخصوص فرانس اور روس کو بھی کمزور کرنا چاہتا تھا۔ دونوں حریف تھے۔ جب ترک جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ ہو گئے تو وزیر امریکہ انگلستان کا پرانا منصوبہ "ترکوں کو یورپ سے خارج کرنا چاہیے" اب تکمیل پذیر ہونے لگا۔ روس چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ پر اس کا قبضہ ہو تاکہ بحیرہ روم اس کا بھی دخل ہو۔ اور اٹلی گذشتہ رومی شان و شوکت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ فرانس کچھ علاقہ "ایل سیس" (ALSACE) اور "لورین" (LORRAINE) جرمنی پہلے ہی دبائے بیٹھا تھا۔ اب اس کو اور بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ غرض یہ جنگ شروع ہو گئی۔

کرنل "لارنس" غرض سے شریفی خاندان سے ساز باز کر رہا تھا۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ عربوں کی قیادت امیر فیصل شام میں کر رہا تھا۔ جنگ ختم ہوا۔ اتحادی مظفر و منصور اب لوٹ پر لوٹے اور عرب مزہ دیکھتے رہ گئے۔ لیکن شریفی خاندان انگریز کی بساط سیاست پر ایسا مہرہ تھا۔ اگر یہ پٹ جاتا تو انگریز بھی پٹ جاتے۔

انگریز نہایت دور اندیش واقع ہوا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ فیصل شام کے عربوں میں ہردلعزیز ہے۔ وہ اپنی آزادی کا علمبردار اسے یقین کرتے۔ اور خود فیصل معمولی دل و دماغ کا آدمی نہیں۔ اور شامیوں میں سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے۔ فیصل کی قیادت میں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے اگر ایک دفعہ عرب اتحاد ہو گیا تو "اتحاد اسلامی" (PAN ISLAMISM) بھی مشکل نہیں۔ لیکن برطانوی بساط پر سردست فیصل ہی ایک مہرہ تھا جس کو کرنل "لارنس" سا شاطر آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی تہ میں ایک اور سیاسی غرض بھی تھی کہ اگر فرانس شام پر قابض

تو ممکن ہے کہ وہ اپنی گذشتہ عظمت حاصل کر لے۔ جس کو انگریز خاک میں ملا چکا تھا۔ اس لئے شام پر فرانس کا اقتدار بھی ایسا ہی خطرہ تھا جیسا اتحاد اسلامی۔ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لئے بیغرض امریکہ کا صدر "ولسن" ثالث مقرر ہوا۔

ایک کمیشن امریکہ کی تحریک پر شام کا دورہ کر رہا تھا۔ اس کو کنگ۔ کرین کمیشن (KINGE-CRANE COMMISSION) کہتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ قبائل عرب کی کس کس کو اپنا قاتل یا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس بارہ میں شام اور عراق کے عربوں کی ذہنیت کا جائزہ لیا گیا۔ فیصلے نے بھی ایک عرضداشت (MEMORANDAM) پیش کی جس کی تحریر میں کرنل لارنس کا ذہن رسا کار فرما تھا۔ اس کی وضاحت "رابرٹ گریون" (ROBERT GRAVES) نے اپنی کتاب "لارنس اور مہمات عرب" (LAWRENCE AND ARABIAN ADVENTURES) میں کی ہے۔

عراق میں بغاوت پھوٹ چکی تھی۔ سید طالب شاہ "حضرت محی الدین عوث اعظمی" کے متولی کے حق میں جس کو "نقیب بغداد" کہتے ہیں، بغداد اور اس کے گرد و نواح میں کرچکا تھا۔ اور اب جنوب میں دورہ کر رہا تھا۔ ہائی کمشنر نے گرفتار کر کے لنکا میں نظر بند کر دیا۔ اب فیصل کو بھی شریفی خاندان کے اقتدار میں خطرہ نظر آنے لگا۔ کئی دعوے دار کھڑے ہو سکتے تھے اور موجود تھے۔ لیکن نقیب شریف کی طرح حکومت کا بھوکا نہ تھا یہ اس وقت کونسل آف سٹیٹ (COUNCIL OF STATE) کا صدر تھا۔ سر پرسی کا کس "ہائی کمشنر کے ایما پر یا عوام کی خواہش کے مطابق اس نے ۲۱ جون ۱۹۲۱ء میں فیصل کی شاہی عراق کا اعلان کر دیا۔ بشرطیکہ "اعلیٰ مرتبت کی حکومت آئینی اور آئین میں محدود جمہوریت کی نمائندہ حکومت ہو۔" لیکن یہ چند افراد کا فیصلہ تھا جس کو برطانوی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ اس لئے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لئے عام استصواب رائے کا ڈھونگ بھی کھڑا کیا۔ اور ملک کی کمیٹیوں سے دریافت کیا گیا کہ کونسل کا فیصلہ انہیں منظور ہے؟ سب کو منظور تھا۔ لفٹیننٹ کرنل فریمینٹل (LIEUTENANT COLONEL FREMENTLE) عراق میں رہ چکا تھا وہ ان حالات سے بھی خوب واقف تھا۔ اس نے دارالعوام (HOUSE OF COMMONS)

تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:-

"سیکرٹری آف سٹیٹ نے جو روٹینا اور بارہ انتخاب اس ایوان میں پڑھ کر سنائی ہے میں نے آج تک دارالعوام میں اس سے بڑھ کر پھر تقریر نہیں سنی۔ کیا اس کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا جہاں کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہی درست ہے؟ ناخواندہ مشرق کی جانے بلا کہ اس کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ بہترین ہی سہی اور امید ہے کہ بہتر ہی نتیجہ ہوگا۔ مگر برائے خدا اس جھوٹ کو تو فروغ نہ دو۔ کہ یہ جمہوریت کا تقاضا ہے۔ مشرقیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔"

ریپارٹ مباحثات، جلد ۱۵۱، صفحہ ۸-۱۵۹۷

اس استصواب رائے میں "کرکوک" کے کردوں اور سلیمانہ کے ترکوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اگرچہ انہوں نے فیصل کی امارت تسلیم نہیں کی مگر کوئی اور دعویٰ ہی پیش نہیں کیا۔ ۹۶ فی صدی رائے فیصل کے حق میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ۲۳ اگست ۱۹۲۱ء کو رسم تخت نشینی دھوم دھام سے منائی گئی۔ کرد اور ترک شریک نہ ہوئے۔ غالباً اس لئے کہ عرب نہ تھے۔ اعلیٰ حضرت برطانیہ شہنشاہِ خارج خامس کی طرف سے تارتینیت پڑھا گیا اور شاہ فیصل نے بھی ایک نصیح تقریر کی کہ:-

"خدا کا شکر ہے کہ پھر سے اسی شہر میں جو خلافت عباسیہ کا پایہ تخت

صد ہا سال رہا ہے۔ بنوفاطمہ کو اپنی درانت ملی۔"

اور حکومت برطانیہ کو یقین دلایا کہ:-

"عراق اور برطانیہ کے تعلقات اب مضبوط بنیاد پر قائم ہو چکے ہیں۔"

یہ سب کچھ ہوا اور برطانیہ کی عین حکمت عملی کے مطابق ہوا۔ لیکن عراقیوں میں "چہ میگوتی" قبوہ خاؤں کو چہ و بازار اور مختلف تقریبوں میں شروع ہو گئی۔ کہ انتداب (MANDATE) کیا بلا ہے؟ اور اس کے تحت برطانیہ سے ہمارے تعلقات کیسے

ہوں گے؛ ہائی کمشنر کو بھی اس نئی "سیاسی اصطلاح" کی تشریح بذریعہ اعلان کرنی پڑی کہ اس کا مفہوم وہی کچھ ہے جو عربی میں لفظ "متولی" ہے جو نابالغ کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہے اور اس کے مال میں اسی کے مفاد کے لئے تصرف بھی کرتا ہے جب وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو تولیت ختم ہو جاتا ہے۔ عراق ایک طاقت ور دولت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ طاقت برطانیہ نہیں بلکہ "لیگ آف نیشن" (LEAGUE OF NATION) ہے۔ اس کی نمائندہ عراق میں برطانوی حکومت ہے۔ اور اسی نے برطانیہ کو عراق کی تولیتی سپرد کی ہے اور برطانیہ اس کے سامنے جواب دہ ہے جب عراق اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو برطانوی افواج عراق خالی کر دیں گی۔ اور یہ "منڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ منڈیٹ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک معاہدہ ہے جس کی رو سے برطانیہ نے تولیت کی خدمت اپنے ذمہ لی ہے۔ اگر عربوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ منڈیٹ وہی "ذمہ" ہے اور تم مجلس اقوام متحدہ کے تحت وہی "ذمی" ہو جس سے تم پہلے ہی واقف ہو تو غالباً اس کی تشریح کی ضرورت نہ ہوتی۔

اب نابالغ عراق کو جلد بالغ اور اس کے ساتھ عاقل بننے کی فکر لاتی ہوئی تاکہ عراق سے برطانوی افواج کا انخلا چلد ہو۔ انخلا کے بارہ میں "سپر پرسی کوکس" نے اپنی رپورٹ میں وضاحت کی کہ:-

"انخلا ناقابل خیال امر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ہم نہ صرف "منڈیٹ" سے دست بردار ہو جائیں بلکہ سات اٹھ ملین (MILLION) کا سرمایہ جو اس ملک میں لگا چکے ہیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ مکمل انخلا کی ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ملک میں خانہ جنگی نہ ہو اور اس صورت میں ہمیں ایک اور ڈویژن فوج کی ضرورت ہوگی جو اس کی تکمیل تک یہاں رہے۔"

۱۲ جون ۱۹۲۱ء میں مسٹر چرچیل صدر نے ایک بیان دارالعوام میں دیا کہ:-

”عراق کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پر ہمارا قبضہ مقدم بلا واسطہ ہمارے
 دیگر مقبوضات کے لئے اہم ہے۔ ہندوستان کی مدافعت ہندوستان کی حد
 پر بخوبی ہو سکتی ہے۔ عراق مصر کی طرح نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے مفاد
 (INTEREST) کے لئے چھوڑ نہیں سکتے۔ عراق میں ہماری حکمت عملی یہی
 ہے کہ اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے سبکدوش ہوتے جائیں اور عرب گورنمنٹ
 سے ایسے تعلقات استوار کریں کہ وہ ہماری دوست بنی رہے اور فرانس
 کی بھی۔“

فرانس کی پھر مسٹر چرچل نے اس لئے لگائی کہ امیر فیصل کے متعلق فرانسیسی
 پریس شور مچا رہا تھا کہ اس کا ارادہ شام کی تسخیر کا ہے۔ اس کی تردید مسٹر چرچل نے
 کر دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ”امیر فیصل کو تو اس کا بھی افسوس ہے کہ ایک ناخوشگوار حادثہ
 شام میں پیش آیا تھا۔ یہ اشارہ اس لٹائی کی طرف ہے جو امیر فیصل نے فرانس سے
 لڑی تھی۔“

بعض انگریز مدبرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ہم عراق خالی کر دیں تو ہمارے وقار کو کوئی
 ٹھیس نہیں لگے گی۔ ہم نے آئر لینڈ بھی تو خالی کر دیا تھا۔ بعض کی یہ رائے تھی کہ خلیج
 پر ہمارا قبضہ بالاستقلال ہندوستان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے۔ اگر عراق
 خالی ہی کرنا ہے تو اس سے ایسی مفاہمت ہونی چاہیے کہ خلیج میں ہمارے حقوق میں
 کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ موصل کا تیل بہت قیمتی شے ہے۔ اس کا بھی خیال رہے۔
 ایک واقعہ کاربرٹس افسر نے ۱۹۲۶ء میں کہا تھا کہ ہر ایک تحریک جو برٹش کے
 خلاف ہوتی ہے۔ اس کا سرچشمہ مقدس مقامات نجف اور کربلا ہی ہوتے ہیں۔ ”کربلا“
 پر نجدی وہابیوں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک ڈاکہ تھا یا فی الحقیقت وہابیوں
 کا مذہبی جسنون کارفرما تھا ایک راز ہی رہا۔ مگر شیعہ مجتہدین اس کا انتقام لینے کے لئے
 جمع ہوئے اس مجلس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ سب انگریزوں کی شرارت ہے وہ ہم
 میں فرقہ وارانہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔

فساد انہی کے تختواہ دار پھوہر پکارتے ہیں اور بدنام مذہب ہوتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان سے قطع تعلق کر لے۔

یہ حربہ جو ہندوستان میں ہمیشہ کارگر ثابت ہوا۔ یہاں کام نہ آیا۔ "منڈیٹ" خلاف ملک کے طول و عرض میں غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ ۲۳ اگست ۱۹۴۷ء کو شاہ کی برسی پر "سرپرسی کوکس" شاہ کو مبارکباد دینے کے لئے جب آستانہ قصبہ سے گذرا۔ لوگوں کے ہجوم سے جو باہر جمع تھا ایک شورا اٹھا۔ "منڈیٹ کی دھجیاں دو۔ شاہ انگلستان کے ایک نمائندہ کی سخت توہین ہوئی۔ فیصل نے معذرت اور ٹھنڈا کیا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ "منڈیٹ" ختم کیا جائے اور اس جگہ ایک عہد نامہ مرتب کیا جائے۔ نام بدلا مگر حقیقت نہ بدلی۔

ایوان حکومت میں اس مجوزہ عہد نامہ کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے کہا "عراق میں ہمارے مصارف دوران جنگ بعد از جنگ ... ۳۵ پونڈ ہو رہے ہیں۔"

لارڈ سیسل (LORD CECIL) نے سوال کیا "اور ان وظائف پر کیا جوشیوخ کو دئے؟"

چرچل نے کہا کہ "اس رقم سے کم ہوتے ہیں۔ جس کا مطالبہ میں نے گزشتہ جوہ میں کیا تھا۔ یہ تو مافی ہوتی بات ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ زر سے کام لے یا فولاد سے۔ بعض اوقات زر سے بہت کام لیتے ہیں اور فولاد سے سستا پڑتا۔ اور شریف حسین اور ابن سعود کی چیقلش میں زر نے وہ کام کیا جو فولاد سے ممکن نہ تھا۔ مسٹر چرچل نے یہ بھی کہا کہ ہم منڈیٹ ترک کرنے میں حق بجانب نہیں ایک عہد نامہ اگر ہو تو منڈیٹ کی غرض بھی پوری ہو سکتی ہے۔"

چنانچہ ایک عہد نامہ پر ۱۹۴۷ء اکتوبر ۱۹۴۷ء میں دستخط ہو گئے کہ "عراق لیگ آف نیشن میں آجائے تو منڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ اس عہد نامہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عراق میں برطانیہ کا نمائندہ ایک ہائی کمشنر اور اس کا عملہ اور ضرورت

فوج بھی رہے گی۔ جو عراقی گورنمنٹ کو اندرونی اور خارجی معاملات میں مشورہ بھی دے گی اور اس کے اختیارات وہی کچھ ہوں گے جو منڈیٹ کے دوران میں تھے۔

عراقی کونسل آف سٹیٹ نے جس کا صدر اعظم نقیب بغداد تھا اس عہد نامہ کی تصدیق سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ آئندہ انتخاب کے بعد جو کونسل مقرر ہوگی وہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ لیکن اس میں کچھ قباحت نہیں اگر آئندہ انتخاب تک اس معاہدہ کا عارضی نفاذ رہے۔

اب نئے انتخاب کی مہم شروع ہو گئی۔ دوڑ کی فہرست قریباً مکمل ہو گئی تھی۔ کہ کربلا اور کاظمین کے مجتہدین نے متفقہ فتویٰ شائع کیا کہ "کوئی عراقی اس میں حصہ نہ لے"۔ ادھر کرکوک کے کرد اور سلیمانہ کے ترک پہلے ہی اس کے خلاف تھے یہ سب سنی تھے۔ کمال پاشا کی فتوحات کا چرچا ہو رہا تھا اور وہ برطانیہ سے کردستان کی واپسی کا مطالبہ بھی کر رہا تھا جو اس کے ہم قوم تھے۔

عہد نامہ کی میعاد چوبیس سال مقرر کی گئی تھی اب مجبوراً برطانیہ نے میعاد چار سال کر دی۔ شاہ اور رعایا بھی مطمئن ہو گئے۔ نیا ہائی کمشنر سر ہنری ڈوبس، (SIR HENRY DOBBS) نے لوگوں کو یقین دلایا کہ برطانوی گورنمنٹ عراقی حکومت کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے گی بلکہ صرف دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتی ہے۔

اب استقوا اب رائے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی۔ پھر شیعہ مجتہدین نے فتویٰ شائع کیا کہ کوئی مسلمان اس میں حصہ نہ لے۔ کاظمین میں ایک مجتہد اور اس کے دو بیٹوں کو جلا وطن کیا گیا۔ نجف اور کربلا کے اکثر مجتہد ایران چلے گئے۔ شاہ فیصل نے مناسب خیال کیا کہ عوام کو سمجھائے کہ اس قسم کی شورش بے فائدہ ہی نہیں بلکہ حکومت عراق کے لئے مضر بھی ہے۔ "موصل" میں ایک فصیح تقریر کی اور کردوں اور ترکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:-

"ترک مومن مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوش حالی ہماری

خوش حالی ہے۔ تنازعہ مندرجات کا تصفیہ باہمی گفت و شنید سے
 بخیر و خوبی ہو جائے گا۔ تم اپنے ہاتھوں سے مجلس میں منتخب کرو تا کہ تمہارے
 شہری حقوق کی حفاظت ان کے ذریعہ ہو سکے۔
 کرو اور ترک راضی ہو گئے۔ دوسرا دورہ جنوب کی طرف بھی کامیاب رہا۔ شیعہ
 بھی مطمئن ہو گئے۔ کابینہ میں ان کو دو وزارتیں دی گئیں۔
 شاہ نے مجلس کا افتتاح کیا اور اپنی تقریر میں ایک پتہ کی بات کہی کہ "قوانین
 شریعت اسلام میں شوریٰ کی مشاورت سے بنتے ہیں" و امرهم شوریٰ
 بینہم۔

اس کا مفہوم واضح ہے کہ فقہی احکام سب وقتی اور ہنگامی، خارجی اور ذہنی
 حالات کے مناسب وضع ہونے چاہئیں۔ ان کا وضع اور واضح کرنا قرآن نے شوریٰ
 کے عقل و فہم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمیشہ ترمیم اور تنسیخ کی زد میں رہیں گے۔ اور ان کی کوئی
 مستقل حیثیت اسلام میں نہیں۔

معانہ جو حکومت عراق اور برطانیہ میں ہوا اس کی تصدیق اب مجلس نے کرنی
 تھی۔ اس پر گرم گرم تقریریں ہوئیں۔ مجلس کی متفقہ رائے تھی کہ شرائط دربارہ ذمہ داری
 ادائیگی اخراجات جو برطانیہ کے حق میں واجب الادا ہیں نہ صرف سحت ہیں بلکہ عراق
 کے لئے ناقابل برداشت ہیں۔ مجلس التواہوتی رہی۔ اور اب برطانوی سیاسی حلقوں
 میں یہ یقین پختہ ہو رہا تھا کہ مجلس معاہدہ مسترد کر دے گی۔ آخر جائز و ناجائز و سائے
 بردے کار آئے۔ اور سنتیں^{۳۶} آرائے حق میں اور جو پیش مخالف اور ٹھہرے جانبدار
 شمار ہوئیں۔ شاہ فیصل نے۔ ارنومبر اور شاہ برطانیہ نے بھی ۱۲ دسمبر ۱۹۲۷ء
 میں تصدیق ثبت کر دی۔

دوران جنگ عظیم میں برطانیہ نے موصل پر قبضہ کر لیا تھا اور "پٹرولیم
 میں وہ کٹش تھی کہ برطانیہ ہر ایک قیمت پر اسے اپنے قبضہ میں
 رکھنا چاہتا تھا۔ ادھر مجلس عراق میں معاہدہ پر بحث ہو رہی تھی اور حضرت ترمسی کو کس

قسطنطنیہ میں ترکی اور عراقی حدود کے تعین کے لئے ترکی گورنمنٹ سے گفت و شنید کر رہا تھا۔ جو بے نتیجہ رہی اور تصفیہ لیگ آف نیشن کی کونسل پر آ رہا جس نے فیصلہ عراق اور اورپس پردہ برطانیہ کے حق میں کر دیا کہ موصل عراق کی حدود میں رہے گا۔

برطانیہ "ملکہ بحر ہے اس کے" "روغن سوز" بحری کشتیوں کے لئے "پٹرولیم" کی اشد ضرورت تھی۔ اپنا تقوق قائم اور بحال رکھنے کے لئے تیل کے چشموں پر اس کا قبضہ "جنت تجری من تحتہا الا نخل" تھا۔ اور یہ مقامات تھے۔ ایک کا مذکور ہم ایران کے حالات میں کر چکے ہیں اور دوسرا موصل ہے۔ جنگ عظیم سے پیشتر موصل کے تیل کے لئے ابتدا میں آسٹریا کے ایک باشندے ولیم ناکس ڈارسی (WILLIAM KNOX DARCY) نے ترکوں سے کچھ مراعات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ تو ۱۹۰۹ء میں ایران میں کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے جو مراعات ایران میں حاصل کی تھیں۔ وہ آخر "اینگلو پرسیئن آئل کمپنی میں منتقل ہو گئیں۔

موصل میں ڈارسی کے حریف "رائل ڈچ شیل آئل کمپنی" (ROYAL DUCH SHELL OIL CO.) اور جرمنی تھے۔ ایک انگریز "سر ارنسٹ کاسل" (SIR ERNEST CASSELL) جرمنی میں پیدا ہوا تھا اس لئے بلحاظ جائے ولادت اور قومیت جرمن بھی تھا اور انگریز بھی۔ اس کی سہمی سے برطانیہ اور جرمنی کی ایک کمپنی کی تشکیل ہوئی جس کو "ٹرکش پٹرولیم کمپنی" (TURKISH PETROLEUM CO.) سے موسوم کیا گیا۔ اس پر "اینگلو پرسیئن آئل کمپنی" کا ضبط و دخل رہا اس کے بارہ میں معاہدہ پر ۱۹ مارچ ۱۹۱۴ء کو دستخط ہو گئے مگر جنگ عظیم نے ترکی کی تصدیق نہ ہونے دی۔ انگریز فتح مند دونوں کمپنیوں کا مالک رہا۔ اگر کونسل آف لیگ موصل ترکوں کے حوالے کر دیتی تو حالات بدل جاتے۔ مگر لیگ آف نیشن کا تصور خواہ "جنرل سمٹس" کے ذہن میں پیدا ہوا یا امریکہ نے اسے عملی جامہ پہنایا یا ایک روایتی انگریزی سیاسی چال ہی تھی۔ کہ اپنے مفاد کے لئے زیادہ سے زیادہ حلیف پیدا کرے۔ اس کے مقبوضات ہندوستان وغیرہ اور نوآبادیات کو کونسل میں نمائندگی حاصل تھی اور اس لئے اکثریت اسی کے حق میں تھی۔

اس لئے یہ کہنا کچھ بے جا نہیں کہ "لیگ" کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اور لیگ کا کوئی فیصلہ اس کے مشائخ کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ موصل ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر عراق میں شامل ہو گیا۔ جس پر حکومت امیر فیصل کے نام پر برطانیہ کی تھی۔

جب اول عالمگیر جنگ کا آغاز ہوا برطانیہ نے جزیرہ "آبادان" پر قبضہ کر لیا۔ اور اس طرح تیل کے چشموں اور پائپ لائن اور ریفاٹری کی حفاظت بھی ہو گئی۔ خلیج فارس میں برطانوی برطانوی بحری بیڑہ کی موجودگی ضروری سمجھی گئی۔ ۱۹۱۵ء یعنی دوران جنگ میں "ڈچ شیل" نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر "ہیگ" (HAGUE) سے اپنا مستقر لندن میں منتقل کر لیا۔ برطانیہ ہی تمام آئل کمپنیوں کا مرکز بن گیا۔ اختتام جنگ کے بعد "لنکاسٹر ہاؤس" (LANCASTER HOUSE) میں ان کے نمائندگان کی ایک کانفرنس ہوئی۔ دعوت ضیافت کی تقریب پر ۲۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو "لارڈ ڈکرزن" نے اپنی تقریر میں کہا کہ:-

"یہ تیل کی لہریں ہی تھیں جن پر اتحادی بیٹے ہوئے ساحل مراد کے کنارے لگے ہیں۔"

اس لئے اگر برطانیہ کی حکومت سمندروں کی موجوں پر آئندہ قائم رکھنا مقصود تھا۔ تو اسے تیل کی شہنشاہیت پر بھی قبضہ رکھنا مطلوب تھا۔ اگرچہ تیل کے چشموں پر برطانیہ کا قبضہ بلا شرکت غیر سے ہو گیا۔ اور ڈچ اور فرانسیسی بھی اس لئے مطمئن ہو گئے کہ تقسیم میں ان کو پچیس^{۲۵} پچیس فی صدی مل گیا مگر امریکہ رضامند نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برطانیہ تیل کے چشموں کا واحد مالک بننا چاہتا ہے۔ اب برطانیہ اور اس کے حلیف ڈچ اور فرانس ایک طرف اور امریکہ دوسری طرف تیل پر جھگڑنے لگے یہ اقتصادی جنگ تھا۔ ان واقعات کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے۔ تو آئندہ متوقع جنگ عظیم کے اسباب میں سے ایک "پٹرولیم" بھی سبب ثابت ہو گا۔ کئی کانفرنسوں اور طویل گفت و شنید کے بعد برطانیہ نے "ٹرکش پٹرولیم کمپنی" کے حصہ چارہ فی صدی کا نصف دے کر امریکہ کو سر دست رضامند کر لیا مگر اس کا مطالبہ یہی رہا کہ ہر ایک ملک اور قوم کے لئے اس کی تجارت کا دروازہ کھلا رہے۔ ۲۳-۱۹۲۲ء میں ترکی جمہوریہ کی تشکیل نے اقوام یورپ اور امریکہ میں اور بھی سیاسی الجھنیں پیدا کر دیں۔

"لوزان" (LAUSAUNE) میں لارڈ کوزن اور عصمت پاشا نمائندہ ترکیہ میں جو جھڑپیں
 ہوئیں ان کا تذکرہ موجودہ ترکی کے حالات کے مناسب ہے جہاں تک موصل کا تعلق ہے "کوزن"
 اس بات پر زور دیتا رہا کہ "لیگ" نے عراق بشمول موصل کا "منڈیٹ" برطانیہ کے حوالے کر دیا
 ہے۔ عصمت کا جواب یہ تھا کہ "ترکیہ کو اس کا علم نہیں کہ "منڈیٹ" انگلینڈ کو دیا گیا ہے اور چونکہ
 بحال قانوناً عراق عثمانیہ سلطنت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس لئے کوئی معاہدہ "منڈیٹ"
 کے بارہ میں ترکی کے لئے قابل قبول نہیں جو اس کی عدم موجودگی میں کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں
 (CONVENT) کو نوینٹ" کی دفعہ ۲۲ کی صریحاً خلاف درزی ہوتی ہے کہ اس علاقہ کے
 لوگوں سے استصواب رائے (PLEBECETE) نہیں کیا گیا کہ وہ برطانوی منڈیٹ پر رضامند
 ہی ہیں؟ "کوزن کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ حق فتح کو بطور دلیل پیش کرتا۔ کہا کہ برطانیہ چار
 سال سے عراق پر قابض ہے۔ عصمت نے زہر خندہ کرتے ہوئے کہا کہ اس صدی میں حق
 فتح کو بطور برہان پیش کرنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام مہذب ممالک کی
 رائے عامہ اس دلیل کو جو "ہیرلارڈ شپ" (HIS LORDSHIP) نے پیش کی ہے کچھ وقعت
 میں دے گی۔ اور بالفرض محال اگر ان بھی لیا جائے تو برطانیہ نے موصل کو دوران جنگ اور متارکہ
 کے اعلان سے پہلے فتح نہیں کیا تھا۔ اس لئے حق فتح بھی بطور دلیل پیش نہیں ہو سکتا۔
 عصمت بار بار استصواب رائے پر زور دیتا تھا اور کہتا رہا کہ اس نواح کے لوگوں
 کی عام خواہش یہی ہے کہ موصل کا الحاق ترکیہ سے ہو اور برطانیہ اس سے واقف ہے اور
 ڈرتا ہے کہ اگر استصواب رائے ہوا تو ترکیہ کے حق میں ہو گا۔

(پاکستان اور بھارت میں مستدک شہیر بھی اسی صورت کا ہے)

"کوزن" نے قومیت کو رد پر بھی بحث کی کہ وہ ترک نہیں اور آخر اقتصادي زاویہ نگاہ
 سے کہا کہ اس کا الحاق عراق سے ہی مناسب ہے۔ جب عصمت نے اس کا بھی معقول جواب
 دیا تو آخر لیگ آف نیشن کی ثالثی کی تجویز پیش کی۔ عصمت نے انکار کر دیا۔ وہ لیگ کی
 حقیقت سے خوب واقف تھا۔ اس پر کوزن نے کہا کہ جب دلائل سے کام نہیں چلتا تو برہان
 قانع یعنی تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا سدباب دفعہ ۱۱ میں موجود ہے کہ لیگ کو جب یہ

خطرہ محسوس ہو تو امن عالم کے لئے وہ جو بھی مناسب ہو اقدام کر سکتی ہے۔ جب گفتگو اس مرحلہ پر پہنچی تو جاپان اور فرانس اور اٹلی کے نمائندگان نے رسمت سے درخواست کی کہ لیگ کی ثالثی منظور کر لے۔ عصمت نے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ ترکی کے مطالبہ کا حامی رہا۔ لیکن "کشاوہ دروازہ" (OPEN DOOR) کی حکمت عملی جس پر امریکہ توجہ دیتا رہا۔ ناکام ہو کر رہ گئی۔ جب برطانیہ نے بحر الکاہل میں جہاں امریکہ کا اقتدار تھا، کا مطالبہ کیا۔ آخر برطانیہ نے لیگ کی طرف رجوع کیا۔ اور لیگ نے ترکی کا مطالبہ کیا۔ ایک کمیشن کا تقرر ہوا جو "قضیہ زمین برسر زمین" کا تصفیہ حالات کے بعد اپنی رپورٹ میں کریگا۔

بعد ازیں کمیشن وارد ہوا تو اکاہر کو شہادت کے لئے طلب کیا گیا۔ برطانیہ نے عسکری قبضہ عراق پر تھا۔ اور حکومت کھٹ پٹی تھی۔ عوام میں جوش حد سے بڑھا ہوا اور ہر ایک گواہ کی جان کے لئے پڑے ہوئے تھے۔ کہ اگر حکومت عراق کے حق میں کچھ کہا تو عوام تکابوٹی کر دیں گے۔ اور اگر عوام کی خواہشات کا احترام کیا تو حکومت نہ چھوڑے گی۔ بعض گواہوں کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ دبی زبان سے ترکی کے حق میں اور بلند آواز میں حکومت عراق کے حق میں رائے دی۔ شہرین ہٹ بولنگ مچی ہوئی حکومت کی طرف سے سپاہ نے ضبط قائم کر دیا۔

اگر مسئلہ کشمیر بھی اسی طرح حل ہوا تو۔۔۔ (بایدید)

کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ولایت موصل میں کرد = ۲۹۴۰۰۰ اور عرب = ۱۶۶۹۴۱ اور ترک = ۳۸۶۵۲۔ مسیحی = ۶۱۳۳۶۔ یہودی = ۱۱۸۹۰۔ یزیدی = ۲۶۲۵۰۔ مردم شماری ۱۹۲۳ء کی بنا پر واضح کئے۔ کرد نہ تو ترک ہیں اور نہ عربی۔ البتہ موصل میں ترکی حقیقی ترک ہیں۔ ترکمان نہیں۔ جیسا کہ کردن کا دعویٰ تھا۔ یزیدی کی اصل نامعلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور باقی دنیا آدم کے اولاد کی نسل ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ "نوح" کے بیٹے ہیں اور اس کی زوجہ یا ازواج کی نسل سے نہیں۔ ان کی زبان تو کردی ہے مگر مقدس کتب عربی میں ہیں۔ وہ تو اور

برطانیہ اور انجیل اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں مگر تینوں سے الگ ہیں۔ یہودی مذہبی نہ مسلم۔ اس کمیشن کی رپورٹ کی تفصیل ہماری بحث کا موضوع نہیں۔ مختصر یہ کہ کمیشن نے سفارش کی کہ موصل عراق کی ملکیت قرار دیا جائے۔ رپورٹ پیش ہوتی تو ووٹ لئے گئے۔ اس میں برطانیہ اور ترکی شامل نہ تھے۔ بالاتفاق موصل حکومت عراق کے حوالہ کیا گیا۔

کمال پاشا نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا اور کہا کہ:۔
 ”موصل ترکی کا ہے اور سنگین بھی اسے ہم سے جدا نہیں کر سکتیں“
 لیگ کا فیصلہ ۱۶ دسمبر ۱۹۲۵ء کو ہوا اور اتا ترک کمال پاشا نے ترکی فوجوں کو سرحد پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ ترکی اخباروں نے لیگ آف نیشن کو برطانیہ کا پھٹو قرار دیا۔ اور لکھا کہ برطانیہ نے اس کو اپنا آلہ کار بنایا ہے۔
 روس نے کہا کہ:۔

”اگر جنگ چھڑ گئی تو روس لیگ کا ساتھ نہ دے گا۔ لیگ کو امن قائم کرنا چاہیے تھا نہ کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ قوموں میں جنگ چھڑ جائے۔“
 لیکن کمال پاشا کی حکومت نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور سیاسی چل رہا ہے تو دوبارہ اپریل ۱۹۲۶ء میں مسولینی ٹراٹلس میں گیا اور برطانیہ سے وعدہ کیا کہ اگر ترکی نے لیگ کا فیصلہ منظور نہ کیا اور موصل پر فوج کشی کی تو میں اناطولیہ پر حملہ کر دوں گا۔ یونان کے حصہ میں تقسیم جدید کی رو سے ”تھریس اور سمرنا“ نامزد ہو چکے تھے۔
 (یہ سیاسی چال وہی ہے جو لارڈ مونٹ بیٹن نے مسئلہ کشمیر کے متعلق اختیار کی کہ اگر پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا تو افغانستان پاکستان پر کر دیگا)
 ترکوں کے ہاتھ سے موصل نکل گیا۔

عراق کے بارہ میں برطانیہ کا یہ خیال تھا کہ یہاں کے لوگ آزادی کا مطالبہ کرتے تھے اور یہ کہ ان کو مل گئی۔ ان کا اپنا بادشاہ، اپنی مجلس دستور ساز، ان کی اپنی سپاہ اور سب سے بڑھ کر لیگ کی رکنیت وہ اور کیا چاہتے ہیں۔

صدر اعظم سر عبدالمحسن بیگ نے ۱۳ نومبر ۱۹۲۹ء میں خود کشی کی۔ اپنے بیٹے کو

خودکشی کی وجہ لکھتا ہے کہ :-

"قوم مجھ سے خیر مدت کا مطالبہ کرتی ہے لیکن برطانوی حکومت مانع

ہے۔ اور ہمارے مطالبات کو ٹھکرا دیتی ہے۔"

شاہ فیصل کا انتقال بھی ۸ ستمبر ۱۹۳۳ء میں ہو گیا۔ پچاس سال عمر پائی۔ شاعر اور

کایہ مہرہ تھا جو اس کی بساط سیاست پر کئی خانوں میں کام آیا۔ آخر عراق میں پٹ گیا۔

انیس سالہ "غازی" فیصل کا جانشین ہوا۔ برطانیہ نے جو کام باپ کے دور

دورہ میں مکمل نہ کیا۔ توقع ہے کہ "پسر تمام کند۔"

لیکن حالات سرعت سے بدل رہے ہیں۔ ایک طرف مصر اور دوسری طرف

ایران اور درمیان میں اتحاد عرب۔ دیکھتے کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس کا اثر عراق

پر بھی پڑے گا۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ہر ایک قوم دو زندگیوں اور دو مسرتوں کے دور سے گزر

ہے۔ جب ان کی کش مکش سے گذر کر آگے آتی ہے اگر سنبھلی گئی تو اس کی زندگی کا ایک نیا

دور شروع ہوتا ہے جو پہلے دو دوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ برطانیہ دو دوروں

سے گزرا اس نے اسلام کے خلاف بدترین دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ہر ایک سیاسی حربہ

استعمال کیا اور وار کرتا رہا اسلام مدافعت کرتا رہا۔ اب اسلام کی باری ہے۔

شام لبسنان فلسطین

پیشتر اس کے کہ ہم "جزیرۃ العرب" کے دیگر ممالک نجد اور حجاز اور یمن اور عسیر وغیرہم کے حالات بیان کریں سلسلہ واقعات قائم رکھنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شام اور لبناں اور فلسطین کا ذکر کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں "ام سامیہ" ہی قدیم الایام سے آباد تھیں جن کا مورث اعلیٰ سام بن حضرت نوح ہے۔ قبائلی تقسیم کے بعد ان ممالک کی تقسیم بھی ہوتی گئی۔ خلافت راشدہ اور امویہ اور عباسیہ کے تحت یہ سب ایک مرکزی حکومت کے تحت آگئے۔ پایہ خلافت مدینہ منورہ اور دمشق اور بغداد تھا۔ لیکن جب خلافت قریش میں ضعف آگیا تو طوائف الملوک نے ان ممالک کی تقسیم ورتقسیم کے بعد سرداران قبائل کی خود مختار یا نیم خود مختار حکومتیں قائم کر دیں۔ آل چنگیز نے عملاً خلافت عباسیہ ختم کر دی۔ اسی کے بعد ترکوں کو عروج حاصل ہوا تو ان میں سے آل عثمان نے شام اور لبناں اور فلسطین پھر سے اپنی مرکزی حکومت میں لے لیا۔ اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ عرب کے ساحلی علاقہ حجاز اور یمن اور عراق پر عثمانی ترکی حکومت تھی مگر مضبوط نہ تھی۔ اندرون ملک عرب کے قبائلی نجدی وغیرہ نے برائے نام ترکی سیادت قبول کر لی تھی لیکن خود مختار تھے۔

جنگ عظیم اول کے بعد پھر سے جزیرۃ العرب اور شام اور لبسنان وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے اکثر کی تشکیل برطانیہ عظمیٰ کے تحت ظہور پذیر ہوئی۔

عراق کے حالات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب شام وغیرہ کے حالات سلسلہ وار

بیان کرتے ہیں۔

فلسطین شام ہی کا ایک ساحلی حصہ ہے۔ لیکن سیاسی اغراض کی وجہ سے اس کو علی تصور کیا گیا ہے۔ جزیرہ العرب اور اس ملک شام بشمول فلسطین میں یہ فرق نمایاں ہے کہ موخر الذکر کا تعلق بیرونی ممالک کی اقوام سے قدیم الایام سے رہا ہے اور جزیرہ العرب غیر عرب اقوام سے میل جول کبھی نہیں رہا۔ شام میں مغربی اور مشرقی ثقافت (CULTURE) کا جو اثر ہوا وہ جزیرہ العرب میں نہ تھا جہاں قبائل اب بھی بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ شام میں شام سے اہل شام کو ان کی املاک زرعی اور رہائشی نے وابستہ کر رکھا تھا لیکن عرب میں اکثر قبائل نقل مکانی کے عادی تھے۔ بصرہ اور قرنہ کے درمیان ایک مقام "دیر الراءب" ہے۔

اول جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ۱۹۱۹ء میں میزاق مقام اسی جگہ تھا۔ میرے تعلق یہاں کے شیوخ سے دوستانہ تھے۔ ایک دن ایک شیخ "عبدالحی" مجھے تنہائی میں ملا۔ یاد ہے کہ آبادی کی اکثریت شیعہ ہے۔ میں ان پر واضح کر چکا تھا کہ میرا تعلق کسی فرقہ سے نہیں میں سیدھا سادہ مسلم ہوں۔ ملتہ ابیکم ابراہیم دھو سمکھ المسلمین۔

اس نے مجھ سے رازدارانہ کہا۔ "آپ بھی مسلم ہیں میں بھی مسلم ہوں۔ تقاضا اخوت یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ انگریز کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کامل آزاد کیا تھا مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نیت میں خیر نہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خنزیر کپتان "لمی" (اس وقت قرنہ میں پولیٹیکل ایجنٹ تھا) ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم اس ذلت کو گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا رکھا ہی کیلئے ہے۔ کھجوروں کے باغات اور کافی کی جھونپڑیاں۔ ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اندرون ملک میں چلے جائیں۔ آپ ہمیں برادرانہ مشورہ دیں کہ ہم یہاں رہیں یا اپنے ارادہ پر عمل کریں۔ میں نے اسے واضح الفاظ میں بتایا کہ "انگریز جہاں ایک دفعہ قدم جمائیں وہاں سے ہٹتے نہیں ہٹتے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ

مرغ زیرک چوں بدام رستہ تحمل بایدش"

آپ ذرا صبر اور تحمل سے کام لیں اگر آپ یہاں سے گئے تو انگریز یہاں غیر عرب اقوام کو بھی بسا سکتے ہیں۔ یہ زمین نہایت سرسبز اور آب و ہوا ہمارے پنجاب سے بھی کہیں خوش تر ہے۔ واقعات اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں تحسنا اور اتفاق رہا تو آپ کی آزادی میں رخنہ نہ پڑے گا۔

یہ شیخ نسبتاً زیادہ انداک کا مالک تھا اور اس کا اثر و رسوخ بھی یہاں نسبتاً زیادہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر علم سے بھی کچھ لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے ترکوں کو کیوں ترک کیا جو آخر مسلمان تھے اور غیروں سے رشتہ جوڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ترک ہمیشہ ہم سے الگ ہی رہے۔ وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے رہے اور ہم میں محکومی کی ذلت کا احساس تھا۔ انگریزوں کے وعدوں پر اعتبار کیا۔ اور خیال کیا کہ ان کی مدد سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دہلی زبان میں کہا کہ بدوزر طمع ویدہ ہوشمند۔ انگریزوں نے روپیہ یہاں پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ ہم سب ان کے وظیفہ خوار ہی تھے۔ میں نے کہا کہ آپ دانہ پر گرے اور جال میں پھنس کر رہ گئے۔ اب تحمل سے کام لیں۔ یہ تاریخی باتیں سبق آموز ہیں۔ بالخصوص مسلمانوں کے لئے جن میں غدار عام ہیں۔

جسے "آزادی" کہتے ہیں۔ صحیح معنی میں جزیرہ العرب کے بدوی ہی اس سے آشنا تھے۔ جسے تہذیب و تمدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ناواقف تھے مگر اہل شام اس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ شام میں عرب قوم پرست (NATIONALISTS) تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ عرب کا وہ حصہ جو عثمانیہ حکومت کے تحت ہے خود مختار ہو جائے لیکن خود مختاری کوئی بازاری شے نہیں جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ مناسب ذرائع سے مقصد حاصل ہوتا ہے ان میں سے بعض کی یہ رائے تھی کہ یہ مقصد اعلیٰ برطانیہ یا امریکہ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے اپنے زور بازو پر اعتماد رکھتے تھے بعض کی یہ رائے تھی کہ ایک متحدہ عرب سٹیٹ (STATE) کا امکان نہیں۔ اس لئے شام اور فلسطین اور لبنان کی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں کی جائیں ان میں تعلقات برادرانہ ہوں۔ لیکن سب کم و بیش ترک کی حکومت کے مخالف تھے جس نے بدقسمتی سے اتحاد توراتی اقوام

کا نیا ڈھونگ کھڑا کر رکھا تھا۔ اس نے اسلامی رشتہ اخوت تو منقطع کر دیا اور نسلی امتیازات کی شرانگیز تفریق پیدا دی۔

قوم پرستی کے جذبات تعلیم یافتہ طبقہ اور کاروباری آدمیوں اور ان لوگوں میں جن کا تعلق حکومت سے تھا موجزن تھے۔ شام میں ان کے ادارے ہر ایک جگہ سرگرم عمل تھے۔ ان میں سے "انفانت" نے دیگر عرب ممالک سے بھی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ عراق میں "الماحد البغداد" بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ مصر اور امریکہ میں شامی بکثرت تھے۔ ان کے ذریعہ بھی قوم پرستی کی اشاعت ہو رہی تھی اور سب سے بڑھ کر شریفی خاندان کے سربراہ اور وہ شریف حسین کی حمایت بھی حاصل تھی۔ شریف حسین ارض حجاز میں مقدس مقامات کا متولی تھا۔ عبدالعزیز ابن سعود نجد میں خود مختار حکمران تھا۔ وہ بھی اس کے زیر اثر اگر لبنان میں عیسائیوں کی اکثریت تھی وہ بھی عربوں کے دوش بدوش حصہ دار بن گئے۔ مگر ان دونوں میں فرق اتنا تھا کہ عرب مسلم تو ضرورہ برطانیہ یا امریکہ کو ترجیح دیتے تھے اور لبنانی فرانس سے وابستہ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن دونوں شامی اور لبنانی آزادی میں مشترکہ مفاد کا احساس رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون تھے۔

یرونی ممالک میں سے فرانس کا اثر اور سوخ شام میں زیادہ تھا۔ بالخصوص مسیحیوں پر۔ فرانس کا سرمایہ اور مسیحی مشن، مدرسے، کیتھولک فرقہ سے روایتی تعلق اسی امر کے مقتضی تھے کہ فرانس اپنا اقتدار شام پر جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی شمالی افریقہ میں اس کے مقبوضات کا تحفظ بھی شام سے وابستہ تھا۔ دراصل تمام افریقہ کی نظر بحیرہ روم پر لگی ہوئی تھی۔ بلکہ بحر برطانیہ کا اس پر واحد اجارہ دار تونہ تھا مگر اقتدار اعلیٰ ضرور تھا۔ افریقہ اور شام کے ساحلی علاقہ پر قبضہ محض بحیرہ روم کے تجارتی راستہ کے لئے مد نظر تھا۔ افریقیوں بھی شام سے بڑھ کر تجارتی منڈی اور کیا ہو سکتا ہے جہاں "دودھ اور شہد موج مارتے ہیں"۔ برطانیہ عظمیٰ ہر ایک قیمت پر بندرگاہ "حیفہ" کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا تحفظ عراق اور موصل اور ایران کے تیل کے اجارہ داری کے لئے کم از کم خلیج فارس اور خلیج کے عربی قبائل کی حکومتوں پر بھی دیکھنا

تھے۔ لیکن عراق اور شام کا ایک طرف اور مصر کا دوسری طرف چولی دامن کا ساتھ ہے
اس لئے شام اور سوڈان کے دوسری طرف مصر میں کسی غیر حکومت کی مداخلت برطانیہ کے
سیاسی اغراض کے منافی تھی۔ عرب پر برطانیہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکا تھا۔ شامی عرب
وہی اسی کے تحت لارہا تھا۔

صیہونی (ZIONIST) تحریک شروع ہو چکی۔ یہود فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور
واؤدا اور سلیمان کی شان اور عظمت ان کے دل سے محو نہ ہوئی تھی۔ ان میں بعض کی یہ رائے
تھی کہ یہود کرہ ارض کے مختلف اقطاع میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قومی شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ان
کو ارض فلسطین کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ مال و دولت کی کمی نہیں یہاں اہلک خدیں
اور کاروبار کے لئے یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی جائداد برقرار رکھیں۔ فلسطین میں ان کی اکثریت
سے صورت حال خاطر خواہ پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نظریہ پر عمل بھی شروع ہو گیا تھا
یہ مفکرین عبرانی زبان کے احیاء کے بھی حامی تھے۔ لیکن ایک اور جماعت بھی تھی جو اول
الذکر نظریہ کی مخالف تونہ تھی مگر اس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہود کے شہری حقوق کے تحفظ کی کچھ
ضمانت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت عثمانیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس لئے
اب ان کی نگاہ دول یورپ اور امریکہ کی طرف اٹھی۔ جرمنی میں یہود کا اثر زیادہ تھا اور اسی سے
زیادہ توقع تھی۔ مگر جنگ عظیم نے یہ توقعات جو جرمنی اور یہود کو ایک جیسی تھیں ختم کر دیں۔
اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

اس لئے یہود نے برطانیہ عظمیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔
برطانیہ اور شریف حسین میں ایشیائی عرب ممالک کے بارہ میں گفت و شنید ہو رہی
تھی۔ "سر ہنری میکوہن" (SIR HENRY McMAHON) اس وقت مصر میں برطانیہ
کی طرف سے ہائی کمشنر تھا۔ شریف حسین کے مطالبہ پر اس نے ۲۲ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو لکھا کہ:-
"میں حضرت اعلیٰ شاہ انگلستان کی طرف سے حتمی وعدہ کرتا ہوں کہ شام
کے بعض حصص جو دمشق اور حمص اور حلب کے غرب میں واقع ہیں۔ ان میں
ہمارے حلیف فرانس کا بھی منافع مشترک ہے اس لئے ان کے علاوہ تمام

عرب ممالک جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے آزاد متصور ہوں گے۔

شریف کا مطالبہ قائم رہا اور آخری طے پایا کہ اختتام جنگ پر ان کا بھی تصفیہ جائے گا۔ یہ تصفیہ جیسا کچھ ہوا ہم "ارض حجازہ" کے تحت بیان کریں گے۔

برطانیہ کا تعلق صیہونی اداروں سے بھی قائم ہو چکا تھا۔ ان میں جو گفت و شنید ہوتی تھی اس کا نتیجہ وہ مکتوب ہے جو خارجی سیکرٹری (FOREIGN SECRETARY) مسٹر بلفور (BALFOUR) نے جو بعد میں "لارڈ" ہو گئے۔ لارڈ "روتھ شیلڈ" (ROTH SCHILD) کو لکھا ہے۔ اسے اعلان بلفور (BALOUR DECLARATION) سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں اس امر کی وضاحت کی گئی کہ برطانیہ عظمیٰ یہودیوں کے لئے ارض فلسطین میں قومی گھر (NATIONAL HOME) پسند فرماتا ہے اور اس غرض کی تکمیل کے لئے پوری کوشش بھی کرے گا۔ لیکن یہ امر بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ غیر یہود کے حقوق جو فلسطین میں ان کو ضرر کسی قسم کا نہ ہوگا۔ اور نہ اس کا اثر ان حقوق پر ہوگا جو یہود کو دیگر ممالک میں حاصل ہے۔

نومبر ۱۹۱۴ء میں شریف کی شاہی حجاز کا اعلان ہو چکا تھا۔ اس اعلان بلفور نے بدظن کر دیا۔ جنگ جاری تھا اور شریفی فاندان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ شریف کا تیسرا بیٹا فیصل عرب کی قیادت شام میں کر رہا تھا۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ تو جانتا تھا کہ جنگ جس غرض سے لڑی گئی اور اس کی تکمیل جنگ کی مشکلات سے بھی مشکل تر ہے۔ اس لئے شریف حسین کو یقین دلایا گیا کہ تمام عرب دنیا کا اتحاد برطانیہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور عربوں کی آزادی ہی کی خاطر یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔

۵ جنوری ۱۹۱۸ء میں مسٹر لائیڈ جارج صدر اعظم نے اعلان کیا کہ:

"ہمیں ترکوں کے قومی گھر سے تو کچھ تعرض نہیں البتہ عرب اور آرمینیا اور عراق اور شام اور فلسطین ہماری رائے میں اس امر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انکی علیحدہ قومیت کی شان بحال رہے۔"

یہ شان کس نوع کی ہوگی اس کا ذکر اعلان میں نہیں کیا گیا۔

اس اعلان کے تین دن بعد امریکہ کے صدر جمہوریہ ولسن (WILSON) کے رسوا عالم

چودہ نقاط "FOURTEEN POINTS) میں یہ بھی مذکورہ اعلان شائع ہوا کہ:-

"عثمانیہ شہنشاہیت موجودہ کو یقین دلایا جائے کہ اس کی سیادت،

(SOVEREIGNTY) محفوظ رہے گی۔ لیکن غیر ترک اقوام کو جواب تک ترکوں

کے ماتحت ہیں یہ بھی یقین دلایا جائے کہ ان کو موقعہ دیا جائے گا کہ وہ بلا مداخلت

غیرے خود مختاری حاصل کر لیں۔

اسے جنگ آزادی کہتے یا کچھ اور، شیخ سعدی کا ارشاد بالکل صحیح ہے کہ

حقا کہ باعقوبت دوزخ برابر است

رفتن بہ پائے مردی ہمسایہ دہشت

شریف حسین کو جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ وہ جس بہشت کا خواب دیکھ رہا تھا اس نے

بار خراس سے دوزخ کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔

ہمیں اس جنگ آزادی کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اگرچہ واقعات جنگ

جسے اب شام کہتے ہیں اس کی حدود سے باہر ہی عموماً رونما ہوئے مگر اس میں شامیوں کا بھی حصہ

تھا۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو ترکی فوج میں کام کر رہے تھے یا کر چکے تھے۔ یہ اپنے بھائی عربوں سے

آلتے، قوم پرستوں نے صحرائے شام کے بدوی قبائل کو بھی برا نگینہ کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔

اور اس طرح اتحادیوں کے لئے شام کی تسخیر ایک سہل سی بات بن گئی۔ ترک ان کا مقابلہ کس

کس محاذ پر کرتے۔ امیر فیصل اپنی محافظ فوج کے ساتھ اکتوبر ۱۹۱۶ء میں دمشق میں داخل

ہو گیا۔ اور یہاں اس کی شاہی کا اعلان بھی ہو گیا۔ لیکن یہ شاہی چند روزہ ہی تھی۔ فرانس نے

ان معاہدات کا انکار کر دیا جو برطانیہ نے شریف حسین سے باندھے تھے جس میں فرانس

شریک نہ تھا اگرچہ اس کو ان کا علم تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ فرانس سے امیر فیصل کی بھڑپ بھی ہوئی

جس میں اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا، بھاگ کر مصر چلا گیا۔ شام پر اتحادی فوجوں کا قبضہ تقاریر

کے مغرب میں ارض فلسطین میں برطانیہ کے عارضی حکومت قائم کر لی۔ فلسطین کے شمالی

ساحلی علاقہ میں ایسی ہی فرانسیسی حکومت تھی۔ حلب اور حمص اور در دمشق اور شرق

اردن میں عرب تھے۔ اور انہی کے بل بوتے پر امیر فیصل دمشق میں شاہ بنا۔ اس وقت اس

سے ایک سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ بیروت کی طرف پیش قدمی کی جیسے "جنرل ایمن بی" نے روک دیا۔
فرانس تو شروع سے شام بالخصوص شام کے شمالی علاقہ میں آزاد عرب حکومت کے خلاف
اس کو تقویت لبنان کے مسیحیوں نے بھی دی جو عرب حکومت کے ماتحت رہنا بھی پس
نہیں کرتے تھے۔ شامی عرب اول تو کسی غیر کا اقتدار پسند ہی نہ کرتے تھے مگر بحالت مجبور
برطانیہ کو فرانس پر اور دونوں پر امریکہ کو ترجیح دیتے تھے۔

ان واقعات کا تذکرہ جس نے دول یورپ میں سیاسی الجھنیں پیدا کر دی، ہم
کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

فیصل کو تو اپنا ذاتی اقتدار مطلوب تھا۔ قوم پرست اگر سیاسی شعور سے کام لیتے تو
اتحادیوں میں دال جوٹیوں میں بیٹھی۔ اور خود بخود بیٹھنے لگی تھی مگر غیر جانب دار امریکہ نے بیچ
بچاؤ کر کے سب کو ٹھنڈا کر دیا۔

عرب کا مقابلہ اب ایک طرف فرانس اور دوسری طرف صیہونی تحریک سے تھا۔ برطانیہ
پر جو اعتماد تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ برطانیہ یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ ترکی حکومت کی خلافت عرب
کو ملے جو بہت عرصہ نہیں گذرا تھا کہ تمام متحد ممالک ایشیا اور افریقہ پر چھائے ہوئے تھے
شریف حسین کو سبز باغ تو بہت دکھائے مگر برطانیہ کی سیاسی لغت میں وعدہ اور معاہدہ
کے معنی محض وقتی خطرات کا سدباب اور مستقل مفاد کا ارادہ ہی ہے۔ "جنرل لائسن" شریف
کا مشیر تھا اور عبدالعزیز ابن سعود کا "فلپی" (PHILBY) تھا۔ شریف حسین کا تمام عرب ممالک
پر حق خلافت کا خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ بلکہ ارض حجاز سے جو اس کا مستقر خلافت تھا
دست بردار ہونا پڑا۔ یہ حالات ہم حجاز کے تحت بیان کریں گے۔ یہود نوازی کا مقصد اتنا
تھا کہ اس معضوب قوم کو عربوں کے مقابل ایک ہی جگہ کھڑا کیا جائے اور ابن سعود کو حجاز اس
لئے دیا کہ شریفی خاندان اور وہابیوں میں پہلے ہی دشمنی تھی، ان کا اتحاد و الحاق نہ ہو سکے۔
اور دونوں برطانیہ کی سرپرستی عنایت سمجھیں۔

ہم بیان کر چکی ہیں کہ امیر فیصل کی شاہی کا اعلان شامی کانگریس نے بلا مشورہ فرانس
اور برطانیہ کر دیا تھا جسے دونوں حکومتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ سان ریمو (SAN REMO)

کافر نس میں سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے ہوتے۔ یہ کانفرنس ۲۰ اپریل ۱۹۲۰ء میں منعقد ہوئی۔ اتحادی دول میں سے شام اور لبنان جس کو بعد میں لوینٹ سٹیٹ (LEVANT STATES) سے موسوم کیا گیا۔ فرانس کے منڈیٹ میں دیا گیا۔ اور عراق اور فلسطین برطانیہ کے حصہ میں آیا۔ شام اور عراق اور فلسطین کو "منڈیٹ اے" (CLASS A MANDATE) سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان ممالک کے باشندوں کی ذہنیت اتنی پختہ ہو چکی ہے یا کہ پختہ ہونے کے قریب ہے کہ حکومت خود اختیاری کی ذمہ داری سے ۶۰ برس ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کو نسبتاً ان ممالک سے جو ابھی خام خیال ہیں آزادی ملدی مل جائے گی۔ شام اور لبنان اور عراق کے بارہ میں منڈیٹ میں یہ وضاحت لکھی تھی کہ ان کو آزادی میں برطانیہ اور فرانس زیادہ سے زیادہ مدد دیں۔ لیکن فلسطین کا ذکر خیر اس میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ برطانیہ یہود سے بھی کچھ وعدے کر چکا تھا۔ اور ان کا ایفا برطانیہ کی سیاسی حکمت عملی کے عین مطابق تھا۔ معاہدہ اور اعلان بالفور میں صرف یہود کے "نیشنل ہوم" (NATIONAL HOME) کا ذکر تھا۔ اس کی تشریح نہ تھی کہ یہ گھر سلطنت کا ہو گا یا خدا کا یا دونوں کا۔

حضرت داؤدؑ نے یرشلیم میں بیت المقدس کا سنگ بنیاد رکھا تو اعلان کیا تھا کہ "یہ خدا اور سلطنت دونوں کا گھر ہے۔"

یہود اس روایت کو نہیں بھولے تھے اور برطانیہ ایسا ہی گھر عربوں کے گھروں کے سر پر تعمیر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ عرب کی اکثریت فلسطین میں تھی اور خلافت راشدہ سے لے کر اب تک اس سرزمین پر حکمران اور آباد تھے۔ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا یا ان کو بے دخل کرنا آسان نہ تھا۔ اب یہ یہود کا کام تھا کہ اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے جو برطانیہ نے دیا اور عربوں کی قوت مدافعت پر منحصر تھا کہ یہ منصوبہ پورا نہ ہونے دیں۔

اس کشمکش میں یہودیوں اور عربوں میں جو ارض فلسطین کے لئے شروع ہوئی اتحادی بشمول امریکہ یہود کے پشت پناہ تھے۔ برطانیہ اور امریکہ نے امدادیں خاص

حصہ لیا۔

ان واقعات کا ذکر مناسب مقام پر کیا جائے گا۔

برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ اگر تمام شام نہیں تو جنوبی شام پر اسی کا اقتدار ہو۔ حالانکہ کچھ سناڑ گار خود بخود پیدا ہو گئے۔ کمال پاشا نے ترکی قومی حکومت کو گرتے گرتے تمام اس کی حدود کا تصادم "فرینچ منڈیٹ" سے ہوا۔ یعنی شام اور لبنان میں فرانسیسی حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کے تحفظ کے لئے ترکوں سے لڑنا پڑے گا۔ کمال پاشا موصل بھی مطالبہ کر رہا تھا۔ اور عرب قوم پرست مشتعل ہو رہے تھے۔ یہ دوسرا خطرہ تھا۔ اب فرانسیسیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ برطانیہ کے چلنے میں "منڈیٹ" سے قبول کیا گیا کی میعاد ہی کچھ نہیں۔ یہودی بھی مطمئن نہ تھے کہ ان کی سلطنت کے گھر سے شرق ارض علیحدہ کیا گیا ہے۔ اور خدا کے گھر میں یروشلم شامل نہیں کیا گیا۔ منڈیٹ جو کونسل آف ان نے ۲۲ جولائی ۱۹۲۲ء میں مرتب کیا۔ اور جس کی ایک ایک نقل سب اتحادیوں کو گئی تھی۔ اس کی بیس دفعات میں سے پہلی دفعہ ہی یہ تھی کہ مقامی حکام کے مشورہ سے تین سال کے عرصہ میں "مینڈیٹری" ایسے آئین و قوانین وضع کریں گے کہ شام اور لبنان کو جلد آزادی حاصل ہو جائے۔

فیصل کو شکست ہوئی تو اس کا بھائی عبداللہ، شریف حسین کا دوسرا بیٹا عرب فوج کے ساتھ حجاز سے شام کی طرف بڑھا۔ لڑائی ہوئی تو غالباً اس کا بھی یہی نتیجہ شکست ہوتا مگر فرانس نے شرق اردن کی حکومت شرائط "منڈیٹ" کے تحت پیش کر دی۔ عبداللہ نے بھی منڈیٹ قبول کر لی۔ اپریل ۱۹۲۳ء میں برطانیہ نے بھی ویسی آزاد حکومت جو عراق میں فیصل کو دینی شرق اردن میں عبداللہ نے تسلیم کر لی۔ عربی خطرہ سردست ٹل گیا۔ اب ترکوں سے نپٹنا باقی رہ گیا۔ ترک عرب نہ تھے۔ وہ آخر ایک منظم قوم منظم سلطنت تھی۔ اگرچہ اتحادیوں کی متفقہ قوت کے سامنے اسے جھکنا پڑا مگر اس میں ابھی اتنی شکست تھی کہ فرداً ہر ایک سے نپٹ لیتی۔

۱۹۲۱ء میں ایک معاہدہ کے ذریعہ ترکی حکومت نے تسلیم کر لیا تھا کہ سکندریہ

(ALEXANDRETTA) فرنج منڈیٹ کے تحت رہے گا۔ لیکن شام سے علیحدہ رہے گا۔
 ۱۹۳۶ء میں فرانس اور حکومت شام میں اسی وضع کا ایک معاہدہ ہوا جیسا کہ عراق میں برطانیہ
 کو چکا تھا۔ اس کی میعاد پچیس سال رکھی گئی۔ اگرچہ لبنانی حکومت سے بھی اسی قسم کا ایک معاہدہ
 علیحدہ کیا گیا مگر تھوڑے عرصہ کے تجربہ کے بعد لبنانی پارلیمنٹ کو بھی معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے
 سے قطعہ اراضی پر حکومت کے اخراجات ناقابل برواقت ہیں۔ اس لئے پھر سے شام میں
 شامل ہو گئے۔ ترکوں نے سکندرونہ کے بارہ میں شام سے شمولیت کا انکار کر دیا۔ طویل گفت
 شنید کے بعد شامی حکومت نے اتنا مان لیا کہ "منہجق" کی علیحدہ حکومت ہوگی اس کے
 اندرونی معاملات میں شامی حکومت دخل نہ دے گی لیکن امور خارجہ شامی حکومت سرانجام
 دے گی۔ اقتصادی اور مالی الحاق حکومت شام سے رہے گا۔ "منہجق" میں فرنج ریڈیٹنٹ
 رہے گا۔ جو فرنج گورنمنٹ گورنمنٹ نامزد کرے گی۔ ترکی حکومت کو خاص حقوق سکندرونہ
 میں حاصل ہوں گے۔

۱۹۳۶ء میں بیگ کی کونسل کی منظوری کے بعد اور ترکی حکومت نے اس معاہدہ
 کی شرائط پر ایک معاہدہ فرانس سے کیا۔ لیکن حکومت شام مطمئن نہ تھی اس لئے پھر سے
 عربوں اور ترکوں میں بد مزگی پیدا ہو گئی۔ کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ جس میں نقصان جان و مال
 بھی ہوا مگر فرانس کی سپاہ نے امن قائم کر دیا۔ شامی حکومت کو یہ خطرہ بجا تھا کہ ویر سویر
 ترکی "منہجق" کے الحاق کا مطالبہ کرے گا۔ اور اگر یہ ہو گیا تو حلب اور شمالی شام کی خیر
 نہیں۔ ایک کا فیصلہ دربارہ سکندرونہ کہ ترکی کے حوالہ کیا جائے۔ اور منہجق کے لئے علیحدہ
 پارلیمنٹ ایسے امور تھے کہ شامی پارلیمنٹ نے مسترد کر دیئے۔ ترکوں نے ترکی بہ ترکی
 جواب دیا اور ۱۹۲۶ء کا معاہدہ جو شام اور ترکی میں ہوا منسوخ کر دیا۔ اس معاہدہ کی
 رو سے دو ہمسایہ سلطنتوں کا فرض تھا کہ مراسم دوستانہ کے قیام کے ساتھ ایک دوسرے
 کی حدود کا بھی احترام ملحوظ رکھیں گے۔ اگرچہ برطانیہ شامی مطالبات کا حامی تھا۔ لیکن
 فرانس ترکوں سے بگاڑ نہیں چاہتا تھا۔ "منہجق" میں بد نظمی کا دور دورہ شروع ہو گیا فرانس
 اور ترکوں میں سمجھوتہ ہو گیا کہ ترکی اور فرانسیسی سپاہ مل کر امن قائم کریں۔ انقرہ میں ۲۴ جولائی

۱۹۳۸ء میں فرانس اور ترکیوں میں ایک نیا معاہدہ بحیرہ روم میں ایک دوسرے کی امداد کا ہوا۔ ایک دن بعد ترکی فوج منہج میں داخل ہو گئی۔ اور اسکی نگرانی میں انتخاب ممبران اسمبلی کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ صدر بلکہ تمام ممبران ترک ہی ترک ہی تھے۔ منہج کا الحاق ترکی حکومت سے ہو گیا۔ شامی حکومت چھینتی چلاتی رہی مگر فرانس کو اٹلی کی جانب سے شمالی افریقہ میں غلط تھا اور ترکوں کی امداد کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ۲۳ جون ۱۹۳۹ء میں فرانس

اور ترکی میں باہمی امداد (DECLARATION OF MUTUAL ASSISTANCE) کا معاہدہ ہو گیا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ فرانس شام میں اپنے حقوق سے دست بردار کسی تیسری طاقت کے حق میں نہ ہوگا ایک ماہ بعد فرانسیسی فوج سے سکندر ونہ خالی کردی اور ترکی نے اس کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔

فلسطین میں یہود نوازی کا اثر تمام عرب قبائل پر جو شام اور لبنان میں رہتے تھے ہونا ہی تھا۔ ۱۹۳۶ء میں شام میں اتحاد عرب کی کانفرنس (SANE, ARAB - CANFERENCE) منعقد ہوئی۔ مسئلہ فلسطین تمام عرب کا مسئلہ تھا۔ مفتی اعظم لبنان میں پناہ گزین ہوا۔ اور عرب بالخصوص شام کے عرب ہر ایک جگہ جہاں تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دمشق میں مداخلت فلسطین کی انجمن کی تشکیل ہوئی۔

شام میں بے چینی اور بد نظمی نے جو صورت حالات پیدا کر رکھی تھی اس پر اضافہ یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۳ء تک) نے ایک اور صورت اختیار کر لی۔ یورپ میں جنگ کا زیادہ زور فرانس پر تھا۔ فرانسیسی حکومت کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ جب جرمن سپاہ کا پیرس میں دخل اور قبضہ ہو گیا تو اتحادیوں کا ساتھ چھو کر جرمن کی پناہ آجاتے۔ یہ حالت تو داخلی گورنمنٹ کی تھی مگر بیرونی سپاہ اور اس کے افسر اتحادیوں سے چمٹے رہے۔ ان کی قیادت جنرل "ڈیگال" کر رہا تھا۔ اس کا اثر اس علاقہ پر بھی ہونا تھا جو فرانس کے زیر انتداب تھا۔ اہل شام اور لبنان نے سمجھ لیا تھا کہ "فرانسیسی منڈیٹ" کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب انگریزوں کی بن آئی۔

جولائی ۱۹۴۰ء میں "لوری السعید" جو اس وقت عراق کا وزیر خارجہ تھا، دمشق

میں آیا۔ اور انقرہ اور بیروت میں بھی گیا۔ غرض یہ تھی کہ حکومت ترکیہ اور اکابر شام و لبنان سے دریافت کیا جائے کہ فرانسیسی منڈیٹ کا کیا بنے گا۔ مشورہ کے بعد اعلان کیا کہ:-

”ترک اور عراق دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ شام شامیوں کا ہے

ان کی خود مختار سلطنت دونوں کو قابل قبول ہے۔“

”منڈیٹ“ کا ڈھونگ خود بخود ختم ہو گیا۔ جب کہ کفن چور لیگ آف نیشن کا جوازہ بھی نکل گیا۔ جرمن اور اٹلی اور فرانس اس کے ممبر تھے۔ یہ علیحدہ ہوئے تو صرف اتحادی ہی رہ گئے۔ یہ برطانیہ اور روس ہی تھے۔ یا ان کے حلیف تھے۔ شام اور لبنان میں ابھی تک فرانسیسی ہائی کمشنر کا نمائندہ موجود تھا۔ شامی اور لبنانی کامل آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس وقت شامی سیاسیات کا مرکز بغداد تھا۔ اور شامی عراق سے یہ توقع کرتے تھے کہ ان کو ہر ممکن مدد اسی طرف سے ملے گی۔ جو اب منظم ہو چکا تھا۔ اور عراقیوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا تھا۔ فلسطین سے ان کے بھائی بھاگ کر اس طرف آ رہے تھے اور یہودیوں کے مظالم کے ستائے ہوئے جذبہ قومیت کو مشتعل کر رہے تھے۔

۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۱ء میں جرمن کابل بالاپور ہا تھا۔ اور برطانیہ کئی مقامات پر بری طرح پٹ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی پر اپنا غنڈہ بھی سرگرم عمل تھا۔ برطانیہ نے جوروش فلسطین اور فرانس نے شام میں اختیار کر رکھی تھی اس نے عربوں کے دلوں میں دونوں کے خلاف منافرت پیدا کر دی۔ رشید علی نے عراق میں علم بغاوت بلند کر دیا مگر کامیاب نہ ہوا۔

برطانیہ اور آزاد فرانسیسی فوج نے شام اور لبنان کو پھراپنے قبضہ میں لے لیا۔ فرانسیسی جنرل (CATROUX) نے ایک اعلان شائع کیا کہ:-

”ہم اس ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے نہیں آئے بغرض

یہ ہے کہ ”ہٹلر“ کے ایجنٹوں کو نکالا جائے۔ تم اور تمہارا ملک بالکل آزاد

ہے۔ جیسی چاہو حکومت قائم کر لو جنگ کے اختتام پر جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوگا۔ اس میں ہمارے آئندہ تعلقات کی تشریح فریقین کی رضامندی سے کی جائے گی۔ مصر میں برطانوی سفیر نے بھی اس کی تصدیق کی۔

اگرچہ شام اور لبنان پر جنرل ڈیگال (GENERAL DE GAULLE) کے نام سے اس کا نایندہ حکومت کر رہا تھا مگر فوج برطانوی تھی اور نظم و نسق سب انگریزوں کے ہاتھ میں۔ فرینچ جنرل نے شیخ تاج الدین کو نئی آزاد حکومت شام کی تشکیل کی دعوت دی۔ تاج الدین الحسینی شیخ بدر الدین کالط کا تھا جو دمشق میں مشہور عالم دین تھا۔ شیخ تاج نے دونوں عالمگیر لڑائیوں کے دوران میں نمایاں حصہ لیا تھا اور اتحادیوں کی طرف مائل رہا۔ دفعہ وزیر اعظم بھی مقرر ہو چکا تھا۔ فرینچ جنرل اور شیخ تاج نے حکومت کو تشکیل اس طرح دی۔ حسن الحکیم کو صدر جمہوریہ شام نامزد کیا۔ کابینہ میں لبنان کی نمائندگی تھی مگر قوم پرست شامی نہ ہوئے۔

اگرچہ شام اور لبنان کی آزادی کا اعلان ہو گیا مگر ابھی تک فرینچ حکومت اپنے اختیار سے دست بردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ اور شامی فرانسیسی مداخلت انتظامیہ امور میں مزید دخلی کر رہی تھی۔ جنوری ۱۹۴۳ء میں شیخ تاج کا انتقال ہو گیا۔ اب جنرل ڈیگال نے اعلان دیا کہ شام اور لبنان میں آئینی حکومت قائم کی جائے شام میں عطا یونی اور لبنان میں ڈاک ایوب ثابت نے نا انتخاب عارضی حکومت قائم کر لی۔ انتخاب ہوا۔ اور صدر جمہوریہ بشر الخوری منتخب ہوا۔ ہمسایہ عرب حکومتوں نے بھی شام کی آزادی بہ نظر استحسان دیکھا۔ یہ ظاہر تھا کہ شام میں حالات موافق و مخالف کا اثر ان ممالک عرب پر بھی ضرور پڑے گا جو برطانیہ کے تحت اقتدار تھے۔

۱۹۴۳ء اور ۱۹۴۴ء میں مصری وزیر اعظم مصطفیٰ سخاس پاشا۔

عرب لیگ

عرب حکومتوں سے عرب اتحاد کے بارہ میں گفت گو جاری رکھی۔

کو تشکیل دینے کے لئے ایک کمیٹی بھی مقرر ہوئی۔ ۲۸ ستمبر ۱۹۴۴ء میں سکندریہ میں اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس میں مصری، عراقی، لبنانی، شامی، اردنی، سعودی عربی اور یمنی حکومتوں

اور فلسطین کے عرب باشندوں کے نمائندے شامل ہوئے۔ ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا جس پر ان نمائندوں کے دستخط ثبت ہوئے۔ فلسطین میں چونکہ عرب حکومت نہ تھی اس لئے اس کے نمائندے نے دستخط نہ کئے۔ عرب حکومتوں کی ایک لیگ اس طرح بن گئی جس کا مستقل مستقر "قاہرہ" قرار پایا۔ "عبدالرحمن عزام بے" اس کا پہلا سیکرٹری جنرل مقرر ہوا۔

واقعات جو دونوں عالمگیر لڑائیوں کے دوران اور بعد میں رونما ہوئے تقاضہ کر رہے تھے کہ ہر ایک قوم اگر زندہ رہنا چاہتی ہے متحد ہو جائے اور اپنے تمام اختلافات نہ ہی وغیرہ ایک قلم مٹا دے۔ اسی حقیقت کا احساس تھا کہ "عرب لیگ" صورت پذیر ہوئی۔ یہ احساس اعلان بالفور کے بعد شدید ہوتا گیا۔ فلسطین میں عرب بے دخل ہو رہے تھے اور یہود ان کی املاک خرید رہے تھے۔ اور دیگر جائز اور ناجائز وسائل سے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ پس پر وہ برطانیہ کر رہا تھا۔ جہاں تک سیاسیات کا تعلق ہے برطانیہ کو نہ یہود کا عشق تھا اور نہ عربوں سے دشمنی تھی۔ وہ بحیرہ شام (روم) پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا۔ ارض فلسطین ساحل شام پر واقع ہے اور مصر اس کا آخری گوشہ ہے۔ یونان اور اٹلی اور فرانس اور ہسپانیہ اسی بحر کے کناروں پر واقع ہیں اور شمالی افریقہ میں ساحلی علاقہ طرابلس وغیرہ انہی ممالک کے زیر اقتدار ہیں۔ برطانیہ کے پاس سوائے جبل الطارق اور البٹانا اس بحر میں کچھ نہ تھا۔ اس کی چشم دور بین ارض فلسطین اور مصر پر تھی۔ دول یورپ سے لڑائی مول لینا نہ چاہتا تھا۔ جن میں سے اکثر اس کے آلہ کار بھی تھے۔ لیکن فلسطین اور مصر مسلمانوں کے تھے۔ مصر پر عملاً اسی کی حکومت تھی۔ (مزید حالات ہم "مصر کے تحت بیان کریں گے) اب جب کہ موصل کے تیل کی پائپ لائن "ارض فلسطین سے گذر کر بیروت کے نیچے بندرگاہ حیفہ پر ختم ہوتی تھی جو بحیرہ شام پر واقع ہے۔ ارض فلسطین پر برطانوی اقتدار از بس ضروری تھا۔ یہود نوازی ایک سیاسی ڈھونگ تھا۔ دراصل ارض فلسطین میں دو قوموں کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا مقصود تھا۔ وہ لڑتے رہیں اور یہ امن کے نام پر بدخلت کرتے رہیں۔ ان کی توجہ کسی اور طرف ہو اور یہ اپنا کام سرانجام دیتے رہیں۔ لیگ آف نیشن کی کونسل نے فلسطین اور عراق کا "انتداب" برطانیہ کو دیا۔ موصل کی پائپ لائن نے دونوں کو

ملادیا۔ جہاں تک تیل کا مسئلہ ہے وہ اینگلو پرسیا آئل کمپنی کے زیر اہتمام تھی۔ اس طرح بحری جنگی بیڑہ مقیم بحیرہ شام کو حیفہ کی بندرگاہ پر موصل اور "آبادان" بحیرہ عرب و ہند کے جہازوں کو ایرانی تیل مہیا کرنے کے اہم مقامات تھے برطانیہ کے قبضہ میں آگئے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شام بشمول فلسطین میں عرب اکثریت میں تھے۔ ارض فلسطین میں ان کا تہ وریہود کے ذریعہ توڑا گیا۔ شریف حسین کل ممالک عرب پر حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ یہود نوازی نے اسے برطانیہ کی طرف سے بدظن کر دیا تھا۔ مگر دنیا بامید قائم۔ وہ جانتا تھا کہ برطانیہ کی امداد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور برطانیہ بھی اختتام جنگ تک طفل تسلی دیتا رہا۔ ۱۹۳۶ء تک برطانیہ کا سیاسی عروج انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اور اول جنگ عظیم کے بعد بحر و بر میں اسی کا طوطی بول رہا تھا کہ دوسرا عالمگیر جنگ شروع ہو گیا۔ جس سے برطانیہ کی زندگی اور موت وابستہ تھی۔

۱۹۳۶-۳۹ء میں عرب نے ارض فلسطین کے طول و عرض میں شورش برپا کر دی۔ ان کو امداد ہر طرف سے مل رہی تھی۔ شام کے عرب پیش پیش تھے۔ پان عرب (PAN ARAB) کی کئی کانگریس قائم ہوتی رہیں۔ اس کے پہلو میں "اتحاد اسلامی" (PAN ISLAMISM) کی مجالس بھی منعقد ہوتی رہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آخر الذکر کا آغاز ۱۹۳۱ء میں ہو چکا تھا اور اتحاد عرب اس کی ایک شاخ تھی جس نے آخر تنظیم باضابطہ عرب لیگ کی صورت کر لی۔

بنی اسرائیل

ہم بیان کر چکے ہیں کہ قدیم الایام سے دریائے نیل اور وادی کے کنارہ تک ام سامیہ آباد تھیں۔ مصر میں فراغہ مصر اور شام اور عساریہ اور بابل میں انہی کی شاہی تھی اور یہ عظیم الشان سلطنتوں کے مالک تھے۔

حضرت ابراہیمؑ کے اجداد غالباً ارض حجاز میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک نے دریائے فرات کو عبور کر کے الجزیرہ میں "خالدیوں کے اڈے میں رہائش اختیار کی۔" اور کے معنی شہر ہیں۔ جیسے "اورشلیم" (یروشلم) سلامتی کا شہر یہ شخص جس نے فرات عبور کیا۔ "عبرہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد عبرانی (HEBREW) کہلاتی حضرت ابراہیمؑ

نے جب اپنی قوم سے نہ بنی تو ارض کنعان (فلسطین) کی طرف ہجرت کی۔ توراہ میں حضرت ابراہیمؑ کے حالات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ:-

"یہ زمین جہاں تو مسافر نہ وارد ہوا ہے میں ہمیشہ کے لئے تیری ذریت کو

دوں گا۔"

اسے اصطلاح اہل کتاب میں وعدہ برکت کہتے ہیں۔ بالآخر اس وعدہ برکت میں وہ تمام ممالک جو نیل سے وجہ تک ہیں شامل ہو گئے۔

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے۔ پلوٹھا اسمعیلؑ، حضرت ہاجرہ کے لطن سے جو ہمعصر فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ اور دوسرا اسحقؑ، سارہ کے لطن سے جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی۔ حضرت اسحاقؑ کے دو بیٹے تھے۔ پلوٹھا "عیسو" جس نے حضرت اسمعیلؑ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کی اولاد بنی "عدم" کہلاتی۔ اور ارض سینا میں آباد ہوئی۔ دوسرا بیٹا یعقوبؑ تھا۔ دونوں تو ام پیدا ہوئے تھے۔ یعقوبؑ کا دوسرا نام "اسرائیل" ہے۔ آپ کے بارہ بیٹے چارازواج کے لطن سے ہوئے۔ دو لونڈیاں تھیں۔ اور دو دختران "لابن" آرامی تھیں۔ لونڈیاں بھی اسی لئے جمیز میں دی تھیں۔ ان میں سے چوتھا بیٹا یہوداہ تھا۔ جس کی اولاد یہودی کہلاتی۔ حضرت یعقوبؑ کی رہائش ارض فلسطین میں تھی۔ لیکن جب آپ کا بیٹا یوسفؑ مصر میں وزارت عظمیٰ پر فائز ہوا تو حضرت یعقوبؑ اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے اس وقت تک مصر پر ایک عرب خاندان حکمران تھا جس کو تاریخ مصر میں "حیق سوس" (HYC - SOS) سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ فراعنہ مصر ملک کے اس حصہ میں حکمران تھے جو دریائے نیل کے "ڈیلٹا" سے سیراب ہوتا ہے، ڈیلٹا (DELTA) یونانی، عربی یا عبرانی حرف "دالہ" (د) ہے۔ نیل کی شاخیں موجودہ قاہرہ کے قریب پھٹ کر کئی شاخوں میں منقسم ہو گئی ہیں۔ اور یہ زمین ان کی انتہائی ثمرتی اور غربی شاخ کی وجہ سے حرف وال کی صورت میں ہے۔ یہ فراعنہ مصر کئی صدیوں تک مصر پر حکومت کرتے رہے۔ آخر مصر کا پرانا خاندان جس کو "حیق سوس" نے تبدیل کیا تھا اور جنوب کی طرف چلا گیا تھا پھر زور پکڑ گیا۔ اور "حیق سوس" کو پھر "سوس" کیا

(سوینز) کی طرف دھکیل دیا۔ جہاں سے ان کا خروج ہوا تھا۔

اس نئے خاندان میں ایک فرعون جس کو "رع عیس اعظم" کہتے ہیں۔ نہ صرف کل مصر بلکہ ارض سینا اور فلسطین پر بھی چھا گیا۔ چار صدیوں میں بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ چونکہ ان کی قرابت قریبہ "فراعنہ" حیق سوس سے تھی اور انہی کے دور دورہ میں یہ پھولے پھلے اس لئے ان پر استبدادی حکومت کے مظالم شروع ہو گئے اور یہ غلام بنائے گئے۔ ارض سینا کے پہاڑوں میں معدنیات کی دولت تھی۔ یہاں بھی یہی غلام مصری آقاؤں کی زیر نگرانی کانیں کھودتے تھے۔ مصر میں بھی شاہی تعمیرات پر لگے ہوئے تھے۔ رع عیس اعظم کے عہد میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "حیق سوس" فراعنہ مصر کے آخری تاجدار کی ایک لڑکی رع عیس کی زوجہ تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنا متبنا بنالیا۔ اگر حضرت کی پرورش اپنی قوم میں ہوتی تو غلامانہ ذہنیت ہی ہوتی۔ فرعون کی حکومت ایسے لوگوں کی پرورش کر رہی تھی جو غلام قوم کے افسراد ہی تھے۔ اور انہی کے ذریعہ ان محکوم قوم پر حکومت خاطر خواہ ہو رہی تھی۔ یہ حکومت کے "خطاب یافتہ" مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک "قارون" بھی تھا۔ حکمران قوم کا دستور ہے کہ خزانہ یا روپیہ پیسہ کا کام محکوم قوم کے افراد سے لیتی ہے۔ صاحب حکومت فراخ دل ہوتا ہے اور مالیات کا انتظام اس سے خاطر خواہ نہیں ہو سکتا۔

اکبر کے زمانہ میں ٹوڈرل اور برطانوی حکومت ہند کے دور دورہ میں مس بننے ہی خزاہچی تھے اور ہمارے زمانہ میں یہ بنک کا کاروبار یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ یہ کام ایسے ہی لوگوں کا ہے جو پست اور جن کی ذہنیت پست ہو۔

حضرت موسیٰ کی پرورش بھی اسی حکمت عملی کے تحت کی گئی کہ کسی وقت حکومت کے مفاد کا آلہ کار ہو۔

دستور یہ تھا کہ امر اوڈا کی اولاد کی تعلیم و تربیت مختلف صوبوں کے حکام کے تحت ہوتی۔ نوجوان موسیٰ حاکم "مجمع البحرین" کے تحت آئے یہ صوبہ مصر کا انتہائی مشرقی حصہ تھا۔ نیل

کی انتہائی شرقی شاخ جس کو یونانی حکومت مصر کے دور دورہ میں "پلوذیم" کہتے تھے، بحیرہ شام میں گرتی۔ اب یہ شاخ "برکتہ منزلہ" میں گرتی ہے۔ جس کے ایک طرف اسکندریہ اور دوسری طرف صعید کی بندرگاہ ہے۔

تعلیم و تربیت (TRAINING) کے بعد حکومت کے کاروبار میں بھی حضرت موسیٰ کا دخل ہو گیا۔ مگر جو مظالم قوم پر ہو رہے تھے اور خطاب یافتہ ہر مقدم افراد کے ذریعہ بھی ہو ہو رہے تھے اسے دیکھ کر آپ کا جی کڑھتا تھا۔ اس کا احساس اور افراد قوم کو بھی تھا ایک خفیہ مجلس کی بنیاد ڈالی جو آپ کے بڑے سوتیلے بھائی ہارون کی قیادت میں سرگرم عمل رہی۔

حضرت موسیٰ نے ایک قسطنطینی افسر کو جو اپنے ماتحت اسرائیلیوں پر سختی کر رہا تھا، اشتعال میں آکر مار ڈالا۔ یہ قتل عمداً واقع ہوا۔ مصری حکومت آئینی تھی۔ قانون یہ تھا کہ جب کوئی شخص قتل عمد کا مرتکب نہ ہو اور قتل خطا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو فوراً مصری حدود سے باہر نکل جانا چاہیے اور ہمعصر فرعون مصر کی زندگی تک باہر ہی رہنا چاہیے۔

فرعون کی وفات کے بعد اگر مصر میں واپس آئے تو قابل مواخذہ نہیں۔ یہی قانون شریعت موسوی بھی ہے کہ قتل خطا کا مجرم سردار کاہن کی زندگی تک ان چھ شہروں میں کسی ایک میں پناہ لے سکتا ہے جن کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اگر فرعون مصر کی زندگی میں حدود مصر کے اندر گرفتار ہو جائے یا مصر میں واپس آئے اور مارا جائے تو جائز تھا۔

حضرت موسیٰ بقول مولف "اعمال الرسل" مصری علوم میں کامل تھے۔ مگر ملت ابراہیم سے نہ آپ اور نہ آپ کی قوم بخوبی واقف تھی۔ چند مذہبی رسوم تھیں جو ادا ہو رہی تھیں۔ اور شریعت ابراہیمی انہی قوانین کے مشابہ تھی جو "عمور بنی" شاہ بابل کے ضابطہ قوانین میں بھی ہے۔

فرار کے بعد حضرت موسیٰ "مدین" کے شہر "یثرب" میں آئے۔ جسے اب مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ یہاں اسماعیلی آباد تھے۔ ان کے تجارتی قافلے شام اور مصر میں بھی جاتے تھے انہی کے ایک قافلے میں حضرت یوسف بھی مصر میں پہنچے تھے۔ یثرب کے شیخ کا نام توراہ

میں "رعوائیل" (الذراکڈریا) لکھا ہے: "مدین" میں چونکہ ایک پیغمبر حضرت شعیب بھی گزرے ہیں اس لئے بعض مورخین رعوائیل اور شعیب کو ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں۔ شیخ کے ہاں حضرت موسیٰ کا قیام دس سال تک رہا۔ اور اس کی ایک لڑکی سے آپ کا عقد نکاح بھی ہوا۔ آپ اس دس سال کے عرصہ میں اپنی قوم اور مصر کے حالات سے بہت خبر نہ تھے۔ آپ کا بھائی ہارون آپ کو برابر اطلاع دیتا رہا۔ آپ اپنے خسر کے ریوڑ کے ساتھ ارض سینا میں پھرتے رہے اور یہیں آپ نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا۔

دس سال بعد رعمسیس اعظم مر گیا۔ تاریخ کا یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہمیشہ ایسے احوال فاتحین کے بعد سلطنت میں ضعف آجاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جانشین اس کا دل و دماغ کا آدمی نہیں ہوتا۔ دوسرے محکوم قوم جس میں آزادی کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے کھڑی ہوتی ہیں۔ رعمسیس کے بعد "من فتح" نامی کے عہد میں مقبوضہ ممالک میں عام بغاوت پھیل گئی۔ یہ وقت تھا کہ حضرت موسیٰ مصر میں وارد ہوئے۔ اور آزادی کی جدوجہد منظم صورت میں شروع ہو گئی۔

بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو ارض سینا میں آئے یہاں اسرائیلی مزدور ان سے ملحق ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کو اس وعدہ برکت کی طرف متوجہ کر رہے تھے جو حضرت ابراہیم سے باندھا گیا تھا۔ لیکن قوم کی غلامانہ ذہنیت اتنی پست تھی کہ ارض فلسطین سے اتنا اندازہ داخلہ ممکن نہ تھا۔ چالیس سال کے عرصہ میں پرانی پودا کھڑ گئی اور ان نوجوانوں نے جو صحرا میں پیدا ہوئے آپ کی قیادت میں فلسطین پر حملہ کر دیا۔ آپ کے خلیفہ "یشو" کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے اور مفتوحہ ملک حضرت یعقوب کے بیٹوں کی اولاد میں جو اب بارہ قبائل تھے بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کو ضابطہ قوانین کو شریعت موسوی کہتے ہیں اور جو تورات میں مدون ہو چکا تھا مل چکا تھا۔ اسی مطابق بارہ قبائل کے سردار قبیلہ "لاوی" کی حسب ہدایت جو حضرت موسیٰ کا قبیلہ تھا، قسم کی جمہوری حکومت کرتے رہے۔ حضرت داؤدؑ یہودی تھے۔ آپ نے جمہوریت شخصی حکومت میں بدل ڈالا۔ اب بارہ قبائل ایک مرکزی حکومت کے تحت آ گئے۔

داؤد کے بعد حضرت سلیمان کے عہد میں اسرائیلی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ تاریخ نے زوال کے واقعات کو دہرانا شروع کیا۔

بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں پھوٹ پڑ گئی۔ دس قبائل ایک قبیلہ یہودہ کے تحت محکوم رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے آثار حضرت داؤد کے عہد میں نمایاں ہو چکے تھے اور تمام قبائل کو متحد رکھنے کے لئے آپ نے پایہ خلافت یروشلم میں بیت المقدس کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور تابوت سکینہ جس میں الواح توراہ اور دیگر تبرکات موسوی اور بزرگان دین تھے، اس میں منتقل کر دیا۔ حضرت سلیمان کے عہد میں اس کی تکمیل ہوئی۔ یہ "خدا کا اور سلطنت کا گھر قرار پایا۔ اس شان کا معبد پھر کہیں تعمیر نہیں ہوا۔ اس کو ہیكل سلیمانی بھی کہتے۔ حضرت سلیمان کے دور دورہ میں دس قبائل نے ریشہ دوانی بہت کی۔ بختیہ انجمنیں بھی ملک کے طول و عرض میں قائم کیں۔ اور عوام میں سلیمان کو فسق و فجور سے متہم کیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بنو امیہ کے خلاف بنو ہاشم بالخصوص عباسیہ کے داعیوں نے "پراپا غنڈہ" کیا۔

حضرت سلیمان کی وفات کے بعد عصارہ حکومت کو گھن کھا چکا تھا۔ دس قبائل نے "سامریہ" میں اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی اور "سکینہ سلیمانی" کے بالمقابل اپنا معبد بھی تعمیر کر لیا تاکہ پھر سے یروشلم کے قبیلہ کی طرف رجوع نہ ہو۔ یہ سلطنت "اسرائیلیہ" اور یروشلم میں حکومت یہودیہ کھلائی۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیح یہودی تھے۔ اس وقت تمام شام بشمول فلسطین رومی گورنمنٹ کے تحت تھا۔

حضرت موسیٰ کی پانچویں کتاب "المثانی" (DEUTRONEMY) میں واضح الفاظ میں بطور پیش گوئی وہ انتباہ موجود ہے اور وہ حالات مذکور ہیں جو بنی اسرائیل پر بعد وفات حضرت موسیٰ پر گزرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا کہ جب تک وہ توراہ کے احکام پر صدق دل سے عمل کرتے رہیں گے اس ارض "جنت" شام کی برکات سے بہرہ ور ہوتے رہیں گے۔ لیکن وہ دو دفعہ سرکشی کریں گے اس کا وبال ان پر یہ ہو گا کہ پہلی دفعہ وہ اسیر ہو کر ارض معہودہ برکت سے بیدخل ہو جائیں گے وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دوران کے دن پھریں گے اور پھر سے ارض مقدس پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ پیش گوئی اس

وقت پوری ہوئی جب بابلیوں نے ارض فلسطین مسخر کر لی اور اسرائیلیوں کو اسیر کر کے
 میں لے گئے۔ ان میں دونوں حریف سلطنتوں اسرائیلیہ اور یہودیہ کے لوگ تھے کیخسر و
 نے جب بابل فتح کیا تو ان کو بھی آزادی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ بنی عزرہ کی رہنمائی میں
 نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی مرمت کر لی۔ اور اسرائیلیوں نے سامریہ میں رہائش لے لی
 قوموں میں منافرت اس حد تک تھی کہ اس تباہی کے بعد بھی جو اس نغمہ درست نہ ہوئے
 دوسری پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی قریب تر آ رہا تھا۔ یہودیہ کے آخر
 حضرت یحییٰ اور مسیح قوم کو مستنبہ کر رہے تھے۔ مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت مسیح نے
 کی کہ پھر سے "اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں" ایک راعی کے تحت آجائیں مگر اس میں
 اتنی حد تک ہوئی کہ واقعہ "صلیب" کے بعد آپ نے رہائش اپنے "نیک ہمسایہ" سامریہ
 میں اختیار کی۔ اگرچہ انجیل واقعات صلیب کے بعد خاموش ہے مگر قرآن میں اس کا
 ہے کہ:-

"قال عیسیٰ ابن مریم للعہارین من انصاری الی اللہ قال العہاریون
 انصار اللہ، فامنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فایدنا
 امتوا علی عدوہم، فاصبحوا ظاہرین" (۲۸)

"عیسیٰ ابن مریم نے عہاریوں کو کہا کہ کون تم میں سے میری مدد اللہ کے لئے کرتے
 عہاریوں نے کہا کہ ہم اللہ (کے دین) کی مدد کریں گے۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک طاقت
 (سامری) تو ایمان لے آیا اور دوسرے طاقت (یہود) نے ان کا کیا۔ تو ہم نے جو ایمان لاتے
 ان کو تقویت دی اور وہ اپنے حریف قبیلہ پر غالب آئے۔"

واقعہ صلیب سے پیشتر اور بعد یہودی اکثر بغاوت کے مرتکب ہوتے رہے
 واقعہ کے بعد عام بغاوت شروع ہو گئی۔

یہودی مورخ یوسف (جوزیفس) نے ان محاربات کا مفصل تذکرہ لکھا ہے جو یہودیوں
 اور رومیوں میں ہوتے اور جس میں وہ خود بھی اپنی قوم کے ساتھ شامل رہا۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ
 ہوا کہ یہودی بالکل ارض مقدس سے بے دخل ہو کر کراہ ارض کے مختلف ممالک میں جبار

میں کرسٹ سینگ سمائے چلے گئے۔ دوران محاربات میں میکس سلیمانی آگ کی نذر ہو گیا اور وہیوں نے
 اٹلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ المثنیٰ کی دوسری پیش گوئی بھی پوری ہوئی۔

تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ ان واقعات کے بعد اسرائیلیوں کا واحد چارکار "وہ نبی" ہوگا
 ایل موئی ہوگا۔ اور جو اسرائیلیوں کے بھائی (اسماعیلیوں سے مبعوث ہوگا۔ المثنیٰ ۱۸)۔
 آنحضرتؐ نے یہود کو دعوت اتحادی مگر اس سرکش قوم نے مسترد کر دی۔ ان کی غیرت
 یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ "النبی" غیر یہود میں مبعوث ہو۔ اسماعیلیوں نے تو ان تمام ممالک پر
 خلافت کے تحت قبضہ کر لیا۔ جس کا وعدہ حضرت ابراہیمؑ کی ذریت سے ہو چکا تھا۔ اور
 عدہ الہی ان کے حق میں نزول قرآن کے بعد پورا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح نزول توراہ
 بعد اسرائیلیوں کے حق میں ہوا۔

چوتھی پیش گوئی جو اہم ہے اور جس کے ایک حصہ کا ظہور ہمارے زمانہ میں اعلان بالفور
 بعد ہوا۔ یہ ہے کہ:-

خداوند تیرا خدا تجھے اس سرزمین میں جس کی نسبت میں نے تجھے کہا کہ تو پھر،
 (واقعات محاربات کے بعد) نہیں دیکھے گا۔ یہاں کہ ارض کے ہر ایک حصہ سے
 اکٹھا کر کے لائے گا۔ اور اس راستہ سے تجھے جہازوں میں لا کر مصر میں (جہاں
 سے تو نے خروج کیا) لایا جائے گا۔ اور تجھے لونڈی اور غلاموں کی طرح فروخت
 کیا جائے گا لیکن تیرا کوئی خریدار نہ ہوگا۔ (المثنیٰ ۲۸)

اعلان بالفور کے بعد یہود فلسطین میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم
 دوران میں ہٹلر نے ان کو اس طرف دھکیلا اور جہاں جہاں ہٹلر کا قبضہ ہوا۔ یہ بھاگ
 کر فلسطین میں آتے رہے۔ اس کے بعد جب برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے ان کے خدا
 سلطنت کا گھربن گیا تو ایک کشش نے ان کو کہ ارض کے ہر ایک حصہ سے کھینچا۔ اس کا
 بارہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ

"فاذاجار و عوالا خیرة جتنا بکم لفیفا" (۱۱)

(جو اللہ المثنیٰ) جب آخری وعدہ کا وقت آئے گا تو ہم تم کو (کہ ارض کے ہر ایک حصہ

سے اس جگہ لپیٹ کر لے آئیں گے۔

یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ فلسطین میں یہود کی آمد عرصہ پہلے شروع ہو چکی تھی۔ یورپ میں مسیح کے نام لیا واقعہ صلیب کو فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا قتل عام ہر ایک جگہ ہوتا رہا۔ ان کو پناہ خلافت اسلامیہ کے تحت ہی ملتی رہی۔

ڈاکٹر بل مین (MILLMAN. D. D) اپنی تاریخ یہود (HISTORY OF JEWS)

میں لکھتا ہے کہ خلافت اسلامیہ کے تحت ان کو جو امن حاصل رہا اور انہوں نے جو کچھ ترقی کر

سے کی وہ یہود کا ۶ صدی (GOLDEN AGE) ہے۔ یورپ بالخصوص روس میں ان پر

عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا مگر دنیاوی مفاد نقل مکانی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر بھی

میں یہود بارہ ہزار فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ ۱۸۸۲ء میں ان کی تعداد دگنی ہو گئی۔ ۱۹۰۵ء

میں ان کی تعداد سینتالیس ہزار ہو گئی۔ اور ۱۹۱۲ء میں پچاسی ہزار کے لگ بھگ تھی۔

۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۴ء تک دہ لاکھ اسی ہزار یہودی فلسطین میں ادرائے۔ اب ان کی

چار لاکھ چار ہزار کے قریب ہو گئی۔ یہ تیس فی صدی آبادی کا حصہ تھے۔ ۱۹۳۴ء کے بعد

لاکھ پھیاسٹھ ہزار اور آگے۔ اور اب ان کی آبادی تراسی فی صدی ہو گئی۔ یہ سلسلہ ابھی جا

ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک میں یہودی انجمن "یشوع" (YISHAU) کی شاخیں سرگرم عمل

ہیں اور یہود کو بالخصوص نوجوانوں اور صنعت و حرفت کے کارکنوں کو ہجرت کی ترغیب دیتی ہے۔

۱۹۳۴ء میں یہود آبادی کا پچاسی فی صدی سینتالیس سال سے کم عمر لوگ تھے اور اوسط عمر

سال رہی۔

ابتدا میں یہود مہاجرین چار مقدس مقامات یروشلم، جرون اور سعدا اور طبر

میں مقیم ہوتے رہے۔ ۱۹۱۲ء تک چوالیس بستیاں انہوں نے آباد کیں۔ اول جنگ عظیم

دوران اور بعد ان بستیوں کی تعداد ۱۹۳۴ء تک دوسو تین تک پہنچ چکی تھی۔ یروشلم کے علا

وہ ساحلی علاقہ یافہ اور حیفہ اور مشرقی "جلیل" میں صوبہ "جزرتیل" اور "تل ابیب" میں آباد

ہو رہے تھے۔ انجمن یشوع کے علاوہ ایک اور ادارہ "سفر ویم" بھی اسی کام میں لگا ہوا

اور وہ ممالک جو بحیرہ شام کے سواحل پر واقع ہیں وہاں سے یہود کو ہجرت پر اکسارہا تھا۔

کرد، ایرانی، بخاری اور دیگر ایشیائی ممالک کے یہود ذوق و شوق سے اس طرف رہے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں عرب اب بھی یہود سے پچاس ہزار سے زیادہ تھے۔ اگرچہ المثنیٰ میں اس وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ یروشلم کی تباہی کے بعد لب یہود پھر سے یہاں آباد ہوں گے۔ لیکن قرآن میں اس کی تصریح ہے۔

”وحرأئذ علی قریۃ اهلکنا انہذا یرجعون، حتی اذا فتحت یاجوج وما جوج وہم من کل حدیب ینسلون، واقرب الوعد الحق اذا ذابھی شاخصۃ ابصار الذین کفروا ینزلنا قد کتانی غفلۃ من ہذا بل کنا ظالمین، انکم وما تعبدون من دون اللہ صعب جہنم، انکم لہا واردون“

(۱۶/۱)

”اور اس باغفلت بستی کے رہنے والوں پر حرام ہے کہ پھر سے اس کی طرف مراجعت کریں۔ جس کو ہم تباہ کر چکے ہیں اس وقت تک کہ یا جوج و ما جوج کھول دینے جائیں گے اور وہ ہر ایک اونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا اور ان لوگوں کی آنکھیں چڑھی کی چڑھی رہ گئیں جو اس وقت کے منکر تھے۔ کہیں گے کہ اے وائے ہم اس وقت سے غافل ہی رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ (اب پکھٹانے سے کیا ہوتا ہے تم اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے رہے۔ ایندھن میں جہنم کے جس میں تم نے وارد ہونا ہے۔“

صحف انبیاء (خرقیل نبی ۳۸) میں واضح الفاظ میں یا جوج کو روس اور اسکو اور ٹو بالسک کے سردار کہا گیا ہے اور ما جوج بلاشبہ دیگر اقوام یورپ و امریکہ اور تاتاری یا مغلیہ نسل ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد ان کو کھولا گیا۔ اور اعلان بالفور کے بعد یہود کی مراجعت فلسطین میں شروع ہو گئی۔

متوقع جنگ عظیم سوم | ارشاد قرآن ہے کہ۔

”ان یا جوج وما جوج مفسدون فی الارض.....“

وَصَانَ وَعَدَرَبِي حَقًّا، وَتَرَكَنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ
نَفْعًا فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَغَرَضًا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِي
صَكَاتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَابٍ مِنْ ذِكْرِي، وَمَحَالُوا لِيَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (۱۶)

تحقیق یا جوج اور ماجوج کرہ ارض پر مفسد لوگ ہیں.....

اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اور ہم ان کو ایک دوسرے میں اس دن موج بنا کر
ہوتے پھوڑ دیں گے اور صور پھونکا جائے گا تو ان کو ہم پوری طرح جمع کر دیں گے اور جہنم
سامنے لائی جائے گی۔ منکروں کے لئے اس دن ان منکروں کے لئے جو عفت میں
ہماری یاد دہانی سے اور جو انتہا کی آواز پر کان نہیں دھرتے تھے۔

ان آیات محولہ بالا میں یا جوج و ماجوج اور ان کے ساتھ یہودی تباہی کا تذکرہ
اس وقت کی دنیا منتظر ہے۔

فلسطین میں اول جنگ عظیم کے بعد ۱۹۲۱ء میں برطانوی ہائی کمشنر نے "سپریم
کونسل" (SUPREM MUSLIM COUNCIL) کی طرح ڈالی۔ اس کا صدر مفتی اعظم
الحاج محمد امین الحسینی تھا۔ اس کا اثر سوخ فلسطین کے عربی قبائل بالخصوص فلاجین
(کاشتکاروں) میں اس حد تک تھا کہ ۱۹۳۶ء تک اس نے ان سب میں اتحاد کی روح
پھونک دی۔ ابتدا میں برطانوی گورنمنٹ نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ایسی بااثر شخصیت کو
اپنا آلہ کار بنانے میں کامیاب ہو جائے گی مگر جب دیکھا کہ اس نے برطانوی مندرجہ
کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا ہے تو اس کا زور توڑنے کی سوچی۔ ۱۹۳۵ء میں
ایک عرب انجمن فلسطین میں قائم ہوئی اس کا صدر جمال الحسینی تھا جو مفتی اعظم کا قریبی رشتہ دار
بھی ہے۔ اس کے ذریعہ تحریک اتحاد اسلامی (PAN ISLAMISM) مسلم ممالک میں اور
اتحاد عرب، عرب ممالک میں شائع ہو رہی تھی۔ اتحاد عرب سے مراد صرف مسلم عرب نہیں
اس میں وہ تمام عرب شامل ہیں جو بلحاظ قومیت عرب ہیں خواہ ان کا مذہب کچھ ہی ہو۔
مفتی کے اعلیٰ سیاسی تدبیر نے عرب مستنصرہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو فلسطین کے علاوہ شام
اور لبنان اور دیگر ممالک میں بکثرت تھے۔ غرض یہ تھی ایک مضبوط حکومت قائم کی جائے

اس میں ہر ایک مذہب ملت کو نمائندگی حاصل ہو بشرطیکہ وہ بلحاظ قومیت عرب ہو
ہو دو کو بھی دعوت اتحاد دی گئی مگر قبول نہ ہوئی۔

اس اتحاد کو توڑنے کے لئے جو زور پکڑ رہا تھا اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ فلسطین کی
تقسیم اس بیج سے کی جائے کہ یہودی کی ایک علیحدہ سلطنت قائم کی جائے اور عربوں کی الگ،
اس تقسیم کی تجویز کے خلاف عرب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرب کونسل یا انجمن کا یہ مطالبہ تھا
کہ یہودیوں کی آمد یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک سے روکی جائے۔ اس کے ساتھ ہی عام
ہڑتال (STRIKE) بھی شروع کر دی۔ جس نے آخر منڈیٹ کے خلاف عام شورش اور مسلح
جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ ہائی کمشنر نے شوشس سختی سے دبانے کا ارادہ کر لیا۔ گرفتاری
قید و بند، جلا وطنی کا دور شروع ہو گیا۔ برطانیہ کا اقتدار عراق وغیرہ ممالک پر بھی تھا۔ عراق
اور سعودی عرب اور شرق اردن اور یمن کے شاہان کی طرف سے بھی انخوان فلسطین کے
نام یہ اعلان شائع ہوا کہ :-

”شورش پسندیدہ نہیں۔ ہمارے دوست خیر خواہ برطانیہ کے وعدوں پر
اعتبار کر وہ انصاف سے کام لیں گے۔“

اس کے ساتھ ہی انگریزی سپاہ کی موجودگی کا یہ اثر ہوا کہ شورش سردست دب
کر رہ گئی۔

امیر عبداللہ والے شرق اردن تقسیم فلسطین پر رضامند تھا۔ وہ تو اس خیال میں تھا
کہ اس کی سلطنت کو اور وسعت ہو جائے گی۔ اور تقسیم کے بعد جو ملک کا حصہ عرب کے ہاتھ
لگے گا وہ اس کا ہے۔ اور برطانیہ کا یہ منصوبہ تھا کہ امیر کے ذریعہ اپنی گرفت مضبوط کر کے۔
عرب لیگ سے یہ ناپاک ارادے پوشیدہ نہ تھے جو تقسیم کی مخالف تھی۔

اتحاد عرب کونسل کے مقابلہ میں برطانیہ نے ایک اور پارٹی کھڑی کر دی جس کا صدر
فخری بے تھا۔ اب دونوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ دونوں پارٹیاں اپنے آپ کو عرب مفاد
کی نمائندہ قرار دیتی تھیں۔

دفعی اعظم کی گرفتاری برطانیہ کے پیش نظر تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی جان بچا رہا تھا۔ مگر

جس رنجن کی طرح ڈال چکا تھا وہ برابر سرگرم عمل تھی۔ جنگ دوم میں برطانیہ کے خلاف
 امداد بھی تھی۔ مفتی پہلے لبنان پھر عراق پھر ایران پھر یورپ گیا۔ اس وقت جرمن کا
 اونچا تھا۔ جب اسے شکست ہوئی تو مفتی مصر میں آگیا۔ برطانیہ نے گرفتاری کی بہت کوشش
 کی مگر ہاتھ نہ آیا۔

۱۹۴۸ء میں برطانیہ اپنی انتہائی ذمہ داری سے خود بخود سبکدوش ہو گیا۔ اس
 وہ عرب اور یہود میں حاصل تھا۔ اب دونوں اُمنے سامنے ہو گئے۔ شرق اردن اور
 شام اور لبنان اور عراق، مصر اور سعودی عرب کی متحدہ افواج فلسطین کی طرف بڑھ
 رہی تھیں۔ جھڑپیں ہو رہی تھیں اور ہر ایک لڑائی میں یہودی بری طرح پٹ رہے تھے۔
 برطانیہ اپنی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ امریکہ آدھمکا۔ یورپ اور "نئے جولیگ" اور
 نیشن متونیہ کا جانشین ہے اور جو امن عالم کے عم میں دبلا ہو رہا ہے اپنا ثالث صلہ
 امر سوئیڈن کے صدر کاؤنٹ فاک برنارڈیٹو (COUNT FOLKE BERNADOTTE)
 کو مقرر کیا۔ ثالث کے فیصلہ تک فریقین کو ہدایت کی گئی کہ کسی قسم کا عسکری مظاہرہ نہ
 لیکن متارکہ (CEASE FIRE) پر خاطر خواہ عمل نہ ہوا اور جانبین گاہے گاہے کہیں کہیں
 دست دگر بیان ہوتے رہے۔ یہودیروشلیم کا الحاق اپنی ریاست سے چاہتے تھے
 دوران متارکہ میں ان کی سرگرمی کا عمل اسی "خدا کے گھر" میں شروع ہو گیا۔ اور یہودی
 پسند اس سلامتی کے شہر میں امن شکن کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ کاؤنٹ مانع
 تو ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔

دوسرے جنگ عظیم کے دوران میں عرب ریاستوں کو اسلحہ اتحادیوں نے کا
 تعداد میں مہیا کیا تھا۔ اب یہ اسرائیلیوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ "ٹینک"
 (TANKS) "پلین" (PLANES) اور بھاری توپوں نے اسرائیلیوں کو شک
 پر شکست دی۔ تل ابیب کی یہودی گورنمنٹ کو امریکہ سے اسلحہ کی امداد پہنچ رہی
 تھی اس لئے یہ ضروری تھا کہ ان کو دم لینے کی فرصت نہ دی جلتے۔ کہہ ارض بالحق
 امریکہ سے یہودی رہنما کار اس طرف آرہے تھے۔ دوران جنگ دوم میں بینا ایس ہز

یہود نوجوان عسکری تربیت برطانیہ کے تحت حاصل کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ تھا مگر عرب منظم فوج کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔

یو این او کی ہدایت کے تحت مقبول کاؤنٹ کے جانشین "بنچ" (BUNCHE) کی کوشش بار آور ہوئی اور جزیرہ رودس میں فریقین عارضی صلح کی شرائط طے کرنے کیلئے اکٹھے ہوئے۔ متارکہ پھر سے قائم ہو گیا۔ عراق اور مصری فوج نے فلسطین خالی کر دیا اور اپنے اپنے ملک کو لوٹ گئیں۔ یہود کے لئے اب میدان خالی تھا۔ اس کے قبضہ میں وہ تمام علاقہ جو برطانیہ کے منڈیٹ کے تحت تھا آگیا۔ جو خلیج عقبہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن برطانوی سیاسی مہرہ امیر عبداللہ اپنی چال چل گیا۔ "جنین" سے جردن کے جنوب تک بشمول یرشلیم اپنے مملکت میں شامل کر لیا۔ اور اسے ہاشمی سلطنت یردن کے نام سے موسوم کیا۔ اسرائیلی مقبوضہ علاقہ میں پہلے عرب کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار تھی۔ اب ایک لاکھ تیس ہزار رہ گئی۔ عرب مہاجرین ہر طرف بھاگ رہے تھے۔

(برطانوی سیاسی تدبیر نے انہی ایام میں یہی کیفیت ریاست جموں اور کشمیر میں بھی پیدا

کر دی۔)

اب "یو این او" کے سامنے یہ سوال تھا کہ عرب مہاجرین کو پھر سے اپنے اپنے گھروں میں بسایا جائے۔ جن کی خانہ دیرانی کی ذمہ داری اس پر عاید ہوتی تھی۔ عرب ریاستوں پر مہاجرین کا ناقابل برداشت بوجھ آ پڑا۔ اس کے ساتھ برطانیہ کو بھی اپنا مفاد معرض خطرہ میں نظر آ رہا تھا۔ سویٹ روس اس غرض میں خاموش نہ تھا۔ "یو این او" کی تجویز امن میں مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کا اقتدار فلسطین یا اس کے کسی حصہ پر نہ ہو۔

امیر عبداللہ جولائی ۱۹۵۱ء میں نماز جمعہ کے لئے مسجد عمر میں داخل ہو رہا تھا کہ اس پر

تاقلانہ حملہ ہوا۔ اس کا جانشین امیر طلال دمشق میں عنان حکومت سنبھال چکا ہے۔

واقعات جن کا مذکورہ بالا میں کیا گیا ہے۔ دیکھئے کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔

خواجہ حافظ کا ارشاد ہے کہ:-

شکوہ تاج سلطانی کہ بیم جان درد و مرج است

کلاہ خوش تراست اما بہ ترک سر نمی از زد

شخصی حکومتیں ہمارے زمانہ میں سخت خطرہ میں ہیں اور یہ حکومتیں دنیا پر اسلام یا پس ماند
اقوام میں ہی رہ گئی ہیں۔ جمہور کی بیداری جہاں کہیں بھی ہے ان حکومت کی نیند سلاہ ہی ہے
اس شعر میں ان لوگوں کے لئے بھی سبق ہے جو محض حکومت اور شکوہ سلطانی کے ذلدادہ میں خواہ
یہ کسی جمہوریہ کے صدر ہی کیوں نہ ہوں۔ حکومت خواہ دینی لباس میں ہو یا دنیوی لباس میں قطعاً
غیر اسلامی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔

جمہوریہ ترکی

جمہوریہ ترکیہ ہمارے اپنے زمانہ میں خلافت یا سلطنت شخصی کے بعد ظہور میں آئی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قریش کے بعد غیر قریش مسلم حکمرانوں کو سلاطین ہی کہا گیا ہے۔ جب سلطان سلیم نے شام اور مصر اور عرب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو اسوائے ایران جو اس وقت صفوی خاندان کے تحت تھا۔ دنیا بھر اسلام ایک مرکزی حکومت کے تحت آگئی۔ ماورائے ایران، ہندوستان وغیرہ کے حالات مختلف تھے۔ کم از کم سکھ اور خطیہ میں سلطان سلیم ہی کا نام ان ممالک میں رائج تھا جو براہ راست اس کے زیر حکومت تھے۔ "خالدہ ادیب خانم" کی یہ رائے ہے کہ سلطان سلیم تمام دنیا بھر اسلام کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ خلافت کا سوال بھی سلطان سلیم ہی کے عہد میں پیدا ہو چکا تھا کہ آیا غیر قریش مسلم بھی خلیفہ ہو سکتا ہے؟۔ آخری عباسی خلیفہ مصر میں ہی تھا۔ جب سلیم نے اس کا الحاق اپنی سلطنت سے کر لیا۔ عباسی خلیفہ کی دنیوی حکومت کا تو خاتمہ ہو چکا تھا۔ دینی حکومت ایسی ہی تھی، جیسی کسی واجب الاحترام شخصیت پرورش کی ہوتی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ سلیم خلیفہ کو اسلام بول میں لایا۔ اور اس سے حق خلافت حاصل کیا اور خلیفہ کا یہیں انتقال ہوا اور یہیں دفن ہوا مگر یہ صحیح نہیں۔ سلیم کے زمانہ کی دستاویزی شہادت وہ اعلان ہے جو اس نے ۱۵۱۷ء میں خارجی ممالک کے حکمران کو بھی بھیجا۔ اس میں وہ ہمیشہ خلیفۃ المسلمین اپنا نام نہیں لیتا۔ حسن طوبوں نے جو سلیم کی فتح مصر کے واقعات کا خود شاہد ہے۔ اور یہ واقعات قلم بند کئے ہیں وہ بھی اس کے دعویٰ خلافت کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ اتنا ذکر ہے کہ سلیم نے علماء کو جمع کیا اور دریافت کیا کہ آیا یہ صحیح ہے کہ کوئی مسلم مسلمان اس وقت تک حق حکومت نہیں رکھتا جب تک خلیفہ ہی اجازت نہ دے۔ علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔

سلیم نے اس بحث کو طول نہ دیا اور خلیفہ سے بھی نہ ملا۔

سلیم حلب میں تھا کہ شریف مکہ نے اپنا لٹکا اس کے پاس مکہ و مدینہ کے مقامات مقدسہ کی کنجیاں دے کر بھیجا۔ مسجد میں جب خطیب نے خطبہ پڑھا تو سلیم کو صاحب الحرمین الشریفین کہا۔ سلیم نے اسی وقت ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں "صاحب" نہیں "خادم" ہوں۔ اس کے بعد خطبہ میں اس کا اور اس کے جانشینوں کا نام "خادم الحرمین الشریفین" ہمارے زمانہ تک رہا۔ خطیب نے جب یہ لقب دہرایا تو سلیم نے اسی وقت فرش مسجد پر سجدہ شکر ادا کیا۔ خلافت کا سوال ذرا صل سلطان عبدالحمید ثانی کے عہد میں دنیا سے اسلام کی توجہ کامرکز بنا یہاں تک تو "خالدہ اویٹب خانم" کے ایک لیکچر کا اقتباس ہم نے دیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ شروع سے یہی رہا ہے کہ خلافت و صفائے نہ کہ نسباً اور یہ کہ آیہ استخلاف میں خطاب کل دنیا اسلام سے ہے۔ نزول قرآن کے وقت صرف قریش ہی موجود نہ تھے بلکہ دور عربی قبائل بھی تھے۔ قریش کی خلافت انہوں نے اس لئے تسلیم کی کہ اس وقت ہی اس کے اہل تھے اور انہی کے ذریعہ اشاعت اسلام عرب کے طول و عرض میں ہو رہی تھی۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب ان کی اہلیت نہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ اور قوم تمکین دین کے لئے آئے گا۔ اس موضوع پر ہم بحث کر چکے ہیں۔

اگر خلافت ایک خاندان میں محدود کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ شخصی ہی ہوگی۔ مگر اعتقاد اہل سنت والجماعت نے خلافت کو اس طرح محدود نہیں کیا کہ شخصی حکومت قریش یا بنو ہاشم میں محدود رہے۔ چونکہ بنو ہاشم بالخصوص بنو عباس اور بنو فاطمہ کو آنحضرت سے نسبتاً قرابت قریبہ حاصل تھی اور جو والہانہ محبت مسلمانوں کو آنحضرت سے ہے اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہر ایک مسلم خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو ان کو ترجیح دیتا رہا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حکومت خواہ شخصی ہو یا جمہوری یا اس کی کوئی بھی صورت ہو اسی میں اچھی ہے جب حالات ذہنی اور خارجی کے مناسب ہو۔ قوموں نے شخصی حکومت کے تحت وہ ترقی کی کہ جمہوری نہیں کر سکی۔ سلطنت کی کوئی بھی صورت ہو بہر حال ایک شخصیت ضرور ممتاز نظر آئے گی۔ اس لئے فقہا کا یہ فتویٰ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں سے

ترین خلافت ہی دضفا خلیفہ ہونا چاہیے خواہ اس کی قومیت کچھ ہی ہے اور یہ حکومت
 شخصی ہو یا جمہوری سب خلافت میں داخل ہیں۔

اسلامی شخصی حکومت میں مطلق العنانی نہیں۔ یہی سلیم جو کئی وزراء کو جب اپنی مزاج
 کے خلاف دیکھتا تو قتل کرنے سے بھی نہ چوکتا۔ شیخ الاسلام "جمال آفتدی" کے سامنے
 ملک گیا۔ اور اپنے اعلان دربارہ اخراج یہود و نصاریٰ کو منسوخ کرنا پڑا۔ خلیفہ احکام
 شریعت کا ایسا ہی پابند ہے جیسا کہ ہر ایک مسلمان مومن ہونا چاہیے۔ اس لئے خلافت

اسلام کی حکومت ہے خواہ اس کا نمائندہ کوئی امیر ہو یا سلطان یا شاہ، یا یہ بھی نہ ہو جیسا کہ
 شیخ الاسلام تھے۔

جمہوریہ ترکیہ اس وقت قائم ہوئی جب سلطنت عثمانیہ
 کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے مقبوضات ایک کے بعد دوسرے

ضیاء گیوک الپ

تھ سے نکل رہے تھے۔ اور دول یورپ اس کو طنزاً "یورپ کا بیمار کتے" برطانیہ جو شروع
 سے بدترین دشمن رہا ہے منصوبہ بانٹ چکا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے اسی طرح یورپ
 سے خارج کیا جائے جس طرح ہسپانیہ میں کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ اس کے ایشیائی اور افریقی
 مقبوضات کے بھی جسے بخرے کر کے دول یورپ میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اس کا علم ترکوں
 کو تھا جس پر عمل اٹلی کے جنگ طرابلس اور جنگ بلقان سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔
 آخر دو جنگوں نے اس منصوبہ کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔ ۱۹۰۸ء سے ۱۹۱۸ء

تک یعنی اول جنگ عظیم کے خاتمہ تک جو تاریخی واقعات رونما ہوئے ان کا اثر بعض ترک
 مفکرین پر بہت گہرا ہوا۔ "بیمار رومی" کی صحت کی بحالی کے کئی نسخے تجویز ہوئے۔ ان میں سے
 ایک شخصیت "ضیاء گیوک الپ" ممتاز ہے۔ یہ کرد تھا یا ترک آج بھی بحث کا موضوع
 ہے۔ مگر وہ اپنے آپ کو ترک ہی کہتا ہے۔ والدہ ضرور ایک کرد خاتون تھی۔ یہ شخص
 اعلیٰ پایہ کا ادیب شاعر تھا۔ اور اس نے نظم و نثر میں اپنی قوم کو جھوڑا۔ اسلام اور خلافت
 یا حکومت اور بالخصوص قوانین شریعت کے بارہ میں جو اس کا نظریہ تھا۔ وہ مصطفیٰ کمال پاشا
 کی عملی زندگی میں جہاں تک ان امور کا تعلق نظر آتا ہے۔ اس کے مقالے نظم و نثر میں تقاضی

رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتے رہے۔ اور کچھ کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے۔ اگرچہ ضیاء گیوک الپ اعتقاداً اور عملاً پکا مسلمان تھا۔ مگر اتحاد اسلامی کا جو نظریہ حال افسانی نے پیش کیا تھا۔ اس حد تک اس کا ذہن پختہ نہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ سمجھتا ہو کہ سردس اس کا امکان نہیں۔ وقتی ضرورت تو یہ تھی کہ ترک سب کچھ ترک کر کے اپنے استحکام کی فکر کرے۔ ان کی زندگی ختم ہو رہی تھی۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ مسلمان ترک ہی رہ سکتے ہیں کی ذمہ داری بالخصوص ان حالات میں کہ مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلم حکومت کے زیر اثر ہے سکتی ہے اور نہ ترکوں میں اتنی سکت باقی رہ گئی تھی کہ وہ خدات اسلام جو ان کے سلف الپ ارسلان وغیرہ کر چکے ہیں ادا کر سکتے ہیں۔

ضیاء گیوک الپ نے ایک تحریک شروع کی جس کو وہ "ترک چلوک" (NKISM) سے موسوم کرتا ہے۔ اس تحریک کو انتہائی عملی صورت "اتاترک" نے دی۔ اور اتنا اعتدال تجاوز کر گیا کہ ترکی قومیت میں عتر کی زبان کے سامنے دنیا جہان کی قومیت اور زبانوں کچھ حقیقت ہی نہ سمجھتا تھا۔ اس میں اس حد تک غلو کیا کہ اسلام سے بھی بیگانہ ہو رہا تھا اور جو اس کی راہ میں سد راہ ہوا خواہ کتنا ہی بڑا عالم دین ہوتا اس کے حکم سے مارا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں ترکوں کی تاریخ جو کبھی جاتی اس میں اس قوم کے شاندار ماضی کو بھول کر

اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا

زمانہ جو اسلام سے پیشتر من حیث القوم ان پر گزرا بہت سراہا جاتا۔ اور یہ ذہن نشین کیا جاتا "ملازم" کے زیر اثر وہ تنزل میں آ رہے اور ملازم اور اسلام دو مختلف نام ایک ہی حقیقت کے ہیں۔ اس کا اثر بھی "ضیاء گیوک" کی نظم و نثر میں پایا جاتا ہے مگر وہ تو ایک مفکر تھا بشاء تخمین اس کو ضرور کبھی کبھی اس وادی میں سرگردان کرتا رہا مگر اس نے اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

اتاترک ایک سپاہی تھا۔ علم دین سے کچھ بہرہ نہ تھا۔ لیکن نسلی امتیاز اور فوقیت کو عملاً طرح اس نے اپنی قوم کے ذہن نشین کیا۔ اس نے بے پناہ حرارت ترکوں میں پیدا کر دی وہ گرتے گرتے سنبھلے۔ جب ایک دفعہ سنبھلے تو پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور جس پامردی سے

یورپ کو ٹھکرایا۔ وہ تاریخ میں بالخصوص ترکوں کی تاریخ میں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔
 اگرچہ "آنا ترک" ڈکٹیٹر تھا مگر وہ ترکی قومیت کا مجسمہ بھی تھا۔ اور اس قومیت کی
 شہرتی کا جو منجھدار میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ناخدا کھیویا تھا۔ اور اس کو ساحل مراد پر ان حالات
 میں لے آیا کہ اہل یورپ کو یقین تھا کہ یون کے تھیسٹریسے اسے پاش پاش کر دیں گے۔ اگرچہ
 وہ شان و عظمت اور وسعت سلطنت نہ رہی جس کا مذکورہ ہم کر چکے ہیں۔ مگر بحیثیت ایک اسلامی
 سلطنت آج بھی موجود ہے۔ اور اتنی مضبوط ہے کہ اسے بھی اور دشمنوں کو بھی یقین ہے کہ دیر تک
 پناہ استقلال قائم رکھ سکتی ہے۔ اس جمہوریہ ترکیہ کے حالات ہم بالا حتمار بیان کرتے ہیں۔
 ہم اس کتاب کے دوسرے حصہ میں بیان کر چکے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کس عروج پر تھی۔
 اور کس طرح ابتداء میں بتدریج زوال میں آگئی۔ سلطان عبدالحمید کے عہد میں زوال میں وہ عزت
 تھی کہ خود ترک افسروں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ وقت دور نہیں کہ اگر یہ لیل و نہار ہیں تو وہ صفحہ
 ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے۔

مدحت پاشا نے سلطان کے اختیارات حکومت کم کرنے کے لئے تحریک شروع کر دی
 مجلس مشاورت (پارلیمنٹ) قائم ہوئی۔ مگر سلطان منصوبہ بندی کرنے لگا کہ توڑی جائے
 مدحت پاشا کو جب وطنی کا حکم ملا۔ مگر اس کے نظریے نوجوان طبقہ پر اثر کر چکے تھے۔ ان کی شورش
 سے مجبور ہو کر سلطان یہ چال چلا کہ مدحت کو داپنی کی دعوت دی اور سمرنا کی ولایت بھی
 پیش کی۔ وہ آیا اور گرفتار ہوا۔ اور سلطان عبدالعزیز کے قتل کا مجرم قرار دیا۔ فتویٰ موت
 صادر ہوا مگر سلطان نے عرقید میں بدل دیا۔

مدحت طایف میں نظر بند تھا۔ ادھر عبدالحمید نے یہ ارادہ کیا کہ چپکے چپکے اسے اور
 اس کے رفقاء کار کو موت کی نیند سلاوے۔ چنانچہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا۔ مدحت کے اکثر
 رفقاء کار یا تو مارے گئے یا جلا وطن ہوئے۔ لیکن ان واقعات نے عوام میں جوش پیدا کر دیا۔
 آزادی اور حب الوطنی اور آئینی حکومت کی آواز کو دبا دیا گیا۔ مگر جوانان قوم بنے والے نہ
 تھے۔ اگرچہ ٹریپولی کے ریگستان ازمین میں اکثر نظر بند ہوئے۔

مدحت کی تنظیمات "ترکی زبان میں شائع ہوتی تھیں۔ غیر ترکی اقوام کو داور عرب اور

الہانوی لوگوں اور روسا کو ان کا علم بھی نہ تھا۔ سلطان نے ان کو گانٹھا بٹھیک اسنی طرح
 طرح عرب کا زور توڑنے کے لئے خلفاء عباسیہ نے ترکوں اور پارسیوں کی سرپرستی اختیار
 اگر صرف ملک کے اندرونی خرخشوں تک نوبت ہوتی تو سلطان شاید کامیاب ہو جاتا مگر وہ
 نے مظالم آرمینیہ کا شاخسانہ کھڑا کر دیا۔ آرمینیہ والوں کو ہر ممکن مدد دی۔ انہوں نے اس
 میں شورش اور فساد برپا کر دیا۔ سلطان نے سنجی سے دیا یا تو حامیان دین مسیحی کب خاموش
 بیٹھنے والے تھے۔ سلطان ایک طرف تو اپنی اور دوسری طرف بیگانوں کو ایک ہی لالچی سے
 رہا تھا۔

۱۹۰۴ء میں انگلینڈ اور روس اور فرانس نے ترکی کے حصے بخرے کا منصوبہ
 کیا۔ ایک جرمنی تھا جو اس میں شامل نہ تھا۔ اس لئے سلطان اس پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ اس
 نے اب اسلام کے نام پر دنیا پر اسلام میں ایک ہیجان پیدا کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ان دنوں
 مسلم رعایا ان کو حصے بخروں سے باز رکھ سکے۔ مگر یہ اتحاد اسلامی (PAN ISLAMISM)
 وہ بات تھی جس سے یورپ خائف تھا۔ اس لئے ترکی مقبوضات کی تقسیم از بس ضروری تھی
 پہلے یونان کو اکسایا۔ وہ اٹھا تو سہی مگر ادھم پاشا نے ۱۸۹۷ء میں اسے نیچا دکھایا۔

اس وقت ترک نوجوانوں نے پیرس میں ایک پارٹی (UNG TURKISH PARTI)
 کی طرح ڈالی اعدیہاں سے تحریک آزادی جاری رکھی۔ اکثر فوجی افسران کو اپنا ہم خیال بنالیا
 کافی تقویت ہو گئی تو اس کا مستقر "سائوتیکا" میں بدل دیا۔ اس کے بعد اتحاد و ترقی کی کمیٹی
 (UNION AND PROGRESS COMMITTEE) کی تشکیل ہوئی۔ اور اس
 مجالس میں رازدارانہ منصوبے باندھے جاتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عسکری قوت ان کے ہاتھ میں
 اور اکثر فوجی افسر اس کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس آزادی کی جدوجہد میں کمیٹی
 مارے گئے مگر سپہ سالار افواج ترکیہ شوکت پاشا نے اپنی مقدونی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کو محاصرہ
 لے لیا۔ فتحی بے، شکری بے، نیازلی بے، نور بے اور عصمت پاشا بھی اپنی اپنی فوج لے کر
 ملحق ہو گئے۔ اور سلطان کو معزول کر کے ۱۹۰۹ء میں سلطان محمد خامس (محمد رشاد) کے
 سر پر تاج سلطنت رکھ دیا۔ عبدالحمید نظر بندی میں ۱۹۱۸ء میں جب کہ دوسرا جنگ عظیم

ہوا فوت ہو گیا۔

ترک نوجوان (YOUNG TURKISH PARTY) اعلیٰ طبقہ کے امراء کے نونہال تھے اتحاد و ترقی کی پارٹی میں اوسنے طبقہ کے لوگ دفتروں کے منشی متصدی اور دکاندار وغیرہ زیادہ تر شامل تھے۔

۱۹۰۹ء میں ترقی و اتحاد کی کمیٹی نے عثمان حکومت سنبھال لی۔ ابتداء میں عام رائے تو یہ تھی کہ صرف مدحت پاشا کی تنظیمات کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اور یہ بھی اسی حد تک دستور کی حکومت قائم کی جائے گی اور بس۔ لیکن کمیٹی کو نظام سلطنت کا تجربہ ہی نہ تھا اس لئے مناسب یہی خیال کیا کہ پرانے تجربہ کار سیاست دانوں سے کام لیا جائے۔ لیکن وہ نئے تبدیل شدہ ذہنی اور خارجی حالات سے عملاً ناواقف تھے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ موجودہ نسل کا کیا مطالبہ ہے اور خارجی حالات کا تعاضد کیا ہے۔

مسیحی رعایا تو دل و جان سے ترکوں کے دوش بدوش اتحاد و ترقی کے لئے تیار تھی مگر ان کے مذہبی پیشوا کسی اور خیال میں تھے اور وہ اس منصوبہ کے زیر اثر تھے جو باہر تیار کیا گیا تھا کہ ترکیہ کو پیش از وقت ختم کر دیا جائے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو بھی وہی شہری حقوق دیے جیسے ہونے چاہتے ہیں جیسے ترکوں کو حاصل ہیں۔ لیکن ذمہ داری کے بوجھ سے سبکدوش ہی رہنا چاہتے تھے فوجی خدمت تو ان سے صد ہا سال سے نہیں لی جاتی تھی۔ غیر ترک مسلمان، عرب اور کرد وغیرہ بھی تھے۔ وہ بھی اس نئی طرز حکومت سے مانوس نہ ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے اکثر سلطان کے وظیفہ خوار تھے اور اسی کا کھاتے اور اسی کے گن گاتے تھے۔ علاوہ ازیں ایک طبقہ رجعت پسند بھی تھا۔ اب وظائف بند ہو گئے اور مصیبت یہ آپڑی کہ سلطان نے جاسوسی کا حکم قائم کیا ہوا تھا۔ ہزاروں آدمی بے روزگار ہو گئے۔ ان کی رپورٹیں ان لوگوں کی سیاسی سرگرمی کے خلاف دفتر میں موجود تھیں جو اس وقت برسراقتدار تھے ان خفیہ پرچہ نویسوں نے سمجھ لیا کہ ان کی خیر نہیں مگر نوجوان ترک پارٹی نے اس دفتر بے معنی کو نندہ آتش کر دیا تو ان کی جان بیا جان آئی۔ یہ ابن الوقت جانتے تھے کہ ان کا ذاتی مفاد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ بھی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مگر ذہنیت نہ بدلی۔ وہ کارکن جو ہر ممکن مصائب برداشت کر

چکے تھے۔ اور قید و بند کی مشقت بھی جھیل چکے تھے جن کے عزیز واقارب بھی دور استبداد کا شکار ہوئے اب گوشہ گنہگار میں دھکیل دئے گئے اور یہی ابن الوقت چھا گئے۔ تاریخ ایسے واقعات کا عادیہ ہمیشہ کرتی ہے۔ ان حالات میں ترقی اور اصلاح کی توقع کیا ہو سکتی تھی۔ ادھر یورپ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ ترکی ان سے علم ہنز سیکھ کر ان کو یہی نشانہ بنائے یا کم از کم مر و مقابل ہو۔

یوسنیا (BOSNIA) آسٹریا کی سرپرستی میں ۱۸۷۶ء سے تھا۔ اب اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جزیرہ کریٹ (CRETE) یونان نے ہتیا لیا۔ اٹلی نے طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ آسٹریا اور یونان کا معاملہ صلح و دوستی سے طے ہو گیا۔ مگر طرابلس پر اٹلی کا حملہ ترکیہ کے لئے ناقابل برداشت تھا۔ کئی فوجی افسر جن میں الزر پاشا بھی تھا باوجود اس امر کے کہ مصر سگ اور بحر حائل تھا اور برطانیہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہاں نہ پہنچ سکیں پہنچ ہی گئے۔

دنیا، اسلام بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں میں بھی ہیجان پیدا ہو گیا۔ مگر یہ سب کچھ منڈیا کا ابال تھا۔ اٹلی کا قبضہ طرابلس پر ہو ہی گیا۔ شیخ سنوسی کا نام بھی پہلی دفعہ ہندوستانیوں کے سنا۔ برطانیہ نے اٹلی کو کامیاب بنانے کے لئے ادھر ہمسایہ بدریا ستھانے بلقان کو کھڑا کر دیا۔ اکثر تجربہ کار افسر محاذ طرابلس پر لڑ رہے تھے۔ ادھر میدان خالی تھا۔ بلقانی منہ اٹھائے بڑھتے آئے۔ الوز پاشا کو طرابلس چھوڑ کر گھر کی خبر لینی پڑی۔

روس میں اس وقت اعلیٰ پایہ کا سیاسی مدبر اسولسکی (ASWOLSKI) تھا۔ روس کی نظر ہمیشہ قسطنطنیہ اور ابنائے باسفورس پر رہی۔ یہ اس وقت روسی وزیر خارجہ تھا۔ اگر فرانس اور برطانیہ کبھی رضامند ہو جاتے تو یہ وقت ترکی پر ایسا اڑا تھا کہ روس کی کامیابی یقینی تھی۔

روس کا معاہدہ دربارہ افغانستان اور تبت اور ایران ۱۹۰۷ء میں ہو چکا تھا۔ تبت اور افغانستان کے بارہ میں یہ سمجھوتہ ہو گیا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کم از کم روس ان کے معاملات میں دخل نہ دے گا۔ برطانیہ کو کھلی چھٹی دی گئی تھی۔

ایران کو دو حصے ہائے اثر میں تقسیم کیا گیا۔ برطانیہ سے اور زیادہ خلا ملا اس سے بھی ہو گیا کہ روس نے جرمنی کو گھیرے میں لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ سب کچھ روس ابنائے باسفورس کے لئے کر رہا تھا۔ مگر جو قیمت روس نے پیش کی اور پیشگی دے دی وہ برطانیہ کی نظر میں

ندجی۔ اب روس نے دیکھا کہ اس طرح تو کام نہ بنا، آسٹریا کو گانٹھا اس نے بوسنیا کے الحاق پر رضامندی ظاہر کی مگر یہ کچر بھی لگا دی کہ بلگیریا اور رومانیہ کا بھی ابنا سنے پر حق رہے گا۔ اب روس نے ریاستہائے بلقان کو بھڑکایا یا غرض یہ تھی کہ انگلینڈ اور فرانس جب ترکیہ ختم ہو جائے گی خود بخود روس کا مطالبہ تسلیم کر لیں گے۔ اب "سلافی اتحاد" (PAN-SLAVIST) تحریک شروع ہو گئی جس کی عنان قیادت روس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی زبرد براہ راست آسٹریا اور ہنگری پر بھی پڑتی تھی۔ اس لئے کہ سربیا کا اکثر حصہ اس کی مملکت میں تھا۔ روس نے اسی سال ایک خفیہ معاہدہ بلگیریا سے بھی کیا جس کی پانچویں دفعہ یہ تھی کہ روس ہر ممکن امداد و بلقانی ریاستوں کو جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے خلاف جدوجہد آزادی میں دے گا۔ ۱۹۱۲ء میں ایک اور خفیہ معاہدہ بلگیریا اور سربیا سے روس نے ترکی کے خلاف کیا۔ اس کی اطلاع فرانس کے صدر پائینکار (POINCARÉ) کو بھی دی مگر آزادی کی تاکید بھی کر دی۔

ترکی کو روس اور اٹلی اور ریاست ہائے بلقان نے یقین دلایا کہ وہ سب ان پسند ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ ترکی کی نئی حکومت کے راستہ میں مشکلات ڈالیں۔ اٹلی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ :-

"اگر ترکی طرابلس خود بخود پیش کرے تو اٹلی انکار کر دے گا۔"

مین میں کچھ شورش تھی۔ ترکی نے اپنی فوجی جمعیت طرابلس سے مین میں منتقل کر دی۔ جب اٹلی نے میدان خالی دیکھا تو طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ اب ترکوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور سمجھ لیا کہ وہ منصوبہ جو دول یورپ ترکی کے مقبوضات کے بارہ میں باندھ چکے ہیں بروئے کار آرہے ہیں اور اس پر عام حملہ ہر طرف سے ہونے والا ہے۔

ترقی اور اتحاد پارٹی کا وقار جاتا رہا۔ سرمنڈاتے ہی اولے پڑے۔ رجعت پسند ایام گزشتہ کی یاد کرنے لگے۔ عوام کی ذہنیت پر بھی اس کا اثر نمایاں ہو رہا تھا۔ کامل پاشا پرانا تجربہ کار سیاستدان تھا۔ پارلیمنٹ ٹوٹ گئی تو وہ برسراقتدار آگیا۔ وہ شروع سے برطانیہ کی طرف مائل تھا۔ اور اب اسے یقین دلایا گیا تھا کہ برطانیہ جنگ کی اجازت نہ دیگا

شوکت پاشا نے فرج کی تنظیم اعلیٰ پیمانہ پر کی تھی۔ کامل پاشا نے ۱۹۱۲ء میں ستر ہزار تجربہ کار سپاہیوں کو جو سرحدات پر متعین تھے بغیر مسلح کر دیا۔ لیکن جب جنگ ایک امر واقعہ بن گئی تو ترکی نے دول یورپ کو مداخلت کی دعوت دی۔ مانچی نیگرو نے دیکھا کہ ترکی ہر ممکن مراعات دینے کے لئے تیار ہے اس لئے اعلان جنگ کر دیا۔ دوسری طاقتوں نے بھی تعلیق کی۔ ترکوں کے پاس اس وقت ایک لاکھ رنکروٹ ہی تھے۔ بلگیر یہ کے پاس ایک لاکھ، سرسین کے پاس اسی ہزار اور یونان کے پاس پچاس ہزار سپاہ تھی۔ جنگ شروع ہوا تو برطانیہ نے اعلان کیا کہ توازن (STALUS QUO) برقرار رہے گا خواہ لڑائی کا نتیجہ کچھ ہی ہو۔ برطانیہ کو یقین تھا کہ ترکی دشمن کے مقابلہ میں فتح یاب ہوگا۔ لیکن جب ترکی کو شکست ہوئی تو حروب صلیبیہ کی ذہنیت کا دول یورپ اور صحافت نے مظاہرہ کیا۔ صلیب نے ہلال کو شکست دی اور اب فاتحان کو شرفِ فتح کا ذائقہ شناس ضرور ہونا چاہیے۔ نئی میز اور نیا توازن کا متفقہ مطالبہ تھا۔ مئی ۱۹۱۳ء میں لندن میں معاہدہ امن و صلح پر دستخط ہو گئے۔ خوان یغما پر اب فتح مندریل پڑے اور باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہو گئے۔

انور پاشا نے موقع غنیمت دیکھا۔ یلغار کرتا ہوا "ایڈریانوپل" (ADRIANOPLE) پر آیا اور قابض ہو گیا۔ اور اسی طرح آگے بڑھتا اور پھر سے کھوئے ہوئے علاقہ کو واپس لے لیتا۔ مگر دول یورپ درمیان میں آگئے۔ بلگیر یہ کو ترکوں نے شکست دی۔ اگست ۱۹۱۳ء میں "بوکارسٹ" (BUCHAREST) میں نیا عہد نامہ مرتب ہوا۔ آسٹریا غالباً ادھمکتا مگر انگلینڈ، فرانس اور جرمنی نے باز رکھا۔ اس لئے ایک سال کے لئے موقع اول جنگ عظیم ملتوی ہو گئی۔

روس کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اب اس نے بھی سمجھ لیا کہ بلقانیوں کی وساطت سے اپنا ہر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ بلگیر یہ اس وقت قسطنطنیہ کے نواحی پر قابض تھا۔ اس لئے ترکی مقبوضات کے حصے بخرے دول یورپ کو براہ راست آپ ہی کرنے مناسب تھے۔ مذکورہ مقبوضات میں عام بغاوت کے ذریعہ۔ اس کا فائدہ تو ان ریاستوں کو ضرور ہوا کہ آزاد ہو گئیں مگر دول یورپ بالخصوص روس کے کیا ہاتھ لگاؤ

محمد شوکت پاشا خود عرب نژاد تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ دول یورپ میں سے کسی پر اعتماد کرنا خود فریبی ہے۔ یہ آزادی جو ترکی مقبوضات کی ریاستوں کو مل رہی ہے۔ مناسب ہے کہ عربی ریاستوں کو بخوشی خاطر دی جائے اور عربوں سے ترکوں کا اتحاد ہزار درجہ بہتر ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ کسی یورپی طاقت سے ہو۔ جب ترک دول یورپ کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے تو عربوں کی طرف رجوع کیا۔ ان میں آزادی کا دلولہ جوش مار رہا تھا۔ شریف مکہ مقامات مقدسہ کا کلیہ بردار تو نسبتاً بعد نسل تھا دلئے حجاز بھی بن گیا۔ اگر ترک اسی فرانسہ سے وہ کام کرتے جو برطانیہ نے اول جنگ عظیم کے بعد کیا تو غالباً ترکی تاریخ کا باب اور ہی طرح لکھا جاتا۔ ہر ایک کام کا مناسب وقت ہوتا ہے۔ کل امر مرہوں باوقفتاً بے وقت کوئی کام بھی مفید نہیں ہوتا۔

جب شریف حسین دلئے حجاز کو انگریزوں نے یہ سبب باغ دکھایا۔ کہ آپ کے سر پر کل اقوام عرب کے ممالک تاج برطانوی زرگر کا تیار کردہ رکھ دیا جائے گا۔ تو اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اب ترکیہ سمٹ سمٹ کر ایشیا کوچک میں محدود ہو گئی۔ قسطنطنیہ کو دول یورپ کی رقابت نے بچالیا۔

دوران جنگ میں اتحاد اسلامی کے نام ترکیہ نے دنیا اسلام کی طرف رجوع کیا۔ ترکی خلافت اگر اتنا ہی کام کرتی جتنا روم میں پوپ کرتا رہا اور کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی تھی مگر اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اب "فستوی جہاد" صادر کیا تو کسی نے لبیک تک نہ کہا۔ بلکہ عرب ہی مخالفت پر سب سے پہلے اٹھے۔ "اتحاد اسلامی" (PAN ISLAMISM) کی قیادت اس وقت انور پاشا کر رہا تھا۔ جب یہ نظریہ کامیاب نہ ہوا۔ تو اتحاد توران

(PAN TURANISM) کی قیادت سنبھال لی۔ ترک سلطنت ترکی کے باہر زیادہ تر روسی حکومت کے تحت تھی۔ ان سے اتحاد، روس سے لڑائی مول لینا تھی۔ یہ جواب اتحاد سلافی (PAN SLAVISM) کا تو تھا مگر یہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ انور ترکستان میں اتحاد کی تبلیغ کر رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے۔ روسیوں سے بھڑپیں بھی ہوئیں۔ آخر بخارا میں مارا گیا۔

روس نے جوڈھونگ اتحاد سلافیہ کھڑا کیا تھا ویسا ہی جرمنی نے اتحاد نارویہ

(NARDIA) یا جرمنیہ (PAN GERMANISM) برپا کیا۔ اتحاد کی تہ میں زارا اور قیصر کا مطلب کچھ اور تھا۔ اسی وضع کا اتحاد تورانیہ بھی تھا۔ غرض یہ تھی کہ موجودہ ترکی کی سیاست بحال اور قائم رہے۔ ان اتحادوں کا فائدہ برطانیہ نے اٹھایا۔ روس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور جرمن کا حوصلہ لپٹت ہو۔ اور ساتھ ہی تورانی اتحاد کا خطرہ جو روس کو تھا رفع ہو جائے۔ جنگ کے آخر میں تینوں اتحاد دلیامیٹ ہو کر رہ گئے۔

اول جنگ عظیم شروع ہوا تو ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ تمام لڑائی کا زور درہ دانسیال پر تھا۔ ترکوں نے اپنی روایتی بہادری کے جوہر دکھائے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ترکوں نے اس وقت تک ہتھیار نہ ڈالے جب تک اس کے حلیف جرمنی نے ہار نہ مان لی۔

ستارکہ کی شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ تمام اہم مقامات پر اتحادی فوج کا قبضہ اس وقت تک رہے گا جب تک باضابطہ معاہدہ صلح نہیں ہوتا۔ اس لئے قسطنطنیہ پر انگریزی فوج قابض ہو گئی۔ درہ دانسیال اب اس کے تحت تھا۔ اور ابنا میں انگریز بحری بیڑہ تھا۔

انگلینڈ اور فرانس اور روس میں مارچ ۱۹۱۵ء میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ کی رو سے درہ دانسیال روس کے حوالہ کیا گیا۔ اس کا دیرینہ خواب پورا ہوا۔ اور غالباً تاریخی واقعہ کی کچھ اور ہی صورت ہوتی۔ اگر "بولشویک" تحریک زار روس کا تختہ نہ الٹ دیتی۔ اس لئے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہ گیا۔

دوسرا معاہدہ لندن پیکٹ (LONDON PACT) پر اپریل ۱۹۱۵ء میں دستخط ہوئے۔ اس کی رو سے عدلیہ کی پیشکش اٹلی کو کی گئی۔

تیسرا معاہدہ سائیکس پیکٹ (SYKES - PACT) عرب ممالک کی تقسیم کے بارہ میں روس اور انگلینڈ اور فرانس اور اٹلی کے مابین ہوا۔ یہ ہضیہ رکھا گیا۔ اس کا شریف حسین کو نہ تھا۔ لیکن جب بولشویک (BOLSHEVIKS) نے من و عن نشا

کر دیا تو شریف حسین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔

ان واقعات کا ذکر ہم مناسب مقام پر کر چکے ہیں۔

متارکہ (ARMISTICE) کی رو سے اتحادی فوجیں اسلام بول اور سلیشیا اور چناتق پر قابض ہو چکی تھیں۔ چھ ماہ تک ترکوں کو یہ غلط فہمی رہی کہ یہ قبضہ عارضی ہے۔ جوں ہی معاہدہ صلح پر دستخط ہوتے۔ اتحادی چلے جائیں گے۔ ترک غیر مسلح ہو رہے تھے۔ اور ان کی کوئی انتظامیہ حکومت نہ تھی۔ سلطان کے نام اتحادی فرمان اور اعلان شائع کرتے رہے۔ اتحاد اور ترقی کے لیڈر ملک سے نکل گئے تھے۔ بعض کی گرفتاری درپیش تھی۔ اور وہ ادھر ادھر سر چھپاتے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ کمال پاشا بھی تھا۔

اب برطانیہ کو ایک نئی تجویز سوچھی۔ روس کو تودرہ دانیال میں داخلہ کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آسٹریا، ہنگری اور اٹلی بھی اس کے مفاد کے لئے خطرناک ہی تھے۔ یونان کی پیٹھ پر تھکی دی۔ اتحادیوں نے مشرق قریب میں یونانی تہنشاہیت کا قیام تسلیم کر لیا۔ ان کی باہمی رقابت کا یہی واحد حل تھا۔ درہ دانیال اتحادیوں کے لئے ہمیشہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ اور ترک اور روس اور بلگیر یہ مداخلت نہ کر سکیں گے۔ اس منصوبہ میں "آرمینیہ" کی بھی ایک سلطنت بحیرہ روم سے بحیرہ اسود تک اور "سمسون" (SEMSOUN) سے بحیرہ ابیض تک کچھ ترک کی اور کچھ ایرانی مقبوضات کی قطع برید کے بعد قائم کی جانی تھی۔

قلعہ بحیرہ اسود پر کاظم قارا بکر پاشا منظم پندرہ ہزار کی ترکی جمعیت کے ساتھ موجود تھا۔ شرائط متارکہ کی رو سے اتحادی فوج نے سمرنا میں اترنا تھا۔ لیکن ۱۵ مئی ۱۹۱۹ء کو یونانی فوج اتاری گئی۔ اب ترکوں نے سمجھ لیا کہ اتحادی کیا چال چل گئے۔ انہوں نے پھر ستھیا رہ سنبھال لئے۔

آرنلڈ ٹون بی (ARNOLD TOYNBEE) لکھتا ہے کہ :-

۱۵ مئی ۱۹۱۹ء کو ایک تباہ کن توڑتوڑی کوسلی پھیٹی دی گئی۔ ایسا معلوم

ہوتا تھا کہ آتش نشان یکے بعد دیگرے سمرنا کے کوچہ و بازار میں بہتے زور

مرد کا قتل عام ہو رہا تھا۔ مکان نذر آتش کئے گئے۔ دیہات میں لوٹ گھسٹ
 کا بازار گرم تھا۔ نسل انسانی و حیوانی کا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ فصلیں تباہ
 ہو گئیں۔ سمرنا اور قسطنطنیہ کے درمیان تمام رسل و رسائل کے ذرائع منقطع ہو
 گئے اور قتل و غارت اس سرعت سے ہو رہی تھی کہ ترکوں کو سنبھلنے کا موقع
 ہی نہ ملا۔

(یہی المیہ مشرقی پنجاب میں بھی تقسیم ہند کے بعد کھیل گیا۔)

لیکن ترک لڑنا اور مرنا اودار نا جانتے تھے۔ ان کی تاریخ شروع سے انہی کارناموں کا تذکرہ
 ہے۔ کسان اور عام مزدوری پیشہ لوگ زن و مرد جہاں جمع ہو سکے جنگ چسپا اول
 (GUERRILLA) پر اتر آئے۔ فوجی افسر قسطنطنیہ سے جان بچا کر ان سے اٹلے اور اب انہی
 قیادت کر رہے تھے۔ ترکوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو اپنی آزادی پر زندگی قربان کر دیں
 گے۔ مگر ہتھیار دشمن کے سامنے نہ ڈالیں گے۔

جب یہ "مزاحیہ" اتحادی، ترکی زمین پر پھیل رہے تھے تو یہاں ان کی جمعیت ایک لاکھ
 سپاہ تھی۔ دوسری طرف کاظم قارا بکر کے پاس پندرہ ہزار اور علی فواد پاشا کے تحت بھی کچھ
 فوجی دستے اناطولیہ میں تھے۔ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں چھاپہ مار تھیں۔ اتحادی ان سے غافل نہ
 تھے۔ سلطان کے حکم سے مصطفیٰ کمال پاشا بحیثیت جنرل ملٹری انسپکٹر (GENERAL
 MILITARY INSPECTOR) بھیجا گیا کہ لوگوں کو غیر مسلح کر دے۔

۱۹ جولائی ۱۹۱۹ء کا دن تھا کہ مصطفیٰ کمال اور رفعت اور علی فواد پاشا اور رونف بے

"امیسیہ" (AMASSIA) پر اکٹھے ہوئے اور ایک عہد نامہ پر دستخط کئے۔ یہی عہد نامہ آئندہ جمہوریہ
 ترکیہ کا سنگ بنیاد ہوا۔

اس عہد نامہ کی رو سے ۲۳ جولائی ۱۹۱۹ء میں زیر صدارت مصطفیٰ کمال پاشا اور رونف بے

میں اس نمائندہ جماعت کا انتخاب ہوا جس نے مدافعت اور آئندہ حکومت کی باگ ڈور
 سنبھالنی تھی۔ اور فارسی مستقر اناطولیہ منتخب ہوا۔ اب اناطولیہ نام نہاد سلطان کی سلطنت
 سے علیحدہ ہو کر خود مختار صوبہ قرار دیا گیا۔ سلطان کی مقرر کردہ وزارت کا کام واپاد فرید پاشا چلار با

اس کی نسبت بھی شبہ ہوا کہ باغیوں سے ساز باز کر رہا ہے۔ اس لئے یہ کابینہ بھی توڑ دی۔
 جنوری ۱۹۲۰ء میں روڈ بے کی زیر قیادت اسلام بول میں پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا۔ دیگر افسران
 میں مصطفیٰ کمال پاشا بھی تھا اناطولیہ میں ہی رہے۔ پارلیمنٹ نے بھی ایک منشور مرتب کیا
 اسی کے لگ بھگ تھا جو امیسیہ واقع ارض روم میں مرتب ہوا تھا۔ اس کی ایک نقل
 نادریوں کو بھی دی گئی۔ اس میں اس امر کی وضاحت کی گئی تھی کہ:-

”وہ زمین جہاں ترکوں کی اکثریت ہے اور جہاں متار کہ کے وقت اتحادیوں
 کا قبضہ نہ تھا۔ ترکیہ کی ملکیت رہے گی اور اسلامبول کی مناسب حفاظت کے
 بعد باسفورس اور درہ دانیال تجارت کے لئے کھلا رہے گا۔“

اگر اسے اتحادی منظور کر لیتے تو رطاتی جھگڑے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ مگر وہ تو
 بے بخرے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔

۱۶ مارچ ۱۹۲۰ء کو اتحادیوں نے اور زیادہ فوج اسلام بول میں داخل کر دی اور قوم
 رستوں کے گھروں کی عام تلاشی شروع ہو گئی۔ ان کوبستروں سے اٹھا کر گرفتار کیا گیا۔ اور
 شمول روڈ بے سب کو مالٹا میں نظر بند کیا۔ یہاں پہلے ہی اتحاد و ترقی کے ہوا خواہ گرفتار
 شدہ ترک کثرت سے موجود تھے۔ ایک اعلان شائع ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم پرست کو
 پناہ دے گا تو سزائے موت کا مستوجب ہوگا۔

مسیحی رعایا کو مسلح کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ان تمام راستوں پر جو اناطولیہ کو جاتے ہیں،
 پرہ دیں اور کسی کو اناطولیہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ لیکن ترک اپنے بھائیوں کی ہر طرح مدد کرتے
 رہے اور اسلحہ بھی باوجود ناکہ بندی اناطولیہ میں آتا رہا۔

سلطان کے نام پر ایک طویل فرست قوم پرستوں کی تیار کی گئی۔ جس میں مصطفیٰ کمال پاشا
 اور علی فواد پاشا اور ڈاکٹر عدنان اور خالدہ ادیب خانم کے نام نمایاں تھے۔

خانم ہی کے چشم دید حالات کا جو اس نے بیان کئے ہیں اکتسابس ہم لکھ رہے ہیں۔
 ستم ظریفی دیکھئے کہ شیخ الاسلام نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا کہ ان میں سے جو شخص کسی کو قتل
 کرے گا۔ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ اور یہ انعام بہشت بریں کی نعمتیں ہیں۔ کتنا بڑا کارنامہ!

جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا گیا۔

خالدہ ادیب خانم لکھتی ہے کہ:-

”مسلمانوں کے اخلاق کس حد تک پست ہو چکے تھے کہ ان کا شیخ الاسلام

جاننا ان قوم و ملت کے خلاف ایسا فتویٰ صادر کرتا ہے اور وہ بھی دشمن دین

کو تقویت دینے کے لئے۔ مگر شیخ الاسلام مدت العمر اس پر پشیمان رہا۔“

خانم کو معلوم نہیں کہ دشمنان دین کو محض خوش کرنے کے لئے مسلمانوں میں ایسے بھی

جو جہاد فی سبیل اللہ کے ”فریضہ“ کو خدا کی دشمنی قرار دیتے ہیں۔ ہزاروں

یونانی فوج کو انیٹینو (INN - EUNU) پر عصمت پاشا نے شکست فاش دی۔

کُن جنگ ترکوں اور یونانیوں میں سقریہ (SAKARIA) پر ہوئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا سپہ سالار

ہر اول عصمت پاشا کے تحت تھا۔ فوزی پاشا چیف آف دی سٹاف (CHIEF OF THE

STAFF)۔ رفعت پاشا وکیل کل قومی دفاع تھا۔ مگر فوج زیادہ تر بے سرو سامان ہی تھی۔

کے پاس اسی ہزار جدید اسلحہ سے مسلح فوج تھی۔ دو سو توپیں اور بے شمار دیگر سامان حرب

ترکی سپاہ پچیس ہزار تھی۔ جن کے پاس رائفلیں تھیں اور چھ توپیں۔ گولہ بارود کی بھی کمی تھی۔

جس بے جگری سے ترک لڑے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سولہ ہزار پانچ سو میدان

میں کام آئے۔ جن میں اکثر افسر بھی تھے۔

لڑائی جاری تھی کہ کاظم قارا بکر نے میدان جنگ سے مصطفیٰ کمال کو تار دیا کہ جب

ایک ترک بھی باقی ہے لڑائی جاری رہے گی اور کوئی لڑائی سے منہ پھرنے کے لئے تیار نہیں

فتح قوم پرست ترکوں کے پرچم پر لہرائی۔ جو قوم باعزت زندگی بسر کرنا چاہتی ہے

آزادی کے بغیر ممکن نہیں وہ کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اللہ اس کا حافظ و ناصر ہے۔ مگر

”مگر درگم نامرور را خنجر نمی آید بکار“

اسی ایک لڑائی کا اثر اتحادیوں پر بھی ہوا۔ جسے تائیڈالٹی سے تعبیر کرنا چاہیے۔ فرانس نے

علیحدہ صلح ترکوں سے کر لی اور سلیشیا خالی کر دیا۔ اٹلی صلیبیہ سے نکل گیا۔ سویت روس نے

کی گورنمنٹ سب سے پہلے تسلیم کی۔ کاظم قارا بکر پاشا آرمینیہ میں قارص وغیرہ کو انقرہ

کے تحت لے آیا۔ اب ترکی فوج مدافعت سے نکل کر جارحانہ حملہ پر اتر آئی۔ مصطفیٰ کمال بحیثیت سپہ سالار اب ۱۹۲۲ء میں سمرنا کی طرف بڑھا۔ اور ایسی تاریخی شکست دی جو تواریخ عالم میں بعض خاص وجوہ پر یادگار رہے گی۔ مصطفیٰ کمال کے پیش نظر اسلام بول اور باسفورس اور درہ دانیال تھا۔ انگریز جنرل ہرننگٹن بری اور بحری فوج لئے سدراہ تھا مگر مصطفیٰ کمال پاشا بڑھتا گیا۔ اور جب چنباق پر انگریز جنرل کو لکھا کہ "راستہ سے ہٹ جاؤ ورنہ میں توپوں کا منہ کھول دوں گا" تو انگریز جنرل نے جواب دیا کہ "میں سپاہی ہوں۔"

ترک سپہ سالار بھی سمجھ گیا اور اپنی فوج ایک میل پیچھے ہٹا لیا۔ اس عرصہ میں جنرل ہرننگٹن ہٹ چکا تھا۔ مصطفیٰ کمال کے لئے اسلام بول کا راستہ صاف تھا۔ سلطان وحید الدین اتحادی بیڑہ میں پناہ گزین ہوا۔ اسمبلی نے عبدالمجید آفندی کو بحیثیت خلیفہ منتخب کر لیا۔

لوزان کانفرنس کا افتتاح نومبر ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ اور جولائی ۱۹۲۳ء میں ختم ہوئی ترکوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لئے گئے۔ انیسو کاہیر و عصمت پاشا جو بعد میں اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا اول صدر جمہوریہ کے بعد صدر جمہوریہ ہوا نے ترکوں کی اور لارڈ کرنل نے برطانیہ کی نمائندگی کی۔ یہاں بھی دونوں میں سیاسی جنگ جاری رہی۔ اور ترک ہی فتح مند رہا۔

ترکی اسمبلی نے شخصی سلطانی ختم کر دی اس کی جگہ جمہوریت نے لے لی۔ مارچ ۱۹۲۴ء میں دعویٰ خلافت سے بھی دست بردار ہو گئے۔ شیخ الاسلام کا عہدہ یا منصب بھی اڑا دیا۔ اور امور دینیہ کا دفتر، وزارت عظمیٰ کے تحت آگیا اور قاف سب ضبط ہوئے اور وزارت مال کے حوالے کئے گئے۔ تکیے اور خانقاہیں اور مکتبے سب بند ہو گئے اور زیارت قبور سلطان اور اولیاء ممنوع قرار دی گئی۔ غرض جمہوریہ ترکیہ ایک سٹیٹ (STATE) بلاچرچ (CHURCH) رہ گئی۔ ۱۹۲۶ء میں سوز کوڈ (SWISS-CODE) نے فقہ اسلامی کی جگہ لے لی۔ اور عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی حروف ۱۹۲۸ء میں رائج ہوئے۔ اتحاد توران تو خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ لیکن جب تک مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک زندہ رہا ترک عملاً دنیا بر اسلام سے بیگانہ ہی رہے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد جب عصمت انیسو جانشین ہوا تو رد عمل شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔

ال سعود

اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک شخص محمد بن عبدالوہاب نے کوشش کی کہ تمام عرب قبائل کو ایک ہی علم اسلام کے نیچے جمع کرے۔ اس نے اسی سادہ زندگی طرف متوجہ کیا جو صدر اسلام میں عربوں کا طغزہ امتیاز تھا اور محض لوجہ اللہ ان کا ہر ایک جان مال فی سبیل اللہ وقف تھا تاکہ پھر سے اسلام کی عظمت قائم کر دیں۔ حکومت ترکی اس میں ایک خطرہ نظر آیا۔ برطانیہ کا اقتدار عرب کے ساحلی علاقہ پر تھا۔ ابن عبدالوہاب جان بچانی مشکل ہو گئی۔ اس نے نجد میں پناہ لی۔ جہاں محمد ابن سعود حکمران تھا۔ امیر محمد عالم دین اور واعظ دین محمد بن عبدالوہاب کے درمیان کچھ سمجھوتہ ہو گیا کہ اول تو مواعظ اور حکمت سے عربی قبائل کو متحد کیا جائے اور اگر اس سے کام نہ چلے تو بزور شمشیر ہی محمد بن سعود کی تلوار اور محمد بن عبدالوہاب کی آتش بنیانی نے عرب قبائل میں حرارت پیدا کر دی۔

پہلے گھر کی تخریبی۔ داریا اور ریاض میں جتنے مقبرے، مشرکانہ رسوم کے مقامات، خاک کے برابر کر دئے۔ تمباکو نوشی، شراب خوری قطعاً ممنوع قرار دی۔ زنا کی سزا رجم عملاً نافذ ہو گئی۔ قبیلہ کے بعد قبیلہ مطیع ہوتا گیا۔ اور وہابی حکومت ساٹھ سال کے عرصہ خلیج فارس سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ تک اور بحر ہند سے شام اور لبنان کی پہاڑیوں چھا گئی۔ ترکی خلافت معرض خطرہ میں آگئی۔ عراق میں مقدس مقام کربلا بھی ان کی یلغار نہ بچ سکا۔ حلب پر حملہ کیا اور بصرہ تک دہشت پھیلادی۔ حلب اور دمشق کے نواح کو بھی نہ چھوڑا۔ اس وقت محمد علی پاشا مصر کا والی تھا۔ خلافت عثمانیہ کے حکم کی تعمیل میں وہ عرب ان شوریہ سروں کی سرکوبی کے لئے آگیا۔ وہابیوں کو پے در پے شکست ہوئی۔ نجد


محمد علی کا قبضہ ہو گیا۔ اور وہابی امیر پاجولان قسطنطنیہ میں بھیج دیا گیا۔ اور یہاں قتل کیا گیا۔

اگرچہ کہیں کہیں ترکی سپاہ کی چوکیاں عرب میں اس لئے قائم کی گئیں کہ پھر شورش پیدا نہ ہو مگر آزادی کا جذبہ عرب کی فطرت میں ہے۔ اب حکومت سے تو کچھ پر عاشر کی طاقت نہ تھی۔ قبائل میں ردا متی خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ انیسویں صدی عیسوی کے اختتام تک اسی کا دور دورہ رہا۔

نومبر ۱۸۸۰ء میں صبح صادق کے وقت امیر ریاض عبدالرحمن کے ہاں اس کی زوجہ سارہ کے لطن سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالعزیز رکھا گیا جو بعد میں اپنے مورث اعلیٰ کے نام پر "ابن سعود" ہی مشہور ہوا۔ عبدالعزیز کی پرورش وہابی ماحول میں ہوئی۔ اور جیسا اس کا باپ کٹر وہابی تھا یہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلا۔

ریاض اگرچہ قلعہ بند شہر ہے مگر اس کے نواح میں بدوی قبائل ڈاکہ ڈالتے رہے شمالی علاقہ میں قبائل شمار محمد ابن رشید جس کا پاپا یہ حکومت "ہیل" تھا متحد کر چکا تھا اور ریاض کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔

شجرہ نسب خاندان سعود



اس خانہ جنگی کا تذکرہ بے فائدہ ہے جو رشید اور عبدالرحمان میں جاری رہی۔ عبدالرحمن کو نہ صرف نجد چھوڑنا پڑا بلکہ اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ایک عرصہ تک وہ ادھر ادھر عرب قبائل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر محمد شیخ کویت نے اس کو دعوت دی اور وہ کویت میں آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکی حکومت رشید کی روز افزوں طاقت سے خائف تھی اور

اس کا زور آل سعود کے ذریعہ توڑنا مطلوب تھا۔ شیخ کویت کو گانٹھا اور اخراجات جو بطور وظیفہ عبدالرحمن کو دینے کا وعدہ شیخ نے کیا تھا ترکی خزانہ سے ادا ہونے سے مگر شیخ انتہا وزجہ کا بخیل تھا۔ وظیفہ کاروبار یہ خود ہی خورد برد کر جاتا اور عبدالرحمن کے مصائب میں کمی نہ ہوتی۔ جب عبدالرحمن کو یہ معلوم ہوا کہ ترکی حکومت کیا چاہتی ہے تو آلہ کار بننے سے انکار کر دیا۔ وظیفہ بھی بند ہو گیا۔

شیخ کا بھائی مبارک جوان سرف تھا۔ بیٹی کی طرف گیا ہوا تھا جہاں رنگ رلیاں مچاتا رہا۔ افلاس سے تنگ آ کر پھر کویت میں آ گیا بخیل بھائی کیا مدد کرتا بری بھلی زندگی بسر کرتا رہا۔ عبدالعزیز بن سعود اور وہ دوست بن گئے۔ عبدالعزیز کی عمر اس وقت سترہ سال تھی۔ ایک دن مبارک شیخ کے محل میں گیا اور بھائی قتل کر دیا۔ لوگ بھی شیخ سے سے تنگ آئے ہوتے تھے۔ مبارک شیخ کویت ہو گیا۔ اب ابن سعود کی توقعات جاگ اٹھیں۔ دو دفعہ ریاض پر لشکر کشی کی اور دونوں دفعہ کامیاب نہ ہوا۔

”کویت جو خلیج فارس کے سر پر واقع ہے اور اس کی اہمیت دول یورپ بالخصوص جرمنی اور برطانیہ کے نزدیک جیسی کچھ تھی اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ قیصر جرمنی ترکوں سے مل کر قسطنطنیہ سے براہ حلب بغداد ریلوے لائن کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر چکا تھا جو ”کویت پر ختم ہونی تھی۔ برطانیہ ایران میں تیل اور ہندوستان کے تحفظ کے لئے خلیج فارس اور ساحلی علاقہ پر اپنا اقتدار چاہتا تھا اور یہ گوارا نہ تھا کہ یہاں کسی اور یورپی طاقت کی مداخلت ہو۔“

جب جرمنی کو یہ معلوم ہوا کہ مبارک برطانیہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور بغداد ریلوے لائن کے منصوبہ میں سد راہ ہے تو ترکوں کو اکسایا کہ مبارک کو معزول کیا جائے یہ برا درگوش اس لائق نہیں کہ شیخی بھگاتا پھرے۔ لیکن انگریز اس کی پشت پناہ تھے۔ اس لئے علانیہ تو کچھ نہ کیا۔ رشید کو اکسایا کہ مبارک کی خبر لے جس نے اس کے دشمن آل سعود کو پناہ دے رکھی ہے۔ رشید کے منہ میں بھی پانی بھر آیا کہ اگر کویت باقی آجائے تو تمام وسط عرب پر اس کا تسلط بیٹھ جائے گا۔ ترکوں کا خیال تھا کہ اس خانہ جنگی

میں انگریزوں کو غسل نہ دیں گے۔

مبارک کی اپنی فوج نہ تھی اس نے قبائل عرب کو جو گرد و نواح میں واقع تھے ابھارا وہ بھی لوٹ کی طمع پر اکٹھے ہو گئے۔ مبارک یہ چاہتا تھا کہ پیشتر اس کے رشید حملہ کرے اس کا دوست عبدالعزیز بن سعود ریاض پر حملہ آور ہو۔ لیکن باپ کو مبارک سے ایک گونہ نفرت تھی۔ وہ تمباکو نوش ہے اور ریشمی لباس پہنتا ہے اور امیرانہ ٹھکانے سے رہتا ہے۔ اس کے مکان میں یورپ کا سامان آرائش بالخصوص عورتوں کی تصویریں اور کیا کچھ نہیں۔ مگر ابن سعود ریاض کے لئے بیقرار تھا۔ مبارک سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آخر دس ہزار کی جمعیت سے ریاض کی طرف بڑھا۔ قبائل نجد بھی شامل ہوتے گئے۔ ریاض تک مزاحمت نہ ہوئی۔ مگر یک لخت خبر ملی کہ رشید اور مبارک میں لڑائی ہوئی اور مبارک کو شکست ہوئی۔

اس خبر وحشت اثر نے ابن سعود کی سپاہ پر یہ اثر کیا کہ چپکے سے کھسنے لگے۔ رشید خود ان کی مزاج پرسی کے لئے ادھر آ رہا تھا۔ ابن سعود چند جاننا روں کے ہمراہ دل شکستہ کویت میں واپس آیا۔ رشید بھی تعاقب میں تھا۔ کویت ہاتھ سے جا رہا تھا کہ برطانیہ کے جنگی جہاز آ پہنچے اور رشید کو پیچھے ہٹنا پڑا۔

ابن سعود نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ کچھ مدد مل جائے۔ انگریزوں سے ملا۔ مگر وہ ٹال گئے۔ آخر مبارک کو بھی ہوش و حواس نے مدد دی کہ ممکن ہے کہ رشید پھر حملہ کرے۔ اگرچہ باپ نے منع کیا مگر ابن سعود کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ مبارک اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا کہ چند اونٹ اور کچھ سپاہی اور کچھ زرد سرخ (دیال) دے کر ابن سعود کو رخصت کیا۔ اسے یہ توقع تھی کہ عربی قبائل کو ساتھ ملا لے گا۔ مگر ایسے ہونا پڑا۔ اب اسے ایک اور تدبیر سوچی۔ چند وفاداروں کے ہمراہ بے سرو سامانی کی حالت میں یاغی کی طرف چل پڑا۔ رات کے وقت سفر کرتا رہا۔ آخر رات کے وقت جبکہ بستی خواب خرگوش میں تھی داخل ہو گیا۔ صبح کے وقت جب قصر امیر کا دروازہ کھلا یہ بھی بے تکلف داخل ہو گئے۔ محافظوں کو کھلا اٹھے۔ اب دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ قلعہ میں آشی

آدمی تھے کچھ تو گھبراہٹ میں بھاگے کچھ مارے گئے۔ ابن سعود قلعہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے پاس اس وقت صرف تیس آدمی تھے۔ شہر میں اعلان کیا گیا کہ ابن سعود پھر سے بلعبر پر قابض ہو گیا۔ ریاض کے لوگ رشید سے سخت تنگ تھے۔ سب اللہ کھرے ہوئے۔ رشید کے جتنے آدمی وہاں ملے مارے گئے۔

ابن سعود اب ریاض کا مالک تھا۔ عبدالرحمان بھی ریاض پہنچ گیا۔ اور لوگوں نے لرم جوشی سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چند روز بعد اس نے علماء دین اور اکابر کو جمع کیا اور کاروبار سلطنت ابن سعود کے ہاتھ دے کر گوشہ نشین ہو گیا۔ رشید نے دو تین دفعہ انتہائی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا اور نجد پر مکمل قبضہ آل سعود کا ہو گیا۔

خلافت عثمانیہ آل سعود کے اقتدار کو گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ ابن سعود شیخ کویت کا دوست تھا۔ اور انگریزوں سے بھی مراسم دوستانہ تھے۔ جرمنی اور ترکی کا اتحاد ہو چکا تھا۔ اس لئے عرب بالخصوص نجد پر عثمانیہ حکومت کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ ترکوں نے رشید کو آگے بڑھایا۔ ایک دستہ فوج اور کچھ توپیں بھی دیں۔ اس لڑائی میں ابن سعود زخمی ہوا اور لپسا ہونا پڑا۔ دوسری لڑائی میں ترکوں اور رشید کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ شیخ کویت کے ذریعہ ترکوں سے صلح ہو گئی۔ ابن سعود تمام نجد کا والی تسلیم کیا گیا۔ برائے نام ترکی سیادت قائم رہی۔ اب رشید اور ابن سعود کا مقابلہ تھا۔ لڑائی میں رشید مارا گیا۔ ابن سعود نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت اس کی عمر ستائیس سال تھی۔

اس وقت قسطنطنیہ انقلاب کی زد میں تھا۔ انور بے اور اس کے رفقاء ترک پارٹی (YOUNG TURKISH PARTY) نے سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا اور پھر سے عثمانیہ سلطنت کی گذشتہ عظمت قائم کرنا چاہتے تھے۔ دمشق سے مدینہ تک ریلوے لائن تیار ہو گئی تاکہ عرب پر کامل تسلط رہے۔ حسین ابن علی شریف مکہ کو والے مجاز مقرر کیا۔ وہابی سلطان ابن سعود اور سنی شریف والے مجاز کے مذہبی اختلاف نے دونوں میں دشمنی پیدا کر دی۔ شریف حسین اب شریف مکہ نہ تھا بلکہ مجاز کا والی بھی تھا۔

۱۹۱۱ء میں طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا اور ترکوں نے بغداد اور بصرہ وغیرہ پر فوج جمع کی مگر شکست کھائی۔ بلغاریہ نے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور قسطنطنیہ پر بڑھ رہا تھا۔ بلقان اور ترکوں کی لڑائیوں کا مذکورہ مناسب مقام پر ہو گا۔ ابن سعود نے اور حنفیہ پر قبضہ کر لیا۔ اور کویت تک اس کا تسلط ہو گیا۔ ترکوں کے لئے اب اس لئے چارہ نہ تھا کہ ابن سعود کو تمام نجد اور حجاز کا سلطان تسلیم کر لیں۔ نام نہاد سیادت ابن سعود کو بھی اعتراض نہ تھا۔ اب خلیج فارس پر دوبندر گاہ ابن سعود کے قبضہ میں تھے لئے اس کی اہمیت انگریز بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔

برطانیہ اور جرمن کی رقابت زور پر تھی۔ ان کے ایجنٹ شیوخ عرب کے پاس شروع ہوئے۔ ابن سعود کے پاس شکسپیر (SHAKESPIER) آیا۔ مدینہ اور بصرہ سے اور جرمن ایجنٹ آئے۔ ابن سعود سب کی سنار ہا۔

۱۹۱۴ء میں اول جنگ عظیم شروع ہو گیا۔ ترکوں نے جرمن کا ساتھ دیا۔ ابن سعود مناسب خیال کیا کہ بالکل غیر جانبدار رہے۔ لیکن پرانے دشمن رشید نے ترکوں کی موافقت کے بعد نجد پر حملہ کر دیا۔ انگریزی ایجنٹ شکسپیر اس لڑائی میں موجود تھا مارا گیا۔ اور ابن سعود کو بھی شکست ہوئی۔ خیر گدڑی کہ فتح مند دشمن نے تعاقب نہ کیا۔ دوسری لڑائی میں ابن سعود بھائی سعد بھی کام آیا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ابن سعود انگریزوں کا ساتھ دے۔ اب بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے ان سے معاہدہ ہو گیا اور ابن سعود نے مان لیا کہ انگریزوں کے دشمن کی مدد نہ کرے گا اور ضرورت ہوئی تو انگریزوں کی مدد کرے گا۔ سر دست انگریز کو اتنی ہی ضرورت تھی کہ ابن سعود خاموش رہے۔ پانچ ہزار پونڈ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جان فلپی (st. JOHN PHILBY) ابن سعود کا مشیر مقرر ہوا۔ یہ شخص پنجاب میں سرورس میں تھا۔

راقم الحروف نے ایک تقریب پر سرگودھا میں اس کو دیکھا تھا۔ نوجوان و جہمہ آدمی تھا۔ جنگ شروع ہوا تو اس نے اپنی خدمات ادھر منتقل کر دیں۔ شریف حسین والٹی مجاز کو بھی انگریزوں نے اپنے ساتھ گانٹھ لیا۔ اس کا مشیر کرنل

شرف حسین سے وعدہ ہو چکا تھا کہ جنگ کے بعد تمام عرب قبائل کی موتر بنا دی جائیگی۔ اس کا صدر شرف حسین ہو گا۔ لیکن ابن سعود سے نہ کبھی پہلے بنی اور نہ اب بننے کی توقع دونوں انگریزوں کے حلیف تھے۔ وسط عرب پر ابن سعود کا قبضہ تھا۔ اس نے قبائل کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ ان کی موتر کا نام "انخوان" تھا۔

شیخ کویت مبارک فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا جابر جانشین ہوا۔ لیکن دوسرا بیٹا مدار المہام تھا۔ آل شمر کی لڑائیوں میں شیخ مبارک نے سالم کو ابن سعود کی مدد کے لئے بلایا مگر وہ دشمن سے مل گیا۔ اور ابن سعود کو شکست ہوئی۔ اس لئے ابن سعود بیچ و تاب کر رہا گیا۔ کیونکہ کویت انگریزوں کی حمایت میں تھا اور انگریزوں سے اس کا معاہدہ ہو چکا۔ ادھر شرف حسین نے تمام عرب پر اپنی شاہی کا اعلان کر دیا اور ابن سعود کو بھی لکھا کہ میری شاہی تسلیم کرو اور طیبہ کے علاقہ سے دست بردار ہو جاؤ۔ اب ابن سعود کو بھی معلوم ہوا کہ یہ سویر شریف سے لڑائی ٹھن جائے گی۔ اس کے لئے تیاری شروع کر دی اور علماء کو عرب میں تبلیغ و ہدایت کے لئے بھیج دیا۔ شریف ان سے شکسٹ یا خراج وصول کر رہا تھا۔ ابن سعود کے ایجنٹ آئے تو غنیمت سمجھا کہ ایک سے گلو خلاصی تو ہوئی۔ ابن سعود کو توقع بڑھ کر کامیابی ہوئی۔ خرمائے لوگوں نے حسین کے نمائندوں کو قصبہ سے نکال دیا اور ان جواب دے دیا کہ شریف کو ایک کوڑی بھی نہ دیں گے۔

خرما ایک اہم مقام ہے۔ یہاں تجارتی منڈی بھی ہے۔ حجازی اور نجدی سوداگر اسی منڈی میں اپنا مال فروخت کرتے اور اس مقام کو جہاں تک وسط عرب کا تعلق ہے۔ حجاز کی لید سمجھا جاتا۔ اب یہ مقام ابن سعود کے ہاتھ میں چلا گیا۔ شریف حسین اس مقام کی اہمیت سے واقف تھا۔ آٹھ سو سوار دوبارہ قبضہ کے لئے روانہ کئے۔ یہاں زیادہ تر حبشی موالی (آزاد غلام) تھے۔ وہ اور گرد و نواح کے قبائل مقابلہ پر آئے اور شریفی بری طرح پٹ گئے۔

انخوان کا ایک وفد ابن سعود کے پاس آیا اور کہا کہ شریف مشرک ہے اور نا واجب ہے کہ مقدس مقامات اس کے قبضہ میں ہوں۔ اس لئے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیئے۔ ابن سعود نے کہا کہ سچ کہتے ہو میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ جب مناسب وقت ہو گا تمہاری خواہش

پوری ہو جائے گی۔

حسین نے ایک اور فوج خرمائی تہذیب کے لئے روانہ کی، یہ بھی پٹ گئی۔ ابن سعود نے ایک احتجاجی مکتوب حسین کو لکھا۔ اس نے مکتوب کو یوں ہی بغیر پڑھے واپس کر دیا اور قاصدوں کو زبانی کہا کہ:

”تیار رہے میں اسے اور اس کے کافر ہابیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہوں گا۔“

اس کے ساتھ ہی شریف نے والئی کو بیت اور رشید سے معاہدہ کر لیا کہ متحدہ افواج کے ریاض پر حملہ کیا جائے۔

ابن سعود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ شریف اور میں دونوں انگریزوں حلیف ہیں اور انگریزوں کو روپیہ اور اسلحہ سے مدد دے رہے ہیں اور شریف کی باگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ قلبی سے اکثر گفتگو ہوتی وہ بھی کہتا کہ ہمارے محلے مختلف ہیں اور ایک کا تعلق مختلف حلیفوں سے ہے۔ البتہ انگریز ابن سعود کو رشید سے لڑنے کے لئے اکٹھے رہے تھے۔ جو ترکوں کا حلیف تھا۔ گفت و شنید کے بعد قلبی نے اپنی حکومت کی طرف سے یہ کیا کہ اگر شمر قبیلہ سے لڑائی ہوئی تو شریف اور شیخ کو بیت کو روک دیا جائے گا کہ وہ اس کی مدد نہ کرے۔ ابن سعود نے اپنے بڑے بیٹے ترکی کو ان خان کی فوج کے ساتھ اس قبیلہ کی سرکوبی کے لئے بھیج دیا۔ رشید نے شکست کھائی اور صلح پر لڑائی ختم ہوئی۔

۱۹۱۹ء میں جنگ عظیم ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن شریف حسین نے پھر خرمائی کی طرف کیا۔ قاہرہ میں انگریز مدبرین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، بظاہر وہ دونوں کو صلح صفائی سے رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ مگر برطانیہ کے سیاسی تدبیر سے یہ بعید تھا کہ کم از کم تمام جزیرہ نما عرب پر ایک واحد شخصیت حکمران ہو اور ایک مرکزی عربی حکومت قائم ہو جائے۔ جو بحیرہ قلزم اور خلیج فارس دونوں مقامات میں ان کے مفاد کے لئے ایک مستقل خطرہ بھی ہو۔ اس کانفرنس میں جو کچھ طے ہوا وہ ان واقعات نے اہم نشر کر دیا جو شام اور حجاز اور عراق اور عرب میں رونما ہوئے۔

عبداللہ خرمائی کی طرف بڑھ رہا تھا اسے معلوم نہ تھا کہ ابن سعود اس کے استقبال کے لئے پہلے

ہی تیار ہے۔

انخوان نے شیخون مارا تو خواب غفلت میں حجازیوں کو تو ٹھکانے لگا دیا عبداللہ رات کے لباس میں بمشکل جان بچا کر مکہ میں پہنچا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ چار ہزار منظم سواروں میں سے بمشکل ایک سو جان بچا کر لے گئے۔ انگریزوں کی دی ہوئی ریفلیں اور مشین گنیں (MACHINE - GUNS) خیمہ و خرگاہ اور سامان رسد وغیرہ انخوان کے ہاتھ لگا۔ اس ایک لڑائی نے شریف حسین کی کمزوری۔ اس کی سپاہ کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ طائف اور مکہ جہاں غیر مالک کے حاجی تھے بھاگ رہے تھے۔ شریف نے عبداللہ کو محل سے نکال دیا۔ اور انگریزوں سے فوری امداد کی درخواست کی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ انہی کا کیا کرایا ہے۔

اب ابن سعود اور اس کے انخوان مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن انگریزوں نے مستنبہ کر دیا کہ ابھی وقت نہیں۔ اس لیے واپس ریاض کی طرف لوٹ گیا۔ اب اسے معلوم ہو گیا کہ ترکوں کی جگہ اب انگریزوں سے نپٹنا ہے۔ انگریز دراصل یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابن سعود حسین کی جگہ ارض حجاز کا مالک ہو۔ وہابیوں سے سابقہ ڈراٹیرٹھی کھیر تھی۔ آل رشید ہی موزوں سیاسی آلہ کار تھی۔ اگرچہ وہ دوران جنگ میں دشمن کی طرف دار تھی مگر سیاسیات ان جذبات سے مبرا ہے۔ رشید نے شریف حسین کی پناہ پہلے ہی لے رکھی تھی۔ اب انگریزوں کی حمایت میں آگیا۔ امیر فیصل اپسر شریف حسین دمشق میں بادشاہ تھا۔ ابن سعود سرپرسی کا کس عراق کے ہائی کمشنر سے ۱۹۲۰ء میں ملا اور پوچھا کہ دو ٹوک بات کرو۔ کیا ابھی تک مجھے اپنا علیف سمجھتے ہو۔ باتیں تو بہت ہوتیں مگر ابن سعود مطمئن نہ نہ ہوا۔ فیصل کو فرانسیمیوں نے دمشق میں ٹھہرنے نہ دیا۔ انگریزوں نے اسے شاہ عراق بنا دیا۔ اور عبداللہ اس کا بھائی شرق ارن کا امیر ہو گیا۔ بحیرہ قلم کے سامنے کنارہ حجاز سے عسیر تک سب انگریزی اقتدار کے تحت تھا۔ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ وہ ان سے نپٹ سکتا تھا مگر انگریز ان کے پشت پناہ تھے۔

تبلیغ وہابیوں کا فرض تھا۔ اس وقت ایک اور شیخ عبدالوہاب بھی ریاض میں موجود تھا

مبلغین شمر قبائل میں پھیل گئے۔ اکثر لوگوں نے وہابیت قبول کی۔ اور ابن سعود کو ریشہ پر ترجیح دی۔ انگریز اگرچہ فتح مند تھے مگر ہندوستان اور ہر ایک جگہ سیاسی شورش برپا تھی۔ رشید کے قبیلہ کے لوگ ابن سعود کی طرف مائل تھے۔ اس نے لڑائی پھیر دی۔ شریف اور فیصل نے انگریزوں کے ذریعہ روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ ان کا ایسی سیاسی منصوبہ تکمیل پذیر ہو رہا تھا۔ ابن سعود کو بھی معلوم ہو گیا کہ انگریز کیا چاہتے ہیں۔ انگریز نے شریف حسین اور فیصل کو یہ کہہ کر طائل دیا کہ دو قبائل کی خانہ جنگی ہے اور دیرینہ ہے اس پر مداخلت نہیں کریں گے۔ ابن سعود نے بسہولت اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ دشمن قبیلہ کے لوگ بھاگے ان کو عراق نے پناہ دی کہ ممکن ہے کسی وقت کام آئیں۔ باقی مطیع ہو گئے اب اخوان شام اور فلسطین کی سرحد تک پہنچ گئے۔ اور انگریزوں کو بھی ہوش آئی۔ اخوان ایک طرف عراق اور دوسری طرف کویت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ "ناصریہ" پر فیصل کی شہری دستہ فوج کو شکست دی۔ مگر انگریزوں نے پھر بڑا دھوکا دیا۔

ابن سعود "سرپرسی کاکس" سے ملا۔ دونوں میں کئی دن گفتگو جاری رہی۔ ابن سعود کو مفتوحہ علاقہ بھی دیا گیا اور نجد کی حدود بھی متعین ہو گئیں۔ مگر شریف حسین بیچ و تار کھا رہا تھا۔ والئی شرق اردن عبداللہ نے "سرحان" پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ اور حسین اور "طیبہ" کے قریب فوج جمع کر رہا تھا۔ اخوان نے وادی "سرحان" پھر لے لی۔ اور اب شریف حسین کی مزاج پرسی کے لئے بڑھے۔ انگریز پھر درمیان میں آگئے۔ پھر ایک کانفرنس ہوئی۔ سرپرسی کاکس کی جگہ نیا بانی کمشنر نہیں جانا تھا کہ ابن سعود سے کیونکر پیٹے۔ اور کانفرنس ختم ہوئی اور شریف حسین نے پھر سے خرما اور طرابہ پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ اور فیصل نے بھی باپ کو مدد دی۔ اب نجد پر ان کے حملے شروع ہو گئے۔ اب انگریزوں کی آنکھیں کھلیں کہ جو بات وہ نہیں چاہتے تھے وہ آل شریف کی متحدہ طاقت بسہولت پائی کر سکتی ہے۔ اور حسین زور دے رہا تھا کہ جو وعدے اس سے کئے گئے ہیں جلد ایفا ہو سکتے ہیں۔ شریف حسین سے ایک سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ دو سال گذشتہ وہابیوں پر حج کا رواج بند کر رکھا تھا اور وہ کام کیا جو قرآن نے کسی وقت کیا تھا۔ اس لئے اس کے خلاف

کی لہجہ میں دوڑ گئی۔ ابن سعود نے ایک دانش مندانہ چال یہ چلی کہ ممالک اسلام پر اپنا
 "پراپاٹنڈہ" شروع کر دیا اور شریف حسین کے اعمال کی وہ سیاہ تصویر پیش کی کہ دنیائے
 اسلام کی نظریں ابن سعود پر لگ گئیں۔ ہندوستانی مسلمانوں نے متفقہ ابن سعود کو اسلام
 کا علمبردار تسلیم کیا۔ اس کا مشیر حافظ "وہبہ" مصری دنیائے اسلام کے حالات سے واقف
 تھا۔ اس نے زور دیا کہ اب وقت ہے کہ شریف حسین پر حملہ کر دیا جائے۔ ابن سعود نے کچھ
 فوج عراق اور کچھ شرق اردن کی سرحدوں پر مدافعت کیلئے بھیجی اور دونوں بھائیوں کا
 راستہ رسل و رسائل جس کے ذریعہ وہ باپ کی مدد کر سکتے تھے منقطع کر دیا۔ اور مکہ اور جدہ
 پر بیک وقت حملہ کے لئے سپاہ روانہ کی۔ شریف کا بیٹا علی طائف میں تھا۔ اخوان نے
 معمولی جھڑپ کے بعد طائف پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر مکہ کی طرف بڑھے یہاں بھگدڑ مچ گئی
 انگریزوں نے شریف حسین کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے علی کے حق میں دست بردار ہو جائے
 کیونکہ جب تک وہ شاہ ہے دشمن سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے انگریزوں پر
 لعنت کی اور کہا کہ میں دست بردار نہ ہوں گا۔ مکہ میں لوگ جمع ہوئے اور شریف حسین
 کو مشورہ دیا کہ شہر چھوڑ کر جان بچائے۔ اہل مکہ میں سے بعض اس کا خزانہ لوٹنے میں لگے ہوئے
 تھے۔ اب حسین نے بھی خیر اس میں ہی دیکھی کہ راہ فرار اختیار کرے محل شاہی میں ایک
 درجن موٹریں تھیں ان پر اپنی دنیوی دولت بار کی۔ ایک کار پر اس کے خاندان کے
 لوگ تھے دوسری پر آپ سوار ہو کر جسدہ کی طرف بھاگا۔ یہاں اپنی کشتی پر سوار ہوا۔
 اٹنا سفر میں مال و دولت کے مقفل صندوق بھی ساتھ تھے ان کی گنتی روزانہ شمار کرتا عقبہ
 سے جزیرہ سائپرس (CYPRUS) میں وارد ہوا۔

ادھر ابن سعود کو اخوان کی کامیابی پر حیرت تھی۔ اس کی توقعات سے بڑھ کر کامیابی

ہوئی۔

حسین تو گیا مگر علی اس کا بیٹا مکہ میں تھا۔ انگریزوں سے مدد طلب کی۔ جواب ملا
 کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور کسی مذہب میں دخل دینا ان کے اصول سیاست کے خلاف
 ہے۔ علی نے اب ابن سعود کی طرف رجوع کیا اور صلح کی درخواست کی۔ ابن سعود نے ٹکاسا

جواب دیا اور کہا کہ "جب تک تمام خاندان شریفی ارض مقدس میں جہاز خالی نہ کر دے
صلح کی گفت و شنید ممکن نہیں" ساتھ ہی اپنی فوج کو بڑھانے کا حکم دیا اور متنبہ کیا کہ لوٹ کھسوٹ
سے باز رہیں اگر کسی سے بے اعتدالی ظہور میں آئی تو سخت سزا دی جائے گی۔

علی بھی جدہ میں پناہ گزین ہوا اور انخوان مکہ میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح
آنحضرت داخل ہوئے تھے۔ مگر شہر خاموشاں پر نزلہ گرا۔ انخوان نے مقبروں کو خاک
کے برابر کر دیا۔ ان کے عقیدہ کے مطابق یہ بھی بت تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے توڑے تھے۔

ابن سعود اس وقت تک ریاض میں تھا۔ فتح مکہ کی بشارت سنی تو عمرہ کے لئے
چل پڑا۔ راستہ میں احرام باندھا۔ اوردہ اور اس کے ہمراہی "لیک لیک" کرتے ہوئے
مکہ میں داخل ہوئے۔

انگریزوں کا خیال تھا کہ شریف حسین اور ابن سعود میں جنگ طول پکڑے گا۔
مگر جب سنا کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور کہیں بھی لڑائی نہوائے ملاقات نہیں
ہوتی۔ تو سخت حیران ہوئے۔ جلدی جلدی انہوں نے خلیج عقبہ پر قبضہ کر لیا تاکہ سویز
کی طرف سنیا میں راستہ کھلا رہے۔ اور شرق اردن کا بھی تحفظ ہو جائے۔

اس کے بعد سر گلبرٹ کلینٹن (SIR GILBERT CLAYTON) ابن سعود کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ جدہ اور مکہ کے درمیان "بحرہ" پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابن
سعود نے فیصل اور عبداللہ دونوں بھائیوں کے اتصال کو قطع کرنے کے لئے شام اور
عراق کے درمیان ایک قطعہ زمین پر قبضہ کر کے نجد کی سرحد بڑھائی تھی۔ "کلینٹن"
چاہتا تھا کہ ابن سعود دست بردار ہو جائے۔ ابن سعود نے بھی مناسب سمجھا کہ انگریزوں
سے لڑائی کون مول لے۔ مان گیا۔ "عقبہ" کا مسئلہ آئندہ گفت و شنید پر ملتوی ہو گیا۔ انگریزوں
نے ارض حجاز اور نجد کا سلطان ابن سعود کو تسلیم کر لیا۔ جس میں وادی سرحان اور ملحقہ
علاقہ بھی شامل تھا۔

ابن سعود نے تمام دنیا سے اسلام کو دعوت دی کہ حج کے ایام میں اپنے نامزدے

کہ میں بھیجیں تاکہ آئندہ ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ "تحت ادا اسلامی" کا جذبہ اس میں
 رفرما تھا مگر فضا سازگار نہ تھی۔ اس کے دعوت ناموں پر چند ممالک کے نمائندے ہی شامل
 ہوئے۔ مگر بے فائدہ بحث میں وقت ضائع کیا۔ اگرچہ ابن سعود عالم دین نہ تھا، مگر قرآن اور
 حدیث سے واقف تھا۔ اس نے اپنے خطبہ میں مندوبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔
 "قرآن کا واضح حکم ہے کہ لا تفرقوا: اور یہ تفرقہ ہی ہماری شکست کا وجہ
 ہے اس لئے اسباب تفرقہ کو مٹا دو۔ اور اعتصام بحبل اللہ سے بنیان موصول
 بن جاؤ۔"

ہندوستانی مندوب کی یہ تجویز تھی کہ مقامات مقدسہ پر تمام ممالک اسلامی کی ایک کلینڈر
 ماعت کا انتظام ہو۔
 ابن سعود نے کہا کہ:۔

"تجویز تو نیک ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن آزاد ممالک ہی حجاز
 کی آزادی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان انگریزوں کے قبضہ میں ہے اور کوئی
 ملک ایسا نہیں جس پر دول یورپ یا امریکہ کا اقتدار نہ ہو۔ انہی نمائندگان کے
 ذریعہ وہ اس سر زمین میں بھی سیاسی جال پھیلا دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم
 سے سر دست میں یہاں آزادی کا ضامن ہوں۔"

شریف حسین نے مکر معطلہ کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اور اسی غلطی کا خمیازہ اسے
 بھگتنا پڑا۔ ارشاد قرآن ہے کہ

"ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی
 جعلنا للناس سواہرن العاکف فیہ والیادومن یرو فیہ بالحادی بظلم
 من عذاب الیم" (پہلا)

"جن لوگوں نے کفر کیا اور راہ خدا اور مسجد الحرام (حج کعبہ) سے لوگوں کو روکا جس کو ہم
 نے خواہ وہ باہر سے آتے ہوں یا یہاں کے رہنے والے ہوں مسادات کا گھر بنایا ہے جو کوئی
 گمراہی کی وجہ سے اس میں رشتہ انداز ہو ورنہ انگیر عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔"

آنحضرتؐ کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ اپنا پایہ خلافت بنایا اور عذاب الیم کا مزہ چکھ لیا۔ اس کے بعد شریف حسین نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا۔ شریف حسین نے دو سال اہل نجد حج سے باز رکھا اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی سلطنت کا پایہ سلطنت ہو تو وہاں مساوات قائم نہ رہ سکتی اور نہ جنگ و جدل کا سبب ہو سکتا ہے۔ مکہ معظمہ "حرم" ہے۔ من دخلہ فہو اہمنا۔ (۲) اس لئے یہ پایہ سلطنت کا قیام نہیں ہونا چاہیے۔ ساحل بحر احمر پر جعدہ اور دیگر مقامات موزوں ہیں۔ "طائف" بہت مناسب مقام ہے۔

حجاز کے جنوب میں بحر احمر کے کنارہ پر "عسیر" واقع ہے چونکہ پہاڑی دشوار گزار علاقہ ہے اس لئے اس کو "عسیر" (تنگی) سے موسوم کیا جاتا ہے یا اس لئے کہ زمین قابل زراعت تھوڑی ہے۔ اس لئے "عسیر" کہتی ہے۔ غالباً یہ نام "عین" کی ضد ہے۔ "عین" میں "ین" برکت ہے۔

ہم نے اس کتاب کے پہلے حصہ میں "بنو فاطمہ" کے تحت خلافت "اوربسی" کے تحت لکھے ہیں جو "مراکش" واقع شمالی افریقہ میں تھی۔ اسی خاندان کی حکومت "عسیر" پر ہے یہ سابق حسنی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ احمد بن ادیس ^{۱۱۶۲ھ} ۱۶۵۸ء میں "عرایش" واقع مراکش میں پیدا ہوا۔ علماء اور مشائخ صوفیہ کی صحبت میں برسوں رہا۔ سید محمد سے بھی روحانی فیض حاصل کیا۔ ان کے زہد و تقویٰ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ارادت وسیع تر ہوتا گیا۔ عین میں سید عبدالرحمن مفتی آپ کا مرید ہو گیا اور آپ کا داعی بھی۔ سید احمد عرب کے مختلف شہروں میں گئے اور جہاں گئے ہزاروں مرید ہو گئے۔ ^{۱۲۵۳ھ} ۱۸۳۶ء میں مدینہ واقع عین میں وفات پائی۔

ان ایام میں عسیر چھوٹی چھوٹی قبائلی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کے ایک حصہ پر ابن پاشا پسر محمد علی پاشا خدیو مصر کا تسلط تھا۔ اہل عسیر اس حکومت سے بیزار تھے اور اکثر شورش مچاتے۔ برطانیہ کی گذرگاہ بحر احمر ہے اور ہندوستان کی حفاظت کے لئے یہ ضرور تھا کہ اس کے ساحل پر برطانوی اثر و رسوخ و اقتدار ہو۔ ۱۸۴۰ء میں "لندن کانفرنس" ہوئی۔ وزیر اعظم "پارسلٹن" نے محمد علی پاشا خدیو مصر کو مجبور کیا کہ اپنی فوج بحر احمر کے ساحلی علاقہ سے ہٹائے۔

اس طرح خدیو کو "تھامہ" اور "عسیر" سے دست بردار ہونا پڑا۔

امراء عرب میں سے شریفی خاندان میں محمد بن عون شریف مکہ اور شریف حسین بن علی حاکم ابی عریش اور امام بچے والٹی میں "عسیر" کے دعوے دار تھے۔ ابراہیم پاشا نے انہی دعوے داروں میں عسیر کی تقسیم کر دی۔ شریف حسین بہت جاہل تھا۔ رعایا تنگ آ گئی۔

۱۸۶۹ء میں توفیق پاشا "حدیدہ" میں آگیا اور شریف حسین کو نکال دیا۔ حدیدہ کے بعد تھامہ اور تھامہ کے بعد صفا پر ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ مگر آزاد قبائل کی شورش و بانہ سکے ان ایام میں خاندان ادریس کے داعی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور آتش شورش کو ہوا دیتے تھے۔ آخر عسیر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پہلا امام سید محمد بن علی بن سید احمد ادرسی ہے۔

۱۹۱۲ء میں جب اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا تو ترکوں کی توجہ ادھر لگ گئی۔ اٹلی نے اس عربی علاقہ میں جس میں عسیر بھی تھا۔ بغاوت پھیلا دی۔ برطانیہ پس پردہ یہ سب کچھ کھیل رہا تھا۔ ۱۹۱۵ء کے معاہدہ کی رو سے "عسیر" خاندان ادرسی نے جنگ عظیم میں ترکوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی۔ انگریزوں نے روپیہ اور اسلحہ سے تقویت دی۔ اور ادرسی سلطنت حدیدہ تک وسیع ہو گئی جو پہلے امام بچے والٹی میں کے قبضہ میں تھا۔ امام بچے انگریزوں کے خلاف تھا۔

انگریزوں کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جہاں ان کا براہ راست تسلط نہیں لیکن مفاد وابستہ ہے وہاں کے حکمرانوں کی حدود پر تنازعہ مستقل قائم رکھتے ہیں۔ حدیدہ عسیر اور دین کی حد دو پر واقع ہے۔ اور دونوں میں تنازعہ اس قطعہ اراضی کے لئے ایک مستقل صورت اختیار کر چکا ہے۔

(پاکستان اور بھارت میں مسئلہ کشمیر بھی اسی نوع کا ہے)

انگریز اس تنازعہ کو ختم ہونے نہیں دیتے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس کی مدد کے محتاج رہتے ہیں اور اس کو بھی مداخلت کا موقع ملتا رہتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی وقت اسی تنازعہ کے سبب دونوں اس کی گرفت میں بلا واسطہ آجائیں۔

حدیدہ میں استصواب رائے بھی ہوا۔ عوام نے ترکی حکومت کے حق میں رائے دی

لیکن یہ آرزو محال تھی۔ اس لئے دوبارہ استصواب ہوا تو مصر کے حق میں ہوا۔ یہ بھی ہوا تو ان کے خلاف مرضی اور لیبی خاندان کو ذید یا۔

سید محمد اور لیبی کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا سید علی جانشین ہوا۔ شریف حسین حکومہ ترکیہ کی طرف سے والٹی حجاز تھا اس نے عسیر کو اپنی ولایت میں شامل کرنا چاہا مگر ابن سعود نے پیش دستی کی اور مشرقی حصہ کو نجد میں ملا لیا۔ سید علی اور لیبی کی وفات کے بعد حسن جانشین ہوا۔ شریف حسین حجاز سے بے دخل ہو چکا تھا اور یہاں ابن سعود کی حکومت تھی۔ امام یمن نے جنوب کی طرف سے عسیر پر حملہ کر دیا۔ سید حسن نے ابن سعود سے امداد کی درخواست کی۔ چنانچہ بریتلرڈ کا یہ نتیجہ ہوا کہ امام یمن کو پیچھے ہٹنا پڑا اور عسیر سعودی حکومت کے سایہ عاطفت کے تحت آ گیا۔

یمن | یمن عرب کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کی اپنی تاریخ ہے اور قدیم زمانہ میں یمنی حکومت تمام عرب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس حکومت کے بادشاہ امام کہلاتے ہیں۔ ان تعلق زیدی شیعہ فرقہ سے ہے جو زید بن علی بن ابی طالب سے منسوب ہے۔ اگرچہ ان سے بعض امامیہ بھی ہیں اور امام منتظر کے قائل ہیں مگر اکثر کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حاضر ہی مستحق خلافت ہے۔ چنانچہ جو حسن یا حسینی ان اوصاف سے متصف ہو جو "امامت" کے واجبات سے ہیں اسی کو اپنا امام منتخب کرتے رہے۔ اس لئے ان میں تمام امام جید عالم دین اور صاحب زہد و ورع ہوتے۔ بعد میں اختلاف پیدا ہوا تو فرقہ "جارورہ" نے نسب علی کی بھی شرط ڈال دی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی و صفاء امام ہیں نسبتاً نہیں۔ اس لئے جس مسلمان میں حضرت علی کے اوصاف میں وہ مستحق خلافت ہے۔ فرقہ "سیلمانیہ" ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ امامت کا انتخاب شوری کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہر صالح مسلم امام ہو سکتا ہے۔ جمہور کا مذہب وہی زیدی ہے۔ ان کی فقہ شافعی سے ملتی جلتی ہے۔

جب ۱۹۱۱ء میں ترکوں اور اٹلی میں طرابلس پر جنگ چھڑی عزت پاشا فالٹی یمن تھا اس نے امام یحییٰ کو کامل آزادی دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ عربی قبائل میں سے یہی ایک قبیلہ ترکوں کا مددگار رہا۔

یمن میں اماموں کی حکومت کا آغاز تیسری صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ امام کا انتخاب ہوتا رہا اس لئے کسی ایک خاندان میں حکومت محدود نہیں رہی۔ اب اس نے شخصی حکومت کی صورت اختیار کر لی۔

یمن میں معدنیات کی بہت کانیں ہیں۔ چاندی سونا ہانا بنا اور پٹرول اور قیمتی پتھر بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ "صفاء" یمن کا پایہ خلافت ہے چونکہ اہل یمن مذہباً نہایت متعصب واقع ہوئے ہیں۔ اور بالخصوص یہود و نصاریٰ سے ان کا سلوک سخت مذموم ہے اس لئے کسی انگریز کو بھی بلا اجازت امام اور وہ بھی فوجی پرہ کے ساتھ یمن میں چلنے پھرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ انگریزوں نے بھی یمن کی سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ عدن پر ان کا قبضہ ہے۔ حدیدہ اور سیسی حکومت کے حوالہ کر رکھا ہے جو یمن ہی کا اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز ہے۔

لحج دو سو سال پیشتر حج حکومت یمن کا ایک حصہ تھا مگر آبادی کی اکثریت شافعی سنی تھی۔ ۱۶۲۲ء میں یمن کی طرف سے جو والی الحج مقرر ہوا اس نے سنی مذہب اختیار کر لیا۔ اور رعایا کی مدد سے خود مختار حکومت قائم کر لی۔

سلاطین الحج میں سے اٹھارویں صدی کے شروع میں سلطان محسن بن فضل پر انگریزوں نے ڈور سے ڈالے مگر نہ بنی۔ سلطان فضل بن علی بن محسن کے تعلقات انگریزوں سے اچھے رہے۔ اس کی وفات پر سلطان احمد بن فضل بن محسن تخت نشین ہوا۔ اس شخص نے "اتحاد عرب" کی تبلیغ کی اور چاہتا تھا کہ تمام عرب قبائل متحد ہوں۔ اور ایک مرکزی موتمر قائم ہو جائے۔ اور تمام فرمانروایاں عرب کے نام دعوت نامے بھی بھیجے۔ لیکن کامیاب نہ ہوا۔ حالات سازگار نہ تھے۔

سلطان محسن مذکور کے عہد میں انگریزوں کا دخل عدن میں ہو گیا تھا۔ بالآخر مستقل قبضہ ہو گیا۔

موجودہ سلطان عبدالکریم فضل پر ترقی یافتہ زمانہ کے حالات کا گہرا اثر ہے۔ اور یہ بھی عرب اتحاد کا حامی ہے۔ حج میں اگرچہ حکومت ایک ہی خاندان میں محدود ہے مگر

مگر انتخاب کی رو سے عوام جس کو چاہیں اپنا سلطان تسلیم کریں اس لئے مسئلہ ولی عہد کی ایک سیاسی گتھی بن کر رہ گیا ہے۔ سلاطین کج کو حواشب بھی کہتے ہیں جو ایک عنصر قبیلہ ہے۔

ان چھوٹی چھوٹی عربی قبائلی حکومتوں کا تذکرہ بے فائدہ ہے جو ساحل عرب پر ہیں اور سب انگریزوں کے وظیفہ خوار ہیں۔ اور بقدر اثر و رسوخ وغیرہ کے لحاظ سے سے تین ہزار پونڈ ماہوار ان کو ملتا ہے۔

بحرین | خلیج فارس میں اہم مقام بحرین ہے۔ اس کی اہمیت دول یورپ کے نزدیک جیسی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اسے بھی ہندوستان کی کل

سمجھا گیا ہے۔ سب سے پہلے پرتگیزیوں نے مسقط پر قبضہ کر کے ہر مزاد بحرین کو بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا تھا۔ حریف ایسٹ انڈیا کمپنی نے شاہ عباس صفوی کی سے پرتگیزیوں کو یہاں سے بیدخل کر دیا۔ اب یہ صفوی حکومت کے تحت آ گیا۔

۱۷۸۲ء میں شیخ احمد فاتح آل خلیفہ نے یہاں آزاد حکومت قائم کر لی۔ آل خلیفہ

قبیلہ "عقبہ" کی ایک شاخ ہے جو جزیرہ بحرین کے بالمقابل ساحل پر آباد ہے۔ ان کا وطن نجد ہے۔ مورث اعلیٰ کا نام شیخ خلیفہ تھا جس نے نجد سے کویت میں نقل مکان

کی۔ موتیوں کی تجارت کی وجہ سے یہاں آل خلیفہ بہت مالدار تھے۔ بحرین میں اکثریت ہے اور عناد مذہبی کی وجہ سے سنیوں سے اکثر جھڑپیں رہتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک

نے آل خلیفہ کے ایک خادم کو مار ڈالا۔ آل خلیفہ نے اپنے آدمیوں کو مسلح کیا اور بحرین ہلہ بول دیا۔ یہاں شیخ نصر ایران کی طرف سے والی تھا۔ مقابلہ ہوا مگر شکست کھائی۔ وہ

تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ ابو شہر کی طرف چلا گیا۔ میدان خالی تھا۔ شیخ احمد بن شیخ بن شیخ خلیفہ قابض ہو گیا۔ اب اس جگہ اپنا نائب چھوڑا اور خود "قطر" اپنے مستقر کی طرف

مراجعت کی۔

شیخ احمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شیخ سلیمان جانشین ہوا۔ ان ایام میں سعود نے نجد کی حکومت میں "احساہ" شامل کیا جس کا مذکور ہو چکا ہے۔ اور سلیمان

ہاں بات نہ تھی جو اس کے باپ میں تھی۔ بحرین میں کچھ بد نظمی پیدا ہو چکی تھی۔ سلطان مسقط نے مداخلت کی اور اپنے بیٹے سعید کو بحرین میں والی مقرر کر دیا۔ ابن سعود کی مدد سے سعید نکلوا دیا۔ مگر ابن سعود کی طرف سے ابراہیم عصفیان خود بحرین پر قابض ہو گیا۔ مگر آل خلیفہ نے اس کو تھوڑے عرصہ بعد بے دخل کر دیا۔ اب ابن سعود اور آل خلیفہ میں جنگی حالات پیدا ہو گئے۔

انہی ایام میں ابراہیم پسر محمد علی پاشا نجدیوں کی سرکوبی کے لئے آ رہا تھا۔ اس نے آل سعود کو بحرین سے دست بردار ہونا پڑا۔ شیخ سلیمان کے بعد اس کا بھائی عبدالنشین ہوا۔ پینتالیس سال خانہ جنگی میں ہی گزرے اور آخری شکست کے بعد مسقط سے پناہ گزین ہوا اور یہیں وفات پائی تو شیخ محمد جانشین ہوا۔ اس وقت آل خلیفہ اس حد تک پھوٹ بڑھی کہ دو حریف فریق بن گئے جو آل عبداللہ اور آل سلیمان کے موسم ہیں۔ انگریزوں کو مداخلت کا موقع مل گیا۔

اس وقت بحرین پر ایرانیوں اور انگریزوں اور ترکوں کی نظر تھی اور قبائلی خانہ جنگی نے بھی شیخ محمد کو پریشان کر رکھا تھا۔ بو شہر کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ شیخ محمد نے بھی ان کی دوستی غنیمت سمجھی۔ ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے ہر ایک بحری حملہ کی ممانعت انگریزوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ شیخ محمد کے پاس اپنا بحری بیڑہ تھا اس لئے اسے توڑ دیا گیا کہ ضرورت نہ تھی ان کی جگہ برطانوی بحری جنگی جہازوں نے لے لی۔ بحرین قلعہ بھی انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ اتفاق سے قطر یوں کے ساتھ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شیخ محمد نے انگریزی مدد طلب کی مگر مدد وقت پر نہ پہنچی اور شیخ محمد نے اپنے بھائی شیخ علی کو بحرین میں چھوڑا اور کویت میں آ گیا۔ انگریزی بیڑہ آ پہنچا اور قلعہ پر گولہ باری کی اور بالکل خاک کے برابر کر دیا۔ شیخ علی کو بحرین کا حاکم تسلیم کر لیا۔ اب بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شیخ علی مارا گیا۔ شیخ محمد اگرچہ کامیاب ہوا مگر انگریزوں نے اسے ہندوستان کے ذریعے حراست میں لے لیا۔ بیسی میں نظر بند ہوا پھر عدن میں۔ آخر مکہ جانے کی اجازت مل گئی اور یہیں ۱۳۰ھ میں وفات پائی۔ انگریزی تسلط بحرین پر ہو چکا تھا مگر

ان کی حکمت عملی ہمیشہ ہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی پھٹو کو تخت پر بٹھا دیا کرتے ہیں۔

ایمپیرر نیپولین اول نے سچ کہا تھا کہ تخت و تاج بھی انگریزوں کا تجارتی مال ہے

پہلے بحرین کے لوگوں سے استصواب رائے کیا۔ انہوں نے مقتول شیخ علی کے بیٹے

شیخ عیسیٰ کے حق میں رائے دی۔ چنانچہ شیخ صاحب ۱۲۸۴ھ مطابق ۱۸۶۴ء میں

مسند نشین ہوئے۔ انگریزوں نے سلطنت دی اور عوام نے رائے دی۔ اس لئے وہ جو

کے ہر ایک مطالبہ کو تسلیم کرتا رہا۔ اور اس پر عملی کارروائی بھی ہوتی رہی۔ آخری مطالبہ

یہ تھا کہ ایسی حکومت قائم کی جائے جو صحیح معنی میں اسلامی شریعت کے مناسب ہو۔

یہ مطالبہ منظور کر لیا انگریزوں نے مسترد کر دیا۔ کیونکہ اس کی زد پولیٹیکل ایجنٹ کے غیر

محدود اختیارات پر پڑتی تھی۔ شیخ عیسیٰ کو معذول کر کے شیخ ہمدان کو مسند پر بٹھا دیا۔

بحرین موتیوں کی تجارت کے لئے دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے موتیوں کی آدھ

دلاویز ہے۔ قسطنطنیہ عظیم میں بحرین کا خاص ذکر ہے۔

✓ مرج البحرین یلتقین میںہما بزرخ لاینبغین، نباتی الآریبکا تکتہ بن بحر۔

منہما اللؤلؤ والمرجان، نباتی الآریبکا تکتہ بن۔ ولہ الجوار المنشت فی البحر علا

نباتی الآریبکا تکتہ بن۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلل

والاکرام :- (۲۶)

دو بحر ایک فرات جس کا پانی میٹھا خوشگوار اور دوسرا شور تلخ، چلا دتے۔ دونوں ایک

دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے درمیان بزرخ ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں

کرتے۔ پس اللہ کی نشانیوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان

نکلنے ہیں۔ تم اللہ کی نشانیوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے۔ بحر میں جہاز ہیں چلنے والے جب

پہاڑیاں تم اللہ کی نشانیوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے۔ ہر ایک شے فنا ہونے والی۔


جو اس بحر پر ہے۔ پس تیرے پروردگار کی ذات صاحب جلال و اکرام ہی باقی رہے گی

ان آیات میں "مرج البحرین" کا نظارہ حیرت انگیز ہے۔ سمندر کے آب شور کے

سلم ہر تہ نیچے آب شیریں کی سطح ہے۔ لوگ غوطہ لگا کر مشکیزوں میں پانی بھر لیتے ہیں۔

جزر آب شیریں سطح پر بھی آجاتا ہے۔ ان آیات میں ایک زبردست پیش گوئی بھی ہے جو آخری آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وقت بھی آنے والا ہے جب دول یورپ بالخصوص ملکہ بحر کی بحری قوت فنا ہو کر رہ جائے گی۔ ہم نے اس کتاب کے پہلے حصہ میں "عدن" اور فردوس" پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان سے مراد "ایران" اور عراق" ہیں بحسبین جزیرۃ العرب کے شرق عراق کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ بھی خلافت کے حصہ میں آیا اور "جنت تجری من تحتها ان نہاں" کا وعدہ پورا ہوا۔

اس کے حالات ہم آل سعود کے تحت لکھ چکے ہیں۔ یہاں کے حکمران مشہور قبیلہ کویت ربیعہ کی شاخ اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ گیارھویں صدی ہجری میں اس خاندان نے جو آل صباح سے موسوم ہے کویت میں رہائش اختیار کی اور اس خاندان کا مورث اعلیٰ یہاں کا شیخ یا حاکم منتخب کیا گیا۔



لے "بحرین" میں پٹرول کے چشمے ہیں اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس لئے شیخ بحرین کو مال مال کر دیا۔ اور اہل بحرین کی ترقی میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پٹرول کے لئے کنوئیں کھودے گئے تو آب شیریں کے چاہات بھی بہت بن گئے

۱۲۱۳ھ میں مبارک نے اپنے بھائیوں محمد اور جراح کو قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی۔ مبارک کے انتقال کے بعد شیخ جابر تخت نشین ہوا۔ ۱۳۳۵ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا بھائی شیخ سالم جانشین ہوا جو ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء میں فوت ہوا تو اس کا لڑکا شیخ احمد جابر بیٹھا۔

عمان عمان بحر عمان کے ساحل پر جزیرۃ العرب کے انتہائی جنوبی حصہ حضرت موت کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا مشہور شہر مسقط ہے۔ اس علاقہ کے مسلمان سب خارجی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں "جبل اخضر" کی بلبندی سطح زمین سے دس ہزار فٹ ہے علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہے معدنیات اور میوہ جات اور خوشبودار لکڑی اور مویشی بکثرت ہوتے ہیں۔ بحر عمان سے بھی اگلی قسم کے موتی برآمد ہوتے ہیں۔

مسلمانان ہندوستان کو خوارج کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ اس فرقہ کی ابتدا حضرت علیؑ کے عہد خلافت میں ہوئی۔

اس کا مفصل تذکرہ ہم نے اپنی کتاب "دمشق" میں کیا ہے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علیؑ کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا اور امیر معاویہ اور حضرت علیؑ کا "امنا سامنا" صفین پر ہوا۔ اس وقت یہ جماعت جو بعد میں خوارج سے موسوم ہوئی حضرت علیؑ کی پر جوش ہوا خواہ تھی۔ ان میں سے اکثر حافظ قرآن بھی تھے۔ جب مسئلہ خلافت حکمیں کے سپرد بغرض تصفیہ ہوا۔ تو اس جماعت نے اعتراض کیا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ قرآن کی رو سے تصفیہ کیا جائے گا۔ لیکن حضرت علیؑ نے غلطی کی کہ فیصلہ دو شخصوں کی رائے پر چھوڑ دیا۔ یہ جماعت حضرت علیؑ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس لئے "خارجی" کہلائی۔ یعنی حضرت علیؑ کی جماعت سے خارج ہو گئی۔

ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علیؑ اور بعد ازاں بنو ہاشم میں تنازعہ خلافت نے ایسی فضا مکھڑ کر دی کہ عوام دونوں سے برگشتہ ہو گئے۔ جب تک حضرت علیؑ کی خلافت رہی خوارج سے آپ کی اکثر لڑائیاں

جاری رہیں۔ اور ایک خارجی عبدالرحمن ابن طعم کے ہاتھ سے آپ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ جب تمام دنیا نے اسلام پر اموی خلافت چھاگئی تو خوارج کا مقابلہ اموی خلافت سے رہا۔ یہ لڑتے رہے اور اکثر شکست کھاتے رہے اور عرب کے جنوب کی طرف ہٹتے گئے بعض بھاگ کر شمالی افریقہ میں چلے گئے۔ شمالی افریقہ کے حالات کے ضمن میں ہم نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں یہ لوگ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جنوبی عرب میں ہیں اور یہاں ان کی اپنی سلطنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ زنجبار میں بھی ان کی سلطنت ہے دونوں حکومتوں میں برادرانہ تعلقات ہیں۔

مسلمانوں میں یوں تو بہت فرقے ہیں۔ لیکن دراصل تین ہیں باقی سب ان کی شاخیں ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت جن کو سنی کہتے ہیں۔ دوسرے شیعان علی جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے خارجی۔

اگر ان کے عقاید کا جائزہ لیا جائے تو جہاں تک اصول اسلام یا ارکان اسلام کا تعلق ہے، تینوں متفق ہیں۔ لیکن ان کے سیاسی عقائد میں فرق ہے بلکہ مخالفت ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تینوں فرقوں کی بنیاد سیاسیات ہی ہیں۔ شیعہ پہلے تین خلفاء کو غائب سمجھتے ہیں اور ان کی خلافت اعتقاداً تسلیم نہیں کرتے۔ خارجی پہلے دو خلفاء کو برحق سمجھتے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت اسی طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح شیعہ پہلے تین کی تسلیم نہیں کرتے۔ سنی چاروں کو برحق مانتے ہیں جس طرح شیعہ اول تین خلفاء کے حق میں تبراً (بیزاری) اور سب استعمال کرتے ہیں اسی طرح خوارج تبراً اور سب آخری دو خلفاء کو ان کا ہدف بناتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ تینوں فرقوں میں تفریق سیاسیات کی پیدا کردہ ہے اور سیاسیات ہی کا کرشمہ ہے کہ قوموں میں جنگ و جدل جاری ہے۔ اس لئے یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ان تینوں میں شرانگیز تفرقہ کیوں ہوا۔ جبکہ وحدت میں متحد ہیں۔ یہ خوبی اسی وحدت کی ہے کہ جب کفار و مشرکین سے ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ ہو تو "وگر عضو ہمارا نماند قرار"

سلاطین "غان" عبداللہ بن عباد کے قبصین میں ابن عباد ایک مشہور خارجی قبیلہ کا بانی

ہے۔ سلاطین عمان "امام" کہلاتے ہیں۔ سلاطین یمن کی طرح یہ بھی جید عالم دین ہیں۔
 ۱۶۹۸ء میں بیعت بن سلطان امام عمان نے پرتگیزیوں کا زور مشرقی افریقہ میں توڑ دیا
 اور ان کو "کلوا" اور "مباسہ" اور "پمبہ" سے خارج کر دیا۔ "عبادی" زنجبار پر قابض ہو گیا
 ان کا اثر شمالی افریقہ میں خلافت امویہ کے وقت سے ہے۔ مشرقی افریقہ میں بھی فتوحات
 کے ذریعہ بڑھ گیا۔

فاریجیوں کا عقیدہ دربارہ خلافت یہ ہے کہ امیر المومنین بہترین خلیفہ بلحاظ تقویٰ
 چلیے۔ اور اسی کا انتخاب بھی ہونا چاہیے جو بلحاظ تقویٰ دیگر مسلمین سے بڑھ کر ہو۔ لیکن
 یہ عہدہ موروثی نہیں جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت کا حق اولاد علیؑ میں موروثی ہے
 خلیفہ نااہل ثابت ہو تو اس کا عزل بھی واجب ہے۔ یہ عقیدہ سنیوں کے خلاف ہے
 ۱۶۴۱ء میں احمد بن سعید کا انتخاب بحیثیت امام ہوا اور ال بو سعید خانہ
 کا بانی ہوا جو اس وقت عمان اور زنجبار پر حکمران ہے۔ ۱۸۳۲ء میں احمد کا پوتا سعید
 پایہ سلطنت مسقط سے زنجبار میں منتقل کر لیا۔ سعید کے بعد اس کا بیٹا "برغش" ۱۸۶۰ء
 سے ۱۸۸۵ء تک حکمران رہا۔ عمان اور زنجبار کی تواریخ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مگر یہ بھی برطانیہ
 کے زیر اقتدار ہیں۔

مصر

نہر سویس مصر کے شمال میں بحیرہ شام (روم) ہے اور جانب مشرق نہر سویس ہے جو بحیرہ شام کو بحیرہ احمر (قلم) سے ملاتی ہے (مصر کی تاریخ حالیہ میں انہی دونوں کا مذکور ہے۔ یعنی واقعات حالیہ کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ انہی دونوں سے ہے کہ نہر سویس دول یورپ کے تجارتی اور جنگی جہازوں کی گذرگاہ ہے۔ اور ایشیائی ممالک عرب اور ایران اور ہندوستان تاحد چین کا نزدیک تر راستہ ہے۔ اس لئے یہ کتنا بے جا نہ ہوگا کہ

مشرق و مغرب کو یہی نہر ملاتی ہے۔

۲. مصر کی قدیم تاریخ کے متعلق جو کچھ معلومات "پلاٹنی" اور "سٹریبو" سے حاصل ہوتی ہیں ان میں نہر سویز کا بھی مذکور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت مسیح سے ڈیڑھ ہزار سال پیشتر یہ نہر موجود تھی۔ لیکن قدیم جغرافیہ مصر سے جو ڈاکٹر برغش بے ارمنی نے اپنی تاریخ مصر میں لکھا ہے واضح ہوتا ہے کہ فراعنہ مصر کے دور دورہ میں مصر نو صوبوں میں منقسم تھا اور انتہائی مشرقی صوبہ "نہر پلوزیم" پر واقع تھا۔ جو نیل کی انتہائی مشرقی شاخ ہے اور بحیرہ شام میں اس مقام پر گرتی ہے جس کے قریب بندرگاہ صعید واقع ہے۔ اب یہ شاخ "برکتہ منزلہ" میں گرتی ہے۔ اس لئے یہ قیاس غالب ہے کہ پلوزیم کے شمال مشرقی حصہ کو نہر سویس تصور کیا گیا ہو جس کے شکم پر سے نہر سویس گزرتی ہے۔

ہم نے ان فراعنہ مصر کا بھی ذکر اس کتاب میں کیا ہے جن کے دور دورہ میں حضرت ابراہیمؑ یہاں آئے اور حضرت یوسفؑ آباد ہوئے۔ ان کو کتبوں میں "حقیق سوس" لکھا ہے "سوس" یہی سویس ہے۔ "حقیق" عربی میں کمر بند کو کہتے ہیں۔ ان ایام میں نہر پلوزیم ہی عرب کے اس حصہ کو جو سنیاسے ملتی ہے اور سویس کہلاتا تھا۔ مصر سے جدا کرتی، لیکن تاریخی زمانہ میں

اس کا پتہ نہیں ملتا کہ بحیرہ شام اور اعرام کا بھی اتصال کبھی تھا۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ نرسویس کی تعمیر کا تصور پرانا ہے۔ غلیفہ ہارون الرشید کو بھی تھا کہ اگر نرسویس تعمیر ہو جائے تو تجارت وغیرہ میں سہولت پیدا ہو جائے گی اس کی ایک وجہ یہ ہے مصر سے جو راستہ فلسطین کو جاتا ہے مصر کے شمال میں واقع تھا وہ خطرناک دلدل جھیلوں اور شام کے درمیان سے گزرتا ان میں سے ایک جھیل میں شاہ ایران کا ایک لشکر غرق ہو گیا تھا۔ وہ مصر کو مسخر کرنے کے لئے اس طرف آ رہا تھا۔ اور اسی میں لشکر فرعون بھی غرق ہوا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کو سرین کہتے ہیں۔

(نرسویس کی تعمیر کا تصور فرانسیسی ہے۔ ۱۷۹۸ء میں لوئیس چہاردہم کے عہد میں فرانس نے انجینئروں نے اس کا ایک خاکہ مرتب کیا۔ اور والی مصر شیخ علی بے سے اجازت اور مراعات بھی حاصل کر لیں۔ مگر اس منصوبہ کی تکمیل نہ ہو سکی۔ یورپ کے معاملات نے نرسویس کو ادھر ہی الجھائے رکھا۔

نپولین برطانیہ کے اقتدار کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ اور نزدیک تر راستہ ہی تھا۔ ہندوستان کو یورپ سے جانا۔ اس لئے اس نے بھی بحیرہ شام اور اعرام کو ملائے کی تجویز انجینئروں کے سامنے رکھی۔ ۱۸۲۶ء میں فرانس کے ایک انجینئر نے ایک کمپنی کی طرح ڈالی اور قاہرہ میں فرانسیسی نائب قونصل کے ذریعہ ترکی والی مصر سعید پاشا نے ۱۸۵۲ء میں اس سے ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ جس کی تصدیق باب عالی نے بھی کر دی مگر برطانیہ سخت مخالف تھا۔ لارڈ "پامرسٹن" وزیر اعظم برطانیہ کا خیال تھا کہ مشرق بعید میں فرانس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ جائے گا اور برطانوی تجارت کو بھی نقصان پہنچے گا لیکن فرانس نے حصص فرانسیسی سرمایہ داروں کے پاس فروخت کر دئے اور کمپنی کی تشکیل ہو گئی۔ ہر ایک حصہ کی قیمت ایک سو بیس پونڈ تھی۔ حصہ دار خدیو مصر اسماعیل پاشا بھی تھا۔ اسی کے ہاں بیس سال تک ڈاکٹر برنٹش بے ارمنی ملا رہا اور کتبوں سے تاریخ مصر کا مواد فراہم کیا۔

HISTORY OF EGYPT FROM — MONUMENTS) اب انگریزوں کی بھی آنکھیں کھلیں۔ خدیو مصر نے یورپ والوں کی ممالک نوازی کا حق پورا بلکہ بڑھ چڑھ کر ادا کیا۔ اس لئے اس کو داد و تحسین کی وجہ سے روپیہ کی بہت ضرورت

لی اپنے خرید کردہ حصص برطانیہ کے وزیر ڈزداہلی (اسرائیلی) کے ہاتھ بعوض چالیس لاکھ پونڈ فروخت
 دیئے۔ اس طرح کمپنی کے چالیس فی صدی حصے برطانیہ کے ہاتھ لگ گئے۔

مصر میں فرانسیسی قونصل ڈی لیسپ تھا۔ کمپنی کا صدر بھی یہی تھا۔ معاہدہ حکومت مصر
 اور اسی کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے وثا کو آمدنی کا ایک حصہ اب بھی ملتا ہے۔ قرڈی شیڈ ڈی
 لیسپ اور سعید پاشا کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی اہم شرط یہ ہے کہ:-

۹۹ سال بعد یعنی ۲۰ نومبر ۱۹۴۹ء کو نہر سوئز کے حقوق ملکیت حکومت مصر کے
 نام منتقل ہو جائیں گے۔ تب تک کمپنی کی صدارت کسی فرانسیسی کے لئے

مخروط ہے:-

کمپنی کا صدر دفتر پیرس میں واقع ہے۔ ۲۲ ڈائریکٹروں میں اٹھارہ فرانسیسی اور دس
 انگریز اور دو مصری اور ایک امریکن اور ایک ڈنچ ہے۔ ۱۹۴۵ء میں حکومت مصر نے مطالبہ
 کیا کہ نصف شصتین مصر کو دی جائیں۔ یہ معاملہ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں بھی پیش ہوا
 لیکن بے نتیجہ ہی رہا۔

چونکہ معاہدہ کے اختتام کو چند سال ہی رہ گئے ہیں اس لئے کمپنی نے ۱۹۰۹ء
 میں مصری حکومت سے درخواست کی تھی کہ معاہدے میں توسیع مزید ۹۹ سال کی جائے۔ حکومت
 نے درخواست مسترد کر دی۔

۱۸۸۵ء میں قسطنطنیہ میں ایک کنونشن (CONSTANTINOPLE CONVENTION)

میں مختلف ممالک کے نمائندہ شامل ہوئے تھے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی گذرگاہ
 ہے اس لئے ہمیشہ سب کے لئے کھلی رہے۔ چونکہ برطانیہ کا سیاسی و غیرہ تعلق ایران اور
 ہندوستان وغیرہ سے گہرا ہے اس لئے اس کو خاص مراعات بھی حاصل ہو گئیں۔ ان میں سے
 ایک یہ ہے کہ برطانیہ کو اس نہر کے تحفظ کے لئے یہاں اپنی فوج رکھنے کا بھی حق ہے۔ اس کی توثیق
 معاہدہ ۱۹۳۶ء نے کر دی جو حکومت مصر سے باندھا گیا۔ اس وقت برطانیہ منتہائے عروج پر تھا
 جو چاہتا منوالینا۔ اس لئے ۱۹۳۶ء کے معاہدہ کو غیر مساوی قرار دیا گیا۔ اور برطانیہ خود اسے غیر
 مساوی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ معاہدات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس معاہدہ کی

میعاد اکیس سال ہے۔ ۱۹۵۶ء میں ختم ہو گا۔ اگر کسی وجہ سے یہ معاہدہ منسوخ نہ بھی ہوتا
چھ سال کے بعد غالباً مصر اس کی تجدید نہ کرے گا۔ اب تنازعہ مصر اور برطانیہ کے درمیان
اتنا ہے کہ یہ معاہدہ کا عدم قرار دیا جائے اور برطانیہ اپنی فوج نرسویز سے ہٹالے۔
غالباً قارئین کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہو گا کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک طرف ایران
پٹرولیم اور ہر ایک شے جو اس سے وابستہ ہے اپنی قومی ملکیت قرار دیتا ہے اور دوسری طرف مصر
نرسویز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔

یہ اسباب برصغیر ہندوستان کی تقسیم میں ملیں گے۔ بھارت اور پاکستان کی تشکیل کے
بعد برطانیہ کی حکومت کا اقتدار ہندوستان پر نہ رہا۔ اور یہی بد قسمت ملک تھا جس کے بل بوتے
پر برطانیہ ایشیائی ممالک بالخصوص دنیا بھر اسلام پر پھایا ہوا تھا۔ لاکھوں ہندوستانی سپاہی
اس کے ایک اشارہ پر ایران اور مصر اور عرب وغیرہ ممالک کو مرعوب کرتے رہے۔ اب یہ عین

اٹھ گیا۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ہندوستان کی تقسیم کا فائدہ ممالک اسلامیہ کو پہنچا
اگر یہ ذرا سیاسی تدبیر سے کام لیں تو ممکن مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہندوستان سے کلیتہً دستبردار
ہونا خواہ برطانیہ کے زعم میں عارضی ہو۔ ایک ایسی سیاسی غلطی تھی جس نے اس کی
کمزوری کو واضح کر دیا۔ یہ کمزوری جس کا ذکر ہم ان صفحات میں کر چکے ہیں۔ اس کے سیاسی
تدبیر نے اب تک پوشیدہ رکھی مگر اب پول کھل گیا۔

ایران اور مصر میں چونکہ سیاسی بیداری نسبتاً زیادہ ہے۔ اس لئے وہ برطانوی
کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برطانیہ ابھی تک اس لئے اڑا ہوا ہے کہ نرسویز اور برطانوی
پیشین آئل کمپنی میں فرانس اور امریکہ کا مفاد بھی شامل ہے اس لئے وہ انہی کے سہارے
پر کھڑا ہے ورنہ کبھی کا چلتا پھرتا نظر آتا۔ فرانس کو برطانیہ کی شراکت بہت مہنگی پڑی۔
دونوں عالمگیر جنگوں میں اس کا کچھ مزہل گیا۔ البتہ امریکہ نو دولت ہے۔ دل دونوں کے
چھٹے ہوتے ہیں۔ دونوں سرمایہ دار ملک کیونکہ کیونکہ کی اشاعت سے خائف ہیں۔ اس لئے
بظاہر مشترکہ مفاد ان کو جدا ہونے نہیں دیتا۔ واقعات کی رفتار اگر یہی رہی تو قریب تر
زمانہ میں متوقع جنگ عظیم سرمایہ داری کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گی اور اس کے ساتھ ہر

ایک ملکی اور غیر ملکی حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ "لمن الملک المیوم للث واحد

انقہار" (۲۷)

رفت بے ڈاکٹر جنرل وزارت تعلیم مصر اور قاہرہ میں پروفیسر تاریخ تھایہ
خود مصری ہے اور مصر کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اس نے اپنی کتاب "بیداری مصر"

(THE AWAKENING OF MODERN EGYPT) میں مصر کی بیداری کا وہ وقت

بتایا ہے جب "نپولین بونا پارٹ" (NAPOLEON BONAPARTE) مئی ۱۷۹۸ء میں

بندر گاہ سکندریہ کے قریب اپنی تیس ہزار سپاہ کے ساتھ اترا۔ اس وقت مملوک مصر

پر حکمران تھے۔ دو تین لڑائیوں کے بعد انہوں نے شکست کھائی۔ نپولین نے اپنے اعلان

میں مصریوں کو یقین دلایا کہ فرانسیسی اس جگہ اس غرض سے نہیں آئے کہ ان کے ملک

کو اپنی سلطنت میں شامل کریں۔ ہم جمہوریت پسند ہیں اور تمام بنی نوع انسان کو حریت اور

مساوات سے روشناس کرتے ہیں اور آپ کو بھی خود شناسی کا سبق دیتے ہیں جو آپ کو

آنحضرتؐ نے دیا اور آپ فراموش کر چکے ہیں۔ بہت عرصہ تک یہ مملوک جو قاف اور جارجیا

کے رہنے والے تھے غلام تھے۔ آپ پر ظالمانہ حکومت کرتے رہے۔ ان کے استبداد سے

آپ کو ہم نے نجات دلائی۔ آئندہ یہ آپ کا کام ہے کہ اپنا ملک سنبھالیں اور سلطنت کا

انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لیں جو علم و حکمت اور تقویٰ میں آپ میں سے بڑھ کر ہے

اس کی اطاعت کریں۔ کیا یہ مملوک خدا کے ہاں سے حکومت کا پٹہ لکھوا کر لاتے ہیں۔ اگر ان

کے پاس ہے تو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمن اور رحیم اور عادل ہے۔ اس کی تقدیر یہی ہے

کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو۔ خوشحال وہ ہیں جو اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اور

وہ بھی جو غیر جانبدار ہیں کیونکہ جلدی ہی وہ ہمارے نیک ارادوں سے واقف ہو کر ہمارا

ساتھ دیں گے۔ مگر وہ انتہائی بد قسمت ہیں جو ہمارے خلاف مملوک کی حمایت میں ہتھیار

اٹھائیں۔ وہ ہلاک ہوں گے اور ان پر رحم نہ کیا جائے گا۔

مصریو! ہمارے اور تمہارے بدخواہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ہم آپ کا دین مٹانے

کے لئے آئے ہیں۔ عا شا وکلا۔ ان کو بتا دو کہ ہم ایک اللہ واحد لا شریک کے پرستار ہیں

اور آنحضرتؐ اور صحیفہ قدسیہ قرآن کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں جیسا کہ ایک مسلمان کے شایاں ہے۔

اے شیخان ازہر اور قاضیو! ان کو واشگاف لفظوں میں بتا دو کہ ہم فرانسیسی صدق دل سے مسلمان ہیں۔ اس کا ثبوت ہم دے چکے ہیں۔ ہم نے مسیحیت کے گڑھ روم پر حملہ کیا اور پوپ کو نکال باہر کیا جو اسلام کے خلاف حروب صلیبیہ کا وعظ کرتا رہا۔ جزیرہ مالٹا (MALTA) سے مسیحی نائٹ (KNIGHTS) سے خالی کر لیا۔ اور ہمیشہ سے ترکی سلطان خلد اللہ ملکہ کے دوست رہے۔

(نیویں یونیا پارٹ اس وقت مغلیہ شہنشاہ اکبر اعظم کے بہرہ روپ میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کے مذہبی تیوہار دھوم دھام سے منانا رہا۔ لباس بھی شیخوں کا پہنا۔ مساجد میں بھی جانا اور لوگ جوش مسرت سے نعرے لگاتے۔ "السلطان الکیبر یونیا پارٹ"۔

ادھر یونیا پارٹ سلطان سے دوستی کا دم بھرتا تھا۔ ادھر سلطان اور انگریز اور روس متحد ہو رہے تھے۔ کہ فرانس کو نیچا دکھائیں۔ مصریوں کے دل دوبارہ پر جس چیز نے زیادہ اثر کیا وہ "سائنس" کا کرشمہ تھا جو اب یہاں فرانسیسی دکھا رہے تھے۔ چھاپہ خانہ عربی حروف میں اشتہار اور اعلان شائع کر رہا تھا۔ ہسپتال اور تفریح کے سامان ٹھیٹر (THEATRE) تعمیرات جہاز کا کارخانہ اور دوسری مشینیں ان کو حیرت اور استعجاب میں ڈال رہی تھیں۔ ان کی بھی آنکھیں کھلیں کہ جس دنیا جہالت میں وہ اب تک رہے اس کے باہر جہاں اور بھی ہے۔

انگریز امیر البحر "نلسن" (NELSON) نے "ابو کبیر" کی کھاڑی میں فرانسیسی بحری بیڑہ کو تباہ کر دیا۔ مصریوں نے سنا کہ ترکی سلطان خلیفۃ المسلمین بھی مصریوں کو فرانسیسیوں کے چنگل سے چھڑانے کیلئے آرہا ہے۔ عام بغاوت ہو گئی۔ ترکی فوج کو فرانسیسی جنرل "کلیبر" (KLEBER) نے عین شمس (HELI POLIS) پر شکست دی۔ بغاوت تو دبت گئی مگر جامعہ ازہر کے ایک طالب علم نے فریج جنرل کلیبر کا کام نھنرے تمام کر دیا اس کا پانشین "مینو" (MENO) ہوا۔ علانیہ مسلمان ہوا۔ اسلامی نام عبداللہ رکھا۔

آخر ترکوں اور انگریزوں کی متحدہ فوج نے فرانسیسیوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ صلح کی گفت و شنید کے بعد ۱۸۰۱ء میں فرانسیسی اپنا بوریلا بستر سنبھال کر مصر سے چلے گئے۔ انہی ایام میں ایک فرانسیسی "بوکارڈ" (BOUCHARD) کو وہ مشہور پتھر ملا جسے سنگ روزیٹہ (ROSETTA STONE) کہتے ہیں۔ یہ پتھر انگریزوں کے ہاتھ پڑا۔ اور یہاں سے لندن کے عجائب خانہ میں آیا۔ ۱۸۲۲ء تک یہ صرف فتح کی یادگار ہی سمجھا جاتا رہا۔ آخر ایک فرانسیسی "شمپولین" (CHAMPOLLIAN) نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس پر تین زبانوں کے حروف ابجد کی عبارت تھی۔ ایک یونانی جس کو سب جانتے تھے۔ دوسرے عام مصری رسم الخط جو قدیم زمانہ میں بھی رائج تھا۔ تیسرے مصری "حیر و غلف" (HIEROGLYPHIC) آخر الذکر تحریر مستور تصویر حروف میں ہے۔ جو عام مصری رسم الخط کے ساتھ جو تحریر مستور کا ہی اختصار ہے۔ قدیم تر زمانہ کے مصری کتبوں میں اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ یونانی حروف کی مدد سے مصری حروف کی ابجد دریافت ہوئی۔ اس کے بعد کتبوں کا مطالعہ شروع ہوا۔ اور پیدائش مسیح سے دس ہزار سال پیشتر تاریخی واقعات روشن ہو گئے۔

فرانسیسی قبضہ سے پیشتر مملوک کی موروثی حکومت مصر پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے برائے نام ماتحت تھے۔ لیکن حکومت ترکیہ نے ارادہ کیا کہ مملوک بے کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے۔ اور اپنے نامزد گورنر مقرر کرے۔ ادھر مملوک بھی اڑ گئے۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی تو عوام ہی زیادہ تر نقصان اٹھا رہے تھے۔ اب فرانسیسیوں کو یاد کرتے کہ وہی بہتر تھے

مصر میں سلطنت عثمانیہ کے البانوی دستہ کا ایک افسر محمد علی بے

محمد علی پاشا

تھا۔ یہ شخص "کویلا" (CAVALLA) واقع مقدونیا میں ۱۷۶۹ء

میں اسی سال پیدا ہوا۔ جس سال نپولین بونا پارٹ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی تو دونوں کو صاحب اقبال کہتے ہیں۔ ۱۸۰۲ء میں جب فرانسیسی مصر سے رخصت ہوئے، ترکی گورنر کے تحت محمد علی کام کرتا رہا۔ ترک اور مملوک باہم دست و گریبان ہو رہے تھے محمد علی سیاسیات سے واقف تھا۔ کبھی مملوک کی دہرہ وہ حمایت کبھی ترکوں کا اعلانیہ

خیر خواہ ملازم۔ غرض لباس کا کوئی رنگ نہ تھا جو اس کے بدن پر زیب نہ دیتا ہو۔ اور جس کی طرف لوگوں کی نظریں نہ اٹھتی ہوں۔ مملوک زور پکڑ رہے تھے۔ اور آخر پھر مصر پر چھانٹے۔ خورشید پاشا مصری گورنر عاجز آ گیا۔ تو محمد علی نے مارچ ۱۸۰۳ء میں ان کو شہر بدر کر دیا۔ کچھ دن محمد علی کے حسب مشاکم چلتا رہا۔ عوام میں "ٹیکس" کی بھربھار کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ اب محمد علی اپنے اصلی رنگ میں سامنے آ گیا۔ وہ وقت شناس واقع ہوا تھا۔ عوام کی قیادت جامعہ ازہر کے شیوخ اور دوسرا شہر کر رہے تھے۔

قاضی القضاة کی عدالت میں استغاثہ خورشید پاشا کے مظالم کے خلاف پیش کیا۔ قاضی نے پاشا کو جواب دہی کے لئے طلب کیا۔ پاشا نے طلبی کو درخورا اعتنا نہ سمجھا۔ شہر میں عام ہڑتال اور شوش تھی۔ سب نے محمد علی کی طرف رجوع کیا۔ وہ اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس جگہ ایک مجلس منعقد ہوئی اور قاضی صاحب نے بالاتفاق رائے ترکی پاشا کو ایک فستویٰ کے ذریعہ معزول کر دیا۔ جب محمد علی نے پوچھا کہ خالی جگہ کو کون پرکرسے گا تو سب نے بالاتفاق محمد علی کو منتخب کیا۔ شیخ جامعہ ازہر اور سید عمر مکرم نے خلعت پہنایا اور عام اعلان کیا گیا کہ محمد علی آئندہ مصر کا شاہ ہے۔ خورشید پاشا کو بھی قاضی کے فتویٰ سے مطلع کیا گیا۔ مگر اس نے تعمیل سے انکار کر دیا اور باب عالی کے حکم اور مدد کا انتظار کرنے لگا۔ باب عالی نے وقت کی نزاکت کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے محمد علی کو خورشید پاشا کی جگہ دے دی۔ دو سال بعد محمد علی کا تقرر بحیثیت گورنر "سالونیکا" (SALONICA) ہوا۔ محمد علی بھی سمجھ گیا کہ یہ تبادلوں معزولی کے مترادف ہے۔ مملوک تو ترکی حکومت کے حامی تھے۔ مگر فلاہین "یعنی عام کاشتکار اور شہری تجارت پیشہ وغیرہ محمد علی کے حق میں تھے اور مشائخ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب مصری قومی تحریک شروع ہو گئی جس کی قیادت محمد علی کر رہا تھا۔ اس کو انگریزوں کی حمایت بھی حاصل تھی اور اس کا اثر باب عالی پر بھی پڑ رہا تھا۔

اتفاق حسنہ ہی کتنا چاہیے کہ سلطان روم اور فرانس میں مراسم دوستانہ قائم ہو گئے۔ انگریزوں کو ناگوار گذرا تو بحری بیڑہ درہ دانیال میں بھیج دیا جس کو ہٹنا پڑا۔ اس کا انتقام لینے کے لئے مملوک مصر کو گانٹھا اور بحری بیڑے کا رخ انگلینڈ کی طرف ہو گیا۔ انگریزوں کا

معہم ارادہ تھا کہ مصر پر مستقل قبضہ کیا جائے۔ اب مملوک بھی ساتھ ہونگے۔ علماء مصر اور شیخ جامع ازہر نے فتویٰ شائع کیا اور بتایا کہ انگریز فرانسیسیوں سے بھی بدتر ہیں۔ فرانسیسی لائڈہیب سہی مگر حریت و مساوات کے قائل ہیں اور انگریز متعصب مسیحی ہیں اور حروب صلیبیہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔

”یعنی بے جس نے انگریزوں کو دعوت دی تھی، مر گیا۔ فتویٰ میں تشریح تھی کہ جو بھی مسلمان کفار کی مدد کرے گا۔ ”فہو منہم“ وہ بھی خارج از اسلام تصور ہوگا۔ یہ فتویٰ جہاد تھا مملوک سب مصری قومی فوج سے آئے۔ بحری بیڑہ کی مدد سے سکندریہ پر انگریزوں کا قبضہ آسانی سے ہو گیا۔ بلکہ بلا مزاحمت ہوا۔ شہر روزیٹہ میں بھی کچھ مزاحمت نہ ہوتی اور انگریز بے تکلف شہر میں پھر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نماز آفتاب نے سایہ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ ایک لخت لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں سے ہر طرف سے گولیاں کاہنہ ان پر برسنا شروع ہو گیا۔ دریا کے دونوں کناروں پر مصری سواروں نے حملہ کر دیا۔ احمارہ پر انگریزوں کو شکست ہوئی۔ اور بھاگ کر الگزیٹہ ریہ میں پناہ لی۔ روزیٹہ میں انگریز اکثر مارے گئے اور بہت اسیر ہوئے۔ جن میں ان کا جرنیل فریڈ (FRAZAR) بھی تھا۔

یورپ میں نپولین اول اور روس الگزیٹہ ڈرا (ALEXANDERA) میں گفت و شنید ہو رہی تھی۔ اب برطانیہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ مصر کا خیال چھوڑ کر گھر کی خبر لے جنرل فریڈر کے ذریعہ شرائط صلح طے ہوئیں۔ انگریز مصر سے نکل گئے اور محمد علی و امسالک ارض فراغت کا ہو گیا۔ باب عالی نے بھی تحسین و آفرین کی۔ اس کا بیٹا بطوریر عمال قسطنطنیہ میں تھا اسے واپس کر دیا اور خطابات و تحائف بھی بھیجے۔

اب محمد علی نے اصلاح کا کام شروع کیا۔ ادھر سے فراغت ہوئی تو باب عالی کی دستاویز پر اپنے بیٹے کوٹسوں کو دہلیوں کی سرکوبی کے نجد کی طرف روانہ کیا۔ نجدیوں نے جان توڑ مقابلہ کیا۔ کمک کی درخواست پر محمد علی خود ۱۸۱۳ء میں آیا اور یہ علاقہ اور مقامات مقدسہ مکہ و مدینہ بھی اس کے قبضہ میں آگئے۔ یگر ۱۸۱۵ء میں محمد علی کو پتہ لگا کہ نپولین جزیرہ ایبا سے فرار ہو گیا جہاں انگریزوں نے اسے نظر بند کر رکھا تھا۔ اس لئے اسے مصری فوج کے

ساتھ پھر مصر کی طرف لوٹنا پڑا۔ ۱۸۱۶ء میں اس کے بیٹے طوسون کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے
 نے پھر سراٹھایا۔ اب کے دوسرے بیٹا ابراہیم اس مہم پر گیا۔ عبدالقادر بن سعود گرفتار ہو گیا۔ اور
 قسطنطنیہ میں قتل کیا گیا۔ ابراہیم ۱۸۱۹ء میں مصر کی طرف لوٹا۔

محمد علی نے اپنے تیسرے بیٹے اسماعیل کو سوڈان کی مہم پر بھیجا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بحر
 اس کی سلطنت کی جھیل بن جائے۔ عرب کے ساحلی کنارہ پر اس کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ سوڈان
 کی فتح سے یہ خواب پورا ہو سکتا تھا۔ اگرچہ اسماعیل نے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا مگر ایک
 فریب کا شکار ہو گیا۔ نمیر حاکم "شندی" نے ضیافت پر مدعو کیا۔ جس جگہ ضیافت کا اہتمام
 تھا اس کے ارد گرد چاروں طرف خشک گھاس اور لکڑی کے انبار تھے۔ خطرہ سے بے خبر وہ
 کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لخت چاروں طرف سے آگ لے گھیر لیا۔ سب جل کر راکھ ہو گئے۔
 کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو نمیریوں نے تیر اور نیزوں پر رکھ لیا۔ اگرچہ اس کا انتقام لیا
 گیا مگر نمیر بچ کر نکل گیا۔

نپولین کے خاتمہ پر فرینچ جرنیل بھی پراگندہ ہو گئے۔ کچھ ایران اور پنجاب میں مہاراجہ
 رنجیت سنگھ کے ملازم ہو گئے۔ کچھ محمد علی کے منظور نظر بنے۔ انہی کے تحت محمد علی نے مصری فوج
 مرتب کی۔ یہ کرنل سویس (SEVES) تھا۔ جو بعد میں سلیمان بیے اور سلیمان پاشا کے اسلامی
 نام سے مشہور ہوا۔ چند سال کے عرصہ میں محمد علی کے پاس ۱۸۳۹ء میں دو لاکھ تربیت یافتہ
 سپاہی تھے۔ جن میں سے ایک لاکھ تیس ہزار منظم ہو چکے تھے۔ بحری بیڑہ بھی تیار کر لیا۔ اور بیڑے
 کے بیڑے سے کسی حیثیت میں کم نہ تھا۔ بقول ڈاکٹر "باؤرننگ" (DR: BOWRING) صرف
 وردی کا فرق تھا۔

سلطان روم محمود ثانی سے بگڑ گئی تو اپنے بیٹے ابراہیم کو شام پر حملہ آور ہونے کے
 لئے بھیج دیا۔ "عکہ" لے لیا تو سلطان کا اپنی محمد علی کے پاس آیا۔ محمد علی نے کہا کہ اگر سلطان
 عکہ سے دست بردار ہو تو میں آگے نہ بڑھوں گا ورنہ عکہ کے بعد دمشق اور دمشق کے بعد
 اللہ کریم ہی خوب جانتا ہے کیا ہوگا۔

"بیلان" کی لڑائی میں ترکوں کو شکست فاش ہوئی اور ابراہیم کو وہ طورس تک بڑھ

یا۔ اس کے دامن میں دوسری طرف ایشیا کوچک تھا۔ ۱۹ دسمبر ۱۸۳۷ء میں قونیا کے میدان پر بھی ترکوں کو شکست ہوئی۔ سلطان نے شرائط صلح پیش کیں۔ محمد علی نے منتر و ردیں۔ اب اس کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا اور وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ روس درمیان میں آگیا۔ روس نے اپنا بحری بیڑہ انگریزوں پر بھیج دیا۔ محمد علی نے شرائط صلح منظور کیں۔ اب آسٹریا اور فرانس اور برطانیہ کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ سلطان سے روس کے مطالبات ایسے تھے کہ ان سب کی خیر نہ تھی۔ سلطان اور محمد علی میں یہ طے پا چکا تھا کہ محمد علی موروثی خدیو مصر رہے گا اور شام کا ایک ساحلی علاقہ بھی اس کے قبضہ میں رہے گا۔

انچ دول یورپ نے متفقہ یا دداشت میں باب عالی کو اس معاہدہ کی تنسیخ پر مجبور کیا اب دول یورپ محمد علی کے خلاف متحد ہو گئے۔ اور محمد علی کو عکے چھوڑنا پڑا۔ دول یورپ کی سیاسی بھول بھلیاں سے محمد علی خوب واقف تھا۔ اس کا فائدہ لے لے آخر کار یہ ہوا کہ مصر میں اس کا خاندان سلطنت کا مالک ہو گیا۔ سلطان اور دیگر دول یورپ سے بھی صلح صفائی ہو گئی۔ محمد علی ۱۸۴۱ء کے بعد اسلام بول گیا اور اس کا بیٹا ابراہیم لندن کی طرف نہضت فرما ہوا۔ ہر جگہ باپ بیٹے کی آؤ بھگت ہوئی۔ ۱۸۴۸ء میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جس کا صدمہ ضعیف باپ کو اس حد تک ہوا کہ ۲۲ اگست ۱۸۴۹ء میں محمد علی بھی فوت ہو گیا۔ اس کا پوتا عباس جانشین ہوا۔ جولائی ۱۸۵۸ء میں کسی نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ قاتل کا پتہ نہ ملا۔ عام رائے یہ تھی کہ مملوک کی سازش کا شکار ہوا۔ کعباس کا چچا سعید جانشین ہوا۔ اس کے ہاں فرانسیسی سفیر فرڈی نڈ لیسپ (FERDINAND DE LESSEPS) تھے جس کا ذکر ہم نے شروع میں نرسویز کے تحت کیا ہے۔ سعید جنوری ۱۸۶۰ء میں فوت ہوا۔ اس کا برادر زادہ اسمعیل پسر ابراہیم جانشین ہوا۔ جس نے سوڈان فتح کر کے مصر میں شامل کر لیا۔ باب عالی نے "خدیو مصر" کا لقب عطا فرمایا۔ انگریز مصر پر مستقل قبضہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ فرانس سدراہ تھا۔ آخر دونوں کا اتفاق ہوا تو ۱۸۶۵ء میں اسمعیل کو تخت مصر سے اپنے بیٹے توفیق کے حق میں دستبردار ہونا پڑا۔

اب حکومت کو شخصی تھی مگر جمہوریت کی صورت اختیار کر رہی تھی اور دستوری (PARLIMENTARY) بن چکی تھی۔ تمام اختیارات وزراء کے ہاتھ میں تھے۔ خدیو عضو معطل تھا۔ عربی پاشا وزیر حرب عملاً مصر پر چھایا ہوا تھا۔ بے کسی کے عالم میں خدیو نے سلطان کی طرف اور یہاں سے مایوس ہو کر دول یورپ کی طرف رجوع کیا۔ سب نے کنارہ کیا۔ انگلینڈ نے دخل دیا اور کامیاب ہوا۔ عربی پاشا باغی قرار دیا گیا۔ مقدمہ کی سماعت ہوئی۔ اور "سیلون" میں جلاوطن کیا گیا۔ عربی پاشا نے حکم کر کہا کہ :-

جدا مجد جنت سے نکلے تو اسی جگہ وارد ہوئے تھے :-

اب انگریزوں کا قدم مصر میں جم چکا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کب اور کیسے مصر خالی کریں۔ فرانسیسی مطالبہ کرتے تھے کہ یہاں مستقل رہائش ہی رکھو مگر اس میں نصف کے حق دار ہم بھی ہیں۔ لیکن برطانیہ کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا لگا سا جواب دیا۔ قدم تو جم گئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کتنی فوج مصر اور بالخصوص نہر سویز کے تحفظ کے لئے درکار ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا حل آج تک تسلی بخش نہیں ہوا۔

مصر پر خدیو اور اس کی پارلیمنٹ ہی کی حکومت ہے مگر مشیر اور وزیر انگریز ہے خدیو ایک دفعہ کچھ اکڑا تو کرڈمر (CRDMIER) نے کہا کہ :-

"آپ کا باپ اسمعیل اسلا مسبول میں موجود ہے۔ آپ نہیں مانتے تو وہ ضرور ملنے گا۔"

۱۹۰۶ء میں "کرڈمر" تو مصر سے رخصت ہوا۔ سعدزا غلول پاشا نے وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اور یہی قومی لیڈر مصریوں کا ہوا۔ توفیق کے بعد فواد اور فواد کے بعد فاروق خدیو مصر کے عہد میں جمہور اپنے لائق نمائندگان وزراء کے تحت اس لائق ہو گئے کہ آج برطانیہ سے مطالبہ یہ ہے کہ مصر خالی کر دو۔ یہ گفت و شنید ایسے مرحلہ پر پہنچ چکی ہے کہ برطانیہ کو نہر سویز سے ہٹنا پڑے گا۔

اگر ہم ان واقعات کو ان حالات سے جو ایران میں رونما ہو رہے ہیں یہ نظر عمیق دیکھیں تو برصغیر ہندوستان کی تقسیم میں ہمیں خدائی ہاتھ نظر آ رہا ہے اس تقسیم سے تمام دنیا اسدم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

پاکستان

پاکستان ہندوستان کی تقسیم کے بعد ظہور میں آیا ہے۔ ابھی چار سالہ طفل ہے اور یہی چار سالہ واقعات ہیں جو اس کے مستقبل کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے ظہور کے فوراً بعد ہم نے اس کی روزانہ سرگذشت قلم بند کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ قلم بند کرتے رہے۔ اس کو من و عن ہم شائع کرنے سے معذور ہیں۔ البتہ یہ سرگذشت محفوظ رہے گی اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ نسلیں اپنے بزرگوں کے کارنامے یا نامہ اعمال کا مطالعہ کر لیں گی۔ تمام ارباب حل و عقد کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ

”فما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب متید و جارت سحرۃ الموت

بالحق، ذلک ما حکنت منہ تحید“ (۲۶)

”اس کے منہ سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو فوراً محفوظ نہ کر لی گئی ہو۔ اور موت کی بے ہوشی نے آلیا اور یہ وہ یقینی چیز ہے جس کی طرف تیری توجہ ہی نہ ہوتی تھی“
 ”نظم و نسق جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دنیا کی نظریں ان پر ہیں ان کا ہر ایک قول اور ہر ایک فعل ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہتے کہ ان کے نامہ اعمال میں مثبت ہوتا رہتا ہے۔ اگر زندگی میں کسی وجہ سے نہیں تو ان کی موت کے بعد یہ تاریخی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ آئندہ نسلیں مطالعہ کرتی ہیں۔ اس لئے دانش مندی کا تقاضہ یہی ہے کہ اپنے پیچھے نیک مثال اور نیک نام چھوڑیں۔ اور یہ تو تاریخ کے ہر ایک طالب علم کو معلوم ہے کہ بہت فرعون گزرے ہیں جن کے نام کے ساتھ لعنت کی دم بھی لگی ہوئی ہے۔

تو تاریخ عالم کا مطالعہ کرو ہر ایک قوم کی تاریخ میں اس کی ابتدا میں ایک بے پناہ

جوش اور دلولہ اور عزم راسخ اور ہمت بلند نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے۔ اس کی بربادی کی دل خراش داستان اس کے عیش و نشاط کی محفلوں اور رنگ رلیوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس قوم کی ابتدا ہی عیش عشرت سے ہو۔ اس کا اول ہی اس کا آخر یقیناً ہے۔ وہ آئندہ نسلوں کے لئے جو انہی کی اولاد ہے۔ غلامی کے سوا کچھ اور درتہ میں نہیں چھوڑتے۔ ہندوستان میں ایک ہزار سالہ حکومت کے بعد ہم دو سو سال غلامی کی بدترین زندگی بسر کرتے رہے۔ جو ہم کو آباؤ اجداد سے درتہ میں ملی موجودہ نسل غلام اور غلام زادہ ہے۔ اور غلامی کے مناسب پست ذہنیت جو اس کو درتہ میں ملی۔ اگر فاقہ مستی کے ساتھ اسے عیش و عشرت کی سوچھے تو

خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر ہمیں تو ان کی بہبودی سے ہے یا اس

مالوسی کفر ہے اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں یا بننے کی کوشش کریں تو یاس کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن موجودہ نسل سے یہ توقع عبث ہے۔

بنی اسرائیل کا تاریخی واقعہ قرآن حکیم نے محض ایک قصہ نہیں جو بیان فرمایا ہے۔

یہ قوم مصر میں چار سو سال غلامانہ زندگی بسر کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں خروج کیا۔ تو ارض مقدس جس سے "وعدہ برکت" وابستہ تھا سامنے تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بڑھو اور لے لو۔ جواب دیا کہ موسیٰ جانو اور تیرا خدا بڑھے۔ فتح کے بعد ہم قبیلہ کر لیں گے۔ ارشاد الہی ہے کہ چالیس سال تک ان پر ارض معبود حرام کی گئی۔ جب یہ نالائق سب مر کھپ گئے اور نئی پود اس عرصہ میں جوان ہوئی جو مصر اور مصری چاٹ سے واقف نہ تھی بڑھی اور فلسطین مسخر کر لیا۔ دو سو سال غلامی کے بعد بیس سال درکار ہیں کہ وہ جوان مرد پیدا ہوں جو برطانوی عہد کی غلامی سے نا آشنا ہوں گے۔ ان سے توقع ہے کہ وہ کام کے آدمی ہوں گے۔ ان اشارات یا یہ کہتے کہ انتہا کے بعد ہم پاکستان کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔

وجہ تسمیہ | "پاکستان" کا تصور تو ہر ایک مسلم مفکر کے ذہن میں تھا۔ لیکن نام تجویز کردہ جو ہدیری رحمت علی ایم اے، ایل، ایل، بی، بار ایٹ لاکا ہے۔

یہ ان صوبوں کے نام کے پہلے حروف کا مجموعہ ہے جہاں مسلم اکثریت ہے یا تھی چودھری صاحب نے کئی ایک نام تجویز کئے تھے مثلاً "بنگلستان" اس سے مراد صوبہ بنگال ہے جہاں مسلم اکثریت تھی۔ پاکستان سے ان کی مراد وہ صوبہ جات ہیں جن کو اب مغربی پاکستان کہتے ہیں اور بنگلستان کا مشرقی حصہ مشرقی پاکستان بن گیا۔ چودھری صاحب نے ہندوستان کو کئی شاخوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اور ان سب کو مسلم حکومت کے تحت لانا چاہتے تھے۔ اسے بسا آرزو کہ خاک شد "عثمانستان" کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔

تقسیم کے بعد اصولاً مسلمانوں کو ہندوستان کا چوتھا حصہ ملنا چاہیے تھا چالیس کروڑ آبادی میں ان کے دس کروڑ نفوس کا یہی مطالبہ تھا۔ اور اسی نسبت سے ہندوستان کی دولت کی تقسیم بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ان کو چوتھے حصہ کا بھی نصف ہی ملا۔ اور دولت میں چند عالی عمارتیں ہی ہاتھ لگیں۔ چودھری صاحب کا خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ آپ اس وقت کیمبرج ۱۹۰۷ مانڈیگور و ڈانگلینڈ میں مقیم تھے اور وہیں بیٹھ کر پمفلٹ شائع کرتے رہے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح پر برس پڑے۔ ایک پمفلٹ انگریزی زبان میں شائع کیا۔ اس کا عنوان ہے۔

"THE GREATEST BETRAYAL"

"HOW TO REDEEM THE MILLET"

اس کتابچہ کا مفہوم یہ ہے کہ قائد اعظم نے ۱۵ اگست کا برسٹش پلان منظور کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ چودھری صاحب انگلینڈ میں تھے۔ اگر وہاں برطانوی سیاست کا بغور مطالعہ کرتے اور ہندوستان کے حالات بالخصوص مسلمانوں کی پست ذہنیت کا مطالعہ کرتے تو قائد اعظم کو مجبور و معذور ہی سمجھتے۔

میں نے ایک خط میں جو ہوائی ڈاک میں ارسال کیا ان حالات کی طرف توجہ دلاتی اور لکھا کہ

"اگر آپ نے تنقید ہی کرنی تھی تو برطانیہ کی سیاسیات پر کرتے جو

اس انتشار کا کلمہ ذمہ دار ہے :-

اور مشورہ یہ دیا کہ

”جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مناسب ہے کہ یا تو انگلستان میں بیٹھ کر نلت کی خدمت کیجئے۔ یا پاکستان میں آکر قائد اعظم کا ہاتھ بٹائیے۔ ضرورت وقت کا یہی تقاضہ ہے۔“

یادش بخیر چودھری صاحب وفات پا گئے۔ لیکن تاریخ پاکستان میں ان کا زندہ رہے گا۔ بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ یہ نام کچھ الہامی سا معلوم ہے۔ شاید کسی وقت اس زمین پاک میں پاک لوگ آباد نظر آئیں۔ بہر حال اتنا تو بھی ہے بظاہر کفر و شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک قدوس شاید یہاں بھی قدوسی پیدا کر دے۔ اور اس کی حمد و تقدیس سے یہ زمین پاک بھر جائے۔

پاکستان کو تمام ممالک اسلامیہ میں ایک خصوصیت حاصل ہے۔ عرب میں عرب اور ایران میں ایرانی اور افغانستان میں افغانی اور علیٰ ہذا القیاس ہر ایک قوم نسلی اور پر آباد ہے۔ لیکن پاکستان میں خالص مسلم آبادی بلا لحاظ لسان و الوان و قومیت ہے اس لحاظ سے یہاں اسلام کی وہ شان نظر آتی جو صرف ایام حج میں مکہ معظمہ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ بھی خاص ہے۔

یوں تو ہندوستان میں دنیا جہان کی قومیں آباد ہیں۔ اور
دو قوموں کا نظریہ | بھانت بھانت کی بولیاں بولتی ہیں۔ لیکن اکثریت دو قوموں کی ہے جن کو ہندو، مسلم سے موسوم کیا گیا ہے۔

لفظ ”ہندو“ کی تعریف آج تک کسی سے نہ ہو سکی۔ ہندوستان سے باہر اقوام ہم سب کو انڈین، ہندی ہی کہتے۔ لیکن ہندوستان میں اس کا مفہوم کچھ اور تھا۔ انڈین ہندو ہی اپنے آپ کو خالص ہندو سمجھتے رہے۔ یہاں کے اصلی باشندے جن کی تعداد اب بھی سات اٹھ کروڑ ہے ”شودر“۔ اور دوسری قومیں پارسی وغیرہ، بلحاظ مذہب بھی، سکھ جو زیادہ تر پنجاب میں محدود ہیں اور جن کی تعداد بمشکل بتیس لاکھ ہوگی۔ ایک علیحدہ قوم ہے، بدھ اور جینی جن کی بیخ کنی میں ویدک ہندوؤں نے کوئی کسر

اٹھانہ رکھی۔ بلحاظ نسل زیادہ تر ہندو ہی ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے آریہ ہندوؤں نے لفظ ہندو کے مفہوم میں وسوت دی۔ اور اس میں وہ تمام قومیں شامل ہو گئیں جو ہندوستان میں آباد ہیں مگر غیر مسلم ہیں۔ اس لئے یہ کہنا چاہیے کہ سوال تقسیم کے وقت مسلم اور غیر مسلم کا تھا۔ ان میں نسبت ایک اور تین کی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر ایک جگہ ہر ایک قوم مسلمانوں ہی کو اپنا غیر سمجھتی رہی اور سمجھتی ہے۔ عرب میں جو بھی شخص اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا برادری سے خارج کیا جاتا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچایا کہ :-

”لا استلکم علیہ اجر الا مودتہ فی القربی“ (۲۵)

”میں تم سے تبلیغ رسالت کا کچھ اجر تو مانگتا نہیں۔ حالانکہ یہ تمہارے ہی فائدہ کی بات ہے۔ لیکن یہ درخواست ضرور کرتا ہوں کہ اپنے ہم قوم، ہم قبیلہ اور خاندان کے افراد سے قطع تعلق نہ کرو اور اس فطری رشتہ کو نہ توڑو جو ازل سے موجود ہے“

نتیجہ یہ ہوا کہ خارج شدہ اشخاص کی تعداد اور قوت بڑھ گئی اور آخر تمام عرب نے اسلام قبول کر لیا۔ انہی تاریخی واقعات کا اعادہ ہندوستان میں بھی ہوا۔ مسلمان، حبشی اور بودھ نہ تھے۔ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اس لئے ان کو برادری سے خارج تو کیا مگر ان کے جان و مال محفوظ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تعداد دس کروڑ تک پہنچ گئی اور پاکستان کا امکان پیدا ہو گیا۔

اب آریا ہندو کا سیاسی شعور بیدار ہوا۔ اور شور مچا یا کہ بلحاظ نسل ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت آریا ہے اور جو باہر سے عرب اور مغل اور پٹھان آئے وہ بھی یہاں آباد ہو چکے ہیں۔ ہم سب ایک قوم ہندو ہیں۔ اس لئے ہم سب پہلے ہندوستانی بعد میں کچھ اور ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم اول و آخر مسلم ہیں۔

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائی ماست

بات یہ ہے کہ آریا ہندو قومیت کے لحاظ سے سخت متعصب واقع ہوا ہے اور جو بھی آریا مسلمان ہوا وہ ہندوہ تعصب کو اپنے ساتھ لایا۔ وہ آریا برادری کے خارج ہوا تو مسلم تعصب

بن گیا۔ اس لئے دو قوموں کا نظریہ آریا ہندو نے خود ہی اختراع کیا تھا حقیقت
ہو اور پاکستان بن گیا۔

یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گوسالہ پرستی اور چھوت لازم و ملزوم ہیں۔
موسے نے سامری کو اسی چھوت کی سزا دی تھی۔ ہندو بھی گوسالہ پرست ہے اور
ایک متعدی بیماری یقین کرتا ہے۔ غیر آریا کا کیا مذکور ہے۔ اس کے اپنے بھی بیگٹے
ایک ذات دوسری ذات سے بھی چھوت روا رکھتی ہے۔ اس لئے ہندو دھرم ذات
اور ادنیٰ اور اعلیٰ کے امتیازات پر قائم ہے اور عقیدہ تناسخ نے یہ خیال بچتہ کر دیا ہے
ایک شخص پیدا نشی ادنیٰ و اعلیٰ ہے ان کے عقیدہ سیادت اور ذہانت میں ہزار سا
عرضہ میں غیر ملکی حکومت کے تحت بھی فرق نہ آیا۔ رسی جلی پر بٹ نہ گیا۔

پاکستان امت واحد ہے۔ بھارت میں دنیا
کی قومیں آباد ہیں۔ جن میں چار کروڑ مسلم آبادی ہے۔

اس لئے بلحاظ قومیت اور مذہب ان میں اتحاد ممکن نہیں۔ آریا ہندوؤں کے غالب
کی وجہ سے وہ ضرور بے رہیں گے۔ مگر اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کریں گے۔ اگر ایک
بھی حاصل ہو گئی تو یہ ان کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ علاوہ انہیں برطانوی دور دورہ میں ہندو
میں پانچ سو چھیالیس ریاستیں تھیں جن کے راجے اور نواب اب عملاً معزول ہیں۔
ہے کہ ایک واحد شخص کو کوئی حق حکومت شخصی نہیں لیکن جس بخلت سے بھارت نے کیا
وہ سیاسی تدبیر سے بعید ہے۔ پاکستان نے اپنے ہاں کی ریاستوں کو نہیں چھڑا۔
"تعدیل بہرام کمال عرفانست"

معزول شدہ راجوں اور نوابوں کے کوئی دل سے پوچھے کہ ان پر کیا گذرتی ہے اگر حالات
ہوں تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس لحاظ سے بھارت کا مستقبل
اور پاکستان کا روشن ہے۔

بھارت میں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے دو، ہندو سماج اور کانگریس
ہیں۔ کانگریس میں ہر ایک قوم و ملت کا آدمی داخل ہو سکتا ہے لیکن اس پر ہمیشہ آریا ہندو

بادہی۔ اور برطانوی عہد میں جہاں کہیں کانگریس فیسٹری قائم ہوئی۔ اس میں آریا ہندو ہی
 ل رہے اور ہندو ذہنیت کا مظاہرہ اس حد تک کیا کہ ان کے ہاتھ گا ندھی بھی چننے لگے
 جب کبھی کوئی ایسا سوال مرکزی اسمبلی میں پیش ہوتا جس میں مسلم مفاد کی جھلک نظر آتی
 انگریسی ممبر سخت مخالفت کرتے۔ اگرچہ بھارت نے کانگریس کے منشور کے مطابق اعلیٰ
 رکھا ہے کہ ایک غیر ہندو ہی حکومت جمہوریہ ہے لیکن عملاً وہ ہندو ہے اور دوسری قومیں اس
 مطمئن نہیں۔

بانیان پاکستان میں سے سب سے اول نام سید احمد خاں
 سید احمد خاں غفرلہ

غفرلہ کا ہے سید ۱۸۱۶ء میں دہلی میں پیدا ہوا۔ آبا و اجداد
 علیہ حکومت کے اکثر و بیشتر ملازم رہے۔ لیکن خوش قسمتی سے سید نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی
 ملازمت اختیار کر لی۔ اور ج (منصف) کے عہدہ پر تھا کہ ۱۸۵۶ء میں وہ واقعہ رونما ہوا۔
 سے "غدر" سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس ایک واقعہ نے مغلیہ سلطنت کا چاروغ جولال قلعہ دہلی میں
 ہمارا ہتھ اٹھ کر دیا۔ انگریزوں اور ان کے بال بچوں پر جو کچھ ظلم و ستم وحشی باغیوں نے ڈھایا
 وہ بھی دیکھا اور نفساوت فرد ہو گئی۔ تو کچھ رد عمل ہوا اور انگریزوں نے جس بربریت سے
 کام لیا وہ مشاہدہ کیا۔

جب انگریزوں پر ظلم ہو رہا تھا سید نے ہر ممکن کوشش ان کو بچانے میں کی اور جب
 دورہ و عمل شروع ہوا تو ہندوستانیوں کو بچایا۔ ۱۸۵۵ء میں اس نے ایک رسالہ لکھا جس
 میں اسباب غدر پر مفصل بحث کی اور وہ بات کہی جس کی جرأت اس وقت کوئی شخص نہیں
 کر سکتا تھا۔ اس رسالہ میں اس نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ وائسرائے کی دستور ساز کونسل
 (THE VICEROY'S LEGISLATIVE COUNCIL) میں ہندوستان کو بھی
 نمائندگی حاصل ہونی چاہیے۔ ان ہندوستانی ممبروں کے ذریعہ گورنمنٹ کو ہندوستانیوں کی
 خواہشات اور مطالبات اور دیگر امور سے واقف ہوتی رہے گی۔ اور بہت کچھ غلط فہمی کا ازالہ
 ہو جائے گا جو محکم اور محکوم میں جذبات مغائرت و منافرت پیدا کرتی ہے۔ اور ایسے واقعات
 کا ظہور ناگزیر ہے۔ جیسا کہ ۱۸۵۶ء میں رونما ہوا یہ پہلا قدم حکومت خود اختیاری کی طرف

تھا اور حقیقت یہ ہے کہ سید کی مساعی حمیدہ کا اثر تھا جس نے آگے چل کر جذبہ آزاد کو ابھارا۔

۱۸۵۶ء کے واقعہ کے بعد ہندوستان کی حکومت براہ راست برطانوی گورنمنٹ کے ہاتھ میں آگئی۔ چونکہ آخری تاجدار مغلیہ مسلمان تھا اور دہلی اور لکھنؤ اور ان دونوں کے نواح میں بغاوت محدود تھی۔ اس لئے برٹش گورنمنٹ یہ سمجھنے میں تھی بجانب تھی کہ بغاوت کے سرغنہ زیادہ تر مسلمان ہیں جو پھر سے مسلم راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی سید نے ایک اور مقالہ میں کر دیا۔ ”دہلی“ تحریک جس کا آغاز پنجاب میں سکھوں کی چیرہ دستی کی وجہ سے سید کے ہمنام سید احمد بریلوی اور مولوی محمد اسمعیل کی زیر قیادت ہو چکا تھا اور جس نے ”غدر“ کی آگ کو بھی کچھ ہوا دی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کی آنکھ میں کھٹکتی تھی یہ فرقہ باغی قرار دیا گیا اور ہر جگہ جس پر شبہ ہوتا گرفتار ہو کر پھانسی پاتا یا جلا وطن پورٹ بل میں کیا جاتا۔ سید نے گورنمنٹ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ سید دوران غدر میں اپنی وفاداری عملاً ثابت کر چکا تھا۔ کتنی اخلاقی جرات اس میں تھی کہ ان ایام میں جب کہ کوئی شخص دم نہ مار سکتا تھا اور عام دہشت دلوں پر چھانی ہوتی تھی اس نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ میں خود دہلی ہوں۔

۱۸۶۹ء میں سید پہلی دفعہ انگلیتہ گیا تاکہ بلا وساطت غیر انگریزوں کی سیاست کا مطالعہ یہ تعلق ہندوستان بالعموم اور بتعلق مسلمانان ہند بالخصوص کیا جائے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہندوستانیوں کی انتہائی پست ذہنیت اسی لائق ہے اور انگریزوں کے اعلیٰ اخلاق بلحاظ تعلیم و تربیت اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں جو ہر ایک انگریز یقین کرتا ہے کہ ہندوستانی بلا امتیاز وحشی یا نیم وحشی لوگ ہیں اور اسی سلوک کے سزاوار ہیں جو ایسے لوگوں سے جائز ہے۔ سید اس پختہ یقین کے ساتھ ہندوستان میں واپس آیا۔ بلا تعاون برطانیہ مسلمان جو قہر پستی کی طرف سرعت سے جا رہے تھے۔ ہندوستان میں من حیث القوم زندہ نہیں رہ سکے۔ مولیٰ کی پرورش اور تعلیم و تربیت شاہی گود میں ہونی چاہیے۔ لیکن سداہ خود مسلمان علماء تھے جوٹی کے علماء دین کچھ تو غدر کے بعد جن جن کے مارے گئے یا جلا وطن ہوئے جن کی قبر کا نشانہ

بھی مجھے فاتحہ خوانی کے لئے نہ ملا۔ جب پورٹ بلیئر میں (۱۶-۱۹۱۱ء) بحیثیت مہتمم خزانہ مقیم تھا۔

باتیات الصالحات جو تھے وہ سید کے سخت مخالف تھے اس لئے کہ وہ انگریزوں کی وفاداری اور مغربی علوم اور عکمت مسلمانوں میں شائع کرنا چاہتا ہے۔ ان کی اصطلاح میں سید مسلمانوں کو کرستان بنانا چاہتا ہے۔ مذہبی عقاید کے لحاظ سے سید اور اس کے ہم عقیدہ مسلمانوں کو "نچیری" کا خطاب ملا۔

اس وقت ہندوستان میں مدر سے یا تو ہندو پانٹھ شالہ تھے یا مساجد سے ملحق مکتب۔ مسیحی مشنریوں نے بڑے بڑے شہروں کلکتہ وغیرہ میں سکول کھولے۔ جن میں انجیل بھی لازمی مضمون تھا۔ ہندو ذوق شوق سے ان میں تعلیم حاصل کرتے اور مسلمان دور دور ہی رہے۔ انگریز تجارت پیشہ تھے اور مسلمان حکومت کے دور دورہ میں بھی بننے مہاجن ہندو ہی اکثر اسی میں لگے ہوئے تھے۔ برطانوی عہد کے شروع میں بھی تجارت کی طرف ان کی توجہ لگ گئی۔ اور انگریزوں سے اختلاط تجارت کے ذریعہ بھی ان ہی کا زیادہ تھا یہ متمول بھی تھے اور مقرب بھی اور مسلمان راندہ درگاہ حکومت۔

سید نے ایک ماہنامہ "تہذیب الاخلاق" جاری کیا۔ مضامین کا موضوع زیادہ تر اصلاح قوم تھا۔ اس کے مقابلہ میں ایک عالم دین نے "نور الافاق" شائع کیا۔ سید نے دیکھا کہ مخالفت کے جذبات مذہبی عقاید کی بنا پر زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں۔ اس لئے مولوی صاحب سے سمجھوتہ ہو گیا۔ دونوں بند ہو گئے۔

سید کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ "محمدن اینگلو اورینٹل کالج"

(MUHAMMADAN ANGLO ORIENTAL COLLOGE)

کا افتتاح ہے۔ چونکہ سید کی زندگی کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ترقی کریں اور حالات حاضرہ کا تقاضہ تھا کہ اس کا ایک ہی ذریعہ برطانیہ سے اختلاط و اتحاد ہے اس لئے اس کالج کا مادہ تاریخ بھی اٹھارہ سو پچھتر ہے۔ اور بحساب جمل ۱۲۱۰ھ مطابق ۱۸۶۵ء بھی ہے۔ سید نے سمجھ لیا تھا کہ حکومت وقت سے امداد صرف اتنی ہی مل سکتی ہے جتنی

کہ دیگر اقوام کو مل رہی ہے۔ اس ملک کے طول و عرض میں دورہ کیا۔ چندہ کی اپیل مؤثر ثابت ہوئی۔ سب سے بڑھ کر کامیابی پنجاب میں ہوئی۔ چنانچہ خواجہ الطاف حسین حالی سید کو ایک نظم میں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

خدا کی برکتیں پنجاب اور پنجاب والوں پر
جنہوں نے ہر سفر میں تجھ کو آنکھوں پر بٹھایا ہے!

ایک دفعہ سید علی گڑھ کے ڈپٹی کمشنر کے پاس چندہ مانگنے کے لئے گیا۔ غرض یہ تھی کہ اس کے اثر و رسوخ سے کچھ مل جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کچھ حیرت کا بھی اظہار کیا کہ بات کیا ہے کہ آپ جب کبھی مجھ سے ملے بلا امتیاز ہندو مسلم کی یہودی اور ترقی پر ہی گفتگو کرتے رہے۔ آج صرف مسلمانوں کا ہی نام لیتے ہیں۔ سید نے پہلی دفعہ ایک انگریز حاکم کے سامنے "دو قوموں" کا نظریہ پیش کیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہا کہ۔

"دونوں کا مفاد الگ الگ ہے۔ ہندوستان میں جو بھی قوم آئی۔ اور بہت قومیں مختلف حیثیت سے آئیں اور جذب ہو گئیں۔ وہ یہاں فاتحانہ آئے مگر مسلمانوں کو ایک ہزار کے طویل عرصہ میں بھی ہندوستان جذب نہ کر سکا بلکہ جو ان کے نزدیک آیا وہ اسلام میں محو ہو کر رہ گیا۔ میں مسلمان ہوں اور سید بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر برطانوی حکومت مسلمانوں سے نفور اور مسلمان دور دور ہی رہے تو دونوں ناقابل تلافی نقصان اٹھائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہندو تو ہندوستان کی اقلیت پر چھا جائیں گے اگر اس کا سدباب آج نہ کیا گیا تو مسلمان آج جس درد سے گزر رہے ہیں اور حکومت سے زیادہ ہندوؤں کی دستگیری کے محتاج ہیں۔ تو میری قوم محض ایک ہندو منصوبہ کا آلہ کار بن کر رہ جائے گی۔ اس وقت برطانوی حکومت بھی آنکھیں کھولے گی مگر بے فائدہ۔"

ڈپٹی کمشنر نے حیران ہو کر پوچھا کہ۔

"کیا آپ کے خیال میں ایسا وقت آنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو بد قسمتی

ہوگی۔ سید نے کہا کہ
 "یقیناً ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور شاید آپ دور سمجھتے ہوں۔ میں نزدیک
 دیکھ رہا ہوں۔"

یہ وقت آیا۔ برطانیہ نے سید کی پیش گوئی کے مطابق اپنا انجام دیکھ لیا۔ اور اگر
 سید مسلمانوں کو اس وقت کے مقابلہ کے لئے تیار نہ کرتا تو اکھنڈ ہندوستان کا خواب جو
 سیواجی مرہٹہ نے دیکھا تھا اور جس کو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں پریشان
 کر کے رکھ دیا تھا آج شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔
 قرآن عظیم کا ارشاد ہے کہ:-

"الحمد لله فاطر السموات والارض، جاعل الملكة رسلا اولی
 مثنی وثلث واربعم، یزید فی الخلق ما یشاء۔ ان الله علی کل شیء قدیدر
 "حمد تمام اللہ ہی کے لئے خاص ہے جو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ امکانات کھولنے
 والا ہے۔ (جو مخلوق بالخصوص انسانی ترقی کے ذرائع ہیں) اس نے ملائکہ کو رسول بنایا جو
 دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے ہیں۔ اور اللہ ہر ایک شے پر قادر ہے۔ چاہے تو اس
 سے بھی زیادہ دست و بازو پیدا کر دے۔ (۲۲)

بعض مفسرین ان آیات سے خلافت راشدہ وغیرہ کی پیش گوئی اخذ کرتے ہیں۔
 لیکن اس میں ایک اصل اصول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جس شخصیت کو کامیاب بنانے کا
 ارادہ فرماتا ہے اس کے دست و بازو بھی ایسے قدسی صفات لوگ بن جاتے ہیں جن کا
 مقصد حیات بھی وہی ہوتا ہے جو اس شخصیت کا الہامی تصور ہوتا ہے۔ اس کی مثال
 آنحضرتؐ اور خلفاء راشدین اور اصحاب رسولؓ اللہ ہیں۔ جن کی اس خاص ایمان میں
 ان کی نفسانی اغراض کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔

پاکستان کے ارباب حل و عقد اور بالخصوص وزیر اعظم کے لئے اس میں ایک سبق
 ہے کہ ایسے ہی مقدمین کو اپنا دست و بازو بناتے ہیں جن کو ان آیات میں ملائکہ سے موسوم کیا گیا
 ہے۔ جبے غرض پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان کی کامیابی کا تصور فکر ممال ہے۔ اگر

ارباب نظم و نسق اہل ہوا و ہوس ہوں۔

سید کو اللہ نے کامیاب بنایا اور "عشقی" محسن الملک اور وقار الملک جیسے دست باز دے دیئے۔ ثلث اور ربع اور "یزید فی الخلق" کے تحت حافظ نذیر احمد خواجہ الطاف حسین حالی وغیرم جیسی شخصیتیں آتی ہیں۔

سید کی حیات جاوید کا مطالعہ عالی مرحوم کی کتاب میں کرنا چاہیئے۔

سید امیر علی | سر سید احمد خاں غفرلہ کے پیش نظر دو اصلاحی کام تھے ایک تو قوم کے متعلق تھا اور دوسرا ایسی متعصب پادریوں نے یورپ کی اور

میں اسلام کی نہایت سیاہ مکرہ صورت پیش کر رکھی تھی۔ سید نے سر ولیم مور (صوبہ متحدہ ہند کا گورنر بھی تھا) کی کتاب "لائف آف محمد" (حیات محمد) کا جواب "خطبات احمد" میں دیا۔ اور اس کا انگریزی ترجمہ اپنے ذاتی خرچ سے شائع کیا۔ سید اس وقت لندن میں تھا اور اپنے دوست محسن الملک سے بار بار روپیہ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ محسن الملک نے تنگ آکر لکھا کہ "روپیہ کہاں سے آئے۔" جواب میں لکھا کہ:

"میرا مکان دہلی میں ہے فروخت کر دو۔ کل بروز حشر اپنے نانا سے تو کہہ سکوں

گا کہ تیرے عشق میں میں نے سب کچھ لٹا دیا۔"

ادھر علامہ دین بیدپر کفر کے فتوے مکہ سے منگوا رہے تھے اور ادھر اس کا یہ حال

ایک تحریر میں لکھا کہ:

"سبحان اللہ ہمارا کفر بھی کیسا کفر ہے کسی کو حاجی اور کسی کو ناجی بنا دیا۔"

سید کی ایک غزل کا شعر ہے۔

خدا دارم دل بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم

نذار و مسیح کافر ساز و سامانے کہ من دارم

یہ تو سید کے حسب حال شعر تھا۔ میں نے بھی اپنے اور قوم کے حالات کے مناسب

لے مترجم ڈیون پورٹ ترجمہ کرتے وقت مسلمان ہو گیا۔

نظم لکھی جس کا ایک شعر ہے

باستقبال ماضی می رود گامے کہ بر دارم

بشرحے می نگارم حال امکانے کہ من دارم

سید امیر علی (۱۹۲۸-۱۸۷۹ء) بیرسٹریٹ لاء کلکتہ ہائی کورٹ کانج تھا۔ آخر برٹش پریوی کونسل

ممبر ہو گیا۔ ملازمت مانع تھی کہ سیاسیات میں حصہ لے۔ ۱۹۰۹ء میں سیکرٹری آف سٹیٹ لارڈ

لورے (LORD MORLEY) کے پاس ایک وفد مسلمانوں کا گیا۔ قیادت سید امیر علی نے کی

دو قوموں کا نظریہ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کے لئے علیحدہ حق انتخاب کا مطالبہ کیا۔

سید امیر علی نے تصانیف کے ذریعہ وہ کام مکمل کیا جو سر سید نے ادھورا چھوڑا تھا۔

سر سید اردو میں لکھ سکتے تھے، سید امیر علی کو انگریزی پر عبور حاصل تھا۔ "سپرٹ اسلام"

(SPIRIT OF ISLAM) میں روح اسلام بول رہا ہے۔ "ہسٹری آف سیرین"

(HISTORY OF SARACENS) میں خلافت اسلامیہ کی تاریخ کے ضمن میں دو نشان دار

کی وغیرہ ترقیات کا مذکور ہے جس نے یورپ کے دماغ کو روشن کر دیا۔

ڈاکٹر محمد اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۳ء) سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ عالم گیر شہرت

کا مالک ہے۔ اقبال اور اقبالیات پر اہل الرائے اور اقبال کے

دوستوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس سے کہیں زیادہ لکھا ہے جو اقبال نے نظم و نثر میں لکھا ہے

نوش قسمتی سے وہ پنجاب میں پیدا ہوا اور زندہ دلان کے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی۔

کشمیری تھا اور کشمیری پنڈت سپرو ذات۔ اس نے اپنی دلاویز نظموں کے ذریعہ جو انان

پنجاب میں زندگی کی روح پھونک دی۔

سر سید مسلمانوں کو برطانیہ اور مغربی فلسفہ کے اس قدر قریب لا چکا تھا کہ اس کا اثر

ابھی کچھ ہوا جس کا مقابلہ حجۃ الاسلام امام غزالی وغیرہ کو کرنا پڑا۔ اقبال نے بھی یہی کام کیا علاوہ

انہیں وہ برطانوی سرمایہ دار حکومت کا سخت مخالف تھا۔ "موسیٰ" مصری علوم و حکمت سے

خوب واقف ہو گیا۔ اب اسی کے ذریعہ قوم کی آزادی کا مطالبہ کرنے لگا۔ سر سید نے مغربی

علوم سے مسلمانوں کو روشناس کیا۔ اقبال نے درس آزادی دیا۔ ۱۹۳۰ء میں اپنے خلیفہ صدر

میں اس نے کہا کہ

"میں چاہتا ہوں کہ پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے اور اس کو سیلف گورنمنٹ برطانوی حکومت کے تحت یا بلا برطانوی حکومت ملے۔"

اس میں دو قوموں کا نظریہ بھی ہے اور پاکستان کا تصور بھی کارہ فرما ہے۔ دو سال بعد اقبال نے گیارہ گول میز کانفرنس (ROUND TABLE CONFERENCE) سے بائوس ہو کر قوم کو آل انڈیا مسلم کانفرنس میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ

"نہ ہندو کے وعدوں پر جاؤ اور نہ برطانیہ پر اعتماد کرو بلکہ جو کچھ لینا چاہتے ہو زور بازو سے لو۔ پہلے لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کرو اور انہی کی متفقہ قوت پر بھروسہ کرو۔"

تعلیم یافتہ طبقہ نے ابھی تک عوام کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں کیا تھا۔ اقبال نے رہنمائی کی اور عوام سے اختلاط (MASS CONTACT) وہ حربہ تھا جس کو چند سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح موثر ثابت کر دکھایا۔ اقبال کو اب ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کی قیادت کا اہل ہو۔ اکابر سب فوت ہو چکے تھے۔ اور مسلمانوں میں قحط الرجال تھا۔ نواب اور نواب زادے جاگیردار اور خطاب یافتہ تو بہت تھے۔ ان میں سے ایک بھی کام کا آدمی نہ تھا۔ نگاہ اتنی بے مسر محمد علی جناح پر پڑی۔

قائد اعظم محمد علی جناح

محمد علی کی ولادت کراچی میں ۱۸۷۶ء میں ہوئی۔ اجداد بمبئی میں متمول تجارت پیشہ تھے۔ والد کا کاروبار کچھ

مدھم پڑ گیا تو کراچی میں قسمت آزمائی کی تقیر نے یادری کی۔ سولہ برس کی عمر تھی محمد علی انگلینڈ گیا۔ اور بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ بمبئی میں اپنا کام شروع کیا اور چند دنوں میں مشہور ہو گیا۔ طبیعت سیاسیات کی طرف مائل تھی۔ ان ایام میں اعتدال پسند پارسی سیاسی لیڈر نوروجی دادا بھائی اور مسٹر گھوگھلے آسمان کانگریس کے درخشاں ستارے تھے اور شاہراہ آزادی پر ہندوستانیوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ محمد علی نے انہی کی صحبت اختیار کی۔ ۱۹۰۹ء میں

رئیس جنرل کی دستور ساز کونسل میں مسلمانان بمبئی کی طرف سے نمائندہ ممبر منتخب ہوا۔ اگرچہ
مد علی جناح کانگریسی تھا۔ مگر جب مسلم لیگ منصفہ شہود پر آئی تو ۱۹۱۳ء میں اس کی رکنیت بھی
بول کی۔

جب انگریزوں کا قدم بذریعہ تجارت ہندوستان میں آیا
ٹڈین نیشنل کانگریس اور رفتہ رفتہ قدم بڑھتا گیا تو ان کی تجارت کامرکز بمبئی اور
اس اور کلکتہ بن گیا۔ ان میں سے کلکتہ کو خاص اہمیت حاصل رہی جب حکومت قائم ہو گئی
کلکتہ ہی پایہ سلطنت قرار پایا۔ حکومت کا قریب بنگالیوں کو حاصل تھا۔

۱۸۳۲ء میں "میکالے" نے جس طرز حکومت کا اپنے ہم وطنوں کو مشورہ دیا۔ اس میں
انگریزی زبان کو نمایاں حیثیت دی کہ رفتہ رفتہ ذریعہ مبادلہ خیالات ہو جائے گی۔ کلکتہ میں ہر
یک شے پر انگریزیت چھا گئی۔ البتہ ان کے لباس میں فرق نہ آیا۔ بنگالی انگریزی کے ساتھ
انگریزوں کی سیاسی چالوں سے بھی واقف تھے۔ اور ان کے بین الاقوامی سیاسی تعلقات بھی
ان کی تاریخ میں مطالعہ کر رہے تھے۔ اور ان سیاسی نظریوں سے بھی آشنا تھے جو "ریل"

(JOHN STUART MILL) اور "پین" (TOM PAINE) اور "میزنی" (MAZZINI)
جیسے مفکرین پیش کر چکے تھے اور یورپ کی سیاسیات میں انقلاب پیدا کر رہے تھے۔

الغرض ان کو علم تھا کہ یورپ بالخصوص برطانیہ دستوری (PARLIMENTARY) اور
عوام کی نمائندہ حکومت پسند کرتا ہے۔ خود تاج برطانیہ کی طرف ۱۸۵۷ء کے "فدر" کے بعد
۱۸۵۸ء میں اعلان ہو چکا تھا کہ ہندوستانی رعایا کو بلا لحاظ نسل و ملت ہندوستان کی انتظامیہ
حکومت میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی بلحاظ تعلیم و قابلیت دی جائے گی۔ بنگالی اسی میں پیش
پیش تھے دفتروں میں یہی باوجود چھانٹے ہوئے تھے اب اعلیٰ عهدوں اور مناصب کا بھی مطالبہ
جاری تھا۔

۱۸۶۱ء اور ۱۸۶۲ء میں انڈین کونسلز ایکٹ (INDIAN COUNCILS ACT)
نے دستور ساز کونسل کا دروازہ نامزد ارکان کے لئے کھول دیا۔ اور اسی ایکٹ کے تحت میونسپل
اور ڈسٹرکٹ بورڈ جو گورنر جنرل لارڈ "ریپن" (LORD RIPON) نے ۱۸۶۲ء میں قائم کئے

اپنے نمائندے دستور ساز کونسل میں بھیجنے شروع کئے۔ ۱۸۷۰ء کے بعد سول سروس میں
کا امتحان پاس کر کے ہندوستانی بھی آگئے۔

یہ حالات تھے کہ مسٹر ہوم (A. O. HUME) نے جو بنگال میں برٹش سول سروس
تھا۔ "جذبہ اصلاح" رسوم معاشرت کے تحت اور بہ نظر خیر خواہی ہندوستان "انڈین نیشنل
کونگریس" بنیاد رکھ دیا۔ اس وقت کانگریس کا سیاسی عقیدہ تاج برطانیہ کی وفاداری تھا۔
اس کے اولین بیس صدر انگریز ہی تھے۔ سر سید احمد خان مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور
مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ کانگریس سے بالکل علیحدہ رہیں۔ یہ مفکر اعظم بھانپ گیا تھا کہ اگر مسلمان
اس میں شریک ہوتے تو اس لئے کہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں ہندو اکثریت کا آلہ کار بن کر
جائیں گے۔ اور جب ایک دفعہ ہندو اکثریت چھا جائے گی تو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر
دے گی۔ بنگال اور بمبئی کے مسلمانوں پر تو سر سید کے معرکہ الآرا لکچروں کا اثر بہت کم ہوا۔
پنجاب، زندہ دلان پنجاب نے میدان عمل میں سید کی قیادت بہ طیب خاطر قبول کی۔
سر سید مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدگی پر ابھار رہا تھا۔ ادھر مدراس کی کانگریس کے سالانہ تیسرے
اجلاس کی کہ سی صدارت پر ایک ممتاز مسلم شخصیت بدرالدین طیب جی براجمان تھے۔

بیسویں صدی کے اوائل میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ کانگریس کا پول کھل گیا اور
کانگریسی مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور معلوم ہو گیا کہ جو کچھ سید کا ارشاد تھا حقیقت تھی۔ سواہی
دیانند اور سوامی دیویکانند جیسی شخصیتیں مہاتمی لباس میں ملک کے طول و عرض میں دوڑ
کر رہی تھیں۔ سوامی دیانند مورتی پوجا کے خلاف اور دیویکانند مورتی پوجا کے حق میں
فرار ہے تھے۔

بات یہ ہے کہ ہندو اپنے مذہب سے جو چند رسوم کا مجموعہ ہے بیزار ہو رہا تھا۔ مغربی علوم
وحکمت کا یہ اثر ہوا کہ یا اسلام کی آغوش میں آ رہے تھے یا حکومت کا مذہب مسیحی قبول کر رہے
تھے۔ مورتی پوجا کے جو مخالف تھے ان کو سوامی دیانند مہاراج نے تمام لیا اور جو اس کے
حق میں تھے ان کو سوامی دیویکانند نے سنبھال لیا۔ اور جو زیادہ آزاد خیال تھے اور اسلام
کے نظریہ توحید کے سامنے جھک چکے تھے۔ ان کو "مہو سماج" نے روک لیا جس کی طرح راجہ

رام موہن رائے ڈال چکا تھا۔ اور کیشپ چندر سین جیسی شخصیت نے اسے بنگال میں شائع کیا۔

برہمنو سماج اسلام کے اقرب ہے اگر ہندو قومیت کا جذبہ مانع نہ ہوتا تو یہ بھی مساجد میں مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے نظر آتے۔ سو امی دیاندر نے توحیدِ تشلیت نما پیش کی۔ یہ مسیحی مذہب کا جواب تھا۔ عوام کے ذہن نشین یہ کیا گیا کہ اسلام ہو یا مسیحیت دونوں کا جامع ہندو مذہب ہے۔ جو شے گھر میں موجود ہے اس کے لئے غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ برہمنو سماج ہمیشہ مذہبی مباحثہ سے کنارہ کش رہا۔ لیکن اگر یہ سماج نے مسلمانوں سے مقابلہ کی ٹھان لی۔

پنڈت بال گنگا دھر تلک نے مرہٹہ روایات کو زندہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ودھار تلوار تھی۔ ایک طرف تو مغربی حکومت پر وار کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف اسلام و شمنی کو کانگریس کی ذہنیت میں ٹھونس دیا۔ غرض یہ سماجیں اور مرہٹہ عوام کانگریس پر قابض ہو گئیں۔ بنارس ہندو مذہبی مرکز ہے۔ ۱۹۰۵ء میں اسی مقام پر کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا تو سات سو چھبیس نمائندگان یا مندوب (DELEGATES) میں صرف ستتر مسلمانوں نے شرکت کی اور یہ بھی وہ تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہندوؤں کے محتاج تھے۔

ان ایام میں لارڈ کرزن وائسرائے گورنر جنرل ہند تھا۔ اسی ۱۹۰۵ء میں اس نے تقسیم بنگال کی اور ساتھ ہی پنجاب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمال مغربی صوبہ سرحد پنجاب سے اور جسے اب مشرقی پاکستان کہتے ہیں بنگال سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس کا صدر مقام ڈھاکہ قرار پایا۔ اس تقسیم نے بھی سرسید کے ”دو قوموں“ کے نظریہ کو عملی تقویت دی بنگالیوں نے تقسیم بنگال کے خلاف زمین آسمان ایک کر دیے۔ تقسیم بنگال میں مسلمانوں کا فائدہ تھا۔ اس لئے ہارگاہ الہی میں سجدہ شکر بھی کیا۔ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مشرقی بنگال میں غالب اکثریت تھی۔ پنجاب میں بھی یہی کیفیت تھی۔

لارڈ کرزن کے سیاسی منصوبہ کی زور براہ راست مسلمانوں کے مفاد پر پڑ رہی تھی بنگالی ہندو نے اسے اپنے خلاف خیال کیا۔ مسلمان خاموش رہے۔ اس لئے کہ عوام میں

سیاسی شعور نام کو بھی نہ تھا۔ کرزن مسلمانوں کی اکثریت کو چھوٹے چھوٹے رقبہ میں محدود کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کو ہندوؤں سے علیحدہ رکھ کر اس احساس کو بیدار کرنا چاہتا تھا کہ ان کا مفاد علیحدگی ہی میں ہے۔

”عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد“

دوقوں کا نظریہ اب عملی صورت اختیار کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے انگلینڈ میں لیبرل گورنمنٹ برسرِ اقتدار آگئی۔ یہ سب واقعات ۱۹۰۵ء میں رونما ہوئے۔ ہندو شعورش زور پر تھی۔ والسرائے ہند لارڈ منٹو (MINTO) تھا۔ دہشت بھی پھیل رہی تھی اور قتل و غارت کی واردات زیادہ تر بنگال میں رونما ہو رہی تھیں۔ مسلمان گورنمنٹ برطانیہ کا حق و فاداری ادا کر رہے تھے۔ ہریاتی نس آغا خاں کی قیادت میں ۱۹۰۶ء میں مسلمانوں کا ایک وفد والسرائے کی خدمت میں اپنے سیاسی معروضات پیش کر رہا تھا۔ اس میں دوقوموں کے نظریہ کے تحت علیحدہ حق انتخاب (ELECTORATE) کا مطالبہ کر رہا تھا جو میونسپلیٹیوں سے لے کر کونسلوں تک حاوی تھا۔ لارڈ منٹو نے اصولاً تسلیم کر لیا اور ۱۹۰۹ء کی ”اصلاح میں جو مورلے منٹو“ (MORLEY-MINTO) سے موسوم ہے۔ اس نے جگہ حاصل کر لی۔

اب اکابر یہ ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلم عوام کی ایک سیاسی جماعت نمائندہ ہو تعلیمی مرکز علی گڑھ میں تھا۔ سرسید کے بعد محسن الملک اور محسن الملک کے بعد وقار الملک سیکرٹری ہوئے۔ اس سیاسی تحریک کا بانی بھی نواب وقار الملک تھا۔ اسی ۱۹۰۹ء میں نواب وقار الملک اور نواب ڈھاکہ نے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس کے مقاصد بھی وہی تھے جو ابتدا میں کانگریس کے تھے۔ تاج برطانیہ سے وفاداری مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی نگہداشت اور وہ بد مزگی جو ہندوؤں نے پیدا کر رکھی تھی رفع کرنا۔

اس وقت مسلم لیگ صرف مسلم اکابر کی ایک چیدہ جماعت تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کی نمائندہ تھی مگر عوام میں سیاسی شعور نہ تھا اس لئے وہ اس میں دل چسپی نہ لیتے تھے۔ اس کے اجلاس ”مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ کے پہلو میں ہوتے رہے۔ یہ کانفرنس خالص تعلیمی تھی اور اس کا مرکز علی گڑھ تھا۔ سالانہ اجلاس ہندوستان کے ان بڑے شہروں میں ہوتے

جو کانفرنس کو دعوت دیتے۔ مسلمانوں کی پستی اور پس ماندگی کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اکثر اجلاس علی گڑھ میں ہی ہوتے رہے۔

امرت سر میں اجلاس ہوا۔ نواب ڈھاکہ سلیم اللہ خاں کشمیری اصل تھے۔ امرت سر میں کشمیریوں کی اکثریت تھی۔ جس جوش و خروش کا مظاہرہ ان کشمیریوں نے استقبال کرتے ہوئے کیا اور دوران اجلاس میں کیا اس کا اثر ہندوستانی مسلم مندوبین پر بھی ہوا۔ صاحبزادہ آفتاب احمد جو بعد میں سیکریٹری ہوئے بار بار اپنے ہمراہیوں کو اس پناہ جوش کی طرف متوجہ کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ "کام کے آدمی زندہ دلان پنجاب ہی ہیں۔"

اگر ہماری موجودہ حکومت پاکستان اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اس حقیقت کو انگریز بھانپ گیا تھا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے خائفنا تھا جو بکیرہ ادقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس لئے پنجاب میں اس کی اکثریت توڑنے کے لئے صوبہ سرحد کو علیحدہ کر دیا جو تعلیم کے لحاظ سے پست ترین صوبہ تھا اس تقسیم کے بعد بھی ستادوں فیصدی مسلم آبادی تھی۔ مگر اقتصادی لحاظ سے پست تر قوم تھی۔ یہ زیادہ تر مزدور تھے اور سرمایہ دار ہندو۔

امرت سر میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلو میں نیگ اجلاس ہو رہا تھا۔ خطبہ صدارت علی امام نے پڑھا۔ مولا محمد علی جوہر آکسن اور دیگر اکابر بھی موجود تھے۔ حاضرین کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی۔ نواب وقار الملک کے قریب ہی ایک کرسی پر اقم الحروف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وضع قطع اور لباس کی سادگی دیکھ کر سلف صالحین کی یاد تازہ ہو ہو گئی۔ "ریزوموشن" پیش ہو رہے تھے اور نواب وقار الملک بار بار کہہ رہے تھے کہ "تقسیم بنگال کی بھی خبر لو۔ مولا محمد علی جوہر بلند قامت کی شخصیت نمایاں نظر آ رہی تھی بکھڑے ہو کر سنی صدارت کے قریب آئے۔ گلابیٹھا ہوا تھا مگر آواز بلند تھی۔ فرمایا کہ

تقسیم بنگال ایک سیاسی خطا (BLUNDER) تھی۔ اب اس کی ترمیم

بڑھ کر سیاسی خطا ہے۔

بہالی تقسیم کی تجویز تو بالاتفاق رائے تقسیم ہوئی۔ مگر ۱۹۱۲ء میں "کننگ ایپر" کی آمد پر

لارڈ ہارڈنگ (LORD HARDINGE) وائسرائے نے شاہی اعلان کو نسل میں سنایا اور تقسیم منسوخ کی گئی پنجاب کی تقسیم بحال رہی مسلمانوں کو صدمہ ہوا یا نہ ہوا اس کا اندازہ لارڈ منسوخ کی تقریر سے ہو سکتا ہے جو آپ نے دارالامرا میں فرمائی۔

”ہم نے مسلمانوں کو کہہ دیا تھا بلکہ یقین دلا دیا تھا کہ تقسیم ایک امر واقعہ ہے اور یہ کہ بائباہر تاکیدا کہا کہ فی الواقع بحال رہے گی۔ ہم نے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو یقین دلا دیا کہ ان کی وفاداری کو ہم بہ نظر استحسان دیکھتے ہیں اور مصمم ارادہ دربارہ مسلم حقوق کا کرچکے ہیں۔ میری رائے ہے کہ شاید ہی کوئی سول سرونٹ ہوگا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ تہذیب ناممکن ہے۔“

مسلم لیگ کے چھٹے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نواب ڈھا کہ نے واشنگٹن الفاظ میں کہا کہ

”تقسیم بنگال نے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں قومیت کی روح جاگ اٹھی۔ ہمیں یقین تھا کہ مشرقی بنگال کے لوگ بالعموم اور مسلمان بالخصوص اس ہمدردانہ حکومت کی وجہ سے جو تقسیم کے بعد ظہور میں آئی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ہمارے بدخواہوں کو یہ بات نہ بھائی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ مسلمانوں کے حقوق جو عرصہ سے پامال ہو رہے تھے، تقسیم کے مد نظر ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہمارا حق کبھی نہیں ملا۔ لیکن جو تھوڑا سا بھی دیا گیا انہوں نے اپنا نقصان تصور کیا۔ تہذیب سے بنگالی ہندوؤں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتی ہے اگر شورش کے ساتھ تھوڑی سی دہشت بھی ہو۔ تہذیب سے حکومت کا وقار ہندوؤں نے خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کے دلوں سے اعتماد اٹھ گیا۔“

مسلمان حکومت کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے اس لئے براہِ رازان وطن سے کیوں بگاڑیں؟ نقصان مایہ اور شہادت ہمسایہ کی کیفیت سامنے تھی۔ اتفاقات میں زمانے کے

یہ واقعات ٹھہریں ائے کہ مسلمان خود بخود کانگریس کی گود میں چلے گئے۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ واقعات جو ہندوستان میں ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے ایک منصوبہ تھا جس کا تعلق ہندوستان سے باہر دنیا سے اسلام سے تھا۔

ہم شام اور لبنان کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ دوں یورپ نے مل کر سمجھوتہ کر لیا تھا کہ یورپ کا بیمار (SIEKMAN OF EUROPE) یعنی سلطنت ترکی نزع کی حالت میں ہے۔ شاید دم توڑنے میں بھی کافی وقت لگے۔ لمبی مدت سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا جاتے اور ترکیہ کے حصے بخرے بھی کاغذی معاہدوں پر کر لئے۔ برطانیہ اور فرانس اور اٹلی اور روس اور ریاست ہائے بلقان اس میں شریک تھیں۔ جرمنی کو شامل نہ کیا گیا یا اس نے شامل ہونا نہ چاہا۔ امریکہ کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ بے نیاز تھا مگر اخلاقی حمایت اس منصوبہ کو حاصل تھی۔

۱۹۱۲ء میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا اور ترک ادھر متوجہ ہوئے تو بلقان کی ریاستوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ اب یہ حقیقت سامنے آ رہی تھی کہ اسلام کا نام و نشان یورپ اور مشرق وسطیٰ میں مغربی استبداد مٹا رہا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا انجمن کمریڈ (COMRADE) اور ابوالکلام کا الہلال مسلمانوں کی حالت زار پر مسلمانوں کی توجہ دلا رہا تھا۔

مولانا محمد علی جوہر ۱۸۷۸ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۳۰ء میں وفات پائی۔ علی گڑھ اور آکسفورڈ میں تعلیم مکمل کی۔ پہلے بڑو وہ ریاست میں ملازمت اختیار کی۔ ۱۹۱۰ء میں ملازمت چھوڑ کر مسلمانوں کی خدمت کے لئے زندگی وقف کر دی۔ ہفتہ وار کامریڈ جاری کیا جس کی اشاعت بیس ہزار تک پہنچ گئی۔ لگی لپیٹی کے بغیر جو دل میں ہوتا اگل دیتے۔ انگریزی پر اتنے قادر تھے کہ اہل زبان بھی رشک کرتے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ سیاسیات منافقانہ روش ہے۔ راستبازی کا تقاضہ ہے کہ جو بات حق یقین کرتے ہو صاف صاف لفظوں میں کہو۔ کانگریس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ۔

”جہاں حکم الہی ہے وہاں میں مسلم اول و آخر ہوں۔ جہاں وطن کا حکم ہے وہاں

ہندوستانی اول و آخر ہوں

آپ کے ایک مضمون (CHOICE OF TURKS) نے مسلمانوں میں سچان پیدا کر دیا۔
 پر جو بنے بسے کی۔ اس لئے حکومت نے نظر بند کر دیا۔

آپ کانگریس میں بھی شریک تھے۔ اس وقت کانگریس کی قیادت مہاتما گاندھی
 ہاتھ میں تھی۔ محمد علی اور اس کا بھائی شوکت علی دونوں مہاتما کے دست و بازو تھے۔ ۱۹۲۲
 میں کانگریس کی صدارت کا انتخاب بھی محمد علی کے حق میں ہوا۔ ۱۹۳۰ء میں گول میز کان
 ہوئی۔ مہاتما گاندھی اور کٹر متعصب ملن موہن مالویہ اور مولانا محمد علی بھی شریک ہوئے۔
 ہندوؤں کی ذہنیت سے آپ واقف ہو چکے تھے۔ لندن میں تھے اور فرسٹ موت دور
 کے بعد روح قبض کر کے لاش کو بیت المقدس میں لے جانے والا تھا۔ کہ آپ نے ایک طویل
 مکتوب انگلینڈ کے وزیر اعظم کو لکھا کہ

”علی الرعم گاندھی جی میں مسلم حقوق کے لئے لڑوں گا۔ اور جب تک مسلمانوں

کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہندوستان خانہ جنگی کی گرفت سے نکل نہیں سکتا۔“

احمد ابوالکلام آزاد | مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے ہر ایک شخص واقف ہے
 جب وہ پچھ سال کانگریس کے صدر رہے اور اب جب کہ

آپ وزیر تعلیم سرکار بھارت ہیں اور اسلامی ممالک ترکیہ اور مصر اور ایران میں بھی گئے۔
 دنیائے اسلام کافی واقف ہو چکی ہے۔ لیکن میں اس وقت کا ذکر کرتا ہوں جب آپ امرتسر
 کے روزانہ وکیل کے نائب مدیر تھے۔ ذاتی تعارفی کا موقعہ مجھے یہیں ملا۔ اجلاو اگرچہ ابتداً
 پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتے تھے مگر بعد میں دہلی میں نقل مکانی کی۔ آزاد کی مادری
 زبان عربی اور پدری دہلی کی ٹکسالی اردو ہے۔ دونوں زبانوں پر کافی عبور ہے۔ اور اردو
 میں آپ کی تحریر اور تقریر کا مقابلہ ہندوستان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے
 مولانا محمد علی جوہر اور آزاد میں یہ فرق ہے کہ جوہر کا اول اور آزاد کا آخر اور جوہر کا آخر آزاد کا
 اول ہے۔ جوہر ابتداً میں کانگریسی تھا۔ آخر میں علی الرعم گاندھی جی مسلم حقوق کے تحفظ کے لئے
 ”دوقوموں“ کے نظریہ کا حامی ہو گیا۔ آزاد شروع میں دوقوموں کے نظریہ کا حامی تھا مگر آخر

ایک ہندوستانی رہ گیا۔

آزاد نے کئی بھروسے بد لے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا بہت بڑا احترام بالخصوص ان ایام میں تھا جب "البلاغ" اور "السلام" آپ کے پیراوارت شائع ہو رہے تھے۔ آپ شیخ ہند بنے۔ ان ایام میں آپ عربی لباس میں اکثر نظر آتے۔ ایک مضمون کی وجہ سے نظر بند ہو گئے تھے۔ بعد حالات اتنے بدل چکے تھے کہ آزاد کو بھی اپنی ذہنیت بد لنی پڑی۔ اور ایسی بدلی اس وقت تک اس میں فرق نہ آیا۔

آزاد مسلمانوں کی عام حالت سے خوب واقف تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ قوم سرعت سے سستی کی طرف جا رہی ہے اور ہندو اکثریت کا غلبہ ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہی غالب رہے گی ریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ ہندو راج ہی قائم ہو جائے گا۔ اس رائے کا اظہار وہ علامہ محمد اقبال سے بھی کر چکا تھا۔ اور منہ پر صاف لفظوں میں کہا کہ:-

"یہ جو اسلام آپ لئے پھرتے ہیں چند روزہ مہمان ہے:-"

افتخار جو آزاد اور ڈاکٹر اقبال میں ہوئی مجھے میرے دوست شیخ محمد نصیب میر سٹریٹ لالہ نے سنائی۔

امرت سر میں جب مجھے آزاد سے اکثر ملنے کا اتفاق ہوتا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں قومی جذبہ تو ہے مگر اس کو بھی ذریعہ روزگار بنانا چاہتا ہے اور بنا کر دہا۔ افسیوں کا رسیا تھا۔ اب تو وہ تمام شیخیت غرق سے ناب اولیٰ ہو چکی ہے۔ بحیثیت مسلم اس کی زندگی اس وقت ختم ہو گئی جب وہ گاندھی جی کا چیلہ بنا۔ امرت سر نے دفتر وکیل سے پچاس روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ اس سے کیا بنتا ہے۔ کانگریس نے امرت کا جلوہ دکھا دیا۔

چہ خوش است اگر بوداں قدہ ہوس بلندی منتظرت

کہ برآں مکاں چو قدم نہی عم گردشے نخود سرت

ہم نے ان دو شخصیتوں کا تذکرہ ضمناً کیا ہے۔ اب سلسلہ واقعات جاری رکھتے ہیں حکومت ہند یا برطانیہ مسلمانوں سے خائف تھی۔ سر سید احمد خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تقریر میں کانگریس سے علیحدگی کی وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ:-

”بنگال کی زن صفتی گورنمنٹ کو خوب معلوم ہے۔ ان کے قلم کی گھس گھس اور منہ کی بک بک کا اثر حکومت پر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن تم اے مسلمانو! ابھی تھوڑا عرصہ ہو ایساں حکمران تھے۔ تمہارے ذماغ سے ہوا حکومت ابھی نہیں نکلی تم بہادر اور بہادروں کی اولاد ہو۔ اگر تم کانگریس میں شامل ہوتے تو گورنمنٹ ہندوؤں سے ممکن نرم سختی کرنے کی لیکن تم کو پھیل کر رکھ دے گی۔“

تیس سال تک مسلمان کانگریس سے علیحدہ رہے۔ لیکن اب واقعات نے مجبور کر دیا کہ گورنمنٹ کے خلاف کانگریس کا ساتھ دیں۔ لیگ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں مسلم لیگ کانفرنس کی ایک سیاسی شاخ تھی۔ عوام سے بیگانہ رہی اب اس کے اجلاس کانگریس کے سالانہ اجلاس کے پہلو میں ہونے لگے۔ مسلمان دونوں میں شرکت کرتے رہے اور دونوں کے ریزولوشن ملتے جلتے ہوتے۔ کبھی کبھار علیحدہ حقوق کی آواز بھی سنائی دیتی۔

۱۹۱۷ء کے اول عالمگیر جنگ کے بعد ترکی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسئلہ خلافت نے مسلمانان ہند میں سبجان پیدا کر دیا۔ غیر اقوام بالخصوص برطانیہ تو جانتی تھی کہ مسلمانوں میں قومیت کا رشتہ دین اسلام نے قائم کر رکھا تھا۔ اس لئے ہندوستان میں انتہائی کوشش یہ رہی کہ مسلمان اسلام سے بیگانہ ہوتے جائیں۔ اور اس قدر بیگانہ ہو چکے تھے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اس کا مضحکہ بھی اڑاتا۔ مگر تحت الشعور قومیت کا احساس تھا۔ اتنا شعور تھا کہ ان کی قومیت اسلام سے وابستہ ہے۔ لیکن اسلام سے ناواقف تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رومی ہو یا حبشی عربی ہو یا عجمی ہماری طرح مسلمان ہے اور مسلمان برادری میں شامل ہے۔ ترکیہ اسلامی خلافت کی نمائندہ تھی۔ جب برطانوی سیاست نے اس کا خاتمہ کر دیا تو براہ راست زمان کے دین پر تھی۔

مہاتما گاندھی کا سیاسی تدبیر اس موقع کو ہاتھ سے کب جائے دینا۔ مسئلہ خلافت کانگریس کے لائحہ عمل میں شامل کر لیا۔ مسلمان جوق در جوق کانگریس میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء دین، ادیب، ہندی اور فرنگی عملی نے بھی استخاروں اور خوابوں کی تعبیر ہی کی کہ اس کی آغوش میں چلے گئے۔ اب کانگریس نے متحدہ قومیت کا محاذ قائم کر لیا۔ اس کی بے پناہ قوت کے سامنے جو محض

مسلمانوں کی شمولیت سے پیدا ہونی حکومت نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے۔ اور مسلمان
من حیث القوم ختم ہو رہے تھے۔

انانترک مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کی گتھی خود ہی سلجھا دی۔ اس کے دعویٰ سے
دست بردار ہو گئی۔ خوشی قسمتی ہی سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جوش بھی ٹھنڈا پر گیا۔ اور ان
کو پھر ایک دفعہ اپنی حالت کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔

محمد علی جناح ابھی تک کانگریس کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اور اس کو کشش میں
لگا ہوا تھا کہ دونوں قوموں میں اتحاد قائم رہے آزادی اسی سے مل سکتی ہے۔ ۱۹۱۶ء
میں لکھنؤ میں ہندو مسلم اکابر جمع ہوئے اور کانگریس اور لیگ نے "لکھنؤ پیکٹ":

(LUCKNOW PACT) پر دستخط کر دیئے۔ یہ جناح کی کشش کا نتیجہ تھا اور ہندوؤں

نے جناح کو اتحاد کا اہتمام نہ کر سکا۔ اس سبب جات متحدہ میں تیس، بنگال میں چالیس، بہار میں
پچیس، ممالک متوسطہ میں پندرہ اور ہندوہی مدرس میں اور ۲۳۲ بمبئی میں نشستیں
مخصوص کی گئیں۔ تمام صوبہ جات اور مرکز میں مسلمانوں کو علیحدہ حق انتخاب دیا گیا۔
مسلمانوں کو اس سبب جات کے ذریعے نشستیں ملیں۔

۱۹۱۹ء میں منٹیگو چیسفورڈ ریفارم (MONTEGU CHALMISFORD -

REFORM) نے مسلمانوں کو لکھنؤ پیکٹ سے بہت ہی کم نشستیں دیں مگر کانگریسی
حکومت کے اختیارات بھی کم کر دیئے۔ دونوں مصلحتیں نہ ہوئے۔

جہاں تک ترکی کا تعلق تھا۔ سرسید کئی سال پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ نہ
"مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت ہو اس کی تباہی نے ہمارے دلوں کو
غم سے بھر دیا۔ اب جبکہ تھوڑی رہ گئی ہیں۔ اب تھوڑے کا بھی غم زیادہ ہے
اگر ترکی کا خاتمہ ہو گیا تو ہمارے سبب و اندوہ کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ کیونکہ
باقیات الصالحات کی یہی ایک یادگار ہے۔ ہماری حالت آوارہ گروہوں
کی ہو جائے گی جس کا کوئی گھر ہے نہ گھاٹ۔"

سید کی اس تقریر کا اقتباس سر تقوڑ مورسین (SIR THEODORE MORISON) نے اپنے بیان میں دیا تھا۔

”عدم تشدد“ اور ”عدم تعاون“ کی مہم کا آغاز گاندھی جی نے کر دیا۔ برطانوی مال کا مقاطعہ اور حتی الوسع انگریزی ملازمت سے علیحدگی نے بھی گوند نمٹ کو پریشان کر دیا تھا۔ مطالبات دو تھے۔ خلافت کی بحالی اور ”ہوم رول“ (HOME RULE)۔ خلافت کی گتھی جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں اتنا ترک نے خود ہی سلجھا دی۔ اب ”ہوم رول“ رہ گیا۔ عدم تشدد جو گاندھی جی کا مذہبی عقیدہ تھا ”چوری چورا“ پر اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ لوگ تشدد پر آئے اور گاندھی جی نے سروسٹ اسے بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد چند سال ہندو متحاد کو خود ہندوؤں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی مسلمان اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ہندو پٹ رہے تھے۔ وہ اتحصاد اور پیکٹ جس کا مذکورہ ہوا خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔

۱۹۲۰ء اور ۱۹۲۱ء کے درمیان ہندو اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگی ہوتی رہتی تاریخی واقعات ہیں۔ سرکاری رپورٹوں اور غیر سرکاری بیانات میں ان فرقہ پرستانہ لڑائیوں کے وجوہ اور اسباب جو کچھ بیان کئے گئے ہیں کسی حد تک صحیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہیگل نے ہندو ذہنیت کی نسبت سچ کہا ہے کہ

”بھالت محکومی منافقانہ خوشامد اور چا پلوسی اس کی عادت ہے اور جب حاکم ہو تو بوجھڑ بن جاتا ہے۔“

”رچرڈ سائمنڈ“ (RICHARD SYMONDS) اپنی کتاب ”پاکستان کی تشکیل“ (MAKING OF PAKISTAN) میں لکھتا ہے کہ

”مارچ ۱۹۲۱ء میں چار پانچ سو آدمی کانپور میں مارے گئے۔ احاطہ بمبئی میں فروری ۱۹۲۹ء سے اپریل ۱۹۳۸ء تک فرقہ وارانہ فسادات دو سو دن ہوتے رہے پانچ ساٹھ مارے گئے اور ساڑھے چار ہزار زخمی ہوئے بنگال میں ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۶ء تک تیس ہزار عورتیں اغوا ہوئیں جس وقت فری

قتل و غارت عام تھی۔ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر خاندان کے خاندان
زندہ جلا دیئے گئے۔

ایسے دل ہلا دینے والے واقعات ان انسانیت سوز واقعات کے سامنے بیچ ہیں جو ۱۹۴۷ء
میں رونما ہوئے۔

تحریک خلافت کے خاتمہ پر "عدم تعاون" بھی ختم ہو گیا۔ اگرچہ کانگریس نے فیصلہ
کیا کہ ۱۹۱۹ء کی ریفارم کے تحت جو نئی لیجسلیٹو کونسل بنی اس کے انتخاب میں حصہ
لیا جائے۔ مگر "سواراج" پارٹی کی قیادت "سی، آر، داس" اور پنڈت موتی لال نہرو
جو اہر لال کا والد کر رہے تھے۔ اور محض ہٹ بھونگ مچانے کے لئے انتخاب لڑے مسلمانوں
میں محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد نے تو کانگریس کا ساتھ دیا۔ لیکن محمد علی جناح نے ایک
خالص آزاد مسلم پارٹی کی قیادت کی۔

۱۹۳۷ء میں کانگریس اور لیگ انتخاب کے میدان میں اتر آئیں۔ گیارہ صوبہ جات
میں سے پانچ پر کانگریس چھا گئی۔ اور دو اور صوبوں میں اس کی اکثریت تھی۔ کانگریس
منسٹری بمبئی، مدراس، صوبہ جات متوسط اور متحدہ، بہار اور اڑیسہ اور شمال مغربی سرحدی
صوبہ میں بن گئی۔ بنگال اور پنجاب میں مسلم اکثریت تھی۔ لیکن یہاں لیگ کی منسٹری قائم نہ
ہو سکی۔ پنجاب میں سر سکندر حیات خاں نے یونینسٹ (UNIONISTS) پارٹی
کی طرح ڈالی۔ بنگال میں اگرچہ وزارت عظمیٰ پر مسلمان فائز تھا مگر وزارت مخلوط تھی۔ اب
بیکہ کانگریس کا ہر طرف بول بالا ہو رہا تھا اور حد ہے کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ جہاں مسلم
اکثریت ۹۲ فیصدی ہے کانگریس منسٹری کے تحت آگیا۔ تو خداوندان کانگریس نے لیگ کو
تعاون کی دعوت دی اور ایسی شرائط پیش کیں جو کسی خوددار کے لئے قابل قبول نہیں
ہو سکتیں۔ مسلم لیگ کا بیہ میں اس شرط پر لئے جا سکتے ہیں اگر لیگ کانگریس میں محو ہو
جائے۔ اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ کانگریس کا کوئی رکن کسی غیر کانگریسی سیاسی پارٹی
کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اب ان مسلم لیگیوں کے لئے دو گونہ عذاب تھا جو کانگریسی بھی تھے
اور لیگی بھی۔ ایک سے کنارہ کش ہونا پڑا جہاں کانگریس منسٹری تھی۔ اب وہاں رام راج

رنگ لایا۔ گورنمنٹ عمارات پر کانگریس کا پرچم لہرانے لگا۔ مدرسوں میں مسلمانوں کو
 کو بندے نامہ "کا گیت گانے پر مجبور کیا گیا۔ گاتے کے گوشت کی فروخت ممنوع قرار
 دی اور فرقہ وارانہ فساد رونما ہوتے تو پولیس نے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ ہندو پیر
 کو تقویت دی۔ سرکاری ملازمت کا دروازہ مسلمانوں پر بند کیا گیا۔ یہ واقعات
 کے واقعات کے سامنے قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ مہاتما گاندھی بھی کانگریسوں کی پست
 اور گندہ ذہنیت کی مذمت کر رہا تھا۔

یہ وہ وقت تھا کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے مسٹر جناح کو لیگ کی قیادت سنبھالنے
 کے لئے اپنے مکتوباب میں زور دیا۔ محمد علی جناح نے قیادت سنبھالی اور نیم مردہ میں جان
 پڑ گئی۔ جان پڑی تو کانگریس کی بنیادیں ہلا دیں۔ محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ
 ہندوستان میں اسلام خطرہ میں ہے۔ اگرچہ ابھی برطانوی حکومت ہندستان
 میں ہے اور ہندوؤں کو حکومت میں تھوڑا ہی حصہ دیا گیا۔ لیکن اس تھوڑے
 میں تھوڑوں نے اپنی ذہنیت کا جو کچھ مظاہرہ کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ
 اعلان اس بات کا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے۔ کانگریس ایک
 ہروپ ہے۔ اس نقاب کی تہ میں خالص ہندو ذہنیت ہے۔

محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو متحد رہنے کی اپیل کی۔ ٹیکور اپنے
 مشہور ناول "گورا" میں لکھتا ہے کہ

"تعجب ہے کہ مسلمانوں میں بے شمار مذہبی فرقے ہیں لیکن جب غیر مسلم قوتوں
 سے مقابلہ ہوتا ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہندوؤں میں نہیں۔"

ڈاکٹر سر رابندر ناتھ ٹیکور نے مسلمانوں کی نسبت تو بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اس کی وجہ
 یہ ہے کہ اصولاً ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ فروع میں ایسا ہی ہے جیسے ایک درخت کے
 دو پتے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہندوؤں میں اختلاف اصولی ہے۔ پنڈت جو اہل
 بھی ہندو ہے خواہ ناستک ہے۔ وہ بھی ہندو ہے جو ویدوں کو نہیں مانتا۔ وہ بھی ہندو
 ہے جو زنا ر بند نہیں چوٹی نہیں رکھتا۔ لیکن ان میں نسلی احساس ہے اور مذہب خواہ کچھ

ہو جزو قومیت ہے مسلمانوں میں صرف ایک رشتہ اسلام ہے۔ ہندو اتحاد نسلی احساس پر مضبوط تر ہے۔ اور کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندو ازم کے نام پر اس اتحاد کو وہ صورت دی کہ مسلمانوں میں بھی نہیں۔ ان کی جمعیتہ العلماء ہند کانگریس کا کلمہ پڑھتی ہے۔ وہ مسلمان ضرور ہیں مگر بیکار بیروزگار جماعت ہے۔ ابوالکلام بھی اسی قبیلے کا بڑے ہے ان میں فاسق و فاجر بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں مسلمان مفلس ہے اور اس کا دین و ایمان خرید جا سکتا ہے۔ اور کانگریس نے خرید مگر قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ تو کیا بڑا گورنمنٹ بھی نہ خرید سکی۔ وہ ابوالکلام کی طرح شیخ الہند نہ تھا۔ اور حسین احمد مدنی کی طرح عالم دین بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی طرح مجتہد عصر شیخ جامعہ ملیہ بھی نہ تھا۔ مگر اس میں ایک بات تھی جو ان حضرات میں نہ تھی۔ آنحضرتؐ جب کسی سے توحید باری تعالیٰ پر بیعت لیتے تو ایک شرط یہ بھی ہوتی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی پر اپنا ذاتی مفاد قربان کرنا ہوگا۔ صحاح ستہ یہ وہ بات تھی جس نے مسلمانوں کو "بنیان مرموص" بنا دیا تھا۔ جناحؒ میں روح اسلام مضرب تھا۔ اس کا شعور ابتدا میں اسے بھی نہ تھا۔ لیکن کانگریس کی چیرہ دستی اور مسلمانوں کی مظلومیت سامنے آتی یہ شعور ایسا بیدار ہوا کہ عامتہ المسلمین کو جھوٹا اور بیدار کر کے چھوڑا۔ ہندو جو اسے کسی وقت ہندو مسلم کے اتحاد کا دیتا، کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اب فرقہ پرست اور فرقہ پرستی کا اوتار کہنے لگے جناح کے آئینہ میں وہ اپنی بھونڈی شکل دیکھتے تھے۔ اور ایک مکروہ صورت کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ آئینہ میں خرابی ہے۔ آئینہ کو توڑنا چاہتے تھے کہ یہ قبیح شکل پھر نظر نہ آئے۔ آخر وہ اپنا سامنے لے کر رہ گئے۔

جب شملہ میں دیول کانفرنس ہوئی اور کانگریس اور لیگ کے اکابر وہاں جمع ہوئے مجھے پہلی دفعہ یہاں قائد اعظم کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انجمن اسلامیہ شملہ نے اپنے سالانہ جلسہ کی تقریب پر قائد اعظم کو مدعو کیا۔

جلسہ کی صدارت خواجہ ناظم الدین جو قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے، فرما رہے تھے۔ قائد اعظم شریف رائے

تو فقرہ تکبیر اور قائد اعظم زندہ یاد کے جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا
قائد اعظم تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک فقرہ اردو میں کہا:-

”چاوی (چابی) تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم متحد ہے تو کامیابی ہے ورنہ
کچھ نہیں۔“

اتفاق سے میں قریب بیٹھا ہوا تھا۔ جناح اتنا کہہ کر بیٹھ گئے۔ حاضرین نے
اس خیال سے کہ آپ اردو میں اپنا مافی الضمیر ادا نہیں کر سکتے شور مچایا کہ ”انگریزی میں
آپ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ”میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اردو نہیں سمجھتے۔“ اس پر
کرسی صدارت سے لے کر حاضرین میں ہتھمہ بلند ہوا۔ آپ نے اسی فقرہ کا ترجمہ انگریزی
میں کیا اور پھر بیٹھ گئے۔ حاضرین جو لمبی چوڑی تقریر سننے کی توقع رکھتے تھے سخت مایوس
ہوئے۔ مگر مجھے یقین ہو گیا کہ جناح باتونی نہیں۔

”مثل فریادیکے گوید و شیریں گوید“

بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ ”مسٹر جناح“ ضدی آدمی تھا جس بات پر اڑ جاتا اور
جھار پٹا اور کوئی طاقت اسے جنبش نہ دے سکتی۔ ان حضرات نے قائد اعظم کے استقلال
مزاج کی غلط تعبیر کی ہے۔ یہ منکر تھا۔ جب ایک دفعہ اسے کوئی ایسی بات سوجھ جاتی۔ تو
وہ حق پر اڑ جاتا۔ وہ صاف گو آدمی تھا اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا۔

دائسرائے ہند ویول نے جب ”انٹریٹیم“ گورنمنٹ کی تجویز پیش کی تو کانگریس نے
فوراً منظور کرنی۔ جناح کو کچھ تذبذب تھا۔ ویول نے وعدہ کیا کہ مسلمان جو بھی گورنمنٹ
میں لیا جائے گالیگ کا نامزد ہوگا۔ لیکن ویول اس پر قائم نہ رہا۔ انٹریٹیم گورنمنٹ کا مقاطعہ
جناح نے کر دیا۔ ویول کچھ اور کہنا یا سمجھانا چاہتا تھا۔ چائے پر قائد اعظم کو دعوت دی۔
یہ قائد اعظم ہی تھا جس نے دعوت مسترد کرتے ہوئے کہا کہ

”میں تجھ سے بے ایمان آدمی کے ساتھ کوئی سوشل تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔“

لارڈ ویول کو جھکنا پڑا۔

دو سو سال گذشتہ کے عرصہ میں برطانیہ نے مسلمانان ہند کو جس طرح کچلا اور ہندوؤں

کو ابھارا۔ اس کا نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا قومی شیرازہ بری طرح بکھر چکا تھا۔ کئی دفعہ تنظیم کی کوشش ہوئی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اس پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے ابوالکلام کو یقین ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں اسلام چند دن کا سہان ہے۔ چونکہ پیٹ اور عزت کا بھوکا تھا اور یہ ٹکڑہ کانگریس کے دروازے پر ہی مل سکتا تھا اور مہاتما گاندھی کو بھی ایک ایسے ہی با اثر و پوزہ گزشتہ شیخ الہند کی ضرورت تھی، خوب آؤ بھگت ہوئی۔ اس کے ساتھ جمعیتہ العلماء ہند کی شمولیت نے مسلمانوں میں انتہائی انتہا پیدا کر دیا۔ کانگریس تو کانگریس تھی خود مسلمانوں کے ذہن کی لپٹی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ گول میز کانفرنس لندن میں ہو رہی تھی۔ چودھری رحمت علی (مرحوم) پاکستان کا پراپاغندہ اور مندوبین میں پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا اور یہ مضحکہ اڑاتے تھے۔ چودھری ظفر اللہ جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، کا ارشاد تھا کہ:-

”جہاں تک میں نے غور کیا ہے تو یہی سمجھ میں آیا کہ پاکستان کا نظریہ امر مہموم

اور ناممکن العمل ہے۔“

ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین نے فرمایا کہ:-

”شاید اتنا کہنا کافی ہو گا کہ کسی نمائندہ بینکین یا ادارہ نے یہ تجویز نہ سوچی

سمجھی اور نہ پیش کی۔“

لیکن پست فطرت مسلمان ہو کچھ تھے، تھے۔ تعجب ہے کہ برطانوی گورنمنٹ اس کی اہمیت خوب سمجھتی تھی۔ اور گول میز کانفرنس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہی سوال پیش ہوا۔ ہندو تو اسے ”بازیچہ بچوں کا“ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ مسلمان کا برنہ بھی درخور اعتناء سمجھا اور اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔

”جو ہر مسلمانوں کے حقوق کے لئے گاندھی سے بھی مگر لینے کے لئے تیار تھا مگر اتنا نہ

سمجھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ایک ایسی مرکزی حکومت کے تحت جس پر ہندو چھائے

ہوئے ہیں ناممکن ہے۔ اور پاکستان ہی واحد نام ہو سکتا ہے۔ مسلمان کتنا سادہ لوح

واقع ہوا ہے۔ ہندوؤں نے چودھری رحمت علی کے خلاف یہ الزام لگائے کہ

”انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ امیرانہ ٹھاٹھ ہے۔ بظاہر کوئی سبیل آمدنی کی بھی

نہیں۔ آخر یہ دوپہر پاکستان کے پروپاغندا کے لئے آتا کہاں سے ہے۔؟

انڈیا آفس (INDIA OFFICE) پس پردہ اس پتلی کو بچا رہا ہے۔

اب جبکہ خود برطانیہ کی طرف سے پاکستان کے بارہ میں سوال پیش ہوا مسلمانوں کو بھی

ہو گیا کہ پاکستان ہندو مسلم اتحاد توڑنے کا ایک منصوبہ ہے۔ اور یہ منصوبہ برطانیہ کی اختراع

ہے۔ شاید اس میں بھی کچھ صداقت کی جھلک ہو۔ لیکن اب جب کہ پاکستان بن گیا، پھر

یہی کہنا چاہیے کہ ”عدو دشو سبب خیر گر خدا خواہ“

پاکستان کا صحیح تصور چودھری رحمت علی کے سوا کسی مسلم کے ذہن میں نہ تھا۔ ۲۴ مارچ

۱۹۴۰ء کے اجلاس میں جولاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا منعقد ہونا پہلی دفعہ یہ ریزولوشن

کیا گیا کہ

”ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ جہاں مسلمانوں یا ہندوؤں کی اکثریت

ہے بشرطیکہ وہ جغرافیائی لحاظ سے ملحق ہوں ان کی حد بندی کی جائے۔ اور یہاں ان

کی خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں اور جہاں دونوں قوموں کی اقلیت ہے وہاں

ان کے حقوق کا تحفظ قانوناً کیا جائے۔“

۱۹۴۱ء میں مدراس کے اجلاس میں جناح نے کہا کہ

”ہم کسی حالت میں آل انڈیا مرکزی حکومت کی حمایت نہیں کریں گے مسلمانان

ہند ایک علیحدہ قوم ہے اور دوسری قوم کا غلبہ پسند نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایسی صورت

ہوتی تو ہم مزاحمت کریں گے۔“

ابھی تک پاکستان کا صحیح تصور قائد اعظم کے ذہن میں ہی تھا۔ دو قوموں کا نظریہ تو

سرستید نے پہلے ہی پیش کر دیا تھا اور اسی پر اکابر مسلمان زور دے رہے تھے مگر محض تحفظ

حقوق کی خاطر حقیقت یہ ہے کہ کانگریس کا پروپاغندا اس قدر بدست اور موثر تھا کہ مسلمان

یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کا امکان بھی ہے مسلمان اقلیت میں تھے۔ غالباً اقلیت

ان کی تھی۔ مگر امت واحدہ نہ تھے۔ مسئلہ انگریز گورنمنٹ نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ اس کو

مقابلہ کیا جائے ہندوؤں نے گورنمنٹ سنبھال لی۔ اس میں مسلمان ممبر کانگریس نے نامزد کئے۔ یہ وقت قائد اعظم کے سیاسی تدبیر کے امتحان کا تھا۔

حیرت یہ کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں لیگ نسبتاً زیادہ کمزور تھی۔ بلوچستان میں زمیندار طبقہ لیگ کا حامی تھا اکثریت "وطن پارٹی" کے تحت مخالف تھی۔ جموں اور کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی قیادت شیخ عبداللہ کر رہا تھا۔ یہ بھی کانگریسی تھے۔ شمال مغربی صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خاں نے کانگریس منسٹری قائم کی ہوئی تھی۔ اگرچہ پیر پنے اثر و رسوخ سے کام لیتے اور خود گورنمنٹ خدائی خدمت گاروں کو "ڈیفنس آف انڈیا رولز" (DEFENSES OF

INDIA RULES) کے تحت عمل میں بند نہ کرتی تو صوبہ سرحد پاکستان میں شامل نہ ہوتا یہاں بیرون اور برطانوی گورنمنٹ کے مدد سے لیگ منسٹری قائم ہوئی۔ سندھ میں خان بہادر اللہ بخش (مرحوم) نے "نیشنلسٹ پارٹی" (NATIONEUST PARTY) کی بنیاد رکھی تھی۔

گورنمنٹ نے غیر آئینی حربہ سے کام لے کر وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانے پر مجبور کیا۔ ورنہ لیگ یہاں بھی شکست کھا جاتی۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اگرچہ کانگریسی نہ تھی لیکن لیگی بھی نہ تھی اور اس صوبہ میں لیگ کی شکست کانگریس ہی کی فتح تھی۔ مسلمان ممبر سب یونینسٹ ہی تھے اور سب ابن الوقت تھے۔ بنگال میں بھی گورنمنٹ نے غیر آئینی طور پر وزیر اعظم کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ پر جا پارٹی جو پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کے ساتھ تھی چھائی تھی۔ خواجہ ناظم الدین کی وزارت کا قیام گورنمنٹ اور یورپین اور اچھوتوں کے ساتھ تھا۔

یہ تو ان صوبوں کا حال ہے جہاں مسلم اکثریت تھی یا ہے۔ اقلیت کی حالت ناگفتہ بہ ہے وہاں کانگریس منسٹری من مانی کاروائی کھلے بندوں کر رہی تھی۔

کانگریس کے زیر اثر مسلمانوں میں ایسے ادارے قائم ہو چکے تھے جو لیگ کی شکست پر تلے ہوئے تھے۔ ان میں سے جمعیت العلماء ہند اور احرار اور خاکسار مومن انصار آزاد مسلم کانفرنس، آل انڈیا مسلم مجلس۔ ان کے خلاف ہندوؤں میں بھی بے شمار ادارے تھے۔ مگر سب کا نصب العین ہندو اتحاد ہی تھا اور کانگریس کو تقویت دے رہے تھے۔

ان حالات میں قسائد اعظم کا اعلان دربانہ ڈائرکٹ ایکشن (DIRECT ACTION)

دھمکی ہی دھمکی تھی۔ مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ جب انٹرٹیم گورنمنٹ پر کانگریس چھا گئی تو لندن میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ لیگ سے مایوس ہو کر کانگریس کے گن گانے لگے۔ اور قریب تر زمانہ میں انٹرٹیم گورنمنٹ میں لیگ حصہ نہ لیتی تو ختم ہو چکی تھی۔ قائد اعظم مسلمانوں کے انتشار اور پرہیزی سے خوب واقف تھا۔ ہندوؤں کا مقابلہ ہر ایک شہر، ہر ایک قصبہ، ہر ایک گاؤں کرنے کے لئے تیار تھا اور یہی کچھ اس نے "ایڈورڈ تھامپسن" (EDWARD THOMPSON) کو بھی کہا تھا لیکن گورنمنٹ کا مقابلہ مسلمان نہ کر سکتے تھے۔ کانگریس کا آلہ کار بن کر انہوں نے جانی اور مالی نقصان ضرور اٹھایا۔ مگر لیگ کی قیادت کا وہی حال تھا جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ سوائے عالم حضر حیات کی فسطوی نے جب لیگ کی شکست و ریخت کا مصمم ارادہ لیا۔ اس وقت جہلم میں تھا۔ چند مخلص کارکن تو شروع میں جیل میں گئے۔ باقی لیگ ممبر گھروں میں دبک کر بیٹھ رہے۔ ان میں سے اکثر تجارت پیشہ آدمی تھے، الحق!

”قل ان كان اباؤكم وابتاؤكم واولادكم وامنوا جكم وعتبتكم وامنوا فتموها و تجارتكم و تخشونكم سادها و منكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله و جهاد في سبيله فترضوا حتى ياتي الله بامر الله كالذي انقصر الفسقين“ (چپ)

ان کو بتا دو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر نہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور ازواج اور قبیلہ اور کنبہ اور مال جو کھاتے ہو اور تجارت جس کے منہ کا تمہیں خوف ہے اور مکان جو پسند میں بہت پیار سے ہیں۔ تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا لے آئے اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں فرمایا کرتا۔

البتہ عورتوں کے جلوس برقعہ پوش اور بچوں کا شور و غوغا جاری رہا۔ دیہات سے پانچ پانچ دس دس آدمیوں کو لایا جاتا۔ وہ بازاروں میں گشت لگاتے اور ایک کہتا کہ مر گیا۔ باقی جواب دیتے: "خضرو" یہ مضحکہ خیز کاروائی ایک ماہ جاری رہی۔ لاہور اور گوجرانوالہ اور امرتسر جیسے بڑے شہروں میں بلاشبہ بہت ہوش و خروش تھا مگر جہلم جیسے علاقہ میں عام بے حسی تھی۔

جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا۔ وائسرائے نے ہندوستان کی طرف سے محوری طاقتوں
 نے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کانگریس منسٹری جہاں کہیں تھی۔ سخت برا فروختہ ہوتی کہ وائسرائے
 نے ان کے مشورہ کے بغیر اعلان کر دیا۔ اس لئے مستعفی ہو گئی۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس
 لیا۔ قائد اعظم نے "یوم نجات" ملک کے طول و عرض میں منایا۔ ادھر گاندھی جی نے "سول
 فرمائی" (CIVIL DISOBEDIENCE) کی مہم شروع کر دی۔ پٹیل، نہرو، آزاد، گاندھی
 اور کانگریسی اکابر سب جیل میں ٹھونس دیئے گئے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی (مجلس عاملہ) اگست
 ۱۹۴۲ء سے جون ۱۹۴۵ء تک جیل میں نظر بند رہی۔ مہاتما گاندھی ۱۹۴۲ء سے مئی ۱۹۴۴ء
 تک نظر بند رہے۔ اب لیگ کے لئے میدان خالی تھا۔ بنگال اور پنجاب اور سندھ اور
 سرحدی صوبہ اور آسام میں لیگ منسٹری قائم ہو گئی۔ دیگر صوبہ جات میں انتظام برطانوی گورنمنٹ
 کے ہاتھ میں براہ راست تھا۔

جب وائسرائے نے مسلم پریمرز کو "نیشنل ڈیفنس کونسل" (NATIONAL
 DEFENCE COUNCIL) میں ممبر بنایا تو قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس کونسل کا ممبر
 نہ ہو کیونکہ لیگ کی منظوری کے بغیر وائسرائے نے یہ حرکت کی ہے۔ بنگال میں فضل الحق
 اور اوفاداری لگی خواجہ ناظم الدین اس کا جانشین ہوا۔ خضر حیات نے قائد اعظم کی سخت
 مخالفت کی اور مسلمانان پنجاب کی حمایت کھو بیٹھا۔

جنگ کے خاتمہ پر برطانوی گورنمنٹ ڈومینین سٹیٹ (DOMINION STATES)
 ہندوستان کو دینے کے لئے تیار تھی۔ اگر برطانوی حکومت نہ جھکتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔
 آج جن مشکلات کا سامنا سے ایران اور مصر میں ہے اس کا حل اسی میں تھا کہ ہندوستان
 سے اس کا سیاسی تعلق قائم رہتا خواہ یہ برائے نام ہی ہوتا۔

مشہور برطانوی مدیر سر سٹافورڈ کریپس (SIR STAFFORD CREPIS) اپریل
 ۱۹۴۷ء میں ہندوستان میں یہی پیش کش لے کر آیا مگر ناکام واپس گیا۔ کانگریس نے تجویز
 مسترد کر دی۔ کیونکہ فوری ذمہ دارانہ حکومت کا ذکر اس میں نہ تھا۔ انڈین یونٹی (INDIAN
 UNITY) کے مخالف تھی۔ لیگ نے اس لئے قبول نہ کی کہ پاکستان کا تصور اس میں نہ

تھار راج گوبال اچاری نے اصولاً پاکستان تسلیم کر لیا مگر کانگریس نے قبول نہ کیا۔ ۱۹۴۷ء میں گاندھی اور جناح میں گفت و شنید شروع ہوئی۔ گاندھی جی سرے سے یہ تسلیم ہی نہ کرتے کہ مسلمان ہندوستان میں ایک علیحدہ قوم ہیں اور یہ کہ لیگ اس کی واحد نمائندہ ہے۔ گاندھی جی کا اس گفت و شنید کے انقطاع کے بعد یہ ارشاد تھا کہ "جناح صاف گوردر ہے مگر بھارت مائا کی تقسیم کا تصور دیوانگی کی حسد تک ہے۔"

جناح کہتا کہ

"ماہتا جی، اپنا" کے اوتار اور پوجاری تو ہیں مگر مجھے لڑائی کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ مجھ جیسے معمولی فانی انسان کا ان کی اندرونی آواز کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہیں۔"

جنگ کے اختتام پر کانگریسی جیل سے رہا ہو کر نکلے اب صوبائی اور مرکزی مجالس کا انتخاب ہوا۔ لیگ سینٹرل اسمبلی میں کل مسلم نشستوں پر قابض ہو گئی۔ صوبائی مجالس میں چار سو پچانوے مسلم نشستوں میں سے چار سو چھیالیس پر لیگ کے نمائندے کامیاب ہوئے۔ اب ثابت ہو گیا کہ لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ۲۲ اگست ۱۹۴۷ء میں وائسرائے کی کونسل کی تشکیل ہوئی۔ تمام کانگریسی ممبر کو نکلے۔ وائسرائے پریذیڈنٹ اور پنڈت نرو وائس پریذیڈنٹ "ڈائریکٹ ایکشن" کا اعلان قائد اعظم کی طرف سے ہوا۔ فرقہ دارانہ فساد شروع ہو گیا۔ کلکتہ میں چار ہزار اور میں پانچ ہزار اور مشرقی بنگال میں پچاس ہزار خاندان بے خانمان ہو گئے۔ آخر گورنمنٹ سمجھوتہ ہو گیا۔ مرکز میں پانچ لیگی ممبر بشمول ایک اچھوت خاں لیاقت علی خاں کی قیادت میں انٹرم گورنمنٹ (INTERIM GOVERNMENT) میں شامل ہوئے۔

۳ جون ۱۹۴۷ء کو برٹش گورنمنٹ نے لارڈ مونٹ بیٹن (MOUNTBETTEN) کا "پلان" منظور کر لیا۔ اس میں ہندوستان کی تقسیم کی وضاحت کی گئی تھی۔ جسے لیگ اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا۔ پنجاب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مشرقی حصہ بھارت

لو دیا گیا۔ یہی کیفیت بنگال میں ہوئی۔ صوبہ سندھ میں استصواب رائے ہوا۔ جہاں
 کا نوے فی صدی مسلم آبادی ہے۔ استصواب لیگ کے حق میں ہوا۔ تعین حدود کے
 لئے فریقین نے "سر سائمل ریڈ کلف" (SIR CYRIL REDCLIFFE) کی ثالثی
 منظور کر لی۔ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور بھارت کا لارڈ مونت پیٹن
 شاہ انگلستان نے منظور فرمائے۔

ریڈ کلف نے حدود کا تعین کر دیا۔ اعلان سے چھ گھنٹہ پیشتر وہ ایک ہوائی جہاز کے
 ذریعہ ہندوستان سے پرواز کر گیا۔ یہ یاد رکھنے کے وجوہ ہیں کہ تعین حدود ریڈ کلف نے
 نہیں بلکہ خود لارڈ مونت پیٹن نے ریڈ کلف کے نام پر کیا۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں جو
 ریڈیو پر نشر ہوئی اسے انتہائی غیر منصفانہ اور خلاف دیانت قرار دیا۔ مگر خود کو وہ را
 علاج نیست۔ پارلیمنٹ میں ایک ممبر کہہ چکا تھا کہ

"ہم مسلمانوں کو پاکستان دیں گے مگر ہندو صفر ہوگا۔"

ایک نہیں بلکہ دو صفر ملے جو مشرقی اور مغربی پاکستان سے موسوم ہیں۔

مارچ ۱۹۴۷ء کا واقعہ ہے کہ خضر حیات خاں وزیر اعظم پنجاب مستعفی ہو گیا۔ اس
 نے ایک مخلوط وزارت مرتب کر رکھی تھی۔ سکھوں اور ہندوؤں کی حمایت اسے حاصل
 تھی۔ اب اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ سر ایون جنکنز (SIR EVAN JENKINS)
 گورنر تھا۔ خدا جانے اس نے ماسٹر تارا سنگھ کے کان میں کون سا شبہ گودو گوبند سنگھ کا
 پڑھا کہ اسے استعفا کے بعد اس نے ایوان حکومت میں "کرپان" لہراتے ہوئے پاکستان
 مردہ باد کا جیکارہ لگایا۔ ہندوؤں نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔

حقیقت یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے ایک منصوبہ تیار ہو چکا تھا کہ پنجاب کو بزور
 کرپان سکھ لے لیں۔ قائد اعظم کو قتل کر دیں۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کی حمایت
 بھی شامل تھی اور اس منصوبہ کا علم پنجاب گورنمنٹ کو تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ امرتسر میں
 جو سکھوں کا مذہبی مرکز ہے۔ فرقہ دارانہ فساد کا آغاز ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے۔ تارا سنگھ نے
 گورنر پنجاب سے دو گھنٹہ کی مہلت مانگی۔ اس عرصہ میں سکھ جو کچھ بھی کریں ان کو کھلی

چھٹی دی جائے۔

تارا سنگھ نے پٹیا لہ اور دیگر ریاستوں سے آدمی اور اسلحہ دربار صاحب میں کیا۔ پچاس ہزار سکہ سودا مسلح دربار صاحب اور ملحقہ کشادہ باغ میں جو "گورو کا کہلاتا ہے، جمع تھے۔ اس کے علاوہ سکھوں کی آبادی شہر میں کافی تھی اور کرپان قانونان کو بہت عرصہ پیشتر مل چکا تھا۔ نری نوآبادیات لائل پور وغیرہ میں سکھ خفیہ ہڈیات مل چکی تھیں کہ جب اشارہ ہو کھڑے ہو جائیں اور تمام مسلمان آبادی کو کرپان کے گھاٹ اتار دیں۔

راشٹریہ سیوک سنگھ شمالی پنجاب میں ہندوؤں کو منظم کر رہا تھا۔ ان پاس اسلحہ اور آتش گیر سامان کافی موجود تھا۔ سکھ اور ہندو وڈی بکشنر سکھوں ہندوؤں کو بلا تکلف اسلحہ کالائسن دے رہے تھے۔ وسط پنجاب میں سکھ اور ہندو اپنے آپ کو غالب فریق سمجھتے تھے۔ مگر شمالی پنجاب میں اکثریت مسلمانوں کی یہاں ہر ایک ہندو اور سکھ کا مکان قلعہ کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کافی مقابر قلعہ وغیرہ کیا گیا۔ اسلحہ کی کمی نہ تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان اضلاع میں جب سنیں خالصہ جی نے امرت سر کا مورچہ سر کر لیا ہے تو ہر ایک مقام پر نکل آئیں اور قتل کا بازار ایک ہی وقت پنجاب کے طول و عرض میں گرم کر دیں۔

میرے دوست مہر غیر الدین پہلوان نے مجھ سے بیان کیا کہ "جب کلکتہ اور بہار میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ امرت سر کی بازی بھی اُسے والی ہے۔ کچھ سکھوں کی باتوں اور حرکتوں سے بھی بھانپ گیا۔ کہ یہ وقت دور نہیں۔

حکیمان والے دروازہ کے اندر مسلم آبادی کی اکثریت ہے۔ اور اس گڑھ کے نوجوان ورزش کے بہت شوقین ہیں۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی گڑھ میں رستم ہند غلام پہلوان کا گھر اور دروازہ سے ملحق اس کے بھائی کلو پہلوان کا اکھاڑہ ہے۔

میرے دوست نے اپنے سب دوستوں کو جمع کیا اور آنے والے خطرے
 آگاہ کیا۔ اس کٹرہ میں چند مرکز مقرر کئے گئے۔ یہاں عسکری تربیت کے
 کے لئے ہر ایک کا حاضر ہونا فرض تھا۔ اسی کٹرہ کے ملحق دوسرے کٹرہ
 میں مسلمان "آتش باز" بھی تھے ان کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ میرا
 دوست خدا کے فضل سے خود مسئول آدمی تھا۔ اس کے تین بھائیوں نے پچاس
 پچاس ہزار روپیہ خرید اسلحہ کے لئے چندہ دیا۔ اس کٹرہ میں چند اور مسلم
 لاکھ پتی بھی تھے۔ خیر الدین نے ان کے سامنے بھی دست سوال دراز
 کیا مگر ایک پیسہ بھی نہ ملا۔ اس جواں مرد جواں ہمت نے چند ماہ کے
 عرصہ میں خاطر خواہ تنظیم کر لی۔

اب سکھ دربار صاحب میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ دن رات ہمت
 سری اکال نے جے کاروں سے امرتسر کی فضا گونج رہی تھی۔ آخر مارچ
 ۱۹۴۷ء میں سکھوں اور ہندوؤں کا مشترکہ پہلا "جھٹ بے کارے" لگاتا
 ہوا دربار سے نکلا اور کٹرہ جمیل سنگھ سے ہوتا ہوا فرید کے چوک طرف
 بڑھا۔ مسلمان غافل تھے۔ یہاں مسلم آبادی کی اکثریت تھی۔ دوپہر کا وقت
 تھا۔ بعض دوکانوں پر بیٹھے خوش گپی میں مصروف تھے کہ جے کاروں سے
 چونک پڑے۔ "مسو پہلوان" نے دیکھا کہ کوئی دم میں حملہ ہوا چاہتا،
 مسلمانوں نے شور مٹا تو گھروں کی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا۔ ان
 سب کو معلوم تھا کہ سکھوں کا ارادہ کیا ہے۔ مگر یقین نہ تھا کہ انگریزی راج کے
 ہوتے ایسا اندھیر کیسے ہو سکتا ہے۔ مسو پہلوان نے پچیس جوائنٹل کو جمع کیا
 ان کے پاس بھالے اور چھریاں تھیں۔ پہلوان نے کہا کہ پیچھے نہ ہٹنا اور
 نہ تم اور نہ تمہارا ننگ و ناموس محفوظ رہے گا۔ بازار میں ان گنتی کے آدمیوں
 کو صف آرا دیکھ کر سکھ اور ہندو ٹھہر گئے۔ سکھوں کے پاس بندوقیں بھی
 تھیں۔ اندھا دھند فائر شروع کئے۔ اس وقت ایک مسلم نے اپنی

بندوق اور بیک شوٹ کے کارٹوس مسلمانوں کے حوالے کر دئے انہوں نے بھی دو تین فائر کئے۔ مگر اندھا دھند مسلمان جمع ہو رہے تھے۔ ان میں ایک ولاتی پٹھان بھی تھا۔ اس نے بندوق سنبھال لی۔ اور تین فائر ایسے تاک کر کئے کہ تین سکھ بری طرح زخمی ہو کر گرے۔ اور تڑپ تڑپ کر سرور ہو گئے۔ مسلمانوں کے مکانوں سے اینٹ پتھر کی موٹلا دھار بارش نے بھی انہیں پریشان کر دیا۔ مسلمان اب کافی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ خاصہ جی نے پیٹھ دکھائی۔

اب مسلمانوں نے ہلم بول دیا۔ کسٹرو جمیل سنگھ تک تعاقب کیا۔ اس خیال سے کہ ان کی جمعیت کافی نہیں ہے واپس لوٹے۔ یہ تو چوک فرید میں اکٹھے ہو رہے تھے کہ سکھوں کا دوسرا جھٹہ شکست خوردہ جھٹے کو راستہ میں ملا دوڑا۔ پلٹے اور بازار جمیل سنگھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بازار تو خالی تھا۔ وہاں مسلمانوں کی تھیں۔ سب کو آگ لگا دی۔

اس بازار میں وہ کوچہ ہے جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی میاں اسد اللہ وکیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں میرے ہی عزیزوں کے مکان رہائشی تھے یہ بھی آگ کی نذر ہوئے۔ آسمان دھواں دھار ہو رہا تھا اور شعلے بلند ہو کر گرد و نواح کے رہنے والوں کو متنبہ کر رہے تھے۔ چوک فرید کے لوگوں نے بھی اب ہر طرف آگ لگانی شروع کر دی۔

دو روز تک ہنگامہ آرائی رہی۔ اس عرصہ میں نہ کوئی پولیس کا آدمی نہ کوئی فوج سپاہی نظر آتا تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا ادھر میرے دوست کی منظم فوج بھی نکل کھڑی ہوئی۔ جہاں کہیں مٹھ بھیر ہوئی سکھ بھاگے۔ آتشزدگی کی عام وارداتیں ہو رہی تھیں۔ محلے کے محلے ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ اب سکھ بھاگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر بالکل مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ پولیس اور فوج آدھمکی اور امن بجالا کر دیا۔ پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی۔

امرت سر سے باہر پنجاب کے دیگر اضلاع میں ہندو اور سکھوں کے چکے تھے کہ امرت سر میں فساد شروع ہو گیا۔ انہیں یقین تھا کہ خالصہ جی کی فتح ہی فتح ہے اس لئے یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ راولپنڈی میں ان کی تیاری مکمل تھی۔ ایک جلوس نکالا۔ جو مسلمان سامنے آیا مارا گیا۔ یہ جلوس نعرے لگا رہا تھا کہ "اسلام مردہ باد اور لا الہ مردہ باد" شہر میں تو مسلمان مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ علاقہ اکثر و بیشتر مسلمان فوجیوں کا ہے۔ جب آتش فساد کی خبر آگ کی طرح پھیلی تو مسلمان دیہاتی، اسلحہ کے ساتھ آگے اور غنڈے عرصہ میں شہر سکھوں سے خالی ہو گیا۔ یہی حال پنجاب کے دوسرے اضلاع کا تھا۔

تارا سنگھ پولیس کے محافظ دستہ کے ساتھ لاہور آیا اور گورنر بہادر چکنگر سے ملا۔

اس نے زہر خندہ کرتے ہوئے کہا کہ

”دو گھنٹہ کی جگہ میں نے دو دن تمہیں دئے تم تو ڈنڈوں اور اینٹ پتھروں کی تاب نہ لاسکے۔ اب صبر کرو اور تقسیم ہند کا انتظار کرو۔“

۱۷ اگست ۱۹۴۷ء کو تقسیم کا اعلان ہوا۔ بھارتی فوج نے مشرقی پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ پھر فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گیا۔ یہ داستان خونچکان علیحدہ دفتر میں بیان ہو سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ پانچ لاکھ مسلمان زن و مرد نئے مارے گئے۔ بچوں کو سنگینوں اور نیزوں کی نوک پر اٹھا اٹھا کر پھینکا گیا۔ پچاس ہزار عورتیں اغوا ہوئیں۔

پاکستان کے ارباب حل و عقد امن کیٹیاں بنا رہے تھے۔ مہاجرین بدحواس ہو کر لاہور، سیالکوٹ اور دیگر سرحدی اضلاع میں داخل ہو رہے تھے۔ ”ٹریسین“ شہدا کی لاشوں سے بھری ہوئی لاہور کے پلیٹ فارم پر آ رہی تھیں۔ عوام میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور لوگ بے قابو ہو گئے۔ رد عمل مغربی پنجاب میں شروع ہو گیا۔ سکھ اور ہندو متمول تو نقدی اور منقولہ جائداد کے ساتھ مارچ کے واقعات کے بعد ہی بھارت کی طرف نقل مکانی امن کے ساتھ کر رہے تھے۔ لیکن لاہور میں ابھی تک ڈٹے ہوئے تھے اس لئے کہ یہاں سے ہندو میل کے فاصلہ پر بھارت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

اور اس لئے بھی کہ ان کے محلے قلعے تھے اور کسی مسلمان کی جرأت نہ تھی کہ وہاں قدم رکھ سکے۔ امرت سر سے چالیس جوان آئے اور شاہ عالمی دروازہ کے اندر ہندوؤں کے سب سے بڑے گڑھ کو آگ کی بھیٹ چڑھا دیا۔ ادھر مسلمان اور ادھر سکھ قتل ہو رہے تھے اب بھارت والوں کو بھی معلوم ہوا کہ رد عمل شروع ہو گیا اس لئے مسلح صفائی کی بات چیت شروع ہو گئی۔ جانی نقصان مسلمان کا ہوا اور مالی ہندوؤں اور سکھوں کا۔ جب کبھی یہ داستان لکھی جائے گی خون کے حرفوں سے لکھی جائے گی۔

سکھوں کو یہ سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ تقسیم کے بعد پنجاب کا جو بھی حصہ پاک سے علیحدہ ہو گا وہ سکھ ریاست ہو گا۔ یا ان کو یقین تھا کہ جو حصہ پاکستان میں شامل ہو گا۔ اگر بزرگ کرپان لے سکے تو وہ بھی ان کا ہے۔ مشرقی پنجاب سے مسلمان جن کا خانماں اور ننگ و ناموس لٹ رہا تھا یا تو مارے گئے اور بقیہ السیف پاکستان میں بے سروسامانی کی حالت میں داخل ہو رہے تھے

ادھر تارا سنگھ بھارت سے مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے دو ڈویژن فوج دو۔ مغربی پنجاب چند گھنٹوں میں لے لیتا ہوں۔ دو گھنٹہ میں امرتسر تو مسلمانوں سے خالی نہ کر سکا۔ لیکر اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کر دکھاتا اگر اس کو ایک ڈویژن ہی مل جاتا مسلمان پانچ جو برطانیہ کی فوج میں ملازم تھے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر کے ہوتے تھے تقسیم کے بعد جو کچھ مغربی پاکستان تھا بمنزلہ صفر تھا۔ اگرچہ برطانیہ بھارت اور پاکستان کے تحفظ کا جب تک وہ دولت مشترکہ برطانیہ میں شامل ہیں ذمہ دار تھا اس لئے علانیہ بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا لیکن

خوتے بدرا بہانہ بسیار است

جب پاکستان کی حکومت نے بھارت کو اس انسانیت سوز حرکات کی طرف توجہ دلائی تو جواب ملا کہ

”ریاستوں سے تو ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں گے اور عوام بالخصوص ہمارے قابو میں نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ سکھ قوم جس کی کل تعداد بمشکل چالیس لاکھ ہوگی۔ روایتی شورہ پشت تھی۔ نہ کبھی چین سے بیٹھی نہ کسی کوچین سے بیٹھنے دیا۔ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں سکھ حکومت قائم کر لی تھی اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اور سکھ بے قابو ہو گئے۔ جو بھی رنجیت سنگھ کی گدی پر بیٹھا۔ ایک دو روز کے عرصہ میں مارا گیا۔ برطانیہ نے آسانی سے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی عہد میں بھی یہ قتل و غارت سے باز نہ آئے۔ اگرچہ پاکستان کو لاکھوں جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ لیکن اس لعنت سے پاک ہو گیا بھارت کے مدبر اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے پہلو میں یہ ایک کانٹا ہے اور ہمیشہ کھٹکتا رہے گا۔ اس لئے اس کو پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اس کو فرقہ وارانہ فساد سے تعبیر کیا۔ غرض یہ تھی کہ سکھ اگر ختم نہ ہوتے تو اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ان میں اتنی سکت باقی نہیں رہے گی کہ سر اٹھا سکیں اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ جائے گا اور اکھنڈ ہندوستان کا خواب بھی پورا ہو سکے گا۔ اس قتل و غارت میں سکھوں نے ہی عملاً حصہ لیا اور وہی زیادہ تر مارے گئے۔ جب امن قائم ہو گیا۔ تو سکھ پنچ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ مشرقی پنجاب میں ایک سکھ ریاست قائم کی جائے جو بھارت کے تحت رہے گی۔ "پٹیل" نائب وزیر اعظم بھارت نے خالصہ جی کو صاف صاف لفظوں میں کہا کہ تمہاری کرپا نہیں اب نیام ہی میں زنگ آلود ہو کر رہ جائیں گی۔ سکھوں نے کہیں کہیں تارا سنگھ کی قیادت میں شورش برپا کی۔ پٹیل نے دو دفعہ تارا سنگھ کو "جیل یا تارا" کرائی۔ کسی سکھ مورمانے دم نہ مارا۔

قائد اعظم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں نہ ہندوؤں اور نہ برطانیہ سے ڈرتا ہوں لیکن سکھوں کی طرف سے مطمئن نہیں۔ اور مسلمانوں کو متنبہ کیا تھا کہ تمہیں سکھوں کے ہاتھ سے نقصان پہنچے گا۔ قائد اعظم سکھوں کو جہاں ان کی اکثریت تھی سکھ ریاست کی پیشکش سے مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ مگر تارا سنگھ نے یہ کہہ کر ٹھکرادی کہ کو بلجا نڈ ہم مسلمانوں کے قریب تر ہیں مگر قومیت ہماری ہندو ہے اور میں اس کے تقاضے کو ترجیح دیتا ہوں۔

تیار اسنگھ جیل میں تھا اور سکھ اس پر لعنت بھیج رہے تھے کہ ریاست بھی ہاتھ سے
دی اور نقصان مایہ و شہادت ہمسایہ" بھی مولی۔

۲۵ جولائی ۱۹۴۷ء کو لارڈ مونٹ بیٹن نے بحیثیت گورنر جنرل اور وائسرائے
تاج برطانیہ راجوں اور نوابوں اور ان کے وزراء کی کانفرنس میں تقریر کی کہ
انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ (INDIAN INDEPENDENCE ACT) کی
شرائط کے تحت ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے دن سے برطانیہ کا اقتدار ان کے
سرور پر سے اٹھ جائے گا۔ ریاستیں مجاز میں کہ یا تو پاکستان یا بھارت سے
اپنا الحاق کر لیں یا دونوں سے آزاد خود مختار رہیں۔

مگر مخلصانہ مشورہ یہ بھی دیا کہ

"پاکستان اور بھارت میں سے جو بھی ان کے ملحق الحدود ہو اس سے
رابطہ اتحاد قائم کر لیں، اگر وہ آزاد ہی رہنا چاہیں تو دفاع اور خارجی تعلقات
اور بیرونی رسل و رسائل ایسے امور ہیں کہ اس میں انہی کا مفاد ہے کہ ان
دونوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیں۔"

ہندوستان میں ریاستوں کی تعداد پانچ سو چھیالیس تھی۔ چند بڑی اور اکثر
چھوٹی تھیں۔ اکثر کے حکمران ہندو راجے تھے اور اکثریت آبادی ہندو تھی۔ اس لیے
نجیرا سی میں دیکھی اور ہندو دھرم کے نام پر ان سے اور ان کی رعایا سے بھی اپیل کی
تھی اس لئے اکثر بھارت میں مدغم ہو گئیں یہ چاروں طرف سے بھارتی علاقہ میں گھر
ہوتی تھیں کیا کر سکتی تھیں۔

سوال صرف دو ریاستوں کا تھا۔ ایک حیدرآباد دکن اور جو ناگرٹھ کا۔ دونوں
ریاستوں میں ہندو اکثریت تھی۔ حیدرآباد تمام ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست
ہے۔ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھی۔ جو ناگرٹھ براہ بھریا پاکستان سے ملحق ہے اور
نواب نے الحاق پاکستان کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ مگر بھارت نے پہلے ہمسایہ ریاست
میں فوج جمع کی۔ پھر اس بنا پر کہ ہندو اکثریت پاکستان کو نہیں دی جاسکتی ریاست

میں داخل ہو گئی اور قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد استوائی بھارتی فوجوں کی موجودگی میں ہوا۔ پاکستان نے "یو۔ این۔ او" کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ مسئلہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہے۔ حیدرآباد میں "سید قاسم رضوی" نے رضا کاروں کی ایک فوج تیار کی اور مقابلہ کے لئے تیار ہوا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شور با۔ ریاست میں سولہ اطراف سے بھارتی فوج داخل ہو گئی۔ ریاستی فوج نے بغیر لڑے مرے ہتھیار ڈال دئے۔ خود حضور نظام نے ۲۳ ستمبر ۱۹۴۸ء کو ریڈیو پر تقریر نشر کی کہ

میں تو شروع سے ہی بھارت سے دوستانہ الحاق کا خواہشمند تھا مگر وزراء مانع تھے :

قاسم رضوی اور اس کے رفقاء کا راب حیدرآباد جیل میں ہیں۔ حیدرآباد کا معاملہ بھی یو این او میں پیش ہے۔

جو ناگر ٹھ کے بارہ میں مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ وہاں ہندو اکثریت ہے اور یہ بھارت سے الحاق کی خواہاں ہوگی لیکن کشمیر میں چالیس لاکھ کی آبادی میں تیس لاکھ مسلمان ہیں اور پاکستان سے ملحق الحدود ہے۔ اس کا الحاق تو ضرور پاکستان سے ہونا چاہیے جو ناگر ٹھ میں نواب مسلمان ہے اور ریاست جموں و کشمیر میں ہندو ڈوگرہ راجہ۔

خود پنڈت نہرو یہ اعلان کر چکا تھا کہ کسی نواب یا راجہ کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی ہندویا مسلم رعایا کے علی الرغم بھارت یا پاکستان سے الحاق کی خواہش کرے۔ لیکن یہ اعلان اس وقت کا ہے جب مسئلہ جو ناگر ٹھ پیش نظر تھا۔ اب کشمیر کا معاملہ آیا تو یہ اعلان محافظہ سے اتر گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت کا گورنر جنرل مونت بیٹن تھا۔ ہم بیان کر آئے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعہ ضلع گورداسپور جہاں مسلم اکثریت تھی اور پاکستان سے ملحق بھی تھا بھارت کو دیا گیا۔ یہ صریح ہے ایانی اس لئے روار کھی گئی کہ ریاست جموں اور کشمیر کا یہی واحد راستہ تھا جو بھارت کو ریاست سے ملاتا ہے۔ اگر یہ ضلع نہ دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ بھارت کا الحاق کشمیر سے ممکن نہ تھا۔ اس الحاق کی بنیاد ریڈ کلف ایوارڈ میں رکھی گئی۔ لیکن ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا بھی مد نظر تھا۔ اور مونت بیٹن نے بھارتی فوجوں

کو بھیج دیا تھا۔ مسلمانان ریاست بعض مقامات پر جو پاکستان کی سرحد پر واقع تھے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قبائلی پٹھان بھی شمال کی طرف سے آئے۔ مسلمانان ریاست نے آزاد کشمیر گورنمنٹ قائم کر لی جس کا مرکزی مقام 'پلندی' ہے۔
مجھے بھی بحیثیت اعزازی ڈسٹرکٹ و سشن جج اس کے تحت چھ ماہ کام کرنے کا شرف حاصل رہا۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع میں فخریہ کہا تھا کہ میں نے پاکستان خون ریزی کے بغیر لیا ہے۔ لیکن جب عام قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا جس کا مذکورہ ہم کرائے ہیں اور کشمیر کے الحاق کا اعلان راجہ نے کر دیا تو ایسا صدمہ ہوا کہ جانبر نہ ہو سکا۔ تمام کاروبار سلطنت کا بوجھ اس کے کندھوں پر آپڑا تھا اور اس کی جیب میں چند سگے تھے مگر کھوٹے۔ ستر سال سے زیادہ عمر تھی اور صحت بھی جواب دے چکی تھی۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء میں حرکت قلب بند ہو گئی اور یہ شخصیت جس کی قیادت سے تمام دنیائے اسلام کی توقعات وابستہ ہو رہی تھیں ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی۔ "انا للہ وانا الیہ راجعون"

پاکستان کیا کل دنیائے اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ میں نے بھی ہدیہ عقیدت ذیل کے اشعار میں شیخ سعدی کی زمین میں لکھے۔ لاہور کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا۔
آسمانِ راحتِ بود گر خونِ بگرید بر زمین

بروفاتِ قائدِ اعظم اہلسیر المؤمنین

آج اٹھتا ہے جنازہ اس مسلمان جاہ کا

ملکِ پاکستان کل تک جس کے تھا زیر نگین

زندہ پاکستان جس کے دم سے تھا ہے ہم نفس

آج وہ ہے ہم نشین عیسیٰ گروں نشین

کوئی پتلا بے خدرا وہ کہاں روپوش ہے

وہ مرا خضر طریقت رہنمائے مسکین

محلِ بیسی کی مجنوں کو رہا ہے بستجو

سنا ہے بانگِ دریا صحرابیں وہ شاید کہیں

آئینہ خانہ میں عالم کے عین ششدرہ گیا

مثل اس کا اب کہیں مجھ کو نظر آتا نہیں

کون اس بار امانت کو اٹھائے گا یہاں

ساکنان نہ ملک سے جب کہ اٹھ سکتا نہیں

یا الہی قائد اعظم کا دے نعم البذل

استجب هذا دعائی یا الہ العلیین

چوں سلیمان دعا معفرت از جاں کنند

از زمین عرش آیں می کنند روح الامیں

بھارت کو بھی اچھا موقعہ ہاتھ لگا۔ حیدرآباد وکن پر حملہ کر دیا۔ کشمیر میں جنگ جاری تھی

پاکستان کی سرحدوں پر جو بھارت سے ملحق ہیں پانچ ہندوستانی ڈویژن اس انتظار میں تھے

کہ اگر پاکستان نے مداخلت کی تو اس پر ہلہ بول دیا جائے۔

قائد اعظم کراچی ہی میں ۲۵ دسمبر ۱۹۶۷ء میں پیدا ہوئے اور یہیں مدفن بنا جو اب

زیارت گاہِ دنیا ہے۔

کشمیر میں بھارت کی منظم فوج نئے اسلحہ سے آراستہ غیر منظم قبائلی مجاہدین کے ہاتھ سے

بڑی طرح پٹ رہی تھی۔ ٹھیک وہی حالت تھی جو فلسطین میں یہود کی عربوں کے مقابلہ میں

تھی۔ کشمیر میں متارکہ (CEAGE FIRE) نے نقشہ بدل دیا۔ یو این او کا دروازہ بھارت کھٹکھٹا

چکا تھا۔ نمائندے آئے اور خان لیاقت علی خاں (مرحوم) کو جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم

تھے۔ متارکہ پر مجبور یا رضامند کر لیا۔ مفتوحہ علاقہ کالمی زرغیز حصہ متارکہ کی حد بندی کے

فدیہ واپس دینا پڑا۔ قبائلیوں کو نکالا گیا۔ اور بھارت کو موقعہ دیا گیا کہ اپنا عسکری قبضہ اس

حصہ پر کرنے جو سرسبز اور زرخیز ہے۔ پاکستان کے ملحق الحدود پہاڑی علاقہ اور جنگل پر

آنا و کشمیر کی فوج باقی رہ گئی۔

پاکستان کی عمر چار سال ہے اور کشمیر پر بھارت کے قبضہ کی بھی یہی عمر ہے۔ بلا مداخلت

خارجی وہ اپنی سلطنت یہاں مضبوط اور مضبوط تر بنا چکا ہے۔ اس میں بھارت کا وقار اور پختہ
نہرو کی وطنی محبت کا جذبہ بھی کار فرما ہے۔

مسئلہ کشمیر کی گتھی "یو این او" سلہانے میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی "کا معاملہ ہوتا تو کبھی
کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ ایک کمیشن کے بعد دوسرا کمیشن آتا ہے۔ اور اپنا سامنہ لے کر یا پاکستان
کا منہ چڑا کر چلا جاتا ہے۔ غرض بظاہر تو اتنی ہے کہ وقت گزرتا جاتے۔ معاملہ دیرینہ ہوتا جاتے۔
عوام کی ذہنیت سے رفتہ رفتہ یہ اہم مسئلہ اتر جاتے۔ آخری کمیشن ڈاکٹر گراہم (GRAHAM) کا
چند روزہ ہوتے واپس گیا۔ اور اپنی رپورٹ مرتب کر کے "یو این او" میں پیش کریگا۔ پاکستان کو
حدود پر حسب بیان خان لیاقت علی خان نوے فیصدی بھارتی فوج پر جمع ہو چکی ہے۔ اور
ریاست میں شیخ عبداللہ وزیر اعظم منجانب بھارت کی نگرانی میں استصواب رائے ہو رہا
ہے۔ اور یہ وہ مطالبہ ہے جو "یو این او" میں پاکستان کا ہے کہ غیر جانبدارانہ ہو۔

میں نے مسئلہ کشمیر پر بہت کچھ لکھا۔ میرے مقالے مسلم روزناموں میں جولائی ۱۹۵۱ء سے شائع
ہوتے ہیں شائع ہو چکے ہیں۔ اور میری روزانہ یادداشت میں شامل ہیں جس کا ذکر میں نے
پاکستان کے شروع میں کیا ہے اور سردست مناسب بھی یہی ہے کہ زبان منہ میں خاموشی اختیار
کرے۔ اور زبان قلم بھی چپ سادہ لے کر

"رموز مملکت خویش خسرواں دانند"

ان حالات میں کہ مجھے "راز درون پردہ" کا علم نہیں۔ اور کسی پاکستانی مسلمان کو نہیں کہ
ارباب حل و عقد اور برطانیہ اور امریکہ میں کیا گفت و شنید ہو رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان
کا تعلق ہے۔ یہ باتیں مبیغہ راز میں ہیں۔ پنڈت نہرو بھارتی وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ ڈاکٹر گراہم
نے مجھ سے مسئلہ کشمیر پر مبادلہ خیالات ہی نہیں کیا۔ اور اسی کی موجودگی میں بھارت نے اپنی
نوے فیصدی فوج پاکستان کی حدود پر جمع کر دی۔ ڈاکٹر گراہم نے بھی اتنا ہی کہا کہ میں نے
پنڈت نہرو کو مشورہ دیا تھا کہ

"اسمبلی جو اس ماہ ستمبر میں مجذہ ہے۔ اس کا انتخاب جنوری ۱۹۵۱ء پر

ملتی کر دو۔ مگر اس نے نہ مانا۔"

خوش قسمتی سے خاں لیاقت علی خاں وزیر اعظم پاکستان،
خان لیاقت علی خان کرنال کے جاگیردار خاندانی نواب ہیں۔ قائد اعظم کے دست

ریاست رہے اور شروع سے وزارت عظمیٰ پاکستان ان کے ہاتھ میں رہی۔ انٹریم گورنمنٹ میں
 مسلم ارکان کی قیادت بھی آپ نے کی۔

قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ہوتے جو ڈھاکہ کے مشہور کشمیری
 نواب خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔

وزیر خارجہ چودھری سر ظفر اللہ خاں سیالکوٹی احمدی قادیانی ہیں جو برطانوی عہد میں
 اعلیٰ ذمہ دار عہدوں پر متنازعہ رہے۔ فن تقریر میں یدِ طولیٰ ہے۔ بیرسٹریٹ لاپس ہو این او میں
 کئی تقریریں کر چکے ہیں۔ ایک تقریر چھ گھنٹے تک جاری رہی۔ "بیکارڈ" توڑ دیا۔ ریڈ کلف بونڈ
 کیشن کے سامنے پاکستان کی ناستدگی کی اب تنازعہ جو ناگزیر اور ریاست جموں و کشمیر میں
 پاکستان کی وکالت کا حق عرصہ چار سال سے فرار ہے ہیں۔

مال و مالیات کی الجھنوں کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ خوش قسمتی سے پاکستان کو
 غلام محمد صاحب لاہوری سی شخصیت مل گئی۔ انہی ایام میں جب کہ برطانیہ نے سگہ کی قیمت
 گرا دی اور بھارت نے بھی تقلید کی تو اس روشن و مارغ نے پاکستانی ساکھ بحال رکھی۔ بلکہ دنیا
 پر اپنی قابلیت اور پاکستانی ساکھ کا سکھ جما دیا۔

ریاست جموں اور کشمیر زندہ دلان پنجاب کے نزدیک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔
 پاکستان کے لفظ کا حرف "کاف" اس کی جہان ہے اگر یہ اڑ گیا تو پاکستان داستانِ پاکستان
 ہو کر رہ جائے گا۔ پنجاب کے تین دریاؤں کا منبع ریاست میں ہے۔ اور بھارت اسلٹن
 کر چکی ہے کہ ان پر اس کا حق ہے اور یہ بھی حق ہے کہ ان کا رخ بدل دے۔ اگر کبھی ایسی صورت
 ہو تو حرف "پ" بھی حرف غلط کی طرح محو ہو جائے گا اور پاکستان اگر زندہ رہا تو داستان
 ہی رہ جائے گا۔ معلوم نہیں کس کا ہو گا۔ کشمیر کی حدود تبت اور چین سے ملتی ہیں اور روس
 سے چند میل ہی فاصلہ ہے۔ اس لئے پاکستان کے لئے اس کا قبضہ پاکستان کی زندگی کے
 لئے ناگزیر ہے۔ جس پر پاکستان کی خارجہ اور مدافعتی حکمت عملی (POLICY) اور تحفظ کا

انحصار ہے۔ اس لئے کچھ تعجب نہیں اگر ریاست جموں و کشمیر کے پاکستانی ملحقہ علاقہ پنجاب اور سرحدی صوبہ میں احساس نسبتاً شدید ہو۔

ہمارے وزیر اعظم بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی واقع ہوئے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ دور میں جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ ایسی ہی شخصیت کی ضرورت بھی ہے مسئلہ کشمیر کے سب سے زیادہ اہم ہے مگر اور مسائل اقتصادی اور سیاسی بھی ہیں۔ پاکستان کی خوشحالی، مقابلہ بھارت، وزارت عظمیٰ اور اس کے رفقاء کار کی مرہون ہے۔ مہاجرین کا بوجھ ثابت ہوتا اور محدود رقبہ میں جو پہلے ہی آباد ہے ان کی آباکاری کا سوال دماغ پریشان کر کے لئے کافی تھا مگر جن مردانہ ہمت اور استقلال سے اسے حل کیا گیا ہے اور حل کیا جا رہا ہے (مہاجرت تاحال جاری ہے) لائق مد تحسین ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارہ میں زندہ دلان پنجاب

بے پناہ جوش شاید اس صبر آنا چار سال کے عرصہ کے بعد ننگ لاتے اور غالباً رنگ لائے اگر بروقت اس فوجی سازش کا انکشاف نہ ہوتا جس میں بڑے بڑے فوجی مسلم جرنیل شامل تھے۔ یہ مانوڑ ہوتے اور مقدمہ کی سماعت کراچی میں بصیغہ راجہ جاری ہے۔ سازش کی تفصیل اور جرم کی حقیقت فیصلہ مقدمہ کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے جس کا انتظار ہے۔ کچھ شک نہیں وزارت ماب کی خنک طبعی جو شاید تفریط کی حد تک پہنچ چکی ہے آپ کی ہر دلعزیزی پر جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے مخالفانہ اثر انداز ہوتی۔ لیکن بھارت کے متوقع حملے پھر سے بحال کر دی۔ اور آپ کے سیاسی تدبیر سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ قائم رہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑی ہیں۔ گویا "پیک نیک" منارہی ہیں۔ ریاست ممتازہ میں اسمبلی کی تشکیل کی ابتدائی کار جاری ہے۔ ۲۵ میں سے ۲۵ ممبروں کا انتخاب بلا مقابلہ ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ عوام نے اس میں کچھ حصہ نہیں لیا۔ کسی وقت اس بارود خانہ میں ایک چنگاری بھارت اور پاکستان کو آتشکدہ بنا دے گی۔

بھارت اور پاکستان میں جو واقعات رونما ہو چکے ہیں یا متوقع ہیں۔ عوام ان دونوں کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک مورخ ان حالات میں

نیا جہاں کی قوموں میں ایک ربط قائم ہو چکا ہے عالمگیر سیاست سے علیحدہ نہیں دیکھتا اور
انتاہے کہ انہی الجھنوں نے مسئلہ کشمیر کی گتھی بھی پیدا کر رکھی ہے اور جب تک یہ نہ سلجھے گتھی
سی سلجھ نہیں سکتی۔

پنڈت نہرو کی تمام زندگی ہی سیاسیات میں گزری اور گزر رہی ہے۔ وہ اور اس کے
تقارن اس بساط پر شاطران برطانیہ سے یہ کھیل ایک صدی سے کھیل رہے ہیں مسلمانوں میں
کب بھی ایسا شخص نہیں جس کو اس فن میں مہارت ہو۔ پنڈت تو عالمگیر سیاست اور اس
الجھنوں کو خوب سمجھتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتا رہا۔ اور ہمیں ہر ایک محاذ پر خواہ یہ
ہیدرآباد میں تھا یا جو ناگر ٹھہ میں یا اب کشمیر میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا خود برطانیہ بھی مات
مائیگا۔ اگر ٹونٹ میٹن پلان کے تحت کم از کم حیدرآباد کی کامل آزادی کا اعلان کر دیتا اور بمبئی
حافظ کا کچھ حصہ جو ریاست کو سمندر سے ملاتا ہے اپنے قبضہ میں اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے رکھتا
ورکھ سکتا تھا تو آج ایران اور مصر میں جن مشکلات کا سامنا ہے اور جو مشکلات بھارت
نے کیونٹ چین اور جاپان سے ربط کے ساتھ پیدا کر دی ہیں بیش نہ آئیں۔ لیکن برطانیہ
کی ایرانی پالیسی یہ تھی کہ ریاستیں ختم ہونی چاہئیں۔ وہ خود معاہدات کے ہوتے ایسا اعلان
میں کر سکتا تھا۔ ہرار کا علاقہ ہتھیالیا تو اورنگ آباد بھی لینا چاہتا تھا۔ غرض اس کا ارادہ یہ
تھا کہ اکھنڈ ہندوستان پر اس کی حکومت بلا واسطہ براہ راست ہو۔ یہ منصوبہ بھارت کے
دریغہ تکمیل پا گیا۔

جس طرح برطانیہ ہندوستان ایک بینی دو گوش نکلا اور بے آبرو ہو کر نکلا۔ عوام کا
بھی خیال ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر نکلا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ تاج و تخت، بقول امپیر
لین اول برطانیہ کی سوداگری کا مال ہے جسے چاہے اور جس قیمت پر چاہے اور جب چاہے
بنے کو تیار رہا اور ہے۔ بشرطیکہ گاہک اس کے کام کا آدمی ہو۔ اور اس لین دین میں اسے
زیادہ سے زیادہ فائدہ نظر آئے۔

امیر افغانستان کو حضرت اعلیٰ جلالت مآب کا خطاب دینا چند الفاظ ہی تھے اور
نزد دوز کے بعد بچہ سقہ کو تخت کابل پر بٹھانا بھی کچھ مشکل نہ تھا اور پھر نادریاں کو شاہی کاتب

پہنانا بھی سہل تھا۔ اور اب پاکستان کے خلاف اس کی معاندانہ روش میں بھی ایسی کا فائدہ ہے۔

ایٹلی کی ہدایات کے تحت مونٹ بیٹن نے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعہ پہلے ریاست جموں و کشمیر کا واحد راستہ ضلع گورداسپور بھارت کے حوالہ کر دیا پھر فوج بھی داخل ہو گئی پاکستان کے سرحدیہال سے بندھی ہوئی تلوار افغانستان رکھی کہ یہ سمجھ لو کہ اگر ریاست پر مداخلت کی تو افغانستان پاکستان پر حملہ کر دے گا اس کا اپنا مطالبہ بھی ہے کہ تمام پختون اور پختونستان اس کا اپنا ہے۔ پاکستان غاصب ہے۔ یہ پختون کا ڈھونگ اتحاد اسلامی (PAN ISLAMISM) پر گہری کاری ضرب ہے جس کا خواب سید جمال الدین افغانی دیکھ رہا تھا۔ ترکوں نے اتحاد ترک کو اور عربوں نے اتحاد عرب کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ افغانستان میں خالص اسلامی آبادی ہے مگر نسلی امتیاز کی وحشت نے وحدت اسلامی کا بھی پاس نہ کیا۔

کشمیر میں مسلمان صد ہا سال سے محکوم ہیں۔ بالخصوص دو صدی کی ڈوگرہ حکومت اور اس کے مظالم نے احساس خودداری بھی مٹا دیا۔ اگر شیخ عبدالقدیر بھارت کی بساط سیاست پر مزہ نہ بنا تو اور بہت تھے۔ ان سے پاکستان کو کیا توقع ہو سکتی ہے کانگریس تو ابتدا سے ہی ان کے معاملات پر نگران رہی۔ اس کے اکابر ہمیشہ اکثر یہاں آیا کرتے تھے اور ان سے ربط و ضبط بھی قائم کر چکے تھے۔ لیگ نے نہ کبھی اس طرف توجہ دی اور نہ کبھی مظلوم کشمیریوں کی مدد کی۔ لیکن کشمیری مسلمان اتنا بے وقوف نہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان ہی اس کی جائے پناہ ہے اور جو کچھ ہمسایہ پنجاب میں ہوا وہی کچھ یہاں بھی ہوگا۔ اور اس "المیہ" کا پہلا پارٹ تو کشمیر میں کھیلا بھی جا چکا ہے۔ ابھی پر وہ نہیں گرا۔ بہر حال یہ حقیقت جو بدیہی بھی ہے ناقابل انکار ہے کہ لارڈ مونٹ بیٹن کی گورنر جنرلی میں بھارت نے ریاست پر قبضہ جمایا اور ضلع گورداسپور بھی ہتھیالیا۔ انگریز کی ہتھی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی پالیسی "ذاتی نہیں ہوتی قومی ہوتی ہے اور قوم کی نمائندگی اس کی وزارت ہے۔ وزارت اس وقت ایٹلی اور اس کے کابینہ کی ہے مونٹ بیٹن

لئے جو کچھ کیا خود سرانہ نہیں کیا

آنچہ استاد ازل گفت ہماں می گوید

اگر ہماری وزارت یہ توقع برطانیہ سے رکھے کہ وہ ریاست میں پاکستان کا حق اصول تقسیم کے تحت تسلیم کرے تو خود فریبی کی بھی یہ ایک تاریخی مثال ہوگی۔ پاکستان مشترکہ دولت برطانیہ میں شامل ہے اور اگر اس کے ارباب نظم و نسق سے بھی کوئی دل خوش کن وعدہ کیا گیا ہے تو کاش امیر افغانستان حبیب اللہ اور والے مجاز شریف مکہ کی روح کسی کے خواب میں آتے اور یہ کہے کہ من نہ کروم شہا حذر بکنید یا نظام حیدرآباد کی زندہ مثال سے درس عبرت لے۔

ارباب صل و عقد کو یہ بھی سیاسیات کا ابتدائی درس نہ بھولا ہوگا کہ جب حکومت اصل حالات سے عوام کو آگاہ نہیں کرتی تو عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ یا تو وہ رازداری کے لائق ہی نہیں یا ان پر حکومت کا اعتماد کسی وجہ سے نہیں۔ دونوں صورتوں میں عوام قیاسات سے کام لیتے ہیں اور انہیں اگر ان کی تردید نہ کی جائے حقائق کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی ایک افواہ کا کرشمہ تھا کہ خان لیاقت علی خاں پہلی دفعہ لندن کانفرنس وزراء دولت مشترکہ میں شریک ہوئے تو لاہور کے موقر انگریزی روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے یہ بے پر کی اڑائی کہ

ہمارے وزارت تاب ایک معاہدہ کے ذریعہ ریاست جموں و کشمیر کے دعویٰ سے دست بردار ہو گئے۔

اس خبر نے ایک ہیجان برپا کر دیا۔ مرکز سے تردید نہ ہوئی۔ تو یقین پختہ ہو گیا۔ مگر وقت پر صوبائی گورنمنٹ نے اخبار مذکور کی اشاعت تین ماہ کے لئے بند کر دی۔

وہ زمانہ گیا جب معاہدہ کی تقدیس اور احترام قومی وقار کا نشان تھا۔ اب ہرے کمزوری کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لئے کئے جاتے ہیں اور ایسے معاہدے غیر مساوی ہوتے ہیں۔ مصر اور ایران میں حالیہ واقعات واضح مثالیں ہیں۔ ایسے معاہدات جب حالات سازگار ہوں اسی لائق ہیں کہ توڑ دئے جائیں۔

پاکستان کی گذشتہ چار سالہ تاریخ بلحاظ اقتصادیات اور سیاسیات و معاشرت کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو یہ بھی لکھی جائے گی۔ ہم نے بالاختصاص ان اسباب کی وضاحت کی ہے جو پاکستان کے ظہور کا موجب ہیں۔ لیکن ایک بات امید افزا بھی ہے اور جو صلہ شکن بھی ہے یہ ہے کہ سیاسیات میں جذبات کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ اس بساط پر عقل اور صرف عقل کا کام ہے۔ ہندوؤں کی مسلسل دشمنی، شورش اور فساد جس سے انگریز نالائق تھا۔ مسلمانوں کی غیر منقطع دوستی اور وفاداری جس کی تعریف میں انگریز رطب اللسان تھا۔ سیاسی نقطہ نظر سے بے معنی تھی۔ برطانیہ نے سب کچھ دشمن کو دیا۔ اور دوست کو ممکن محرومی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے بھی برطانیہ کی عالمگیر پالیسی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ہندو ہندوستان میں محدود ہے اور لسان اور الوان کا اختلاف کسی وقت بھی اسے ختم کر سکتا ہے۔ اگر آج انگریز سکھوں کو شہ دے تو بھارت کے حواس غم سے درست ہو جائیں۔ لیکن مسلمان امت واحدہ کم کم اعتقاداً ضرور ہیں اور اوقیانوس سے بحر کابل تک پھیلے ہوتے ہیں اور برطانیہ یا امریکین بلاک کو دنیا سے اسلام سے منپٹنا ہے۔ یہ بلاک جب چاہے بھارت کو چب چبوا سکتا ہے مگر دنیا سے اسلام سے منپٹنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔

پاکستان بنا تو اس لئے کہ بھارت خوفزدہ رہے۔ لیکن پاکستان اگر طاقتور جاتے تو اینگلو امریکن بلاک کو اپنی خیر نظر نہیں آتی۔ خیر اسی میں ہے کہ پاکستان کمزور اور اس بلاک کی امداد کا محتاج رہے مگر قائم رہے۔ روس اور اینگلو امریکن بلاک متوقع جنگ ہی بھارت اور پاکستان کی آئندہ قسمت کا فیصلہ کرے گی۔

وہ مورخ ہی کیا جو واقعات کی رفتار دیکھ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ منزل کس اور کتنی دور ہے۔ لیکن ہم تو واقعات لکھ رہے ہیں۔ بیشک کوئی کئے لئے ابھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواہ روس متوقع جنگ میں شکست کھا۔ یا قتا ہو جائے۔ کیونکہ مسلسل اقوام میں شائع ہوگا اور آخر ہی غالب آئے گا۔

کو جمہوریہ روس سے علیحدہ دیکھنا چاہیے۔

ہم خلافت اسلامیہ پر جو کچھ لکھنا تھا لکھ چکے تھے۔ کتابت ہو رہی تھی اور کتاب پرنس
جاننے والی تھی کہ یہ واقعہ ریڈیو پاکستان نے بروز منگل بتا دیا۔ ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۱ء نشر
کیا کہ۔

”قائد ملت ڈاکٹر خان لیاقت علی خاں وزیر اعظم پاکستان بمقام
راولپنڈی جبکہ آپ ایک مجمع عام میں تقریر کے لئے اٹھے تھے کہ ایک
سفاک کی گولی کا نشانہ بنے۔ قاتل ایک افغان باشندہ ہے اور کچھ عرصہ
سے ایبٹ آباد صوبہ سرحد میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔

ریڈیو نے یہ بھی بتایا کہ

”افغان قونصل متعینہ پشاور اس واقعہ سے پانچ گھنٹہ پیشتر پشاور سے
پر اسرار طریقہ سے گم ہو گیا۔ سرحدی پوسٹ سے مزید حالات معلوم ہوئے
کہ یہاں وہ دو گھنٹہ ٹھہرا۔ جب اسے اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فوراً کابل کی
طرف روانہ ہو گیا۔

غرض قتل کا الزام افغانستان پر منجانب پاکستان عاید کیا گیا۔ کابل ریڈیو نے پرسوں
اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ لیکن اتنا تسلیم کیا کہ

”قاتل ضرور افغانستان کا باشندہ تھا مگر جب حکومت افغانستان کو اس
کی سازش کا علم ہوا جو برطانیہ سے افغانستان کے خلاف کر رہا تھا تو
حکومت افغانستان نے اسے نکال دیا۔ برطانیہ نے اسے ایبٹ آباد میں
میں بسایا اور پینشن بھی مقرر کر دی۔ یہ واقعہ آج سے دس سال پیشتر کا ہے۔

افغان حکومت اس قتل سے اپنے آپ بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس
میں کچھ شک نہیں کہ حال ہی میں وزیر اعظم افغانستان دہلی گیا اور وہاں حکومت بھارت
سے اس کا کچھ خفیہ معاہدہ بھی ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ باہمی امداد کے بارے
میں ہے جو دونوں حکومتیں بحالت جنگ ایک دوسری کی کریں گی۔ اس کے بعد بھارت
حدود پاکستان پر اپنی نوے فی صدی فوج جمع کر دی اور کشمیر میں انعقاد اسمبلی کی کارروائی

بھی شروع کر دی جو اب تکمیل پا چکی ہے۔

بھارت سیاسی چال چل گیا۔ دو مسلمان حکومتوں کو ایک دوسرے سے الجھ دیا۔ اور کشمیر کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ پنڈت نہرو ڈاکٹر گراہم کی موجودگی میں عدالت کر چکا ہے کہ ہم کشمیر کی جنگ جیت چکے ہیں۔

ماننا پڑتا ہے کہ حریف یہ جنگ جیت گیا۔ اور ہم ہار گئے۔ اور کہاں اور کس جگہ نہیں ہارے۔ ہر ایک محاذ پر ہمیں پسپا ہونا پڑا۔ لیکن جنگ جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آخر فتح ہماری ہی ہوگی۔ ان اوراق میں ہم ان اسباب پر بحث کر چکے ہیں جو واقعات حاضرہ کے پس منظر کا رہا ہیں۔

ہمارے وزیر اعظم کے قتل کی تمام ترمذی داری "یو این او" پر عاید ہوتی ہے۔ بھارت اور افغانستان کی سازش اور اس کا نتیجہ خواہ بظاہر یہ بزدلانہ حملہ ہو جو ہمارے وزیر اعظم پر ہوا۔ مگر اس کی تہ میں وہی مسئلہ کشمیر ہے جو بھارت اور پاکستان کے درمیان بابہ النزاع ہے۔ بھارت کی غرض تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان سے الجھے یا افغانستان الجھائے رکھے دونوں لڑیں اور کمزور ہوں۔ اور پاکستان کی توجہ کشمیر سے ہٹ جائے۔ یہ ایک سیاسی غلطی ہوگی اگر ہم نے بھارت کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیا۔ پاکستان کا دشمن بھارت ہے۔ افغانستان سے ہم بعد سمجھ لیں گے۔ افغان قوم کو حکومت افغانستان سے بالکل علیحدہ دیکھنا چاہیے ان سے ہمارا برادرانہ تعلق مذہباً ہے اور قائم ہو سکتا ہے۔ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موجودہ افغان حکومت جو ایک خاندان کی حکومت ہے ختم ہو جائے اور افغانستان بھی آزادی فضا میں سانس لے۔ بھارت سے ہمارا تعلق کبھی دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ اور ارشاد قرآن بھی ہے کہ

"تم ایسے احق ہو کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا بڑھا رہے ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں۔"

بہر حال "یو این او" یا اسلام کا بدترین دشمن برطانیہ ہی اس قتل کا ذمہ دار ہے۔

نے مسئلہ کشمیر کو اتنے ساہوں سے کھٹائی میں ڈال رکھا۔ کوریا اور ایران اور مصر کے
ساتل جو گل کی پیداوار ہیں یو این اے میں مسلسل زیر بحث ہیں اور عملی کارروائی بھی ہو
رہی ہے مگر مسئلہ کشمیر کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ اس کو زیر بحث لایا جائے۔ ڈاکٹر
راہم اب ایک اور کمیشن کی سفارش فرماتے ہیں۔

تاتریاق از عراق آوردہ شود

مارگزیدہ مردہ بود!

ہم لکھ چکے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر خود برطانوی مدبروں نے بھارت کو دی
اور اس کا راستہ ضلع گورداسپور جہاں مسلم اکثریت تھی ٹریڈ کلفٹ ایوارڈ میں دیا
گیا۔ اینگلو امریکن بلاک سے یہ توقع کہ وہ بھارت سے چین کو پاکستان کو دے گا
ایک سیاسی غلطی تھی جو ہماری حکومت سے سرزد ہوئی۔ اور اس بلاک نے ہماری
مزدوری کا خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر ہم ریاست جموں و کشمیر اور مشرقی پنجاب کے اضلاع
کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں لے سکتے تو ہمیں تیسری جنگ عظیم کا انتظار کرنا
چاہیے اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے۔

یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بھارت اگر ہمارا "عدو مبین"
ہے تو برطانوی امریکن بلاک پوشیدہ دشمن ہے۔ اگر یہ بھارت کا پشت پناہ نہ
ہوتا اور اس کو تقویت ہم نہ پہنچاتا تو ہم بھارت کو باوجود بے سروسامانی کچل کر
رکھ دیتے۔

ہمارے مقتول اور مرحوم وزیر اعظم سے سیاسی غلطی یہ ہوئی کہ اس بلاک سے
مدد کی توقع رکھی اور لندن اور واشنگٹن کو قبلہ حاجات سمجھا۔ ہم نے تو پہلے ہی دن
کہہ دیا تھا کہ

ترسم نرسی بہ کعبہ سے اعرابی

کیں رہ کہ تو میروی بالگلستان است

جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اور متوقع تھا۔ لیکن اب مرحوم کے جانشین کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قائد ملت کو قائد اعظم کے پہلو میں سپردِ خاک کیا لیکن یہ قتل، بزدلانہ قتل ایسا نہیں کہ تاریخ فراموش کر دے۔ مسلمانوں کی عبرت ملی اور قومی کو کھلا چیلنج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میری قوم اسے قبول کرتی ہے یا اور دیتی ہے۔ مگر ہمیں جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ ناخن فکرو تدبیر سے اس کو سلجھانا چاہیے۔

خوش قسمتی سے گورنر جنرل ہمارے زندہ دلان پنجاب کے نامزد منتخب ہیں۔ اور خان لیاقت علی خاں کے جانشین خواجہ ناظم الدین خود کشمیری ہیں۔ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو خواجہ کو اس سے زیادہ ہے۔ پاکستان پائینڈ

ملاحظہ فرمائیں
مقامی کارکن
مقامی قیود
مقامی سنت
مقامی اتحاد



149

مورخین اسلام

جیل برن انڈیا
۸۷۸۸۱

ہماری کتاب خلافت اسلامیہ کا انڈیز مورخین اسلام کی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کچھ تو ہم نے اصل اور کچھ تراجم میں مطالعہ کیا۔ کچھ اقتباس ہیں جو ان کتابوں میں جو ہمارے مطالعہ میں نہیں دیئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ یورپین مورخین کی بہت کتابیں ہماری نظر سے گزر چکی ہیں ان میں سے "گین" انگریز مورخ کا حوالہ ہم نے مناسب مقام پر دیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب "مشق" اور "بغداد" میں مورخین اسلام اور ان کی تواریخ کا حوالہ دیا ہے اس لئے ان اوراق میں بار بار حوالہ کی ضرورت نہیں تھی۔ تواریخ کے اصناف بہت سے ہیں۔ ان میں سے "تواریخ عمومی" میں مولف اپنے زمانہ کے حالات عمومیہ کے علاوہ وہ واقعات بھی قلم بند کرتا ہے جو اس کے اپنے زمانہ سے پیشتر مختلف اقوام اور ممالک میں رونما ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی تواریخ "طبری" اور ابن اثیر کی مشہور ہیں۔ کہ حضرت آدم سے لے کر اپنے زمانہ کے حالات لکھے۔ دوسری قسم "تواریخ خصوصی" کی ہے۔ اس میں مورخ کسی ایک زمانہ یا قوم یا ملک کے حالات بیان کرتا ہے اس قسم کی تواریخ میں "واقعی" کی فتوح ہشام وغیرہ داخل ہیں۔ اور ہماری کتاب بغداد اور دمشق بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں جن میں سے "طبقات" ہیں۔ اس میں مورخ کسی ایک طبقہ کے